



فتاویٰ محسوسہ

فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ

تبویب، تخریج اور تعلق

زیر سرپرستی

شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب زید مجتہد

زیر نگرانی

دار الافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
	بَابُ الْإِمَامَةِ	
	الفصل الأول في أوصاف الإمام	
	(انام کے اوصاف کا بیان)	
۳۳ امام کے اوصاف	۱
۳۴ اوصافِ امامت	۲
۳۵ امام کس کو بنائیں؟	۳
۳۶ امامت کی شرائط	۴
۳۷ دیوبندی عالم کی امامت	۵
۳۸ مقیم کی امامت اولیٰ ہے یا مسافر کی؟	۶
۳۹ امامت کی ثمننا	۷

۲۰ صحیح گواہی دینے والے کی امامت	۸
۲۰ غیر حافظ کی امامت	۹
۲۱ عمامہ باندھ کر نماز پڑھانا	۱۰
۲۲ امام کے لئے عمامہ	۱۱
۲۳ ایضاً	۱۲
۲۴ عمامہ کی مقدار	۱۳
۲۵ بلا عمامہ امامت	۱۴
۲۶ بلا ٹوپی و عمامہ امامت	۱۵
۲۷ ٹوپی اور عمامہ سے نماز	۱۶
۵۲ صرف ٹوپی سے امامت	۱۷
۵۳ شلو اور قمیص پہن کر نماز پڑھانا	۱۸
۵۳ کرتے کا بن کھول کر نماز پڑھانا	۱۹
۵۶ وقتِ جماعت سے پہلے امام کی آمد	۲۰
۵۷ جو شخص پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، اس کو امامت جمعہ کے لئے تجویز کرنا	۲۱
۵۸ کیا امام کو پابندی ضروری ہے؟	۲۲
۵۹ غیر پابندِ وقت کی امامت	۲۳
۶۱ وقت کی پابندی نہ کرنے والے کی امامت	۲۴
۶۱ امام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے مقتدیوں کا دوسری مسجد میں جانا	۲۵
۶۲ جو امام نماز میں تاخیر کرے اس کی امامت	۲۶
۶۲ ایک شخص کا دو مسجدوں میں امامت کرنا	۲۷
۶۲ امامت کے ساتھ دوسرا کام کرنا	۲۸
۶۲ وقتِ ملازمت میں امامت کرنا	۲۹
۶۵ جو امام صاحبِ وقار نہ ہو اس کی امامت	۳۰

۶۵ امام صاحب کا گھر گھر جانا	۳۱
۶۶ امام کا مقرر شدہ کھانا لانے کے لئے گھر گھر جانا	۳۲
۶۷ دوسرے کے گھر پان لگا کر کھانے والے کی امامت	۳۳
۶۸ امام صاحب کا کھانا	۳۴
۶۹ غیر شادی شدہ کی امامت	۳۵
۶۹ بے شادی شدہ کی امامت	۳۶
۷۰ جس کی بیوی نہ ہو، اس کی امامت	۳۷
۷۱ جس کی ٹھوڑی پر چند بال ہوں اس کی امامت	۳۸
۷۱ امامت کے وقت اپنی عاجزی کا اعتراف	۳۹
۷۲ عربی لہجہ میں اذان دینے والے کی امامت	۴۰
۷۳ سری قراءت میں تیز اور جہری میں ٹھہر کر پڑھنے والے کی امامت	۴۱
۷۴ رکوع سجدہ میں جلدی کرنے والے کی امامت	۴۲
۷۴ جو امام دینی و عظمیٰ کی اجازت نہ دے، سیاسی تقریروں کی اجازت دے، اس کی امامت	۴۳
۷۵ فتویٰ صحیح سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے والے کی امامت	۴۴
۷۶ صدقۃ الفطر اور چرم قربانی لینے والے کی امامت	۴۵
۷۸ مسجد میں چماروں کو تعویذ دینے والے کی امامت	۴۶
۷۹ جو امام مقتدی سے صلح نہ کرے اس کی امامت	۴۷
۸۱ جو امام مسجد کے دروازے پر دکان لگائے اس کی امامت	۴۸
۸۱ جو امام مسجد کی دکان بیچ دے اس کی امامت	۴۹
۸۲ امام صاحب کا اعلان کہ ”جس سے میں ناراض، اس سے خدا ناراض“	۵۰
۸۳ تمباکو پینے والے کی امامت	۵۱
۸۴ تمباکو نوش اور سنیمابین شخص کی امامت	۵۲
۸۴ حقہ نوش کی امامت	۵۳

۸۵	تمباکو کا منجن استعمال کرنے والے کی امامت	۵۴
۸۶	قرآن سے فال نکلنے والے اور سگریٹ نوشی کی امامت	۵۵
۸۷	کمیونسٹ کو ووٹ دینے والے کی امامت	۵۶
۸۹	کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی اقتداء کی ہے؟	۵۷
۹۰	تنخواہ دار امام کی امامت	۵۸
۹۱	تنخواہ دار امام کے پیچھے نماز	۵۹
۹۱	جو امام تنخواہ لینے کے باوجود نماز نہ پڑھائے، اس کا حکم	۶۰
۹۳	مسجد کاروپہ اپنی تنخواہ میں وصول کرنے والے کی امامت	۶۱
۹۴	اجرت پر قرآن شریف پڑھنے والے کی امامت	۶۲
<h3>الفصل الثانی فی إمامة الفاسق</h3> <h4>(فاسق کی امامت کا بیان)</h4>		
۹۵	فاسق کی امامت	۶۳
۹۵	ایضاً	۶۴
۹۶	ایضاً	۶۵
۹۷	حافظ فاسق کی امامت	۶۶
۹۸	مرتکب کبائر کی امامت	۶۷
۱۰۱	معاصی متعدده کے مرتکب کی امامت	۶۸
۱۰۲	مرتکب مکروہ کی امامت	۶۹
۱۰۵	زانی کی امامت	۷۰
۱۰۶	ایضاً	۷۱
۱۰۷	زانی کی توبہ کے بعد کی امامت	۷۲
۱۰۷	توبہ کے بعد دوبارہ امامت	۷۳

۱۰۸ فیملی پلاننگ سے توبہ کرنے والے کی امامت	۷۴
۱۱۰ جاہل چور کی امامت	۷۵
۱۱۱ چوری سے توبہ کے بعد چور کی امامت	۷۶
۱۱۲ لڑکے کا بوسہ لینے والے کی امامت	۷۷
۱۱۲ جو امام لڑکے کا بوسہ لے اس کی امامت	۷۸
۱۱۳ کم سن بچوں سے تنہائی میں خدمت لینے والے اور فجر کے بعد سونے والے کی امامت	۷۹
۱۱۵ سالی سے مذاق کرنے والے کی امامت	۸۰
۱۱۷ غیر محرم عورتوں سے بدن دہانے والے کی امامت	۸۱
۱۱۸ نوجوان بیوہ سے پاؤں دہانے والے کی امامت	۸۲
۱۱۹ اغلام باز اور اغلام بازی کا الزام لگانے والے کی امامت	۸۳
۱۲۱ مخلوق اللہیہ کی امامت	۸۴
۱۲۱ ایضاً	۸۵
۱۲۲ داڑھی کٹنے کی امامت تراویح میں	۸۶
۱۲۲ سود خور اور مخلوق اللہیہ کی امامت	۸۷
۱۲۵ جو امام داڑھی رکھنے سے منع کرے، اس کی امامت	۸۸
۱۲۵ تعلیم یافتہ بے داڑھی والے کی امامت	۸۹
۱۲۶ امام کس کو بنائیں، کم داڑھی والے کو یا دوسرے متبع سنت کو؟	۹۰
۱۲۸ داڑھی منڈے اور انگریزی بال والے کی امامت	۹۱
۱۲۸ ٹھوڑی کے بال کٹوانے والے کی امامت	۹۲
۱۲۹ انگریزی بال والے کی امامت	۹۳
۱۳۰ داڑھی منڈے کی عید کا خطبہ	۹۴
۱۳۱ بڑی مونچھ والے کی امامت	۹۵
۱۳۲ رشوت خور کی امامت	۹۶

۱۳۲ سود خور کی امامت	۹۷
۱۳۵ امام کو سود کھلانا اور اس کے پیچھے نماز	۹۸
۱۳۶ غاصب کی امامت	۹۹
۱۳۷ قرض ادا نہ کرنے والے کی امامت	۱۰۰
۱۳۸ خائن کی امامت	۱۰۱
۱۳۹ مسجد و مدرسہ کی رقم میں خیانت کرنے والے کی امامت	۱۰۲
۱۴۱ رہن کی آمدنی کھانے والے کی امامت	۱۰۳
۱۴۳ مکان کا کرایہ نہ دینے والے کی امامت	۱۰۴
۱۴۳ امام صاحب کے لئے کسی عامل کی منی پینا	۱۰۵
۱۴۵ ناجائز رقم سے پنکھا خریدنے والے کی امامت	۱۰۶
۱۴۶ بغیر دباغت کے چمڑہ کا کاروبار کرنے والے کی امامت	۱۰۷
۱۴۷ حج میں ایفون کی اسمگلنگ کرنے والے کی امامت	۱۰۸
۱۴۸ غلط مسئلہ بتانے والے کی امامت	۱۰۹
۱۴۹ کاروبار کی وجہ سے تارک جماعت کی امامت	۱۱۰
۱۴۹ تارک جماعت کی امامت	۱۱۱
۱۵۰ تارک نماز کی امامت	۱۱۲
۱۵۱ غیر پابند نماز کی امامت	۱۱۳
۱۵۳ جو امام نماز کی پابندی نہ کرے، اس کا حکم	۱۱۴
۱۵۴ ایضاً	۱۱۵
۱۵۵ جو شخص نماز کا عادی نہ ہو اس کو امام مقرر کرنا	۱۱۶
۱۵۶ مستقلاً سنت چھوڑنے والے کی امامت	۱۱۷
۱۵۷ جو امام سنت نہ پڑھے، اس کی امامت	۱۱۸
۱۵۸ تراویح نہ پڑھنے والے کی امامت	۱۱۹

۱۵۹	نماز قضاء ہونے پر امام کا یہ جواب کہ ”نماز تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی قضاء ہوئی تھی..“	۱۲۰
۱۶۰ امامت جب	۱۲۱
۱۶۱ گالی دینے والے کی امامت	۱۲۲
۱۶۲ گالی کے عادی کی امامت	۱۲۳
۱۶۲ مسجد میں گالی گلوچ کرنے والے کی امامت	۱۲۴
۱۶۳ باپ کو گالی دینے والے کی امامت	۱۲۵
۱۶۴ باپ کو گالی دینے اور ستانے والے کی امامت	۱۲۶
۱۶۵ جھگڑا اور فساد کی امامت	۱۲۷
۱۶۵ استاذ کی شان میں بے ادبی کرنے والے کی امامت	۱۲۸
۱۶۷ استاذ کے نافرمان شاگرد کی امامت	۱۲۹
۱۶۷ امامت پر لعنت بھیجنے والے کی امامت	۱۳۰
۱۶۸ ”جھوٹ کہوں تو ابو جہل سے زیادہ بُرا میرا حشر ہو“ کہنے والے کی امامت	۱۳۱
۱۷۰ ”اگر کوئی میرا گلا گھونٹ کر مار دے“ کہنے والے کی امامت	۱۳۲
۱۷۰ مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرنے والے کی امامت	۱۳۳
۱۷۱ جھوٹے کو امام و مؤذن بنانا	۱۳۴
۱۷۲ جھوٹ بولنے والے اور غیبت کرنے والے کی امامت	۱۳۵
۱۷۳ اندھے جھوٹے کی امامت	۱۳۶
۱۷۵ چغلیخوڑ کی امامت	۱۳۷
۱۷۵ حاسد کی امامت	۱۳۸
۱۷۶ وعدہ خلاف کی امامت	۱۳۹
۱۷۹ جعل سازی کرنے والے کی امامت	۱۴۰
۱۸۰ جعل سازی اور فریب دہی جیسی نازیبا حرکات کرنے والے کی امامت	۱۴۱
۱۸۲ حلال کو حرام سمجھنے والے کی امامت	۱۴۲

۱۸۳ حدیث شریف کی توہین کرنے والے کی امامت	۱۴۳
۱۸۴ جو شخص علمائے حق کی تکفیر کر چکا ہو، اس کی امامت	۱۴۴
۱۸۵ منکرین قرآن و حدیث اور فاسق کے مرید کی امامت	۱۴۵
۱۸۶ مشرک کے جنازہ کی نماز پڑھانے والے کی امامت	۱۴۶
۱۸۶ غیر مسلم سے سارق کا نام معلوم کرنے والے کی امامت	۱۴۷
۱۸۷ غلط اوصاف والے شخص کی امامت	۱۴۸
۱۹۰ ایک امام صاحب کی خرابیاں	۱۴۹
۱۹۲ امام کی خرابیاں	۱۵۰
۱۹۳ امام کے متعلق چند خرابیاں	۱۵۱
۱۹۴ ایک امام صاحب کے خراب حالات، واڑھی کی حد	۱۵۲
۱۹۶ ایک امام صاحب کی کوتاہیاں	۱۵۳
۱۹۸ ایضاً	۱۵۴
۲۰۱ ترش رو اور جھوٹ بولنے والے کی امامت	۱۵۵
۲۰۳ جھوٹ بولنے، درست طور پر طہارت حاصل نہ کرنے والے بہرے امام کی امامت	۱۵۶
۲۰۹ امام صاحب اگر غلط مذاق کرے تو کیا حکم ہے؟	۱۵۷
۲۰۹ بیوی کا نفقہ نہ دینے والے کی امامت	۱۵۸
۲۱۱ سینما دیکھنے والے اور قوالی سننے والے کی امامت	۱۵۹
۲۱۱ قوالی سننے والے کی امامت	۱۶۰
۲۱۲ ایضاً	۱۶۱
۲۱۴ ساز پر گانے والے کی امامت	۱۶۲
۲۱۴ ناچ گانے میں شرکت کرنے والے کی امامت	۱۶۳
۲۱۶ غلط محفل میں شریک ہونے والے کی امامت	۱۶۴
۲۱۶ گانے بجانے کی مجلس میں نکاح پڑھانے والے کی امامت	۱۶۵

۲۱۷	گانے بجانے کی فحش مجلس اور اس کو روکنے والے امام کا حکم	۱۶۶
۲۲۰	عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح پڑھانے والے کی امامت	۱۶۷
۲۲۱	غیر مطلقہ کا نکاح پڑھانے والے کی امامت	۱۶۸
۲۲۲	مطلقہ مغلظہ کو بلا حلالہ کے رکھنے والے کی امامت	۱۶۹
۲۲۳	تین طلاق کے بعد رکھنے والے کے احکام: امامت، جنازہ، معاشرہ وغیرہ	۱۷۰
۲۲۷	محض ضد میں طلاق دینے والے کی امامت	۱۷۱
۲۲۸	زبردستی طلاق کی وجہ سے امامت درست ہوگی یا نہیں؟	۱۷۲
۲۲۹	خالہ اور بھانجی کا ایک شخص سے نکاح پڑھانے والے کی امامت	۱۷۳
۲۳۱	سو تیلی نانی سے نکاح پڑھانے والے کی امامت	۱۷۴
۲۳۳	زبردستی نکاح پڑھانے والے کی امامت	۱۷۵
۲۳۴	حمل ساقط کرنے والے کی امامت	۱۷۶
۲۳۵	زانہ کے شوہر کی امامت	۱۷۷
۲۳۷	زوج مزنیہ کی امامت	۱۷۸
۲۳۸	جس امام کی بیوی کا تعلق کسی غیر سے ہو، اس کی امامت	۱۷۹
۲۳۹	فاجرہ کے شوہر کی امامت	۱۸۰
۲۴۰	ایسے شخص کی امامت جس کی بیوی بے پردہ ہو	۱۸۱
۲۴۰	کبوتر باز کی امامت جس کی بیوی بے پردہ ہو	۱۸۲
۲۴۲	جو شخص ستر کا اہتمام نہ کرے، اس کی امامت	۱۸۳
۲۴۲	ایضاً	۱۸۴
۲۴۲	بے پردہ بیوی کے ساتھ بازار میں گھومنے والے کی امامت	۱۸۵
۲۴۳	جس کی بیوی قریبی رشتہ داروں سے پردہ نہ کرے، اس کی امامت	۱۸۶
۲۴۵	گانے بجانے والی عورت کے شوہر کی امامت	۱۸۷
۲۴۷	جس کی بیوی گھاس کاٹی ہو، اس کی امامت	۱۸۸

۲۴۸ جس کی اہلیہ استانی ہو، اس کی امامت	۱۸۹
۲۴۸ جس امام کی لڑکیاں بے پردہ ہوں، اس کی امامت	۱۹۰
۲۴۹ جو امام اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرائے، اس کی امامت	۱۹۱
۲۵۰ جس امام کے بیٹے گناہگار ہوں، اس کی امامت	۱۹۲
۲۵۱ جس کا بیٹا چوری کرتا ہو، اس کی امامت	۱۹۳
۲۵۱ جس کا والد ناجائز کاروبار کرے، اس کی امامت	۱۹۴
۲۵۲ جس جس کی امامت مکروہ ہے، اس کی کراہت کی وجہ کیا ہے؟	۱۹۵

الفصل الثالث فی امامة المبتدع

(بدعتی کی امامت کا بیان)

۲۵۴ مبتدع کی امامت	۱۹۶
۲۵۸ بدعتی کی امامت	۱۹۷
۲۵۹ ایضاً	۱۹۸
۲۵۹ ایضاً	۱۹۹
۲۶۰ بریلوی کی امامت	۲۰۰
۲۶۰ ایضاً	۲۰۱
۲۶۱ نماز عید بدعتی کے پیچھے پڑھنے کا حکم	۲۰۲
۲۶۲ مزار کی مٹی کھانے والے اور اس پر سجدہ کرنے والے کی امامت	۲۰۳
۲۶۳ چڑھاوا اور دیگ چڑھانے والے کی امامت	۲۰۴
۲۶۳ مرشد کے نام جھنڈا لگانے والے کی امامت	۲۰۵
۲۶۴ ہندوؤں کا بکرا ذبح کرنے والے کی امامت	۲۰۶
۲۶۶ میلاد اور دسویں میں شریک ہونے والے کی امامت	۲۰۷
۲۶۷ تیجہ، چالیسواں کرانے والے کی امامت	۲۰۸

الفصل الرابع في إمامة المحترف والمتهم (حقیر پیشے والے اور متہم کی امامت کا بیان)

۲۶۸	میراثی کی امامت	۲۰۹
۲۶۹	نائی کی امامت	۲۱۰
۲۷۰	نداف (روئی صاف کرنے والے) کی امامت	۲۱۱
۲۷۰	غستال میت کی امامت	۲۱۲
۲۷۲	غاسل میت کی امامت	۲۱۳
۲۷۳	جس پر زنا کی تہمت لگائی گئی ہو، اس کی امامت	۲۱۴
۲۷۵	ایضاً	۲۱۵
۲۷۶	نکاحِ محرمہ سے پیدا شدہ لڑکے کی امامت	۲۱۶
۲۷۷	امامتِ عنین	۲۱۷
۲۷۸	غیر مختون کی امامت	۲۱۸
۲۷۹	لاؤلد کی امامت	۲۱۹
۲۷۹	برہمن بچہ کو پال کر امام بنانا	۲۲۰
۲۸۱	غیر سید کے پیچھے سید کی نماز	۲۲۱
۲۸۱	کیا چار قوموں کے علاوہ کے پیچھے نماز درست نہیں؟	۲۲۲

الفصل الخامس في إمامة المعذور

(معذور کی امامت کا بیان)

۲۸۳	معذور کی تعریف اور اس کی امامت	۲۲۳
۲۸۴	امامتِ معذور	۲۲۴
۲۸۵	معذور کی نماز اور امامت	۲۲۵

۲۸۷	جریان کے مریض کی امامت.....	۲۲۶
۲۸۸	جریان والے کی امامت.....	۲۲۷
۲۸۸	صاحب جریان کی نماز و امامت.....	۲۲۸
۲۹۱	نابینا کی امامت.....	۲۲۹
۲۹۱	ایضاً.....	۲۳۰
۲۹۳	معذور نابینا کی امامت.....	۲۳۱
۲۹۳	نابینا امام کے کچھ اور اوصاف.....	۲۳۲
۲۹۸	بینا و نابینا میں امام کون ہو؟.....	۲۳۳
۲۹۹	جس کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہو، اس کی امامت.....	۲۳۴
۳۰۰	ایک آنکھ اور ایک ہاتھ والے کی امامت.....	۲۳۵
۳۰۱	اندھے جھوٹے کی امامت.....	۲۳۶
۳۰۳	مقطوع الید کی امامت.....	۲۳۷
۳۰۴	ایک ہاتھ سے معذور کی امامت.....	۲۳۸
۳۰۴	لنگڑے کی امامت.....	۲۳۹
۳۰۵	امامتِ مرتعش.....	۲۴۰
۳۰۶	مفلوج کی امامت.....	۲۴۱
۳۰۶	ابرص اور جذامی کی امامت.....	۲۴۲
۳۰۶	اعلیٰ و ابرص کی امامت.....	۲۴۳
۳۰۷	بہرہ کی امامت.....	۲۴۴
۳۰۹	مصنوعی دانت والے کی امامت.....	۲۴۵
۳۱۰	مصنوعی دانت والے امام کے پیچھے نماز.....	۲۴۶

الفصل السادس في إمامة الصبي

(نابالغ کی امامت کا بیان)

۳۱۱ امامتِ صبی	۲۴۷
۳۱۱ نابالغ کی نابالغ کے پیچھے نماز کا حکم	۲۴۸
۳۱۲ نابالغ کی امامت، صرف نماز جمعہ مسجد میں ادا کرنا	۲۴۹
۳۱۲ امامتِ امر	۲۵۰

الفصل السابع في عزل الإمام وتحقيره

(امام کو برطرف کرنے اور حقیر سمجھنے کا بیان)

۳۱۶ امام باصلاحیت ہو تو اس کو امامت سے ہٹانا	۲۵۱
۳۱۷ بلاوجہ شرعیہ دوسرا امام بنانا	۲۵۲
۳۱۷ ضد کی وجہ سے امام تبدیل کرنا	۲۵۳
۳۱۸ ایک شخص کے ناخوش ہونے پر امام کی علیحدگی	۲۵۴
۳۱۹ بلاوجہ امام کی مخالفت	۲۵۵
۳۱۲ امام کو بُرا بھلا کہہ کر نکال دینا	۲۵۶
۳۲۳ جو شخص اپنی امامت پر مصر ہو اور مقتدی نہ چاہتے ہوں، اس کی امامت	۲۵۷
۳۲۵ مقتدیوں میں امام کے بارے میں اختلاف ہو تو کیا کیا جائے؟	۲۵۸
۳۲۵ امام پر مقتدی کا حکم اور اس کو ذلیل سمجھنا	۲۵۹
۳۲۶ امام کو ذلیل سمجھنا	۲۶۰
۳۲۷ امامت کو حقیر اور ذلیل سمجھنا	۲۶۱
۳۲۸ امام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا	۲۶۲
۳۲۹ ذاتی عداوت کی وجہ سے امام کو گالی دینا	۲۶۳

۳۳۰ کیا امام، متولی جماعت یا مسجد کا نوکر ہوتا ہے؟	۲۶۴
۳۳۲ متولی کا امام کو نوکر سمجھنا اور امام کا برسر عام اپنی تکالیف بیان کرنا	۲۶۵
۳۳۲ امام کو ملازم کہنا	۲۶۶
۳۳۳ جس کے دل میں امام سے نفرت ہو، اس کی نماز	۲۶۷
۳۳۲ جس کو امام کے گناہ کا علم ہو، اس کا امام کے پیچھے اقتداء کرنا	۲۶۸
۳۳۵ امام پر غلط الزام لگانا	۲۶۹
۳۳۷ امام سے مسائل میں بحث	۲۷۰
۳۳۸ جو شخص امام کی بات نہ مانے، اس کی نماز کا حکم	۲۷۱
۳۳۹ متولی اور امام میں ترک سلام و کلام بڑی محرومی ہے	۲۷۲
۳۴۰ امام بنانے کا حق کس کو ہے؟	۲۷۳
۳۴۱ زبردستی امام مقرر کرنا	۲۷۴

الفصل الثامن فی النیابة عن الإمام

(نیابتِ امام کا بیان)

۳۴۲ بوقتِ ضرورت بلا اجازت کسی کو امام بنانا	۲۷۵
۳۴۲ امامت میں کسی کو اپنا نائب بنا کر رخصت پر جانا	۲۷۶
۳۴۳ امام کا بضرورت کسی کو اپنا قائم مقام بنانا	۲۷۷
۳۴۵ امام کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو نماز پڑھانے کا حق	۲۷۸
۳۴۶ مقررہ امام کی موجودگی میں بلا اجازت کسی عالم کا امامت و خطابت کرنا	۲۷۹
۳۴۷ متولی کا امام کے علاوہ جمعہ کے لئے کسی اور کو آگے بڑھانا	۲۸۰
۳۴۸ نائب امام کی موجودگی میں کسی اور کی امامت	۲۸۱
۳۴۹ خادمِ مسجد اور مؤذن کی امامت	۲۸۲
۳۴۹ استاذ کی موجودگی میں امامت	۲۸۳

الفصل التاسع في إمامة اللّٰحان

(غلط خواں کی امامت کا بیان)

۳۵۱ غلط خواں کی امامت	۲۸۴
۳۵۱ ایضاً	۲۸۵
۳۵۲ ایضاً	۲۸۶
۳۵۳ ایضاً	۲۸۷
۳۵۵ ایضاً	۲۸۸
۳۵۶ بے علم، غلط پڑھنے والے کی امامت اور مسجد میں پیشہ خیاطت	۲۸۹
۳۵۸ الفاظ کو درست نہ پڑھنے والے کی امامت	۲۹۰
۳۶۰ غیر پابند شرع غلط خواں اور سزا یافتہ کی امامت	۲۹۱
۳۶۲ لحن خفی کرنے والے کی امامت	۲۹۲
۳۶۳ جو شخص ”ق“ اور ”ک“ صحیح ادا نہ کرے، اس کی امامت	۲۹۳
۳۶۵ امام کی قراءت اگر سمجھ میں نہ آئے، اس کی امامت	۲۹۴
۳۶۶ غیر مجتہد کی امامت	۲۹۵
۳۶۷ امام کے لئے قواعد تجوید کی رعایت	۲۹۶
۳۶۸ سورہ فاتحہ میں سات جگہ سکتہ کرنے والے کی امامت	۲۹۷

الفصل العاشر في اقتداء الحنفی بالشافعی و غیرہ

(غیر حنفی کی اقتداء کا بیان)

۳۶۹ احناف کی نماز عیدین شوافع کے پیچھے	۲۹۸
۳۷۰ نماز میں شافعی امام کا مسائل اختلافیہ میں اتباع	۲۹۹
۳۷۲ حنفی کے پیچھے شافعی کی نماز	۳۰۰

۳۷۴ حنفی کے لئے شیعہ، مرزائی کی امامت	۳۰۱
۳۷۵ حنفی کی نماز، غیر مقلد کے پیچھے	۳۰۲
۳۷۶ اہل حدیث کی امامت	۳۰۳
۳۷۷ غیر مقلد کی امامت	۳۰۴
۳۸۰ غیر مقلد کی اقتداء	۳۰۵
۳۸۱ ایضاً	۳۰۶
۳۸۲ دیوبندی کی بریلوی مسجد میں امامت	۳۰۷
۳۸۳ بریلوی کی نماز دیوبندی کے پیچھے	۳۰۸

الفصل الحادی عشر فی المتفرقات

۳۸۴ کیا حق امامت اور نکاح خوانی وراثت میں منتقل ہوتا ہے؟	۳۰۹
۳۸۵ احتیاط الظہر پڑھنے والے کی امامت	۳۱۰
۳۸۷ جو امام تبلیغی نصاب پڑھنے کو روک دے، اس کی امامت	۳۱۱
۳۸۷ جو شخص درس قرآن کو لازم نہ سمجھیں، اس کی امامت	۳۱۲
۳۸۸ جو امام مقتدی سے صلح نہ کرے، اس کی امامت	۳۱۳
۳۸۹ امامت نہ کرنے کا عہد کر کے پھر امامت کرنا	۳۱۴
۳۹۰ امام صاحب کے دروازے پر جا کر اس کو نیند سے جگانا	۳۱۵
۳۹۰ امام صاحب سو رہے ہوں، تو اس کو جگانا	۳۱۶
۳۹۱ امام کے بجائے ٹیپ ریکارڈ سے نماز پڑھانا	۳۱۷
۳۹۲ مسجد میں جھاڑو دینا اور حمام میں پانی بھرنا کیا امام کی ذمہ داری ہے؟	۳۱۸
۳۹۲ امام کی خدمات	۳۱۹
۳۹۳ امام کا مقتدی کو کتا کہنا	۳۲۰

باب الجماعة

الفصل الأول فی اہتمام الجماعة

(جماعت کے اہتمام کا بیان)

۳۹۶ جماعت کا اہتمام	۳۲۱
۳۹۷ امام تنہا اذان و اقامت کے بعد نماز پڑھے تو جماعت کا ثواب ملے گا	۳۲۲
۳۹۷ اپنی نماز کے بعد جماعت کی شرکت میں فرض کی نیت ہو یا نفل کی؟	۳۲۳
۳۹۸ شوہر بیوی کی جماعت کا طریقہ	۳۲۴
۳۹۹ دھوپ یا بارش کی وجہ سے برآمدہ میں جماعت	۳۲۵
۳۹۹ صحن مسجد میں جماعت کرانا	۳۲۶
۴۰۰ بلند مقام سے کمزور آدمی کو ضعف کی وجہ سے وہیں نماز پڑھنے سے حرم شریف کا ثواب	۳۲۷
۴۰۰ ضعف اور بیماری کی وجہ سے نپکھے سے کچھ دور نماز پڑھنا یا جماعت چھوڑ جانا	۳۲۸
۴۰۲ معذور آدمی کا اپنے گھر پر جماعت کرنا	۳۲۹
۴۰۲ مشق کے لئے بچوں کی جماعت کرانا	۳۳۰
۴۰۳ کوڑھی کا مسجد میں جانا	۳۳۱
۴۰۵ جس شخص کے منہ میں تعفن ہو، اس سے جماعت ساقط ہے	۳۳۲
۴۰۵ جس شخص نے فعل بد کیا ہو، اس کو مسجد میں آنے سے روکنا	۳۳۳
۴۰۶ مسجد بیت میں جماعت کی حیثیت	۳۳۴

الفصل الثانی فی ترک الجماعة

(ترک جماعت کا بیان)

۴۰۷ ترک جماعت کا حکم	۳۳۵
۴۰۸ ترک جماعت	۳۳۶

۴۰۸	ایضاً.....	۳۳۷
۴۰۹	تارکِ جماعت کا حکم.....	۳۳۸
۴۱۰	مجاہدہ کے لئے ترکِ جماعت.....	۳۳۹
۴۱۱	مسجد میں امام سے قبل تنہا نماز پڑھنا.....	۳۴۰
۴۱۳	امام صاحب نہ آئیں تو کیا نماز الگ الگ پڑھیں؟.....	۳۴۱
۴۱۴	ملازمت کی وجہ سے ترکِ جماعت.....	۳۴۲
۴۱۵	مسجد کی نماز میں شریک نہ ہونا، اپنی نماز تنہا پڑھنا.....	۳۴۳
۴۱۶	مسجد میں جماعت سے پہلے اپنی نماز پڑھنا.....	۳۴۴
۴۱۶	جھگڑے سے بچنے کے لئے گھر پر نماز پڑھنا.....	۳۴۵
۴۱۷	گھر میں جماعت کرنا.....	۳۴۶
۴۱۸	گھریا حجرہ میں جماعت کرنا.....	۳۴۷
۴۱۹	گھر میں اذان و اقامت سے تنہا نماز پڑھنا.....	۳۴۸
۴۲۱	ذاتی رنجش کی بناء پر جماعت سے گریز.....	۳۴۹
۴۲۲	تعصب کی بناء پر امام کے پیچھے عید نہ پڑھنا.....	۳۵۰
۴۲۳	مسجد میں جماعت ہو چکی تو کیا گھر میں جماعت کرنے سے جماعت کا ثواب ملے گا؟.....	۳۵۱
۴۲۴	ایک مسجد کی جماعت چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا.....	۳۵۲
۴۲۵	امام کی خرابی کی وجہ سے نماز گھر پر پڑھنا.....	۳۵۳
۴۲۶	امام کی غلط کاریوں کی وجہ سے گھر میں جماعت.....	۳۵۴
۴۲۷	تیمارداری کی وجہ سے ترکِ جماعت.....	۳۵۵
۴۲۸	دو شریکِ تجارت کا یکے بعد دیگرے مسجد میں جا کر نماز مغرب ادا کرنا.....	۳۵۶
۴۲۹	جماعتِ فجر سے پہلے تجارتی دھندوں میں لگ جانا.....	۳۵۷
۴۳۱	جماعت ہو چکی ہو تو جماعت کہاں پڑھے؟.....	۳۵۸
۴۳۱	جماعت چھوٹنے پر طلباء پر طعن کرنا.....	۳۵۹

۴۳۱	تنہا اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا.....	۳۶۰
الفصل الثالث فی الجماعة الثانية		
(جماعتِ ثانیہ کا بیان)		
۴۳۳	جماعتِ ثانیہ.....	۳۶۱
۴۳۴	ایضاً.....	۳۶۲
۴۳۵	ایضاً.....	۳۶۳
۴۳۶	ایضاً.....	۳۶۴
۴۳۷	وضو خانہ میں نماز کے بعد جماعتِ ثانیہ.....	۳۶۵
۴۳۷	بریلوی امام ہونے کی وجہ سے جماعتِ ثانیہ کرنا.....	۳۶۶
۴۳۸	دو مسجدیں برابر برابر، نئی مسجد میں جماعتِ ثانیہ.....	۳۶۷
۴۳۹	ظہر و عشاء پڑھ کر پھر اسی جماعت میں شرکت.....	۳۶۸
۴۴۰	باہمی نزاع کی وجہ سے تکرار جماعت.....	۳۶۹
۴۴۲	جماعتِ ثانیہ میں نئے آدمی کی شرکت.....	۳۷۰
۴۴۳	اعادہ والی نماز میں شرکت.....	۳۷۱
۴۴۴	ایضاً.....	۳۷۲
۴۴۵	اعادہ والی نماز میں نئے آدمی کی شرکت.....	۳۷۳
۴۴۶	ترک واجب کی بناء پر اعادہ والی نماز میں نووارد شخص کی شرکت کا مفصل حکم.....	۳۷۴
الفصل الرابع فی تعیین الوقت للجماعة		
(جماعت کے لئے وقت مقرر کرنے کا بیان)		
۴۵۲	نماز کے اوقات کی تعیین.....	۳۷۵
۴۵۲	متولی کا بغیر اجازت امام اوقات نماز تبدیل کرنا.....	۳۷۶

۴۵۳	جماعت کا وقت کون متعین کرے؟	۳۷۷
۴۵۴	نماز کے اوقات امام مقرر کرے یا مقتدی؟	۳۷۸
۴۵۴	تبدیلی اوقات کا اختیار کس کو ہے؟	۳۷۹
۴۵۴	ایضاً	۳۸۰
۴۵۵	وقت مقررہ کے بعد نمازیوں کا انتظار	۳۸۱
۴۵۶	نماز مغرب میں امام کا انتظار	۳۸۲
۴۵۷	نماز شروع کرنے میں امام متولی کا پابند نہیں	۳۸۳
۴۵۹	انتظار صلوٰۃ	۳۸۴
۴۶۰	جماعت کے لئے نمازیوں کا انتظار	۳۸۵
۴۶۰	ایضاً	۳۸۶
۴۶۱	وقت مقررہ سے کچھ پہلے نماز	۳۸۷
۴۶۲	کسی مصلحت سے نماز میں ۵/ منٹ تاخیر کرنا	۳۸۸
۴۶۳	کسی کے انتظار میں وقت مقررہ سے کچھ تاخیر کرنا	۳۸۹
۴۶۴	نماز کے وقت مقررہ سے ایک دو منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو کیا حکم ہے؟	۳۹۰
۴۶۵	نماز میں معین آدمی کا انتظار	۳۹۱
۴۶۶	کسی معین شخص کا نماز کے لئے انتظار کرنا	۳۹۲
<h3>الفصل الخامس فی جماعة النساء</h3> <h4>(عورتوں کی جماعت کا بیان)</h4>		
۴۶۷	عورتوں کی جماعت	۳۹۳
۴۶۹	عورتوں کی نماز جماعت سے	۳۹۴
۴۷۲	جماعة النساء	۳۹۵
۴۷۳	عورتوں کا مسجد میں جانا	۳۹۶

۳۹۷	ایضاً.....	۳۹۷
۳۹۸	نامحرم عورتوں کے ساتھ جماعت.....	۳۹۸
۳۹۹	عورتوں کی انفراداً نماز صف کی طرح.....	۳۹۹
۴۰۰	عورتوں کا نماز کے لئے مسجد آنا.....	۴۰۰
۴۰۱	عورتوں کے لئے پردہ ہونے کی صورت میں مسجد جانا.....	۴۰۱
باب تسویۃ الصفوف و ترتیبہا (صفوں کی ترتیب اور برابری کا بیان)		
۴۰۲	تسویۃ الصفوف کا مطلب.....	۴۰۲
۴۰۳	تسویۃ الصفوف.....	۴۰۳
۴۰۴	صف سیدھی کرنے میں پاؤں کی انگلیوں کا لحاظ رکھا جائے یا ایڑھیوں کا؟.....	۴۰۴
۴۰۵	ایضاً.....	۴۰۵
۴۰۶	مردوں کی صفوں کے درمیان بچوں کی صف.....	۴۰۶
۴۰۷	کیا صف اول میں جگہ ہونے کے باوجود بچوں کی صف پیچھے بنائی جائے؟.....	۴۰۷
۴۰۸	نابالغ کی جگہ صف میں.....	۴۰۸
۴۰۹	نابالغ کے کھڑے ہونے کی جگہ.....	۴۰۹
۴۱۰	نابالغ لڑکا ایک ہو تو کہاں کھڑا ہو؟.....	۴۱۰
۴۱۱	بچوں کی صف سے بڑھ کر بڑوں کی صف میں کھڑا ہونا.....	۴۱۱
۴۱۲	نابالغ کا صف اول میں کھڑا ہونا.....	۴۱۲
۴۱۳	اٹھارہ سالہ بے داڑھی مونچھ لڑکے کا صف میں کھڑا ہونا.....	۴۱۳
۴۱۴	مسجد میں جگہ تنگ ہو تو امام کے دائیں بائیں کھڑا ہونا.....	۴۱۴
۴۱۵	جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے کچھ آگے بڑھنا، کچھ پیچھے ہٹنا.....	۴۱۵
۴۱۶	جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے جماعت کی کیفیت.....	۴۱۶

۴۹۵	جماعت میں ٹخنہ سے ٹخنہ ملا کر کھڑا ہونا.....	۴۱۷
۴۹۶	بعد میں آنے والا شخص کسی مقتدی کو پیچھے کھینچ لے.....	۴۱۸
۴۹۸	ایک مقتدی کے بعد دوسرا مقتدی آگیا تو کس طرف شرکت کرے؟.....	۴۱۹
۴۹۸	ایک مقتدی کے بعد دوسرا آگیا تو کہاں کھڑا ہو؟.....	۴۲۰
۴۹۹	ایک مقتدی ہو تو کہاں کھڑا ہو؟.....	۴۲۱
۵۰۰	اگر بعد میں ایک مقتدی رہ جائے تو مقتدی کیا کرے؟.....	۴۲۲
۵۰۰	صف کے پیچھے تنہا ایک آدمی کا کھڑا ہونا.....	۴۲۳
۵۰۱	ایضاً.....	۴۲۴
۵۰۲	منفرد کے پیچھے اقتداء.....	۴۲۵
۵۰۲	اگر مقتدی ایک نابالغ لڑکا اور ایک بالغ ہو تو کس طرح کھڑے ہوں؟.....	۴۲۶
۵۰۳	مسجد میں ایک جانب اضافہ ہو گیا تو امام کہاں کھڑا ہو؟.....	۴۲۷
۵۰۳	مقام امام وسط مسجد ہے؟.....	۴۲۸
۵۰۴	امام کا محراب میں کھڑا ہونا.....	۴۲۹
۵۰۵	ایضاً.....	۴۳۰
۵۰۷	ایضاً.....	۴۳۱
۵۰۷	امام کا مسجد کے وسط میں کھڑا ہونا.....	۴۳۲
۵۰۹	جگہ تنگ ہو تو امام کا بیچ میں کھڑا ہونا.....	۴۳۳
۵۰۹	تنگی کی وجہ سے امام کا مقتدی سے دو چار انچ آگے ہونا.....	۴۳۴
۵۱۰	امام اور منبر کے درمیان آدمی کھڑا ہونا.....	۴۳۵
۵۱۱	دوستونوں کے درمیان صف بنانا.....	۴۳۶
۵۱۲	امام کے کسی جانب نمازیوں کا زیادہ ہونا.....	۴۳۷
۵۱۳	صف ٹیڑھی ہو تو کیا کیا جائے؟.....	۴۳۸
۵۱۴	امام کا پہلی صف پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا.....	۴۳۹

۵۱۵ امام کے پیچھے والی صف چھوٹی، بعد والی بڑی	۴۴۰
۵۱۶ بڑی چوڑی مسجد کی صفوں کو نماز میں دائیں بائیں سے کم کرنا	۴۴۱
۵۱۸ جہت قبلہ کی رعایت کی وجہ سے صفوں کا چھوٹا بڑا ہونا	۴۴۲
۵۱۹ کسی خاص شخص کے لئے کسی عامی کو اس کی جگہ سے ہٹانا	۴۴۳
۵۲۰ صف میں رومال یا مصلیٰ رکھ دینا	۴۴۴
۵۲۱ سلام امام کے بعد صف سے ہٹ کر بیٹھنا	۴۴۵
۵۲۲ نماز کے بعد کسی چھوٹے کا بڑے سے کچھ پیچھے ہٹ جانا	۴۴۶
۵۲۲ صف میں نابالغ بچوں کے سامنے سے گزرنا	۴۴۷
۵۲۳ مسجد کے قریبی حصہ سے گزرنا	۴۴۸
۵۲۴ ایضاً	۴۴۹
فصل فی الفصل بین الإمام والمقتدی والاتصال بین الصفوف		
(امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ اور اتصال صفوف کا بیان)		
۵۲۶ بند کواڑ یا پردہ کے باہر سے اقتداء	۴۵۰
۵۲۷ امام نیچے کی منزل پر اور مقتدی اوپر	۴۵۱
۵۲۸ امام کی اقتداء نیچے کی منزل سے کرنا	۴۵۲
۵۲۸ امام اور مقتدی کے درمیان کتنا فاصلہ صحت سے مانع ہے؟	۴۵۳
۵۲۹ امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟	۴۵۴
۵۳۰ امام اور مقتدی کے درمیان منبر کا فاصلہ	۴۵۵
۵۳۱ امام اور مقتدی کے درمیان پردہ حائل ہو	۴۵۶
۵۳۱ صحن کا شمالی و جنوبی حصہ مسقف بنا کر اس میں نمازیوں کا کھڑا ہونا	۴۵۷
۵۳۲ صحن مسجد میں نماز	۴۵۸
۵۳۳ امام مسجد کا اقتداء خارج مسجد اور مدرسہ سے	۴۵۹

۵۳۴	جوتے اتارنے کی جگہ سے اقتداء.....	۴۶۰
۵۳۵	مسجد کے دروں میں صف بنانا.....	۴۶۱
۵۳۶	مسجد کے دروں میں کھڑا ہونا.....	۴۶۲
۵۳۷	اتصالِ صفوف برائے اقتداء.....	۴۶۳
۵۳۹	مسجد اور متصل حجرہ میں جماعت کی صف بنانا.....	۴۶۴
۵۴۰	مسجد کے وضو خانہ اور استنجاء خانہ کی چھت کا حکم.....	۴۶۵
باب المسبوق واللاحق		
(مسبوق اور لاحق کا بیان)		
۵۴۲	مسبوق کی تعریف.....	۴۶۶
۵۴۳	مسبوق کی نماز کا طریقہ.....	۴۶۷
۵۴۳	مسبوق کا حکم.....	۴۶۸
۵۴۴	مسبوق امام کے سجدہ سہو کے بعد شریک ہوا.....	۴۶۹
۵۴۴	سجدہ سہو کے بعد اقتداء کا حکم.....	۴۷۱-۴۷۰
۵۴۵	ایضاً.....	۴۷۲
۵۴۶	ایضاً.....	۴۷۳
۵۴۷	اقتداء بعد لفظ "السلام".....	۴۷۴
۵۴۸	دائیں جانب سلام پھیرنے کے بعد امام کی اقتداء.....	۴۷۵
۵۴۸	مسبوق نے تکبیر تحریمہ کہی اور امام نے سلام پھیر دیا.....	۴۷۶
۵۴۹	اگر مسبوق قصد امام کے ساتھ سلام پھیر دے.....	۴۷۷
۵۵۰	اگر مسبوق نے بھول کر ایک طرف سلام پھیر دیا.....	۴۷۸
۵۵۱	مسبوق کا بھول کر دونوں جانب سلام پھیر دینا.....	۴۷۹

۵۵۲ مسبوق کا امام کے ساتھ بھول کر سلام پھیرنا	۴۸۰
۵۵۳ مسبوق نے سجدہ سہو میں امام کے ساتھ سلام پھیر دیا	۴۸۱
۵۵۳ سلام مسبوق کے سلسلے میں دارالعلوم کے فتویٰ اور تعلیم الاسلام کی عبارت میں تطبیق	۴۸۲
۵۵۵ مسبوق نے سجدہ سہو کے سلام میں قصد اسلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟	۴۸۳
۵۵۵ مسبوق کا سہواً امام کے ساتھ سلام پھیرنا	۴۸۴
۵۵۶ مسبوق سجدہ سہو کرے، سلام نہ پھیرے	۴۸۵
۵۵۷ مسبوق نے امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کیا تو آخر میں اس پر سجدہ سہو واجب ہے	۴۸۶
۵۵۸ مسبوق امام کے قعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھے یا نہیں؟	۴۸۷
۵۵۹ تشہد میں شریک ہونے والا کیا کرے؟	۴۸۸
۵۶۰ مسبوق تشہد سے فارغ نہیں ہوا کہ امام نے سلام پھیر دیا	۴۸۹
۵۶۱ کیا مسبوق پر تشہد واجب ہے؟	۴۹۰
۵۶۲ مسبوق کی نماز میں قراءت	۴۹۱
۵۶۲ مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کب کھڑا ہو؟	۴۹۲
۵۶۲ مسبوق کا دوسرے مسبوق کو دیکھ کر نماز پوری کرنا	۴۹۳
۵۶۵ تین رکعت کا مسبوق بقیہ نماز کیسے پوری کرے؟	۴۹۴
۵۶۶ مسبوق کی بقیہ نماز میں سجدہ سہو کا حکم	۴۹۵
۵۶۶ مسبوق ولاحق سے متعلق	۴۹۶
۵۷۰ مسبوق ولاحق کس طرح سجدہ سہو کرے؟	۴۹۷
۵۷۱ لاحق کی قراءت کا حکم	۴۹۸
۵۷۱ لاحق تسمیع کہے یا تحمید؟	۴۹۹
۵۷۲ امام کی پانچویں رکعت میں اقتداء	۵۰۰
۵۷۳ فجر کی نماز کے بعد روزانہ کتاب سنانا جب کہ نماز میں مسبوق بھی ہوں	۵۰۱

باب الحدث فی الصلوٰۃ

(نماز میں حدث لاحق ہونے کا بیان)

۵۰۲ لائقِ حدث سے بنا کا حکم	۵۷۵
۵۰۳ حدث لاحق ہونے کی صورت میں امام، منفرد اور مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟	۵۷۷
۵۰۴ پہلی صف میں نمازی کا وضو ٹوٹ گیا، کیا کرے؟	۵۷۹
۵۰۵ مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟	۵۷۹
۵۰۶ وضو ٹوٹ گیا، باہر جانے کو کوئی جگہ نہیں تو کیا کرے؟	۵۸۰
۵۰۷ نماز میں حدث ہو جائے، پانی دور ہو تو کیا کرے؟	۵۸۱
۵۰۸ ایک طرف سلام پھیرا تھا کہ حدث لاحق ہو گیا	۵۸۱
۵۰۹ قعدہ اخیرہ میں بعد التشهد حدث کا حکم	۵۸۲
۵۱۰ گمانِ حدث پر رکوع سجدہ کرتا رہا	۵۸۳

باب ما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ فیہا

الفصل الأول فیما یفسد الصلوٰۃ

(مفسداتِ نماز کا بیان)

۵۱۱ نماز میں چڑیا کا خون لگ گیا تو کیا نماز فاسد ہوگئی؟	۵۸۴
۵۱۲ ندی و ودی والے کپڑے میں نماز کا حکم	۵۸۵
۵۱۳ نماز میں یاد آ گیا کہ بڑا استنجا نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟	۵۸۵
۵۱۴ نماز کے بعد دانتوں میں خون دیکھنا	۵۸۷
۵۱۵ بے وضو نماز پڑھادی تو نمازیوں کو اس کی اطلاع دینا ضروری ہے	۵۸۷
۵۱۶ بلغم منہ میں لئے ہوئے نماز پڑھنا	۵۸۸

۵۸۹ ناپاک کپڑے و بدن والے شخص کے لقمہ دینے سے فسادِ نماز کا حکم	۵۱۷
۵۹۱ ناپاک مشکوک تہبند سے نماز	۵۱۸
۵۹۲ خارج آدمی کے کہنے سے تکبیر کہنے پر نماز فاسد ہوگئی	۵۱۹
۵۹۳ نمازی کا غیر نمازی کے کہنے پر عمل کرنا	۵۲۰
۵۹۴ کیا لقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟	۵۲۱
۵۹۴ لقمہ دینے سے مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوتی	۵۲۲
۵۹۵ ٹوپی پیشانی پر رکھ کر سجدہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟	۵۲۳
۵۹۶ ترکی ٹوپی سے نماز اور حرام خور کی نماز	۵۲۴
۵۹۷ حرم شریف میں عورت کا مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا	۵۲۵
۵۸ عورت کا مسجد میں آ کر مردوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا	۵۲۶
۵۹۹ میاں بیوی کا ایک مصلے پر کھڑے ہو کر الگ الگ نماز پڑھنا	۵۲۷
۶۰۰ نماز میں چلنے سے نماز کا حکم	۵۲۸
۶۰۲ عمل کثیر کا حکم	۵۲۹
۶۰۲ ایک رکن میں تین بار کھجلانے سے کیا نماز کو توڑنا لازم ہے؟	۵۳۰
۶۰۳ تین دفعہ کھجلانا عمل کثیر ہے؟	۵۳۱
۶۰۴ بائیں ہاتھ سے کھجانا کیا مفسدِ صلوٰۃ ہے؟	۵۳۲
۶۰۴ پکی گھموری (گرمی دانہ) کا کھجلانا	۵۳۳
۶۰۶ کیا نماز میں گھڑی دیکھنا مفسد ہے؟	۵۳۴
۶۰۶ نماز میں جوؤں کو مارنا	۵۳۵
۶۰۷ کیا ایک سے زائد ضرب سے سانپ کو مارنا مفسد ہے؟	۵۳۶
۶۰۸ کپڑے میں الجھ کر دونوں پیرا کھڑ جائیں تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟	۵۳۷
۶۰۹ کیا نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا ہٹ جانا مفسدِ نماز ہے؟	۵۳۸
۶۰۹ نمازی کے سامنے والا شخص اپنی جگہ سے ہٹ کر جاسکتا ہے یا نہیں؟	۵۳۹

۶۱۰ نماز پڑھتے ہوئے بارش آجائے تو کیا کیا کرے؟	۵۴۰
۶۱۱ معمولی ہنسی سے نماز فاسد ہوگئی، وضوء نہیں ٹوٹا	۵۴۱
۶۱۲ کیا نماز میں ہلکی آواز نکلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی؟	۵۴۲
۶۱۳ امام کی تکبیرات اور سلام سے پہلے مقتدی کا تکبیر اور سلام کہنا	۵۴۳
۶۱۴ امام سے پہلے سانس توڑنا	۵۴۴
۶۱۶ امام کے ساتھ چوتھی رکعت کا قیام کئے بغیر سلام پھیر دینا	۵۴۵
۶۱۷ امام نماز میں سو جائے تو مقتدی کیا کریں اور نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟	۵۴۶
۶۱۷ امام کا سجدہ میں انتقال کر جانا	۵۴۷
۶۱۸ نماز میں مقتدی کا انتقال ہو جانا	۵۴۸
۶۱۹ گمانِ فساد پر نماز کا اعادہ	۵۴۹
۶۲۰ تین سجدے کرنے سے نماز کا اعادہ	۵۵۰
۶۲۰ ترکِ اقامت کی وجہ سے نماز کا اعادہ	۵۵۱
۶۲۲ عین نماز میں طلوعِ شمس	۵۵۲
۶۲۲ ”لا صلوة إلا بحضور القلب“ کا مطلب	۵۵۳
۶۲۲ کیا بغیر حضورِ قلب کے نماز نہیں ہوتی؟	۵۵۴
۶۲۲ خیالات آنے کی وجہ سے نماز میں خرابی نہیں آتی	۵۵۵
۶۲۵ نماز میں حوروں کا تصور	۵۵۶
۶۲۶ نماز میں غیر عربی میں دعا مانگنا	۵۵۷
۶۲۷ نماز اور غیر نماز میں عربی اور غیر عربی میں دعا میں فرق	۵۵۸
۶۲۸ کتنے نقصان پر نماز توڑنے کی اجازت ہے؟	۵۵۹
۶۲۹ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آجائے تو نماز کا حکم	۵۶۰
۶۲۹ ”التحیات“ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور	۵۶۱
۶۳۰ امام کے سورۃ الفاتحہ کے ختم پر مقتدی کا کلمہ طیبہ پڑھنا	۵۶۲

۶۳۱ نماز میں نام مبارک سن کر وود شریف پڑھنے کا حکم	۵۶۳
۶۳۲ کیا سجدہ میں دونوں پیروں کے اٹھ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟	۵۶۴
۶۳۳ سجدہ میں دونوں پیروں کا زمین سے اٹھ جانا	۵۶۵
۶۳۴ سجدہ میں دونوں پیروں کا اٹھا لینا	۵۶۶
۶۳۴ رفع قد میں	۵۶۷
۶۳۵ سجدہ میں پیشانی اور ناک رکھنے کی جگہ کا موضع قد میں سے بلند ہونا	۵۶۸
۶۳۵ عورت کا نماز میں جہراً قراءت کرنا کیا مفسد ہے؟	۵۶۹
۶۳۶ نماز میں تفسیر کے ساتھ قراءت کرنا	۵۷۰
۶۳۷ ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کے بجائے ”سمع اللہ من حمدہ“ کہنا	۵۷۱
۶۳۷ لفظ ”اللہ“ کے شروع میں مد	۵۷۲
۶۳۸ قصد ترک رکوع اور ترک قعدہ اولیٰ کا حکم	۵۷۳
۶۳۹ امام سے پہلے رکوع یا سجدہ	۵۷۴
۶۴۰ سلام قبل الامام سے متعلق ”تذکرۃ الرشید“ اور ”تذکرۃ الخلیل“ کی عبارتوں میں تعارض	۵۷۵
۶۴۱ قعدہ اخیرہ کے بعد ضرورۃً امام سے پہلے سلام پھیرنا	۵۷۶
۶۴۲ سلام قبل الامام	۵۷۷
۶۴۲ امام کی تبعیت کا ایک مسئلہ	۵۷۸
۶۴۴ مقتدی سے فرض کہہ کر سنت پڑھنا	۵۷۹
۶۴۵ جماعت شروع ہونے پر مسجد کے اندر سونے والا کیا کرے؟	۵۸۰
<h3>الفصل الثانی فیما یکرہ فی الصلوۃ</h3> <h4>(مکروہات نماز کا بیان)</h4>		
۶۴۶ کیا نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے؟	۵۸۱
۶۴۶ ”کل صلوۃ أدیت مع کراهة التحريم تجب إعادتها“	۵۸۲

۶۴۸ کیا طاعاتِ مکروہہ کا بھی ثواب ہے؟	۵۸۳
۶۵۱ نماز میں کہنی سے آستین اتارنا	۵۸۴
۶۵۱ کہنی تک آستین چڑھا کر نماز	۵۸۵
۶۵۲ آستین چڑھا کر نماز پڑھنا	۵۸۶
۶۵۲ بٹن کھلے رہنے سے نماز کا حکم	۵۸۷
۶۵۲ آستین چڑھا کر نماز پڑھنا	۵۸۸
۶۵۳ نیم آستین کپڑے پہن کر نماز پڑھنا	۵۸۹
۶۵۴ نیم آستین، کرتہ، ٹخنوں سے نیچا پانجامہ سے نماز	۵۹۰
۶۵۴ نصف آستین کی قمیص سے نماز پڑھنا	۵۹۱
۶۵۴ نماز میں گریبان کھلا رکھنا	۵۹۲
۶۵۵ کھلے گریبان سے نماز	۵۹۳
۶۵۶ بٹن کھلے چھوڑ کر نماز پڑھنا	۵۹۴
۶۵۶ عضو کا چوتھائی حصہ کھلا رہنے سے نماز کا حکم	۵۹۵
۶۵۷ نماز میں ٹوپی عمامہ سے کھلی رہنے کا حکم	۵۹۶
۶۵۸ مقتدی کا امام سے پہلے تکبیرات انتقال کہنا	۵۹۷
۶۵۹ امام کا رکوع میں جانے اور سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد تکبیر کہنا	۵۹۸
۶۶۱ نماز میں ٹوپی گر جائے تو اس کو اوڑھنا	۵۹۹
۶۶۲ جالی دار ٹوپی سے نماز	۶۰۰
۶۶۳ استعمالی رومال کو سر پر باندھ کر نماز پڑھنا	۶۰۱
۶۶۳ چوری کے کپڑے میں نماز کا حکم	۶۰۲
۶۶۴ سرخ کپڑے میں نماز	۶۰۳
۶۶۴ منڈھانک کر نماز پڑھنا	۶۰۴
۶۶۵ پتلون پہن کر نماز	۶۰۵

۶۰۶	کوٹ پتلون کے ساتھ نماز.....	۶۰۶
۶۰۷	نماز میں لنگی یا پاجامہ درست کرنا.....	۶۰۷
۶۰۸	جوتے پہن کر نماز کا حکم.....	۶۰۸
۶۰۹	کمبل سے ہاتھ نکالے بغیر نماز ادا کرنا.....	۶۰۹
۶۱۰	گھڑی کی چین کے ساتھ نماز.....	۶۱۰
۶۱۱	تصویر پر سجدہ.....	۶۱۱
۶۱۲	مصلیٰ پر تصویر.....	۶۱۲
۶۱۳	خانہ کعبہ کی تصویر والے مصلے پر نماز.....	۶۱۳
۶۱۴	منقش مصلے پر نماز.....	۶۱۴
۶۱۵	ایضاً.....	۶۱۵
۶۱۶	جس مصلے پر بیت اللہ کی تصویر ہو، اس پر نماز پڑھنا.....	۶۱۶
۶۱۷	روپیہ پیسے کے ساتھ نماز کا حکم.....	۶۱۷
۶۱۸	تصویر یا بیڑی، سگریٹ جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا.....	۶۱۸
۶۱۹	ہاتھ پر تصویر گدی ہوئی ہونے کی حالت میں نماز.....	۶۱۹
۶۲۰	آئینہ دار مسجد میں نماز.....	۶۲۰
۶۲۱	آئینہ سامنے ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟.....	۶۲۱
۶۲۲	دیوارِ قبلہ پر نظر پڑنا.....	۶۲۲
۶۲۳	غیر مسلم کے معبد یا زمین میں نماز عید وغیرہ.....	۶۲۳
۶۲۴	مسجد کے لئے بنیاد کھودتے ہوئے میت کی کچھ ہڈیاں ظاہر ہوئیں، وہاں نماز کا حکم.....	۶۲۴
۶۲۵	قرآن مجید سجدے کے سامنے ہو.....	۶۲۵
۶۲۶	نمازی کے سامنے چراغ جلنا.....	۶۲۶
۶۲۷	چراغ سامنے رکھ کر نماز پڑھنا.....	۶۲۷
۶۲۸	نماز اندھیرے میں ہو یا روشنی میں؟.....	۶۲۸

۶۸۶ اندھیرے میں نماز پڑھنا	۶۲۹
۶۸۵ اگر امام کا چہرہ شمال یا جنوب کی طرف گھوم جائے	۶۳۰
۶۸۵ امام کا مصلیٰ پر مقتدی کا فرش پر ہونا مکروہ ہے یا نہیں؟	۶۳۱
۶۸۶ مسجد کی چھت پر نماز مکروہ ہے	۶۳۲
۶۸۷ ایضاً	۶۳۳
۶۸۷ مسجد کے اندر کنویں پر نماز	۶۳۴
۶۸۸ کیا نماز کم عرض دری پر مکروہ ہے؟	۶۳۵
۶۸۸ نجاست بقدر عفو کے ساتھ نماز	۶۳۶
۶۸۹ تقاضہ ریح کے وقت نماز	۶۳۷
۶۹۰ طبعی کراہت کی وجہ سے نماز میں کراہت	۶۳۸
۶۹۰ منفرد کے لئے تکبیر کا جہر	۶۳۹
۶۹۱ منفرد کو تکبیرات بالجہر کہنا	۶۴۰
باب السترة		
(سترہ کا بیان)		
۶۹۳ راستہ میں بغیر سترہ کے نماز	۶۴۱
۶۹۳ کیا جنگلہ سترہ کے حکم میں ہے؟	۶۴۲
۶۹۵ اونچائی پر نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا	۶۴۳
☆.....☆.....☆		

باب الإمامة

الفصل الأول في أوصاف الإمام

(امام کے اوصاف کا بیان)

امام کے اوصاف

سوال [۲۴۹۵]: نماز پڑھانے والے میں کیا اوصاف ہونے چاہئیں؟ اگر نماز پڑھانے والے

سے بہتر اوصاف والا بھی کوئی مقتدی موجود ہو تو کیا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ از خود جا کر مصلے پر کھڑا ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام، اُعلم اور اُقرأ، اور ع ہونا چاہئے یعنی شرعی مسائل کا علم زیادہ رکھتا ہو اور قرآن شریف صحیح پڑھتا ہو

اور متبع شریعت اور پابند سنت ہو (۱) ایسے شخص کو جب امام مقرر کر دیا جائے۔ اور مقتدیوں میں کوئی ان اوصاف

(۱) "عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضممعج يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله تعالى عنه

يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمِهِمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ

قِرَائَتُهُمْ سِوَاءَ فَلْيُؤْمِهِمْ أَقْدَمُهُمْ هَجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سِوَاءَ فَلْيُؤْمِهِمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا..... وَلَا تَوْمَنَ

الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ يَأْذَنَ". (الصحيح

لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۲۳۶/۱، قديمي)

(و جامع الترمذی، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ۵۵/۱، سعيد)

(وسنن النسائی، كتاب الإمامة والجماعة، باب من أحق بالإمامة: ۲۶/۱، قديمي)

"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة،

ثم الأحسن تلاوةً للقرأة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً، ثم الأحسن وجهاً، ثم الأشرف نسباً،

ثم الأنظف ثوباً". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۷، ۵۵۸، سعيد)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۲۶۹/۱، دار الكتب العلمية بيروت)

میں اس سے افضل ہو تو اس کو خود مصلے پر پہنچ کر امامت کرانا بغیر اجازت امام ممنوع ہے:

”و لا يُؤمَّ (بصيغة المجهول) الرجل في بيته و لا في سلطانه: أي محل ولايته أو في محل يكون في حكمه، و لذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي خلف الحجاج. و تحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة و تألفهم و توأدهم، فإذا أم الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة و خلع ربة الطاعة، و كذا إذا أمه في قومه و أهله، أدى ذلك إلى التباعد و التقاطع، فلا يتقدم رجل على ذي السلطنة، لا سيما في الأعياد و الجُمُعات، و لا على إمام الحي و رب البيت إلا بالإذن، نقله القارى من الطيبي اهـ.“

بذل المجهود (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

امامت کے اوصاف

سوال [۲۴۹۶]: ایک خفی آدمی کو امامت سے ہٹا کر غیر خفی کو امام بنایا گیا مگر یہ غیر خفی فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا بلکہ وہ (سابق امام) خفی و دیگر خفی مقتدی (بعض مقتدی غیر خفی بھی) موجود ہوتے ہیں تو کیا عارضی طور پر فجر کی نماز یہ خفی سابق امام پڑھا سکتا ہے؟

الجواب حامدًا و مصلیًا:

جو آدمی سب نمازیوں میں زیادہ لائق ہو، طہارت و نماز کے مسائل سے زیادہ واقف ہو، تتبع شریعت

(۱) (بذل المجهود، کتاب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ۱/۳۲۶، مکتبہ امدادیہ ملتان)

”واعلم أن صاحب البيت و مثله إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقاً، إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه لعموم ولايتهما.“ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۷۴، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۷، رشیدیہ)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۲۴۰، مکتبہ امدادیہ ملتان)

ہو، قرآن کریم صحیح پڑھتا ہو اس کو امام بنایا جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۲/۹۵ھ۔

امام کس کو بنائیں؟

سوال [۲۲۹۷]: محلہ کی مسجد امامت سے بالکل خالی ہے لیکن دو حضرات ہیں جن سے یہ خدمت لی جاتی ہے: ایک صاحب ہیں جو بظاہر وضع قطع شرعی رکھتے ہیں لیکن کچھ عیوب ہیں مثلاً چوری، غیبت، حسد، گالی گلوچ، دوسرے صاحب جو ڈاڑھی نہیں رکھتے ہیں اور پانچامہ بھی غیر شرعی ہے، ہر دو حضرات میں امامت کے لئے کون افضل و مناسب ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

دونوں کے علاوہ کسی تیسرے صالح شخص کو امام بنالیا جائے (۲)۔ بہت ہی بد قسمتی ہے کہ مسجد میں امام نہیں، سب جمع ہو کر باہمی مشورہ سے اس کا انتظام کریں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند۔

(۱) (تقدم تخریجہ تحت عنوان: "امام کے اوصاف"۔)

(۲) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه الفواحش الظاهرة ثم الأورع: أي الأكثر اتقاءً للشبهات، والتقوى اتقاء المحرمات". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سيعد)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ۱/۲۲۰، امداديه)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۰۸، رشيديه)

(۳) "عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"فعليك بالجماعة". الحديث. "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت أن أمر بالصلوة فتقام، ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". فهذا وعيد على ترك الصلاة بالجماعة من غير عذر لا على ترك الصلاة". (بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة: ۱/۳۱۰، امداديه)

امامت کی شرائط

سوال [۲۴۹۸]: ایک مسلمان بغیر وباغت چمڑہ کا بیوپار کرتا ہے اور بازار کا بیٹھنے والا ہے، وہ شخص امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

امام صحیح العقیدہ، قرآن پاک صحیح پڑھنے والا، مسائل نماز و طہارت سے واقف، تتبع سنت ہونا چاہیے (۱)۔ مردار کی کھال بغیر وباغت بیچنا اور خریدنا جائز نہیں، یہ بیع باطل ہے (۲)، ایسے کاروبار کرنے والے کو

= (والحدیث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها : ۱/۲۳۲، قدیمی)

”البانی للمسجد أولى بنصب الإمام والمؤذن في المختار، إلا إذا عين القوم أصلح ممن عينه البانی“۔ (الدرالمختار، كتاب الوقف: ۳/۴۳۰، سعید)

(و كذا في الحلبي الكبير، فصل في أحكام المسجد، ص: ۶۱۵، سهيل اكيذمي لاهور)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، باب في أحكام المساجد: ۵/۴۱۸، رشيديه)

”و كذا الأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها من غير عذر يعزر، وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه قوله عليه الصلوة والسلام: ”صلوة الرجل في الجماعة تفضل على صلوته في بيته أو سوقه سبعاً وعشرين ضعفاً والله الهادي“۔ (الحلبي الكبير، فصل في الإمامة، ص: ۵۰۹، سهيل اكيذمي، لاهور)

(۱) الأولى بالإمامة أعلم بأحكام الصلاة هذا إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة ولم يطعن في دينه ويجتنب الفواحش اهـ“۔ (الفتاوى العالمكيرية، الباب

الخامس في الإمامة، الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۸۳، رشيديه)

(و كذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۰۸، رشيديه)

(۲) ”(وجلد ميتة قبل الدبغ) لو بعوض، ولو بالثمن، فباطل“۔ (الدرالمختار، كتاب البيوع، باب البيع

الفاسد: ۵/۷۳، سعید)

امام بنانا مکروہ تحریمی ہے (۱)، دباغت کے بعد بیع و شراء درست ہے (۲)، دباغت کے لئے کھال کو باقاعدہ پکانا بھی ضروری نہیں بلکہ دھوپ میں یا نمک وغیرہ مسالہ لگا کر ایسا بنا لینا بھی کافی ہے کہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہ سکے اور خون کی رطوبت ختم ہو جائے (۳)۔ جو جانور شرعی طور پر ذبح کیا جائے اس کی کھال بغیر دباغت ہی پاک ہے (۴)۔ خنزیر کی کھال کسی طرح پاک نہیں ہوتی وہ نجس العین ہے (۵)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

دیوبندی عالم کی امامت

سوال [۲۴۹۹]: ایک شخص عالم دین ہے، فارغ دیوبند پابند شرع ہے امام مسجد ہے، کیا ایسا شخص امام بننے کے لائق ہے یا نہیں؟
الجواب حامداً و مصلياً:

دارالعلوم دیوبند کا مسلک قرآن کریم، حدیث شریف، اجماع امت، فقہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے

(۱) ”ویکرہ إمامة عبدو أعرابی وفاسق..... اھ۔“ (الدرالمختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۶۰/۱، سعید)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱۳۴/۱، امدادیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۱۰/۱، ۶۱۱، رشیدیہ)

(۲) ”(وبعدہ): ای بعد الدبغ (بیاع)۔“ (الدرالمختار، کتاب البیوع، باب بیع الفاسد: ۷۳/۵، سعید)

(۳) ”(قولہ: دبغ) الدباغ ما یمنع التّن والفساد، والذی یمنع علی نوعین: حقیقی کالقرظ والشب والنفص ونحوہ، وحکمی: کالتربیب والتشمیس والإلقاء فی الریح..... اھ۔“ (الدرالمختار، کتاب الطہارة، مطلب فی أحكام الدباغة: ۲۰۳/۱، سعید)

(۴) ”الحاصل أن زکاة الحيوان مطهرة لجلده، ولحمه إن كان الحيوان مأکولاً۔“ (ردالمحتار، کتاب الطہارة، مطلب فی أحكام الدباغة: ۲۰۵/۱، سعید)

(۵) ”(خلا) جلد (خنزیر) فلا یطهر۔“ (الدرالمختار، کتاب الطہارة، مطلب فی أحكام الدباغة: ۲۰۴/۱، سعید)

(و کذا فی الهدایة، کتاب الطہارات، قبیل فصل فی البیر: ۴۰/۱، ۴۱، شركة علمية، ملتان)

مطابق ہے، علم کلام میں اہل حق کے عقائد یہاں تعلیم دیئے جاتے ہیں، تصوف میں حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہم اللہ اجمعین کے طریقہ تربیت کو اختیار کیا جاتا ہے، یہاں کا سلسلہ اسناد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے مربوط ہے۔ اس مسلک کے آدمی کو امام بنانا اور اس کے پیچھے فریضہ نماز کو ادا کرنا شرعاً درست اور عین سعادت ہے، متقی آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق ہدایہ میں روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ بہت بلند ہیں: ”والأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرآن ثم الأورع، وقدم أبو يوسف الأقرآن“ (۱)۔

یہ حدیث صحیحین میں ہے: ”يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة“ بحر (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند۔

مقیم کی امامت اولیٰ ہے یا مسافر کی؟

سوال [۲۵۰۰]: امامت مقیم کی اولیٰ ہے یا مسافر کی؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

مقیم کی امامت اولیٰ ہے: ”الأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة..... ثم المقيم على

(۱) (الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۱، ۱۲۳، مكتبة شركة علمية ملتان)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۷، رشيدية)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعيد)

(۲) (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۷، رشيدية)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، مكتبة شركة علمية ملتان)

(و ايضا في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى: ۱/۹۶، قديمي)

(وسنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ۱/۹۳، امداديه ملتان)

(و الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۱/۲۳۶، قديمي)

المسافر“ الدر المختار (۱) - فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۳/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۳/۹۰ھ۔

امامت کی تمنا

سوال [۲۵۰۱]: امامت کی خود حرص و تمنا کرنا اور کسی مسجد یا مجمع کی امامت کا خود کو مستحق قرار دینا،

کیا کسی شخص کیلئے جائز ہے؟ خواہ وہ مولوی یا حافظ ہو۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امامت کی ذمہ داری بہت اہم ہے جس کے سر پڑ جائے وہ بھی ڈرتا اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ

صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس کی تمنا اور حرص ہرگز نہ کی جائے، سب نمازیوں کا بوجھ اٹھانا معمولی بات

نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۷/۷/۹۲ھ۔

(۱) (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، ۵۸۸، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۰۹، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۲۴۱، امدادیہ ملتان)

(و کذا فی فتح القدير، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۳۴۹، مصطفى الحلبي بمصر)

(۲) ”وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على

منكبي، ثم قال: ”يا أبا ذر! إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من

أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها“۔ رواه مسلم“۔

قال الملا علي القاري رحمه الله تعالى: ”قال النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث أصل عظيم

في اجتناب الولاية، لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائفها، والخزي والندامة في حق من لم يكن

أهلاً لها، أو كان أهلاً ولم يعدل، فيخزيه الله يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط“۔ (مرقاة المفاتيح،

كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول، (رقم الحديث: ۳۶۸۲): ۷/۲۶۲، رشیدیہ)

صحیح گواہی دینے والے کی امامت

سوال [۲۵۰۲]: زید اپنے محلے کی مسجد میں امام ہے، اپنی چچی ماں کے انتقال کے بعد ان کے وارثوں کے اندر کسی بات کا جھگڑا بابت جائیداد ہوا، تب زید جو محلہ کی مسجد میں امام ہے، اس سے کسی نے کہا کہ تم بھی رشتہ دار ہو، کورٹ میں گواہی دینا ہوگی، تو زید نے کہا ٹھیک جہاں چاہو وہاں، گواہی لو مگر مجھے جو صحیح معلوم ہے گواہی دوں گا، تو بہر حال زید نے کورٹ میں جا کر یہ گواہی دی کہ مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ میری چچی اپنی زندگی تک اس جائیداد کو اپنے دخل کرتی رہیں اور زندگی میں کسی کو فروخت کیا یا نہیں مجھے معلوم نہیں۔

کیا امام کو کسی قسم کی گواہی کورٹ میں دینے کی اجازت شریعت میں نہیں؟ گواہی دیتے ہی اس کے پیچھے نماز درست نہیں؟ زید صرف مذکورہ بالا گواہی دینے کے بعد وہ امامت کا مستحق ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس قدر واقعہ معلوم ہے اس کی صحیح گواہی کورٹ میں دینے کی وجہ سے امام کی امامت میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، بلاشبہ اسکی امامت بدستور صحیح و درست ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، ۲۸/۱۲/۹۲ھ۔

غیر حافظ کی امامت

سوال [۲۵۰۳]: ہم نے نماز پڑھانے کے لئے ایک امام رکھا تھا اور ان سے یہ وعدہ تھا کہ ہم حافظ

(۱) صحیح گواہی دینا کوئی ایسا جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے امام کی امامت متاثر ہو، بلکہ صحیح گواہی دینا ہر ایک پر لازم ہے۔

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (سورة البقرة: ۲۸۳)

”فہو عموم فی سائر الشہادات التی یلزم الشاہد إقامتها وأداءها، وهو نظیر قولہ تعالیٰ:

﴿أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (سورة الطلاق: ۲)

”وقولہ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ﴾ (سورة

النساء: ۱۳۵) فنہی اللہ تعالیٰ، الشاہد بہذہ الآیات عن کتمان الشہادة إلی ترکہا یؤدی إلی تضييع

الحقوق الخ“۔ (ابن کثیر: ۱/۲۹۷، دار الفیحاء دمشق)

قرآن رکھتے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں حافظ ہوں، وہ حافظ ہیں نہیں، یہ کہتے رہے کہ میں حافظ ہوں اور جب ان سے کہا کہ سناؤ گے یا نہیں، انہوں نے کہا میں حافظ نہیں۔ نماز ہوتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر انہوں نے اتفاقاً غلط بیانی کی کہ حافظ نہ ہونے کے باوجود کہہ دیا کہ میں حافظ ہوں، اور پھر ظاہر کر کے کہا کہ میں نے غلط کہا تھا اور توبہ کر لی کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ان کے پیچھے نماز درست ہوگی (۱)، ہو سکتا ہے کہ حفظ کیا ہو مگر کچا یاد ہو کہ سنانے پر قابو نہ ہو۔ اب اگر اہل مسجد حافظ کو رکھنا چاہتے ہیں جو تراویح میں سنا سکے تو ان کو پورا اختیار ہے کہ وہ دوسرے امام حافظ کو تجویز کر لیں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/۸/۹۳ھ۔

عمامہ باندھ کر نماز پڑھانا

سوال [۲۵۰۴]: مسجد کے امام صاحب صرف نماز پڑھاتے وقت عمامہ باندھتے ہیں، کیا اس سے

عمامہ کی سنت حاصل ہو سکتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز بلا عمامہ کے بھی ثابت اور درست ہے، عمامہ باندھ کر نماز پڑھنے اور پڑھانے میں زیادہ ثواب

ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۷/۹۵ھ۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ (سورة طه: ۸۲)

”عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

”التائب من الذنب كمن لا ذنب له“۔ (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبة:

۱/۲۰۶، قديمی)

(۲) ”أو الخيار إلى القوم، فإن اختلفوا اعتبر أكثرهم“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة:

۱/۵۵۸، ۵۵۹، سعيد)

(۳) ”وقد ذكروا أن المستحب أن يصلى فى قميص وإزار وعمامة ولا يكره الاكتفاء بالقلنسوة ولا عبرة=

امام کے لئے عمامہ

سوال [۲۵۰۵]: کیا امامت کے وقت عمامہ کا سر پر لپیٹنا لازم ہے اور اگر کوئی شخص بوقت امامت

عمامہ نہ لپیٹے تو آیا اس کی نماز پڑھانا درست ہوگا یا نہیں اور عمامہ کا لپیٹنا سنت ہے یا کیا؟

الجواب حامداً و مصلياً:

عمامہ باندھ کر نماز پڑھانا مستحب ہے لیکن بلا عمامہ کے بھی بلا کراہت درست ہے (۱) البتہ جس جگہ

عمامہ کا اتنا رواج ہو کہ بغیر عمامہ کسی معزز مجلس میں نہ جاتے ہوں بلکہ اپنے گھر سے بھی نہ نکلتے ہوں تو ایسی جگہ بلا

عمامہ نماز پڑھانا اور پڑھنا مکروہ ہے، کذا فی نفع المفتی والسائل (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ اعلم۔

= لما اشتهر بين العوام من كراهة ذلك، و كذا ما اشتهر أن المؤتم لو كان معتماً بعمامة والإمام مكتفياً
على قلنسوة يكرهه“. (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة و ما
يكره فيها: ۱/ ۶۹، سعيد)

”والمستحب أن يصلی الرجل فی ثلاثة أثواب قميص و إزار و عمامة و أما لو صلی فی ثوب

واحد متوشحاً به، تجوز صلاته من غير كراهة“. (الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلاة، الباب الثالث فی
شروط الصلوة: ۱/ ۵۹، رشیدیہ)

(و كذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب شروط الصلاة: ۱/ ۴۶۸، رشیدیہ)

(و كذا فی خلاصة الفتاویٰ، کتاب الصلاة، الفصل السادس فی ستر العورة: ۱/ ۷۳، امجد
اکیڈمی لاہور)

(۱) ”والمستحب أن يصلی الرجل فی ثلاثة أثواب: قميص و إزار و عمامة، و أما لو صلی فی ثوب واحد
متوشحاً به تجوز صلاته من غير كراهة“. (الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلاة، الباب الثالث فی شروط
الصلوة: ۱/ ۵۹، رشیدیہ)

(و كذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب شروط الصلاة: ۱/ ۴۶۸، رشیدیہ)

(و كذا فی خلاصة الفتاویٰ، کتاب الصلاة، الفصل السادس فی ستر العورة: ۱/ ۷۳، امجد اکیڈمی لاہور)

(۲) ”وأفاد الوالد العلام فی بعض تحریراته أنه تکره الصلوة بدونها فی البلاد التي عادة سكانها أنهم لا
يذهبون إلى الكبراء بدون العمامة، بل و لا يخرجون من بيوتهم إلا متعممين، و أما فی البلاد التي لا
يعتادون فيها ذلك فلا، و قد اشتهر بين العوام أن الإمام إن كان غير متعمم، و المقتدون متعممين، =

امام کے لئے عمامہ

سوال [۲۵۰۶]: کسی مسجد کا مقررہ امام عمامہ کے ہوتے ہوئے پنج وقتہ نماز یا جمعہ ٹوپی سے پڑھاتا ہے حالانکہ جماعت میں اکثر لوگ عمامہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور جماعت بھی بضر ہے کہ امام عمامہ باندھ کر نماز پڑھائے مگر امام یہ کہہ کر کہ ٹوپی پہن کر بھی نماز ہو جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے ٹال دیتا ہے۔ ایسی حالت میں امام اور مقتدیوں کی نماز میں کراہت پیدا ہوگی یا نماز صحیح بلا کراہت سب کی ہو جائے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عمامہ باندھ کر نماز پڑھانا افضل ہے، بلا عمامہ صرف ٹوپی سے بھی بلا کراہت جائز ہے:

”والمستحب أن يصلى الرجل في ثلاثة أثواب: قميص وإزار و عمامة، أما لو صلى في

ثوب واحد متوشحاً به جميع بدنه كإزار الميت، تجوز صلوته من غير كراهة“۔ کبیری، ص: ۱۹۲ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۷/ جمادی الثانیہ/ ۱۳۵۲ھ۔

صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۰/ جمادی الثانیہ/ ۱۳۵۲ھ، صحیح: بندہ عبدالرحمن غفرلہ۔

عمامہ کی مقدار

سوال [۲۵۰۷]: نماز کے وقت اکثر پیش امام ٹوپی پر کوئی کپڑا یا رومال لپیٹ لیا کرتے ہیں اور ایسا نہ کرنے والے کے ساتھ طعن و تشنیع سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز میں پیش امام کو عمامہ باندھنا چاہیے۔

= فصلاتهم مکروهة، وهذا أيضاً زخرف من القول لا دليل عليه، فاحفظ“۔ (نفع المفتی والسائل من

مجموعة رسائل اللکنوی، ذکر المکروهات المتفرقة: ۳/ ۱۱۳، إدارة القرآن کراچی)

(۱) (الحلبی الکبیر، کتاب الصلوة، فروع فی الستر، ص: ۲۱۶، سهیل اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلوة، الباب الثالث فی شروط الصلوة: ۱/ ۵۹، رشیدیہ)

(و کذا فی نفع المفتی والسائل من مجموعة رسائل اللکنوی، ذکر المکروهات المتفرقة: ۳/ ۱۱۲،

إدارة القرآن والعلوم الاسلامیة کراچی)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب شروط الصلاة: ۱/ ۲۶۸، رشیدیہ)

یہ فعل ان کا کیسا ہے؟ اگر کپڑا ٹوپی پر لپیٹے تو کتنا لمبا ہونا چاہئے، کیا اس کے لئے کوئی قید ہے؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مقتدی نصف سے زائد جماعت میں ہوں جو عمامہ باندھے ہوئے ہوں اور پیش امام ٹوپی پہنا ہوں تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔

ملا امیر علی معلم امام باڑہ، گاؤں قصابان کھنڈہ، محلہ املی پورہ۔

الجواب حامداً و مصلياً:

نماز بغیر عمامہ کے بلا کراہت درست ہے (۱) تو پھر طعن و تشنیع کرنا بُرا ہے بلکہ اگر فعل مستحب کے ساتھ وجوب کا معاملہ کیا جائے تو اس کا ترک کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت میں بغیر عمامہ کے کبھی کبھی نماز پڑھنا ضروری ہے (۲) اور اگر تمام مقتدی بھی عمامہ باندھے ہوئے ہوں اور امام ٹوپی پہنے ہوئے ہوں تب بھی نماز میں کراہت نہیں آتی۔

”وقد اشتهر بين العوام أن الإمام إن كان غير متعمم والمقتدون متعممين، فصلاتهم مكروهة، وهذا أيضاً زخرف القول لادليل عليه.“ نفع المفتى والسائل، ص: ۳۷، ۳۸ (۳)۔

(۱) ”وقد ذكروا أن المستحب أن يصلى في قميص وإزار وعمامة ولا يكره الاكتفاء بالقلنسوة، ولا عبرة لما اشتهر بين العوام من كراهة ذلك، وكذا ما اشتهر أن المؤتم لو كان متعمماً بعمامة والإمام مكتفياً على قلنسوة، يكره.“ (عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها: ۱/۱۶۹، سعيد)

”والمستحب أن يصلى الرجل في ثلاثة أثواب: قميص وإزار وعمامة وأما لو صلى في ثوب واحد متوشحاً به، تجوز صلاته من غير كراهة.“ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلوة: ۱/۵۹، رشيديه)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب شروط الصلاة: ۱/۳۶۸، رشيديه)

(۲) ”قال الطيبي في حاشية المشكوة: أن من أصر على أمر مندوب وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة أو منكر.“ (السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة هل يجهر بالذكر أم لا: ۲/۲۶۳، سهيل اكيڈمی لاہور)

(۳) (نفع المفتى والسائل من مجموعة رسائل اللكنوى، ذكر المكروهات المتفرقة: ۳/۱۱۳، إدارة القرآن كراچی) =

اور ٹوپی پر رومال وغیرہ باندھنے سے عمامہ کی فضیلت حاصل نہ ہوگی جب تک سنت کے موافق عمامہ نہ ہو، اس کی مقدار سات ہاتھ ہے اور بعض اوقات بارہ ہاتھ عمامہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے:

”كان له صلى الله تعالى عليه وسلم عمامة قصيرة و عمامة طويلة، وإن القصيرة كانت سبعة أذرع والطويلة كانت اثني عشرة ذراعاً، انتهى. و ظاهر كلام المدخل أن عمامته كانت سبعة أذرع مطلقاً من غير تقييد بالقصير والطويل. والله أعلم.“ جمع الوسائل شرح الشمائل: ۱/ ۲۰۷ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۷/ جمادی الثانیہ/ ۱۳۵۲ھ۔
صحیح: عبداللطیف، عفا اللہ عنہ، ۲۰/ جمادی الثانیہ/ ۱۳۵۲ھ، صحیح: بندہ عبدالرحمن غفرلہ۔

بلا عمامہ امامت

سوال [۲۵۰۸]: امام مسجد ہر نماز میں رومال باندھ کر نماز پڑھاوے مقتدی صافہ باندھے ہوں۔ یہ عمل ہر وقت پر کرنا کیسا ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً :

رومال باندھ کر عمامہ باندھ کر ٹوپی اوڑھ کر ہر طرح نماز پڑھانا درست ہے چاہے مقتدی نے عمامہ باندھا ہو یا رومال باندھا ہو یا ٹوپی اوڑھی ہو کوئی صورت ناجائز نہیں، البتہ عمامہ باندھ کر نماز پڑھانے میں زیادہ

= (و كذا في عمدة الرعاية على هامش شرح الوقاية، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة و ما يكره فيها: ۱/ ۱۶۹، سعيد)

(۱) (جمع الوسائل في شرح الشمائل، باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ۱/ ۲۰۷، إدارة تالیفات اشرفیہ ملتان)

(و كذا في مرقات المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني تحت حديث ركاة: ۱۳۷/ ۸، ۱۳۸، رشیدیہ)

(و كذا في العرف الشذی، أبواب الصلوة، باب ما جاء في العمامة السوداء: ۱/ ۳۰۴، سعيد)

ثواب ہے، اسی طرح خود پڑھنے میں بھی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

بلاٹوپی و عمامہ امامت

سوال [۲۵۰۹]: ایک امام جب امامت کرنے لگا تو اس کے سر پر نہ پگڑی تھی اور نہ ٹوپی صرف ایک چادر تھی جو تمام بدن پر اوڑھی ہوئی تھی، ایک مقتدی نے امام سے کہا کہ اس طرح سے نماز مکروہ ہے، اس پر امام صاحب نے جواب دیا کہ میں اسی طرح پڑھاؤں گا جس کی مرضی ہو پڑھو اور جس صاحب کی مرضی نہ ہو، نہ پڑھو۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً :

ننگے سر نماز پڑھنا اور پڑھانا جب کہ عمامہ اور ٹوپی موجود ہو مکروہ ہے، معزز لباس پہن کر نماز پڑھنا اور پڑھانا چاہئے، تاہم فریضہ صورت مذکورہ سے ادا ہو جاتا ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۵/۳/۵۶ھ۔

صحیح: عبداللطیف، ۱۶/ربیع الاول/۵۶ھ۔

(۱) ”وقد سُئِلْتُ غير مرة عن الصلوة بغير عمامة هل تكره، كما هو المشهور بين العوام، فتجست في كتب الفقه، فلم أجد سوى قولهم: والمستحب أن يصلى في ثلاثة أثواب: إزار وقميص و عمامة. وهو لا يدل على كراهة الصلوة بدونها، كما حرره بعض علماء عصرنا ظاناً أن ترك المستحب مكروه، وذلك لأنه قد صرح في البحر الرائق وغيره أن ترك المستحب لا تلزم منه الكراهة ما لم يقم دليل خارجي عليه.“ (نفع المفتي والسائل من مجموعة رسائل اللكنوي، ذكر المكروهات المتفرقة: ۱۱۲/۴، إدارة القرآن كراچی)

(الفتاوى العالمكبرية، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلوة: ۵۹/۱، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة: ۴۶۸/۱، رشيدية)

(۲) ”و صلاته حاسراً: أي كاشفاً رأسه للتكاسل، ولا بأس به للتدلل، و أما للإهانة بها، فكفر.“ (الدر

المختار، كتاب الصلوة مكروهات الصلوة: ۶۳۱/۱، سعید) =

ٹوپی اور عمامہ سے نماز

سوال [۲۵۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ذیل کے درمیان:

ٹوپی سے نماز پڑھانا آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں (حوالہ کی سخت ضرورت ہے) اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی سے نماز پڑھانی مکروہ ہے اس کی کیا اصل ہے، اس میں اس قدر غلو کرنا کہ فساد پر آمادہ ہو جائیں کیا حکم رکھتا ہے؟ اگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ٹوپی سے نماز پڑھنے کا ثبوت ہے تو مہربانی فرما کر حوالہ ضرور دیجئے کہ فلاں کتاب میں درج ہے۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔
والسلام: العارض: خلیل الرحمن مظاہری۔

الجواب حامداً و مصلياً:

یہاں دو امر غور طلب ہیں:

اول: صرف ٹوپی کا بغیر عمامہ کے استعمال کرنا۔ دوم: صرف ٹوپی سے نماز پڑھانا یا امامت کے لئے عمامہ کا ضروری ہونا۔

سوامر اول کے متعلق عرض ہے کہ ابوداؤد شریف کی روایت ہے کہ: ”فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القلانس“ (۱)۔ گو اس حدیث پر ترمذی اور بخاری نے کلام کیا ہے، ترمذی نے کہا ہے: ”هذا“

= (و کذا فی مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلوة وما یکره فیها: ۱۲۳/۱، دار إحياء التراث العربی بیروت)

”وتکره الصلوة حاسراً رأسه إذا کان یجد العمامة، وقد فعل ذلك تکاسلاً و تهاوناً بالصلوة، ولا بأس به إذا فعله تذلاً و خشوعاً بل هو حسن کذا فی الذخيرة“۔ (الفتاویٰ العالمکیرية، کتاب الصلاة، الباب السابع فیما یفسد الصلاة و ما یکره فیها، الفصل الثانی فیما یکره فی الصلوة و ما لا یکره: ۱۰۶/۱، رشیدیہ)

(۱) و تمام الحدیث: ”عن أبی جعفر بن محمد بن علی بن رکانة عن أبیه أن رکانة صارع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصرعه النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قال رکانة: وسمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول: ”فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القلانس“۔ (سنن أبی داؤد، کتاب اللباس، باب فی العمائم: ۲۰۹/۲، امدادیہ ملتان)

حدیث غریب و اسنادہ لیس بقائم“ (۱) بخاری نے کہا: ”ہو واہ“ (۲) تاہم بذل: ۵۲/۵ میں لکھا ہے:

”مراد الحدیث أن المشركين كانوا يعتمون على رؤوسهم من غير أن يكون تحت العمامة قلنسوة، ونحن نعمم على القلنسوة، ولأبي الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث قلانس“۔ الحدیث (۳)۔

ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح شمائل میں نقل کیا ہے:

”قال: وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يلبس القلانس تحت العمامة و يلبس العمامة بغير القلانس. قال الجزري رحمه الله تعالى: قال بعض العلماء: السنة أن يلبس القلنسوة والعمامة، فأما لبس القلنسوة بلا عمامة فهو زي المشركين“ (۴)۔

اور صاحب فتح الودود نے شرح ابوداؤد میں اس طرح شرح کی ہے:

”أى أنهم يكتفون بالقلانس، وبه صرح القاضي أبو بكر في شرح الترمذی، ويحتمل عكسه“ (۵)۔

(۱) و تمام العبارة: ”هذا حدیث غریب اسنادہ لیس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلانی ولا ابن ركانة“۔ (جامع الترمذی، أبواب اللباس، باب: ۳۰۸/۱، سعید)

(۲) وكذا في فيض القدير شرح الجامع الصغير: ۴۱۸۹/۸، رقم الحدیث ۵۸۴۹، مكتبه نزار مصطفى الباز مكة المكرمة رياض)

(۳) (لم أظفر به فيما بين يدي من المصادر)

(۴) (بذل المجهود في حل أبي داؤد، كتاب اللباس، باب في العمامة: ۵۲/۵، معهد الخليل الإسلامي كراچی)

(۵) (جمع الوسائل في شرح الشمائل، باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ۲۰۷/۱، إدارة تالیفات اشرفیه ملتان)

(۶) وكذا في مرقاة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، تحت حدیث ركانة: ۱۴۷/۸، رشیدیہ)

(۷) (عون المعبود، كتاب اللباس، باب في العمامة: ۱۰۲/۱، رقم الحدیث: ۴۰۷۴، دار الفكر، بيروت)

زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح مواہب میں تحریر کیا ہے:

”قال ابن العربي: أي أن المسلمين يلبسون القلنسوة و نوقها العمامة، أما لبس القلنسوة
فزی المشرکین“ (۱)۔

اس کی تائید میں زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
اثر نقل کیا ہے۔

”إن العمامة حـ جز: أي ممیّز بین المسلمین؛ لأنهم يتعممون والمشرکین؛ لأنهم لا
عمائم لهم“ (۲)۔

کوکب میں ہے:

”إننا نعمم علی القلانس، وهم يكتفون بالعمائم، طیبی. و یحتمل عکس ذلك، بل
رجحه القاری فی المرقاة، والأول الشیخ عبد الحق، اهـ“ (۳)۔

امردوم کے متعلق بھی بہت کچھ وضاحت ہوگئی، مزید توضیح کے لئے چند عبارات اور نقل کرتا ہوں:

”كانت عمامته عليه السلام في أكثر الأحيان ثلاثة أذرع شرعية، وفي الصلوات
الخمس سبعة أذرع، وفي الجُمع و الأعياد اثنا عشر ذراعاً“. العرف الشذی (۴)۔

”عن عمرو بن حرث عن أبيه عمرو حرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: ”رأيت النبي
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی المنبر یخطب وعلیه عمامة سوداء“. فیہ الاستحباب لمن أراد

(۱) (شرح العلامة الزرقانی علی المواہب اللدنیة بالمنح المحمدیة، النوع الثانی فی لباسه و فراشه:
۲/۲۷۸، دار الکتب العلمیة بیروت)

(۲) (شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة بالمنح المحمدیة، النوع الثانی فی لباسه و فراشه:
۲/۲۷۵، ۲۷۶، دار الکتب العلمیة بیروت)

(۳) (الکوکب الدری، أبواب اللباس، فرق ما بیننا و بین المسلمین: ۱/۳۳۶، المكتبة الیحيوية،
سہارنפור، الہند)

(۴) (العرف الشذی علی هامش جامع الترمذی، أبواب اللباس، باب ماجاء فی العمامة السوداء:
۱/۳۰۴، سعید)

الجمعة أن يعتَمَ ويرتدى، والإمام أكد“. بذل المجهود (۱)۔

”عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال:

رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي في ثوب واحد“. بخارى شريف (۲)۔

”كان الخلاف في منع جواز الصلوة في الثوب الواحد قديماً، ثم استقر الأمر على

الجواز“. فتح البارى مختصراً (۳)۔

”والغرض بيان جواز الصلوة في الثوب الواحد، ولو كانت الصلوة في الثوبين

أفضل“. فتح (۴)۔

”والمستحب أن يصلى الرجل في ثلثة أثواب: قميص وإزار و عمامة، أما لو صلى في

ثوب واحد متوشحاً به جميع بدنه كإزار الميت، تجوز صلوته من غير كراهة“. كبرى (۵)۔

”سُئلت مرة عن الصلوة بغير عمامة هل تكره، كما هو المشهور بين العوام؟ فتجسسته

في كتب الفقه، فلم أجد سوى قولهم: والمستحب أن يصلى الرجل في ثلاثة أثواب: قميص و

إزار و عمامة، وهو لا يدل على كراهة الصحة بدونها، كما حرره بعض علماء عصرنا ظاناً أن

ترك المستحب مكروه، وذلك لأنه قد صرح في البحر الرائق وغيره أن ترك المستحب لا تلزم منه

الكراهة ما لم يقد دليل خارجي عليه. وقد يستدل على الكراهة فيما نحن فيه بأن النبي صلى

الله تعالى عليه وسلم واظب على الصلوة مع العمامة.

(۱) وفي بذل المجهود برواية جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عمرو بن ايضاً حديث آخر آه.

(كتاب اللباس، باب في العمامة: ۵ / ۵۱، معهد الخليل الاسلامى كراچى)

(۲) (صحيح البخارى، كتاب الصلوة، باب عقد الإزار على القفا في الصلوة: ۱ / ۵۱، قديمى)

”و ليس في المتن لفظ: ”واحد“ من آخر لفظ الحديث بل هو من ألفاظ هامش البخارى)

(۳) (فتح البارى، كتاب الصلاة، باب عقد الإزار على القفا في الصلوة: ۱ / ۶۱، قديمى)

(۴) (فتح البارى، كتاب الصلاة، باب عقد الإزار على القفا في الصلوة: ۱ / ۶۱، قديمى)

(۵) (الحلبى الكبير، كتاب الصلاة، فروع في الستر، ص: ۲۱۶، سهيل اكيڈمى لاهور)

فإنه يعلم من الأخبار أنه كان يضع العمامة على رأسه دائماً لا سيما في الصلاة، نعم! كان يضعها بين يديه في بيته، والمواظبة دليل السنية، وخلاف السنة مكروه. وفيه أن المواظبة النبوية التي هي دليل السنية إنما هي المواظبة في باب العبادات دون العادات، كما في شرح الوقاية وغيره. ومواظبته على العمامة من قبيل الثاني، فلا يكون تركه مكروهاً، نعم! يكون الأولى الاقتداء به. وأفاد الوالد العلامة في بعض تحريراته: أنه تكرر الصلاة بدونها في البلاد التي عادة سكانها أنهم لا يذهبون إلى الكبراء بدون العمامة. نفع المفتي والسائل للعلامة اللكنوي، ص: ۷۰ (۱)۔

”ومن أصر على مندوب وجعله عزمًا ولم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان عن الإضلال، فكيف من أصر على بدعة أو منكر، وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ”إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، اهـ“۔ سعاية (۲)۔

”الإصرار على أمرٍ مندوب يبلغه إلى حد الكراهة“۔ سباحة الفكر (۳)۔

عبارات مذکورہ سے چند امور ثابت ہوئے:

۱- عمامہ مستحب ہے۔

(۱) (نفع المفتي والسائل من مجموعة رسائل اللكنوي، ذكر المكروهات المتفرقة: ۱۱۳/۴، ۱۱۲، ۱۱۳، إدارة القرآن كراچی)

(۲) (السعاية في كشف ما في شرح الوقاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة هل يجهر بالذكر أم لا: ۲۶۳/۲، سهيل اكيڈمی لاہور)

(۳) هذه القاعدة لم أجدها في سباحة الفكر بلفظها، بل المذكور هناك هكذا: ”أو التزم كالتزام الملتزمات، فكم من مباح يصير بالالتزام، من غير لزوم والتخصيص من غير مخصص مكروهاً“۔ (سباحة الفكر في الجهر بالذكر في مجموعة رسائل اللكنوي: ۳۴/۳، إدارة القرآن كراچی)

”قال الطيبي..... من أصر على أمر مندوب وجعله عزمًا ولم يعمل بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة أو منكر“۔ (السعاية ما في كشف الوقاية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ۲۶۳/۲، سهيل اكيڈمی، لاہور)

- ۲- یہ امر من حیث العادة ہے، من حیث العبادۃ نہیں۔
- ۳- عمامہ باندھ کر نماز پڑھانا اولیٰ اور مستحب ہے۔
- ۴- بلا عمامہ بھی نماز مکروہ نہیں۔
- ۵- حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا عمامہ نماز ثابت ہے۔
- ۶- امر واجب کا معاملہ امر مستحب کے ساتھ کرنا ناجائز ہے۔
- ۷- جن شہروں میں بلا عمامہ کے معزز مجالس میں جانا عار کی بات ہو وہاں نماز بھی بلا عمامہ مکروہ ہے۔
- ۸- کبھی کبھی مستحب کے مقابل رخصت یعنی محض مباح پر بھی عمل کرنا چاہئے، خاص کر ایسی جگہ جہاں مستحب پر اصرار کیا جاتا ہو کہ اس سے مندوب حدِ کراہت تک پہنچ جاتا ہے، اس کی وجہ سے آمادہٴ فساد ہونا تو بڑی جہالت اور گناہ ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
- حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۵/۷/۵۷ھ۔
- الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبد اللطیف، ۱۲/رجب/۵۷ھ۔
- صرف ٹوپی سے امامت

سوال [۲۵۱۱]: امام صرف ٹوپی پہن کر نماز پڑھائے تو فقط امام ہی اس فضیلت سے محروم رہے گا جو صافہ باندھ کر نماز پڑھنے میں ہے یا مقتدیوں کو بھی امام کی ٹوپی کے سبب ثواب کم ملے گا، مقتدی خواہ صافہ باندھے یا ٹوپی پہنے ہوں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

جب یہ فضیلت امام ہی کو حاصل نہیں ہوئی تو مقتدیوں کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ ہاں! اگر مقتدی نے خود عمامہ باندھ کر نماز پڑھی ہے تو اپنے عمامہ کی فضیلت اس کو حاصل ہوگی، اگر امام عمامہ باندھے گا تو اس کی فضیلت بھی حاصل ہوگی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۵/صفر/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۵/صفر/۵۸ھ۔

(۱) قال اللہ تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة الطور: ۱۶)

”أى ولا يظلم الله أحداً بل يجازي كلأ بعمله“۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۰۸، دار الفیحاء دمشق)

شلوار قمیص پہن کر امامت

سوال [۲۵۱۲]: امام کو شلوار جو کہ ۲۴/۱، گز یا اس سے زائد کپڑے کی ہوتی ہے اور قمیص جیسا کہ آج کل عموماً رواج ہے پہننا منع ہے یا نہیں؟

محمد ادریس۔

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز میں اکثر اوقات ٹخنے یا پیر ڈھک جاتے ہیں، مرد کو اتنی لمبی شلوار پہننا کہ جس سے ٹخنے یا پیر ڈھک جائیں ناجائز ہے اور نماز اس سے مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز میں پیر یا ٹخنے نہ ڈھکے، قمیص پہننا جائز ہے، لیکن کرتہ افضل ہے، ہر جگہ جو صلحاء کا لباس ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، خصوصاً نماز و امامت کے وقت: ”ولو ستر قدميه في السجدة، يكره“۔ ہندیہ، ص: ۱۱۴ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف عفا اللہ عنہ۔

کرتہ کا بٹن کھول کر نماز پڑھانا

سوال [۲۵۱۳]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید اپنے کرتہ کا اوپر کا بٹن ہمیشہ کھلا رکھتا ہے اور اس طرح کھلے بٹن سے نماز مکروہ ہوتی ہے، جب لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تم بٹن کیوں نہیں لگاتے؟ اس طرح کھلے بٹن سے نماز مکروہ ہوتی ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ اوپر کا بٹن کھلا رکھنا مسنون ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کی اوپر کی گھنڈی کا تگہ لگا کر کبھی گلے کو بند نہیں فرمایا اور نہ ہی یہ عمل نماز میں کراہت پیدا ہونے کا باعث ہے۔ نماز میں سدل کو مکروہ کہا گیا ہے اور کرتہ کا گریبان بٹن نہ دے کر کھلا رکھنا سدل میں

(۱) (الفتاویٰ العالمیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب السابع فیما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ فیہا، الفصل

الثانی فیما یکرہ فی الصلوٰۃ وما لا یکرہ: ۱/۸۰، رشیدیہ)

(و کذا فی رد المحتار، کتاب الخطر والإباحة، فصل فی اللبس: ۳۵۱/۶، سعید)

”عن أبی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ”ما أسفل من الکعبین من

الإزار فی النار“۔ (صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب ما أسفل من الکعبین ففی النار: ۸۶۱/۲، قدیمی)

داخل نہیں، سدل میں چادر لمبا چکن کی صورتیں آتی ہیں لیکن کرتہ کی یہ صورت سدل میں داخل نہیں ہے، لہذا اس کے مکروہ ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ مزید براں ہے کہ اوپر کے بٹن سے کرتہ کا گلا کھلا رکھنا مسنون بھی ہے۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اوپر کے بٹن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کے گریبان کی اوپر کی گھنڈی کا تگمہ لگا کر بند نہیں فرمایا۔ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو اس کی سند سے حوالہ کتاب و صفحہ بیان فرمائیے۔ اور آیا گریبان کرتہ کا اسی طریقہ پر کھلا رکھنا مسنون ہے یا نہیں؟ آیا نماز میں کرتہ کے اوپر کا بٹن کھلا رکھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے یا نہیں؟ آیا کرتہ کا گریبان کھلا رکھنا سدل میں داخل ہے یا نہیں؟ بینواتو جروا۔
المستفتی: سید حسن ازامولہ، ضلع بریلی، معرفت ابوالخیر متعلم مدرسہ مظاہر العلوم، حجرہ، نمبر: ۵ سہارن پور۔

الجواب حامداً ومصلياً:

گریبان کی گھنڈی کا تگمہ نہ لگانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں:

”قال: أتيت رسول الله صلى عليه وسلم في رهط من مزينة، فبايعناه وإن قميصه لمطلق الأزرار: أي مفتوحها يعني كان جيب قميصه غير مشدود. وكانت عادة العرب أن تكون جيوبهم واسعة، فرمأيشد ونها، وربما يتركونها مفتوحة“ (۱)۔

لیکن یہ آپ کی دائمی عادت نہیں، پس زید کا یہ کہنا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص کا اوپر کی گھنڈی کا تگمہ لگا کر کبھی گلے کو بند نہیں فرمایا محتاج دلیل ہے۔ البتہ اس حالت کو دیکھ کر معلوم یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے نے گھنڈی کھلی رکھنے کی عادت کر لی تھی:

”قال عروة فما رأيت معاوية رضي الله تعالى عنه ولا ابنه قط إلا مطلقى أزرارهما قط في شتاء ولا حر، ولا يزران أزرارهما“ (۲)۔

(۱) (بذل المجهود في حل أبي داؤد، كتاب اللباس، باب في حل الأزرار: ۵/۵۲، معهد الخليل الإسلامي بهادر آباد کراچی)

(ومرقة المفاتيح، كتاب اللباس، الفصل الثاني، (رقم الحديث: ۴۳۳۶): ۸/۱۴۲، ۱۴۳ رشیدیہ)

(۲) (بذل المجهود، المصدر السابق)

نماز میں ایسا کرنا خلافِ اولیٰ ہے، گو سدل میں داخل نہیں، سدل میں وہی چیزیں داخل ہیں جن کو زید نے بیان کیا ہے، فقہاء کرام نے کرتہ کی گھنڈی کا تکرر نہ لگانے کو سدل میں ذکر نہیں کیا:

”قولہ: فمارأيت معاوية -رضي الله تعالى عنه- إلى آخره) ولهذا وإن كان اختيار ما هو خلاف الأولى خصوصاً في الصلوة، لكنهما أحبا أن يكون على ما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان إطلاق أزراره إذ ذاك لعارض، ولم يكن هذا من عامة أحواله صلى الله عليه وسلم، وذلك لمافيه من قلة المبالاة بأمر الصلاة إلا أن الكراهة لعلها لا تبقى في حق معاوية -رضي الله تعالى عنه- وابنه، لكون الباعث لهما حب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما رأياه من الكيفية“. بذل المجهود شرح أبي داود شريف: ۵/۵۲ (۱).

قبا کی جو صورت سدل ہے وہ یہ ہے کہ:

”عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه كان يقول: إذا صلى مع القباء وهو غير مشدود والوسط فهو مسيء، يعني ولو أدخل يديه في كميته، وينبغي أن يقيد بما إذا لم يزر أزراره؛ لا يشبه السدل حينئذ، أما إذا زر الأزرار، فقد التحق بغيره من الثياب في اللبس، فلا سدل فيه، فلا يكره. وأما الأقبية الرومية التي يجعل لأكمامهما خروج عند أعلى العضد إذا أخرج المصلي يده من الخرق وأرسل الكم، فإنه يكره أيضاً لصدق السدل عليه“. كبرى، ص: ۳۳۶ (۲). فقط والله أعلم.

”وقد أخرج البيهقي في شعبه هذا الحديث من طريق أخرى: فرأيت مطلق القميص. وهذا يؤيد أن يكون رواية الأزرار برائين، لا يلزم أن يكون له زراً“.

”وعروة، بل المراد أن جيب قميصه صلى الله عليه وسلم كان مفتوحاً، بحيث يمكن أن يدخل فيه اليد من غير كلفة، ويؤيد هذا ما ذكره ابن الجوزي في الوفاء عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: ما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصاً زراً،

(۱) (بذل المجهود في حل أبي داود، كتاب اللباس، باب في حل الأزرار: ۵/۵۲، ۵۳، معهد الخليل

الإسلامي بهادر آباد كراچی)

(۲) (الحلبی الكبير، كراهية الصلوة، ص: ۳۳۸، سهيل اكيڈمی لاہور)

انتہی۔ قال ابن حجر - رحمه الله تعالى - تبعاً للعصام فيه حل لبس القميص وحل الزر فيه وحل إطلاقه۔ جمع الوسائل شرح شمائل ترمذی قلمی، ص: ۸۰ (۱)۔

اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک میں گھنڈی تھی ہی نہیں اور ظاہر ہے کہ آپ نماز بھی اسی کرتے سے پڑھتے تھے، پس گریبان کھلا رکھنا بھی مسنون ہونا ثابت ہو گیا اور ایسی حالت میں نماز خلاف اولیٰ بھی نہیں، اور بذل الجہود میں اس روایت سے استدلال نہیں کیا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۶/ جمادی الثانیہ/ ۱۳۵۷ھ۔

وقت جماعت سے پہلے امام کی آمد

سوال [۲۵۱۲]: ہماری مسجد میں امام دانستہ اذان سن کر وقت مقررہ جماعت کے وقت آتا ہے، وقت جماعت سے دس پانچ منٹ قبل بھی اور عین وقت پر بھی، ایسی صورت میں کچھ لوگ خوش ہیں اور کچھ ناراض، ایسے امام کے پیچھے نماز کیسی ہے؟ یہ سوال لکھ کر مفتی صاحب کے پاس بھیجا، مفتی صاحب نے جواب دیا کہ نماز ایسے امام کے پیچھے مکروہ ہے۔ ایک مولوی صاحب سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ امام کا اذان سنتے ہی مسجد میں آنا ضروری ہے، انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بخاری شریف ”باب الأذان“ میں حدیث نبوی ہے کہ حضرت بلالؓ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت بلانے مکان پر جاتے تھے (۲)۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟

(۱) (جمع الوسائل فی شرح الشمائل للملا علی القاری، باب ماجاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ۱/ ۱۳۶، إدارة تالیفات اشرفیہ ملتان)

(۲) ”عن الزہری قال: أخبرنی عروة بن الزبیر أن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا سکت المؤذن بالأولی من صلوة الفجر، قام فرکع رکعتین خفیفین قبل صلوة الفجر بعد أن یستبین الفجر، ثم اضطجع علی شقه الأیمن حتی یأتیه المؤذن للإقامة“۔ (صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب من انتظر الإقامة: ۱/ ۸۷، قدیمی)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر امام ٹھیک وقت پر تیار ہو کر نماز کے لئے مسجد میں پہنچے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، وقت سے پہلے مسجد میں نہ آنے سے نماز مکروہ نہیں ہوتی، البتہ اذان سن کر فوری تیاری شروع کر دینا چاہیے تاکہ عین وقت پر مقتدیوں کو انتظام کرنا پڑے (۱)۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کیلئے آنا بخاری شریف ”باب من انتظر الإقامة“، ص: ۷۷، میں مذکور ہے (۲)۔ اور جس فتویٰ پر نماز کو مکروہ لکھا ہے بغیر اس کو دیکھے اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مظاہر علوم سہارن پور، ۳/۸/۵۳ھ۔

جواب صحیح: سعید احمد غفرلہ۔

صحیح: عبداللطیف، ۲/شعبان/۵۳ھ۔

جو شخص پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کو امامت جمعہ کے لئے تجویز کرنا

سوال [۲۵۱۵]: دو مسجدوں کے اماموں میں ایک امام روزانہ چار وقت نماز پڑھتا ہے، صبح کی نماز

نہیں پڑھتا قضا پڑھتا ہے، دوسرا امام باقاعدہ پنجگانہ نماز کا پابند ہے۔ اب دونوں اماموں میں نماز جمعہ کے لئے کس کا انتخاب کیا جائے، کون افضل ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص پانچوں نمازوں کو وقت پر ادا کرتا ہے، اور اس میں امامت کے دیگر اوصاف بھی موجود ہیں اس

(۱) ”ولو كان في المسجد حين سمعه ليس عليه الإجابة، ولو كان خارجاً أجاب بالمشى إليه بالقدم، ولو أجاب باللسان، لابه (أى لا بالقدم)، لا يكون مجيباً، وهذا بناء على أن الإجابة المطلوبة بقدمه لا بلسانه، كما هو قول الحلواني وعليه“۔ (الدر المختار)۔

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”(قوله: أجاب بالمشى إليه): أي لنلا فتوته الجماعة، فيأثم

كما قررناه انفاً، فافهم“۔ (رد المختار، كتاب الصلاة، باب الأذان: ۱/۳۹۸، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الأذان: ۱/۴۵۱، رشیدیہ)

(۲) (راجع، ص: ۵۶، رقم الحاشية: ۲)

کو ہی امام جمعہ تجویز کیا جائے اور جو نماز قضا کرنے کا عادی ہے اگرچہ ایک ہی وقت کی قضا کرتا ہو، اس کو امام نہ بنایا جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۸/۱۰/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۸/۱۰/۹۰ھ۔

کیا امام صاحب کو پابندی ضروری ہے؟

سوال [۲۵۱۶]: شہر کی دینی ضروریات اور جامع مسجد کی امامت کے لئے ایک مولوی صاحب کا تقرر کیا گیا جن کی تنخواہ کا نصف سے زائد حصہ اوقاف کی آمدنی سے دیا جاتا ہے، نیز جامع مسجد کے وقف کی آمدنی سے پچاس روپیہ ماہوار اور اسی حیثیت کے کرایہ کے مکان جو کہ جامع مسجد کے لیے وقف ہے، مولوی صاحب موصوف کو بغرض رہائش دیا گیا ہے، لیکن مولوی صاحب موصوف نہ تو نماز کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں نہ قرآن پاک کا ترجمہ وغیرہ نہ امامت، طبیعت چاہی تو نماز پڑھادی ورنہ جہاں چاہا نماز پڑھ لی۔ نیز دوسرے تیسرے مہینہ، ہفتہ عشرہ کی چھٹی منالی اور پھر گھر آگئے، خورجہ رہتے ہوئے بھی طبیعت چاہی تو قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا ورنہ نہیں، ہر معاملہ میں گویا آزاد ہیں۔ آیا ایسی صورت میں مولوی صاحب کو وقف کی آمدنی سے تنخواہ لینا یا مسجد کے مکان میں رہنا جائز ہے؟ جبکہ مولوی صاحب کے اس عمل سے مسجد کے نمازی صاحبان کو تکلیف ہوتی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امامت اور ترجمہ کا جو کچھ مولوی صاحب سے معاہدہ و معاملہ کیا گیا ہے، اس کی پابندی لازم ہے (۲)

(۱) ”ویکفرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى“۔ (الدر المختار). قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ:

”قولہ: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من یرتکب الكبائر کشارب

الخمیر، والزانی و آکل الربا و نحو ذلك“۔ (ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۰، سعید)

(و کذا فی الهدایة، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، شرکت علمية، ملتان)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤکدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث

العربی بیروت)

(۲) قال الله تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (النساء: ۱)

اتفاقیہ کبھی کوئی سخت ضرورت پیش آجائے اور اس کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکیں یا ترجمہ نہ کریں تو قابل مسامحت ہے، اس پر زیادہ داروگیر نہ کی جائے، لیکن آزادی کی عادت بنا لینا اور اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرتے ہوئے طبیعت چاہنے پر کام کرنا شرعاً درست نہیں، اس سے ان کی تنخواہ خالص حلال کی نہیں رہے گی (۱) اور متولی صاحب کو بھی پوری دینا درست نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹/۶/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹/۶/۹۰ھ۔

غیر پابند وقت کی امامت

سوال [۲۵۱۷]: زید پیش امام ہے وہ اپنی گذراوقات کیلئے تجارت بھی کرتا ہے، لیکن اس کا معاملہ اچھا نہیں، اکثر اشخاص ان سے شاکی ہیں، اکثر اوقات اپنی مصروفیت کی بناء پر جماعت بھی دیر سے ہوتی ہے اور نمازیوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بکر کہتا ہے کہ زید کے پیچھے نماز مکروہ ہے، بہتر ہے کہ غیر محلہ میں نماز ادا کی جائے۔ بکر کا یہ کہنا از روئے شرع کہاں تک صحیح اور درست ہے ایسے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو جو نمازیں آج تک پڑھی ہیں ان کو لوٹایا جائے؟ اگر مکروہ ہوتی ہیں تو تحریمی یا تنزیہی؟ احکام شرعیہ سے مطلع فرمائیں۔

احقر الناس محمد احسن۔

الجواب حامداً ومصلياً ومسلماً:

معاملہ کیا اچھا نہیں، اکثر لوگ کس بات کے شاکی ہیں، اگر وہ کوئی گناہ کی بات اور خلاف شرع کام ہے

(۱) "لكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع، لا يستحق الأجرة". (شرح المجلة لسليم رستم باز،

الكتاب الثاني في الإجارة، (رقم المادة: ۴۲۵): ۱/۲۳۹)

(۲) "وليس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل". (الدر المختار، كتاب

الإجارة، باب ضمان الأجير: ۶/۷۰، سيعد)

(و كذا في شرح المجلة لسليم رستم باز، الكتاب الثاني في الإجارة: ۱/۲۳۷، رقم المادة: ۴۲۲، مكتبه

حنفيه كوئته)

توزید کو اس سے توبہ ضروری ہے (۱) اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو امام بنانا منع ہے بشرطیکہ اس سے بہتر امامت کے لائق دوسرا شخص موجود ہو (۲)۔ اگر وہ گناہ کی بات نہیں اور نہ خلاف شرع کام ہے تو اس سے امامت میں نقصان نہیں آتا۔ اپنی مسجد کو چھوڑنا اور دوسری مسجد میں جانا گویا اپنی مسجد کو ویران کرنا ہے، اس لئے جب تک اپنی مسجد میں نماز صحیح ہو سکتی ہے مستقلاً اس کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا جائز ہے (۳)۔

اور گذشتہ نمازوں میں سے اگر کسی نماز کے فساد کا علم ہو تو اس کا اعادہ ضروری ہے، ورنہ نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین المفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۶/۱۳۵۶ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۱۳/جمادی الثانیہ/۱۳۵۶ھ۔

(۱) قال تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾. (سورة التحريم: ۸)

”عن الأغر المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ﴾ فإني أتوب إليه في يوم مائة مرة“. رواه مسلم.

”وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه“. متفق عليه“. (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبة: ۱/۳۰۳، قديمي)

(۲) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“. (الدر المختار).

”فإن أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلا فالافتداء أولى من الانفراد. (قوله: وفاسق) من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة؛ ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني واكل الربوا ونحو ذلك. آه“. (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، ۶۱۱، رشيدية) (وكذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۲۴۳، امداديه ملتان)

(۳) ”قلت: لكن في الخانية: وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن، فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي وإن كان واحداً؛ لأن لمسجد منزله حقاً عليه، فيؤدى. حقه مؤذن مسجد لا يحضر مسجده أحد، قالوا: هو يؤذن ويقيم ويصلي وحده، وذلك أحب من أن يصلي في مسجد آخر. آه“. ثم ذكر ما مر عن الفتح: ولعل ما مر فيما إذ صلى فيه الناس فيخير، بخلاف ما إذا لم يصل فيه أحد؛ لأن الحق تعين عليه“. (ردالمحتار، =

وقت کی پابندی نہ کرنے والے کی امامت

سوال [۲۵۱۸]: ایک پیش امام نماز کے ٹائم کی پابندی نہیں کرتا۔ ان سے ایک دو دفعہ کہا بھی گیا

ہے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنی صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام صاحب کو چاہئے کہ وقت مقررہ کی پابندی کیا کریں۔ مقتدیوں کو پریشانی نہ ہونے دیں۔ جب

وقت جائز میں نماز پڑھا دیتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۹/۸۹ھ۔

امام کے پابندی نہ کرنے کی وجہ سے مقتدیوں کا دوسری مسجد میں جانا

سوال [۲۵۱۹]: مسئلہ ہے کہ محلہ کے قریب کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ اگر امام وقت کا تعین

نہ کرتا ہو تو کیسا ہے؟ دوسرے محلہ کی مسجد میں جماعت کی غرض سے مقتدی پہنچا، عین جماعت کے وقت معلوم

ہوا کہ امام صاحب نہیں ہیں بغیر اطلاع گئے ہیں اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے اور دوسرا کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، نہ

مقتدیوں میں اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی کو چن لیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ پابند جماعت مقتدی کی جماعت

جاتی رہتی ہے، کیونکہ دوسری مسجد کا بھی وقت نکل جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مقتدی پیشتر ہی سے دوسری مسجد کی

راہ اختیار کرے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر وقت کی پابندی نہ کرنے سے امام کے مقتدیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ثواب

سے محروم رہتے ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امام صاحب کا بغیر اطلاع کے اور بغیر جماعت کا انتظام کئے اکثر چلا جانا جس کی وجہ سے مسجد میں

جماعت ہی نہ ہو بہت بُرا ہے، امام صاحب کو خود بھی اس کا خیال رکھنا لازم ہے اور سب نمازی اس کا انتظام کریں

= کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۵۵، سعید

(و کذا فی الفتاویٰ التاتارخانیة، کتاب الصلوٰۃ، الفصل الثامن فی الحث علی الجماعة: ۱/۲۲۸، إدارة

القرآن والعلوم الاسلامیة، کراچی)

ورنہ جماعت کی پابندی کی خاطر نمازیوں کے دوسری مساجد میں چلے جانے سے مسجد کے ویران و غیر آباد ہونے کا اندیشہ ہے، سب نمازیوں کا اس طرح محلہ کی مسجد کو غیر آباد کر کے دوسری مسجد میں جانا بھی درست نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جو امام نماز میں تاخیر کرے اسکی امامت

سوال [۲۵۲۰]: رمضان کے مہینے میں امام عصر کے وقت کپڑا فروخت کر رہے تھے جس کی وجہ سے پندرہ منٹ تاخیر ہونے پر ایک نمازی کے توجہ دلانے پر ماں کی گالی دیتے ہوئے کہا کہ کیا نماز پڑھنے کو دوسری مسجد نہیں ہے جو یہاں آئے ہو، دیر ہوگئی تو ہو جانے دو۔ کیا ایسا امام امامت کے لائق ہے؟

الجواب حامدًا ومصليًا:

امام کی یہ روش غلط ہے، اگر وہ اصلاح نہ کرے تو امامت سے علیحدہ کیے جانے کے لائق ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

ایک شخص کا دو مسجدوں میں امامت کرنا

سوال [۲۵۲۱]: ایک شخص یا ایک امام مسجد دو مسجدوں میں ایک وقت کیسے امامت و اقامت کرا سکتا

(۱) "قلت: لكن في الخانية: وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن، فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلي وإن كان واحداً؛ لأن لمسجد منزله حقاً عليه، فيؤدى حقه. مؤذن لا يحضر مسجده أحد، قالوا: هو يؤذن ويقيم ويصلي وحده، وذاك أحب من أن يصلي في مسجد آخر الخ..... ثم ذكره مامر عن الفتح، ولعل مامر فيما إذا صلى فيه الناس فيخير، بخلاف ما إذا لم يصل فيه أحد؛ لأن الحق تعين عليه" (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۵۵/۱، سعيد)

(۲) "ويعزل به إلا لفتنة". (الدرالمختار). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "قوله ويعزل به: أي بالفسق لو طرأ عليه، والمراد أنه يستحق العزل كما علمت آنفاً". (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۴۹/۱، سعيد)

ہے؟ کسی امام کو ایک ایسی مسجد ملی ہوتی ہے کہ جس کی آمدنی کے لئے پچاس چالیس بیگہ زمین صحرائی ملک ہے اور اس میں ایک باغ اور تکیہ جس کی آمدنی امام مذکور اپنے خرچ میں لاتے ہوں اور اس تکیہ و باغ میں ایک مزار بھی ہے جس کا چڑھاوا وغیرہ بھی امام صاحب لیتے ہوں۔ اس باغ کی مسجد کی امامت و اقامت امام صاحب مذکور پر فرض ہے یا نہیں اور پھر یہ امام صاحب اپنی طمع نفسی کی وجہ سے بستی کی مسجد کے امام بھی رہتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ یا پیچھے نماز درست یا جائز ہے یا نہیں؟ فقط والسلام۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب ایک شخص کو معاوضہ مقرر کر کے ایک مسجد کی امامت کے لئے رکھا ہو تو اس مسجد کی امامت اس کے ذمہ ضروری ہے، اس مسجد کو چھوڑ کر کسی دوسری مسجد میں امامت کے لئے جانا ناجائز ہے، اگر اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کر امامت کرائے گا تو وہ اس معاوضہ مقررہ کا مستحق نہ ہوگا (۱)۔ اگر امام مذکور ایک ہی نماز دو مرتبہ دو مسجدوں میں پڑھاتا ہے تو دوسری نماز درست نہیں ہوتی، فرض نماز مقتدیوں کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوتی بلکہ بدستور ذمہ میں باقی رہتی ہے۔ مزار کا چڑھاوا لینا ناجائز ہے اور اس پر چڑھانا بھی ناجائز ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: بندہ عبد الرحمن غفرلہ کامپوری۔

(۱) "و ليس للخاص أن يعمل لغيره، و لو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل". (الدر المختار، كتاب

الإجارة، باب ضمان الأجير : ۷۰/۶، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الإجارة، الباب الثالث في الأوقات التي يقع عليها عقد الإجارة :

۴/۱۶، ۴/۱۷، رشیدیہ)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الإجارة، باب ضمان الأجير : ۶/۱۲۳، دارالکتب العلمیة بیروت)

(۲) "واعلم أن النذر الذي يقع للأموال من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت و نحوها

إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو بالإجماع باطل و حرام مالم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام، و

قد ابتلى الناس بذلك". (الدر المختار، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم :

۲/۲۳۹، سعید)

چونکہ امام کی اول مرتبہ فرض ادا ہوگئی ہے، دوسری مرتبہ امام کی نماز نفل ہوگی، اور مقتدیوں کی فرض اور یہ

جائز نہیں ”و لا مفترض بمتنفل اھ“ درمختار: ۱/۳۸۶ (۱)۔

امامت کے ساتھ دوسرا کام کرنا

سوال [۲۵۲۲]: میں ایک بستی میں امامت کا کام کرتا ہوں پچاس روپیہ ماہوار پر مگر عزت نہیں

ہے، نیز خواہش نفسانی بڑھ جاتی ہے، جب گھر پر ہوتا ہوں نفس بھی تابع رہتا ہے اور دل چاہتا ہے کوئی فری کام

کروں۔ اب بتلائیے کہ میں کیا کروں؟ جب کہ امامت ۱۲ سال سے کرتا ہوں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امامت کو محض پیٹ پالنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ دینی خدمات، مسجد کی آبادی، جماعت کی پابندی،

خدا کی رضامندی کی نیت ہونی چاہئے، اگر تنخواہ میں گزارہ نہیں ہوتا تو کوئی دوسرا بہتر کام کر سکتے ہیں، اپنی مصالح

کو خود ہی سمجھ لیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

وقت ملازمت میں امامت کرنا

سوال [۲۵۲۳]: ایک شخص زید سرکاری ملازم ہے ملازمت کے ساتھ ساتھ امامت بھی کرتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ وقت ملازمت میں امامت کرنا یا اذان دینا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بلا اجازت سرکار وقت ملازمت میں کار ملازمت کا حرج کر کے اذان و امامت کے فرائض انجام

= (و كذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يلزم الوفاء به،

ص: ۶۹۳، قدیمی)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النذر: ۲/۵۲۰، رشیدیہ)

(۱) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۷۹، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۳۱، رشیدیہ)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۶۰، دار الكتب العلمية بيروت)

دیتا ہے تو اجازت نہیں، اگر حرج نہیں کرتا تو اجازت ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۲/۹۵ھ۔

جو امام صاحب وقار نہ ہو اس کی امامت

سوال [۲۵۲۴]: وہ امام جس کا وقار جماعت میں نہ ہو کیسا ہے، نیز مسائل کے بتانے کے بعد بھی نہ

مانے تو کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

اگر وہ پابند شریعت اور متبع سنت ہے تو ٹھیک ہے (۲) اور پھر جو لوگ وقار نہیں کرتے وہ غلطی پر ہیں،

ان کو اپنی اصلاح ضروری ہے، اگر امام پابند نہیں تو اس کو اپنی اصلاح لازم ہے، صحیح مسائل کو تسلیم نہ کرنا ہٹ دھرمی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

امام صاحب کا گھر گھر کھانا

سوال [۲۵۲۵]: ہمارے یہاں امام مسجد تمام گھروں میں فرداً فرداً کھانا کھاتے ہیں اور کوئی شخص

مصلیٰ کی دعوت کرتا ہے یعنی فقیروں کی، تو کیا امام صاحب کی بھی دعوت کر سکتا ہے؟ امام صاحب کے لیے ایسی

(۱) "ولیس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل فتاویٰ النوازل".

(الدر المختار، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ۶/۷۰، سعید)

(و کذا فی شرح المجلة، کتاب الثانی فی الإجارة، (رقم المادة: ۴۲۲): ۱/۲۳۷، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ)

(و کذا فی الهدایة، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ۳/۳۰۸، إمدادیہ، ملتان)

(۲) "والأحق بالإمامة الأعلیٰ بأحكام الصلوة فقط صحةً و فساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم

الأحسن تلاوةً و تجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن اهـ". (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة:

۱/۵۵۷، سعید)

(و کذا فی الهدایة، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۱، مکتبہ شرکتہ علمیہ ملتان)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۷، دار إحياء التراث العربی بیروت)

دعوت میں کھانا جائز ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

امام صاحب کے کھانے کا انتظام مشترکہ طور پر گاؤں والے اس طرح کریں کہ دن مقرر کر لیں کہ فلاں روز فلاں شخص کے مکان پر کھانا ہے، فلاں شخص کے مکان پر ہے تو یہ درست ہے پھر چاہے تو امام صاحب کو مکان پر بلا کر معزز مہمان کی طرح کھانا کھلا دیا کرے، چاہے امام کے مکان پر یا حجرہ میں جہاں وہ ہوں بھیج دیا کریں، جس طرح رضا مندی سے طے ہو جائے، کسی کو ثواب پہنچانے کیلئے اگر غریبوں کو کھانا کھلانا ہو تو امام صاحب کو وہ کھانا کھلایا جائے جو امامت کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

امام صاحب کا مقرر شدہ کھانا لانے کیلئے گھر گھر جانا

سوال [۲۵۲۶]: ہمارے محلے کی مسجد میں جو امام نماز پڑھاتے ہیں منجانب محلہ کھانے کا انتظام ہے جس کو اب تک خود امام صاحب محلے کے گھروں پر جا کر لاتے ہیں، بسا اوقات ایک وقت کے کھانے کے لئے ان کو بار بار دروازہ یا زنجیر کھٹکھٹانا پڑتا ہے اور ایسا بھی کثرت سے ہوتا ہے کہ اہل خانہ کی طرف سے بے جا کلمات تک سننا پڑتا ہے۔ تو کیا امام صاحب کے لئے مناسب ہوگا کہ مسجد کے متولی صاحب سے کھانیکا معقول نظم کرائے؟ کیونکہ مسجد کی اپنی جائیداد اور معقول آمدنی بھی ہے، اسی طرح مؤذن صاحب کو علاوہ کھانے کے دس روپیہ ماہوار مسجد کے سرمایہ سے دیا جاتا ہے۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

مذکورہ صورت یقیناً امام صاحب کے منصب کے خلاف ہے، متولی صاحب ان کا انتظام کریں اور کھانا امام صاحب کے پاس پہنچا دیا کریں، امام صاحب کو خود در بدر نہ پڑے، اور جب کہ مسجد کی آمدنی میں اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے تو امام صاحب کے لئے تنخواہ کا انتظام بھی کیا جائے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) ”وفى القنية: يجوز صرف شيء من وجوه مصالح المسجد إلى الإمام إذا كان يتعطل، لو لم يصرف إليه يجوز صرف الفاضل عن المصالح إلى الإمام الفقير بإذن القاضي. لا بأس بأن يعين شيئاً من =

دوسرے کے گھر پان لگا کر کھانے والے کی امامت

سوال [۲۵۲۷]: ہمارے گاؤں میں ایک عالم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور امام صاحب بھی ہیں، کبھی کبھی ظہر و عصر مدرسہ میں پڑھتے ہیں اور کبھی مسجد میں، اسی لئے ان کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے عصر کی نماز پڑھ کر ایک آدمی کا دروازہ بند تھا، مولوی صاحب دروازہ کھول کر پان کھا کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ چچا جب بھی ہمارے گھر میں ہوتا ہے تب پان لگا کر کھا لیتے ہیں، اتنا مہنگا پان ہے جس کو کھانا ہو وہ اپنے پاس رکھے، اور ابھی کوئی دیکھے گا تو ہمارے اوپر الزام لگائے گا، یہ آواز جب ہم نے سنی تو ناظم سے کہا، اور چار چھ آدمیوں سے کہا کہ ان کو پچاس روپے تنخواہ ملتی ہے اور تین روپے پان کو ملتا ہے تو ان کا خیال منتشر ہو گیا۔ ہم سب کو اکھٹا کیا سب کی رائے ہوئی کہ ان صاحب کو بلا یا جائے وہ پنچائت میں پہنچ گئے، ہم نے کہا کہ مولوی صاحب کا گھر پانچ کوس پر ہے، ان کے گھر میں پان لگا کر کیوں کھا لیا ہے، تب انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو نہیں نکالیں گے، تب انہوں نے ہم پر جوتا اٹھایا اور گالی دی کہ اس کا جواب دیجئے۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

بے تکلفی کی بناء پر اگر پان وہاں سے کھا لیا اور یہ ناگوار ہے تو امام صاحب کو کہہ دیا جائے کہ آپ کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں، آئندہ ایسا نہ کریں (۱)، ان امام صاحب کو بھی چاہیے کہ ایسی روش اختیار نہ کریں، جس سے ان کے وقار کو نقصان پہنچے، بہر حال اتنی بات کو سمجھا کر ختم کیا جاسکتا ہے، یہ ایسی چیز نہیں جس سے امام صاحب کو بدل کر دوسرا امام بلا نا ضروری ہو، آپس کا اختلاف نہایت خراب نتائج پیدا کرتا ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غفی عنہ، ۱۰/۷/۸۹ھ۔

= مسبلات المصالح للإمام، (البحر الرائق، کتاب الوقف: ۵/۳۱۳، رشیدیہ)

(۱) قال الله تعالى: ﴿أَوْصِدْ يٰقَوْمُ﴾ (سورة النور: ۶۱) أی: بیوت أصدقائکم وأصحابکم ﴿فلا جناح

علیکم﴾ فی الأکل منها ﴿إذا علمتم﴾ أن ذلک لا یشق علیہم ولا یکرهون ذلک، (تفسیر ابن کثیر:

۳/۴۰۷، دار الفحیاء دمشق)

(۲) قال الله تعالى: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربکم﴾، واصبروا، إن الله مع الصابرين، (سورة

الأنفال: ۳۶)

امام صاحب کا کھانا

سوال [۲۵۲۸]: ہمارے یہاں ایک مدرس ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، لیکن ان کے کارنامے ایسے ہیں کہ اکثریت اس کے خلاف ہے، صرف چار پانچ آدمی کو جو کارکن بنے ہوئے ہیں انہوں نے زبردستی روک رکھا ہے اور جھگڑا ہر وقت تیار رہتا ہے کیونکہ کھانے میں انکی کچھ ایسی شرطیں ہیں جو غریب عوام برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی عمر ۳۵ سال ہے، شادی ابھی تک نہیں کی ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ جہاں پر اتنے لوگ ناخوش ہوں امام صاحب کو خود ہی استغفی دینا نہیں چاہیے۔ وضاحت کے ساتھ لکھیں تاکہ عوام و امام خود سمجھ لیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امام کے متعلق آپ نے اتنا ہی لکھا ہے کہ ان کی کھانے کی شرائط ایسی ہیں جن کو غریب عوام برداشت نہیں کر سکتے تو یہ کچھ لڑائی اور اختلاف کی بات نہیں، اگر وہاں کے لوگ ان کی شرائط کے موافق کھانا نہیں دے سکتے، وہ عذر کر دیں (۱)، جو لوگ دے سکتے ہیں وہ اپنے ذمہ کھانا متعین کر لیں، غرض جھگڑے سے بچنا لازم ہے (۲)۔ اگر امام میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو جس سے امامت میں نقصان آتا ہو تو جو لوگ انکے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ قصور وار ہیں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۱/۹۳ھ۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (سورة البقرة: ۲۸۶)

(۲) قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَازَعُوا، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَاصْبِرُوا، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (سورة الأنفال: ۳۶)

(۳) ”عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلوة: من تقدم قوماً وهم له كارهون“۔ ”قال الشوكاني في النيل: وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضاً فينتهضن للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماماً لقوم يكرهونه وقد قيد بعض اهل العلم بالكرهية الدينية بسبب شرعي فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة، بها قال في الدر المختار ولو أم قوماً وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أولأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تحريماً“۔

(بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب الرجل يؤم قوماً وهم له كارهون: ۱/۳۳۱، إمداديه، ملتان)

غیر شادی شدہ کی امامت

سوال [۲۵۲۹]: ایک شخص رنڈوہ ہے اور ذی علم عاقل بالغ جوان عمر مرد ہے، نامرد بھی نہیں ہے، ایسے شخص کو ہمیشگی کے لئے پیش امام بنانا کیسا ہے؟ شادی کا نام بھی نہیں لیتا ہے، کیا نماز شادی شدہ شخص کے پیچھے پڑھنے جیسی فضیلت و شان رکھتی ہے یا کچھ فرق ہے، عند الشرع الشریف؟ جواب از حوالہ تحریر فرمائیں۔
بینوا و تو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اس کو شہوت کا غلبہ نہیں تو اس کے ذمہ شادی ضروری نہیں (۱) اور اس سے اس کی امامت میں خلل نہیں آتا، البتہ اگر اس کو شہوت کا غلبہ ہے اور خیالات پر اگندہ رہتے ہیں تو بہ نسبت اس کے ایسے شخص کو امام بنانا افضل ہے جس کے بیوی موجود ہے اور خیالات پر اگندہ نہیں رہتے بلکہ اس کو اطمینان حاصل ہے اور امامت کی اہلیت بھی رکھتا ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۷/۷/۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۸/رجب/۵۶ھ۔

بے شادی شدہ کی امامت

سوال [۲۵۳۰]: ہماری مسجد کے پیش امام نماز روزہ کے پابند، فقہ حنفی سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں، اس وقت ان کی عمر ۵۰/۵۵ برس کے درمیان ہوگی، لیکن وہ ابھی تک شادی نہیں کئے، ان کی امامت کے متعلق یہاں کے لوگوں میں شکوک پائے جاتے ہیں۔ از روئے فقہ حنفی ایسے امام کی امامت درست ہے یا نہیں؟

(۱) "ویكون (أى النكاح) سنةً حال الاعتدال". (الدر المختار، كتاب النكاح: ۷/۳، سعید)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب النكاح: ۱۳۲/۳، رشیدیہ)

(و كذا فى مجمع الأنهر، كتاب النكاح: ۳۱۶/۱، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(۲) "وفى الأشباه قبيل ثمن المثل: ثم الأحسن زوجةً، ثم الأكثر مالاً، ثم الأكثر جاهاً". (الدر المختار)

"(قوله: ثم الأحسن زوجةً)؛ لأنه غالباً يكون أحب لها وأعف لعدم تعلقه بغيرها". (رد المختار،

كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۸/۱، سعید)

تحریر فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جس امام کی عمر ۵۰ یا ۵۵ برس کی ہے اور اس نے شادی نہیں کی اس کو شادی کی ضرورت بھی نہیں، اور اس میں امامت کی اہلیت ہے تو اس کو شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس کی امامت میں خرابی نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۵/۹۶ھ۔

جس کی بیوی نہ ہو اس کی امامت

سوال [۲۵۳۱]: زید اور اس کے بھائی دونوں ادھیڑ عمر میں ہیں لیکن نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ زید کا عذر یہ ہے کہ ماں کی خدمت نہ بیوی کر سکتی ہے، نہ اس کے مزاج کو سمجھ سکتی ہے، نہ نباہ سکتی ہے، اس لئے میں شادی نہیں کرتا۔ لہذا ایسی صورت میں ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور زید کی شادی ہوئی تھی، مدت ہوئی بیوی کو مرے۔ ایسی حالت میں کیا امامت کر سکتا ہے؟ اور اگر زید کی شادی ہوئی ہی نہیں تو اس کا ایسی حالت میں امامت کرنا درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اخلاق و عادات و اعمال مطابق سنت ہیں تو ان کی امامت میں یہ چیز مانع نہیں، ان کے پیچھے نماز درست ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۷/۹۲ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) غیر شادی شدہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے امامت ناجائز ہو، تاہم شادی شدہ شخص کو امام بنانا بہتر ہے:

”ثم الأحسن زوجة“۔ (الدر المختار). وفي رد المحتار: ”(قوله: ثم الأحسن زوجة)؛ لأنه غالباً يكون أحب لها وأعف لعدم تعلقه بغيرها“۔ (رد المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۸، سعيد)
(۲) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوة للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً، ثم الأحسن وجهاً، ثم الأشرف نسباً، ثم الأنظف ثوباً“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة، =

جس کی ٹھوڑی پر چند بال ہوں اس کی امامت

سوال [۲۵۳۲]: ایک شخص کی موقوف علیہ تک تعلیم ہے اور عمر اٹھارہ سال سے متجاوز ہے، نیز ٹھوڑی کے اوپر اور نیچے کچھ بال نکل رہے ہیں، باقی جگہ پر بال نکلنے کا امکان کم ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو تحریمی یا تنزیہی؟ اور اگر باقی جگہ پر بال نکلنے کا امکان ہو تو کیا حکم ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

وہ شخص جس کی عمر اٹھارہ سال سے متجاوز ہو چکی ہے اور ٹھوڑی کے اوپر نیچے کچھ بال نکلے ہوں اور باقی حصہ چہرہ میں بال نکلنے کا امکان کم ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گول داڑھی اس کی نہیں ہوگی اور وہ نماز کے مسائل سے بھی اچھی طرح واقف ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کسی قسم کی کراہت نہیں:

”قد نبت له شعرات في ذقنه تؤذن؛ لأنه ليس من مستدیری اللحي، فهل حكمه في

الإمامة كالرجال الكاملين أم لا؟ فأجاب السيد العلامة أحمد بن يونس المعروف بابن الشلبي من متأخري علماء الحنفية عن مثل هذه المسئلة، فأجاب بالجواز من غير كراهة“.

شامی: ۱/ ۵۸۷ (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۶/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۶/۸۸ھ۔

امامت کے وقت اپنی عاجزی کا اعتراف

سوال [۲۵۳۳]: جب کبھی اتفاق سے امامت کا موقع ملتا ہے تو میں مصلیٰ پر کھڑے ہو کر نیت

= باب الإمامة : ۱/ ۵۵۷، ۵۵۸، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة : ۱/ ۲۶۹، دارالكتب العلمية بيروت)

(و كذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلوة، الفصل السادس الكلام في بيان من هو أحق بالإمامة :

۱/ ۲۰۰، إدارة القرآن كراچی)

(۱) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/ ۵۲۲، سعید)

باندھنے سے پہلے اپنے دل میں خیال کر لیتا ہوں کہ ”یا اللہ! میں اپنی ناقص توحید و ایمان اور طہارت کے ساتھ تیرے ان بندوں کے بیچ میں واسطہ بن کر کھڑا ہوتا ہوں، اسے معاف فرما اور میری نماز میں خشوع و خضوع عطاء فرما“ اس کے بعد نیت باندھتا ہوں۔ اس کیلئے کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح اپنی عاجزی اور کمزوری کے اعتراف کا اظہار مناسب ہے (۱)۔
فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۶/۱۲/۸۱ھ۔

عربی لہجہ میں اذان دینے والے کی امامت

سوال [۲۵۳۲]: زید خالی از ریاء اور بغیر دنیاوی غرض کے شائقینِ عربی لہجہ کے اصرار پر خود ثواب کی نیت رکھتے ہوئے عربی لہجہ سے جانکاری کے مطابق لہجہ مذکورہ میں باوازِ بلند لاؤڈ اسپیکر سے اذان پڑھتا ہے۔ آیا زید کا یہ عمل شرعی نقطہ نگاہ سے حرام ہے یا ناجائز یا مکروہ ہے یا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو ایسے شخص کے لئے کیا حکم ہے جو کہ ایک جائز امر کو ناجائز یا مکروہ قرار دے کر عوام کو نیک کام سے برگشتہ کرے یا فتنہ پیدا کرنے کے حالات پیدا کرے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اذان شریعت کا بہت شاندار حکم ہے، اس لئے بلند جگہ بلند آواز سے مستحب اور مستحسن ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں لاؤڈ اسپیکر پر اس کی اجازت ہے تاکہ دور تک آواز پہنچ سکے (۲)۔ عربی لہجہ بھی مندوب

(۱) چونکہ نماز میں اصل خشوع و خضوع ہے اور خشوع و خضوع ایسے تو جہات سے حاصل ہوتی ہے، اسلئے اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لئے اس طرح کیا جاوے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے: قال اللہ سبحانہ تعالیٰ: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ (سورة المؤمنون: ۲۰۱)

(۲) ”(قولہ: فی مکان عال)، فی القنیة: ویسن الأذان فی موضع عالٍ..... وفی السراج: وینبغی للمؤذن أن يؤذن فی موضع یكون أسمع للجیران، ویرفع صوته“ (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الأذان: ۳۸۴/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الأذان: ۴۴۳/۵، ۴۴۴، رشیدیہ)

ہے، اس کو منع کرنا غلط ہے۔ جو شخص اس کو ناجائز کہتا ہے اس سے ناجائز ہونے کی دلیل طلب کی جائے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۸/۹۰ھ۔

سری قرأت میں تیز اور جہری میں ٹھہر کر پڑھنے والے کی امامت

سوال [۲۵۳۵]: جو امام جماعت کی نماز سکون کے ساتھ پڑھتا ہو اور تنہا بہت جلد جلد پڑھتا ہو اس کی امامت کا کیا حکم ہے، کیوں کہ بظاہر اس کا ظاہر و باطن ایک نہیں، ایسے ہی اکثر امام قرأت والی دور کعتوں میں تو قرآن شریف ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے دیر تک پڑھتے ہیں اور باقی ایک یا دو رکعت بہت جلد پڑھتے ہیں، بعض بعض تو اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ آدھی الحمد بھی کوئی مشکل سے پڑھ سکے۔ کیا ایسے کی امامت بلا کراہت جائز ہے کیوں کہ وہ عوام کی نماز خدا کے ہاں پیش کرنے کا وکیل ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

آہستہ پڑھتے وقت جلد پڑھنا اور زور سے پڑھتے وقت ٹھہر کر پڑھنا ایسا فعل نہیں جس کی وجہ سے امامت ناجائز ہو، اگرچہ امام کو چاہئے دونوں طرح پڑھتے وقت قواعد و آداب قرآن شریف کی رعایت رکھے (۱)۔ بحالت امامت سکون کے ساتھ پڑھنے اور بحالت انفراد جلد پڑھنے سے بھی امامت میں خرابی نہیں

(۱) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة صحةً وفساداً بشرط اجتنابه عن الفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع“۔ (الدر المختار)۔

”قولہ: ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً“..... ومعنى الحسن فى التلاوة أن يكون عالماً بكيفية

الحروف والوقف وما يتعلق به“۔ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۷، ۶۰۸، رشیدیہ)

(و كذا فى مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۷، دار إحياء التراث

العربی، بیروت)

آتی (۱) اور اس وجہ سے اس کی نیت پر حملہ کرنا کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں نہیں یہ بھی ناجائز ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۵/۱۳۵۸ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۱۳/۵/۱۳۵۸ھ۔

رکوع سجدہ میں جلدی کرنے والے کی امامت

سوال [۲۵۳۶]: جو نماز میں اس قدر جلدی کرے کہ مقتدی تین تسبیح بھی پوری نہ کر سکے تو ایسے امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامدًا ومصليًا:

اتنی جلدی کرنا مکروہ ہے، امام کو مقتدیوں کی رعایت اس قدر کرنا چاہئے کہ جس سے وہ لوگ بھی کم از کم تین تین مرتبہ رکوع، سجدہ میں تسبیح کہہ لیں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
حررہ العبد محمود گنگوہی، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۷/۱۱/۵۵ھ۔
صحیح: بندہ عبداللطیف، ۹/ذی قعدہ/۱۳۵۵ھ، صحیح: سعید احمد غفرلہ۔

جو امام دینی وعظ کی اجازت نہ دے، سیاسی تقریروں کی اجازت دے اس کی امامت

سوال [۲۵۳۷]: جو امام ملت سے غداری کرے جو مسجد میں دینی وعظ خدا اور رسول کے ذکر کی

(۱) (راجع، ص: ۷۳، رقم الحاشیة: ۱)

(۲) قال الله تعالى: ﴿والله عليم بذات الصدور﴾ (سورة آل عمران: ۱۵۴)

(۳) ”وفى المنية: ويكره للإمام أن يعجلهم عن إكمال السنة، ونقل فى الحلية عن عبد الله بن المبارك واسحق وإبراهيم الثورى أنه يستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات ليدرک من خلفه الثلاث الخ“
(رد المحتار: كتاب الصلاة، فصل فى بيان تالیف الصلاة إلى انتهائها، مطلب فى إطالة الركوع للجائى: ۱/۳۹۵، سعید)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ۱/۵۵۱، رشیدیہ)

(و كذا فى النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ۱/۲۱۴، امدادیہ ملتان)

اجازت نہ دے، دینی وعظ اور جلسوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، بے شرع لوگوں کو سیاسی جلسوں کی اجازت دے اور ان کی ہر طرح مدد کرے جو بڑے متکبر اور مغرور ہو، غریب اور کمزور کو دھونس دیں، کیا ان کی باتیں ٹھیک ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

یہ سئلہ تو اتنا صاف ہے کہ ہر شخص جانتا ہے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں (۱)، سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی مسلمان خاص کر امام ان امور کا کیسے مرتکب ہو سکتا ہے، کہ دینی وعظ خدا اور رسول کے ذکر کی اجازت نہ دے اور اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہو۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

فتویٰ صحیح سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے والے کی امامت

سوال [۲۵۳۸]: میں اپنی آنکھیں بنوانے کے سلسلہ میں تیار ہی تھا کہ اتنے میں رجعت نامہ مل گیا، مرتکبین جرم کو سنایا گیا، لیکن ان پر جہل اس قدر غالب ہے کہ کسی مفتی کے فتویٰ پر عمل نہیں کرتے اور صاف انکار کر دیا کہ ہم تو بہ نہیں کریں گے، ہندوستان کے مفتیوں کے خلاف ہیں۔ ایسی صورت میں ان پر شرعاً معصیت عائد ہوتی ہے جو فسق پر دلالت کرتی ہے، مسلمانوں کی کوئی حکومت نہیں ہے اور نہ پنچایت ہی قائم رہی، کوئی کسی کی نہیں سنتا اور سخن پروری مسلط ہو چکی ہے۔ اب ان کی امامت کا کیا حکم ہے اور ایسے لوگوں سے معاملات رکھنے چاہئیں یا نہیں؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

فتوے کو صحیح سمجھنے کے باوجود اس کو تسلیم نہ کرنا بڑا جرم ہے جس کی سخت سزا ہے (۲)، امامت کا منصب تو

(۱) "وعن الحسن مرسلًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتى على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم، فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة". رواه البيهقي في شعب الإيمان". (مشکوٰۃ المصابيح، کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد ومواضع الصلوٰۃ: ۱/۷۱، قدیمی)

(۲) "إذا جاء أحد الخصمين إلى صاحبه بفتوى الأئمة، فقال صاحبه: ليس كما أفتوا، أو قال: لا نعمل =

جلیل القدر منصب ہے ایسا آدمی اس کا اہل نہیں (۱)، البتہ کسی اہل علم کے نزدیک اس کے علم و بصیرت کی روشنی میں فتویٰ ہی صحیح نہ ہو، یا اس کے نزدیک سوال ہی غلط قائم کیا گیا ہو تو اس کا حکم یہ نہیں، توبہ و استغفار بہر حال امر خیر ہے جس کا حکم نص قطعی میں موجود ہے (۲) اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بکثرت منقول ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۴/۴/۹۵ھ۔

صدقۃ الفطر اور چرم قربانی لینے والے کی امامت

سوال [۲۵۳۹]: ایک شخص قوم سید متمول صاحب ایک مسجد میں امام ہیں اور اس مسجد میں دو طرح کی آمدنی ہے: ایک آمدنی شب قدر رمضان میں ۵۰/۴۰ روپیہ ہے اور دوسری آمدنی فطرہ اور صدقہ اور کھالیں قربانی کی ہیں تو ان دونوں آمدنیوں میں سے امام کے لئے کونسی جائز ہے اور کونسی ناجائز ہے؟ باوجود اس کے کہ امام کو صدقات اور قربانی کی کھالیں لینا ناجائز ہونے کا علم ہے اور پھر وہ منت اور خوشامد سے لیتا ہے اور دینے والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ امام متمول سید ہے، مگر چوں کہ سید منت خوشامد کرتا ہے اس کی منت خوشامد کی وجہ سے ان کو دیتے ہیں۔ پس ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے کہ جو دانستہ کھلم کھلا ناجائز آمدنی لے رہا ہے؟ اور اہل قربانی جو علم کے باوجود کھالیں ان کو دیتے ہیں ان کی قربانیوں کا کیا حکم ہے؟ بینوا توجروا۔

= بهذا، كان عليه التعزير، كذا في الذخيرة“ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، و منها ما يتعلق بالعلم والعلماء : ۲/۲۷۲، رشیدیہ)

(۱) قال الله تعالى: ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾ (سورة البقرة: ۱۲۴)

”وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرناه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الراشدون بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول و من أئمة الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلوة ونحوها“ (أحكام القرآن للجصاص : ۱/۹۷، ۹۸، قديمی)

(۲) قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً﴾ (سورة التحريم: ۸)

(۳) ”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة“ (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار، ص: ۲۰۳، قديمی)

الجواب حامداً ومصلياً:

مالدار صاحب نصاب آدمی کو صدقہ فطر لینا ناجائز ہے اور ایسے شخص کو دینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا، نیز امامت وغیرہ کی اجرت میں دینا بھی جائز نہیں۔ قربانی کی کھال خود استعمال کرنا، امیر وغریب سب کو دینا جائز ہے، لیکن امامت وغیرہ کی اجرت میں اس کا دینا بھی درست نہیں، اگر کھال فروخت کر دی ہے تو اس کی قیمت کو کسی غریب مستحق کو صدقہ کرنا واجب ہے، کسی مالدار کو دینا یا کسی اجرت میں یا خود رکھنا ہرگز جائز نہیں، تاہم قربانی میں اس سے قربانی نہیں آتی قربانی ادا ہو جاتی ہے، صرف کھال یا اس کی قیمت کو بے محل صرف کرنے کا گناہ ہوتا ہے جس کی مکافات لازم ہے، اگر امام اس کا مستحق نہیں اور پھر لیتا ہے اور اس کو مسئلہ بھی معلوم ہے تو اس کو امامت سے علیحدہ کر دیا جائے بشرطیکہ اس سے بہتر امام موجود ہو (۱)۔

”صدقۃ الفطر کالزکوٰۃ فی المصارف اھ“ (۲)۔

”ویتصدق بجلدھا أو یعمل منہ نحو غربال، فإن بیع تصدق بثلثہ اھ“۔

در مختار (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۳۰/۱۱/۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۴/ذی الحجہ/۵۶ھ۔

(۱) ”فإن أمکن الصلوٰۃ خلف غیرہم فهو أفضل، وإلا فالأقضاء أولى من الانفراد“۔ (رد المحتار، کتاب

الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۶۱۱، رشیدیہ)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

(۲) (الدر المختار، کتاب الزکاۃ، باب صدقۃ الفطر: ۲/۳۶۹، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الزکاۃ، الباب الثامن فی صدقۃ الفطر: ۱/۱۹۲، رشیدیہ)

(۳) (رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الأضحیۃ: ۶/۳۲۸، ۳۲۹، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الأضحیۃ، الباب السادس فی بیان ما یستحب فی الأضحیۃ

والانتفاع بہا: ۵/۳۰۱، رشیدیہ)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الأضحیۃ: ۲/۵۲۱، دار إحياء التراث العربی بیروت)

مسجد میں چماروں کو تعویذ دینے والے کی امامت

سوال [۲۵۴۰]: ہماری مسجد میں ایک امام صاحب نے ایک شخص کو جس کی دو بیویاں تھیں تعویذ دے کر ایک بیوی کو طلاق دلا دی، نیز چماروں کو مسجد میں تعویذ دیتے ہیں، جس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ امام کے والد اور چند لوگ انہیں وجوہات کے بناء پر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بغیر شرعی ثبوت کے یہ کہنا کہ فلاں شخص نے تعویذ کے ذریعہ طلاق دے دی ناجائز اور گناہ ہے (۱)، جس طرح کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کر دینا اور بلا وجہ شرعی طلاق دلوادینا گناہ ہے (۲)، پس اگر مقتدیوں نے امام پر بہتان لگایا ہے تو وہ توبہ کریں اور معافی مانگیں، آئندہ احتیاط رکھیں (۳)، مسجد میں ایسے شخص

(۱) قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾. (سورة الحجرات: ۱۲)
 "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث". (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب ما ينهی عنه من التهاجر والتقاطع: ۲/۴۲۷، قدیمی)

(۲) قال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾. (البقرة: ۱۰۲)
 "وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الشيطان ليضع عرشه على السماء، ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم منزلة أعظمهم عنده فتنة، ويحيى أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله! ما صنعت شيئاً. ويحيى أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، قال: فيقر به ويدنيه ويلتزمه، ويقول: نعم! أنت". (تفسير ابن كثير: ۲۰۲/۱، دار الفحاء دمشق)

(۳) "ان لها (أى التوبة) ثلاثة أركان: الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم أن لا يعود إليها أبداً، فإن كانت المعصية لحق آدمي، فلها ركن رابع، وهو التحلل من صاحب ذلك الحق. وأصلها الندم، وهو ركنها الأعظم. واتفق على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة". (النووي على الصحيح لمسلم، كتاب التوبة: ۲/۳۵۴، قدیمی)

کو نہ آنے دیں جس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہو (۱)، تعویذ کسی اور جگہ بیٹھ کر دیں (۲)۔ لوگوں میں لڑائی کرادینا بھی گناہ ہے (۳)، اگر امام صاحب کا گناہ ثابت ہو جائے اور وہ توبہ نہ کریں تو وہ علیحدگی کے مستحق ہیں (۴)، تاہم مقتدی ترک جماعت نہ کریں (۵)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جو امام مقتدی سے صلح نہ کرے اس کی امامت

سوال [۲۵۴۱]: ایک امام اور مقتدی میں کچھ جھگڑا ہوا، بروز جمعہ یہ معاملہ پیش ہو کر یہ بات طے ہوئی کہ خطا کسی کی نہیں بلکہ دونوں صاحب کی بھول ہے، اس لئے صلح کر لو کیونکہ مرتبہ میں تو امام صاحب بڑے اور عمر میں مقتدی صاحب بڑے ہیں، لہذا دونوں مصافحہ ملا لو، مگر سارے گاؤں کے کہنے پر بھی پیش امام صاحب نے مصافحہ نہیں کیا۔ اس مقتدی کی نماز اس پیش امام کے پیچھے ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس طرح سے بہت سے

(۱) ”ولا يحفر في المسجد بئر ماء؛ لأنه لو حفر، يدخل فيه النسوان والصبيان فيذهب حرمة المسجد.“ (فتاویٰ قاضی خان، کتاب الطہارۃ، فصل فی المسجد: ۱/۶۵، رشیدیہ)
(۲) ”رجل يبيع التعويذ في المسجد الجامع، ويكتب في التعويذ التوراة والإنجيل والفرقان، ويأخذ عليه المال، ويقول: ادفع إلي الهدية، لا يحل ذلك، كذا في الكبرى، ويكره كل عمل من عمل الدنيا في المسجد.“ (الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الخامس فی آداب المسجد والقبلة والمصحف الخ: ۵/۳۲۱، رشیدیہ)

(۳) قال الله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾. (سورة ال عمران: ۱۰۳)
وقال تعالى ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم﴾ (سورة الانفال: ۴۷)

(۴) ”إن للامة خلع الإمام وعزله بسبب يوجب، مثل أن يوجد منه اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين، كما كان لهم نصبه وإقامته لا نظامها وإعلائها، وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمال أدنى المضرتين.“ (رد المحتار، كتاب الجهاد، باب البغاة: ۳/۲۶۳، سعید)

(۵) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى.“ (الدر المختار). وقال ابن عابدين: ”فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم، فهو أفضل، وإلا فالأقرباء أولى من الأفراد.“ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

مقتدیوں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے جو اپنے مقتدیوں سے بغض و کینہ رکھے اور صلح پر رضامند نہ ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز تو اس مقتدی کی بلکہ سب مقتدیوں کی ان کے پیچھے بھی درست ہوگئی (۱)، لیکن امام صاحب کے لیے یہ طریقہ اچھا نہیں بہت غلط اور سخت ناپسند ہے، جو شخص مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہو اور صلح کرنا چاہتا ہے اور بستی کے لوگ بھی سب خواہش مند ہیں تو امام صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہئے وہ مصافحہ نہ کریں اور دل میں کینہ رکھیں، ان کی بھی اپنی اصلاح ضروری ہے (۲)۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۱/۹۲ھ۔

الجواب صحیح: العبد نظام الدین عفی عنہ، ۱/۲/۹۲ھ۔

(۱) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير: برأ كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر. والصلوة واجبة عليكم خلف كل مسلم برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والصلوة واجبة على مسلم برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر". رواه أبو داؤد". (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱۰۰/۱، قدیمی)

(۲) قال الله تعالى: ﴿وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾. (سورة آل عمران: ۱۳۴)

فقوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ﴾: أي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم، ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل، ثم قال تعالى: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾: أي مع كف الشريعتون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، وهذا اكمل الأحوال". (تفسير ابن كثير: ۱/۵۳۹، دار الفحاء دمشق)

"وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا". رواه مسلم". (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات: ۲/۴۲۷، قدیمی)

جو امام مسجد کے دروازے پر دوکان لگائے اس کی امامت

سوال [۲۵۲۲]: ایک امام مسجد نے مسجد کے دروازے پر الماری کھڑی کر کے دوکان لگالی جس کی بنا پر راستہ مسجد کا نمازیوں کی آمد و رفت کے لئے تنگ ہو گیا۔ کیا ایسے امام لائق امامت ہیں؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

امام کو ایسے تصرف کا حق نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفرلہ۔

جو امام مسجد کی دوکان بیچ دے اس کی امامت

سوال [۲۵۲۳]: مسجد کے دروازہ میں ایک دوکان تھی امام مسجد نے اس دوکان کو فروخت کر دیا، جب لوگوں نے شور مچایا تو رقم واپس کی۔ کیا ایسے امام کے لئے امامت کرنا جائز ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

اگر مسئلہ معلوم ہونے کی وجہ سے ایسا کر لیا تھا، پھر توبہ کر لی تو وہ درگزر کے قابل ہے (۲) ورنہ اس کی

(۱) "أما لو تَمَّتْ المسجدية ثم أراد البناء، مُنِع فإذا كان هذا في الواقف، فكيف بغيره؟ فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ولا أن يجعل شيئاً منه مستغلاً ولا سكنى".

"قلت: وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره، فإنه لا يحل والمراد بالمستغل أن يؤجر منه شيء لأجر عمارته". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الوقف: ۳/۵۸، سعيد)

"لا يجوز للقيم أن يضيق فناء المسجد للمارة والجماعة ببناء الحانوت فيه". (الفتاوى البزازية، كتاب الوقف، الرابع في المسجد وما يتصل به: ۶/۲۷۲، رشيدية)

"حائط المسجد من داخله و خارجه له حكم في وجوب صيانته و تعظيم حرمانه و كذا سطحه". (الفتاوى الإسلامية في أحكام المساجد: ۱/۵۵۳، رشيدية)

(۲) قال سبحانه تعالى: ﴿وإني لغفار لمن تاب﴾ سورة طه: ۸۲

"وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه". (مشكوة المصابيح، باب الاستغفار والتوبة، الفصل الأول: ۲۰۳، قديمي)=

امامت مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

امام صاحب کا اعلان کہ جس سے میں ناراض اس سے خدا ناراض

سوال [۲۵۴۲]: دو شخصوں میں کوئی رنجش تھی، ان میں سے ایک نے بعد نماز جمعہ اعلان کیا کہ جس

سے میں ناراض ہو جاؤں گا اس سے خدا ناراض ہو جائیگا اور ان دونوں میں سے ایک امام ہے اور ایک

مقتدی، اعلان کر نیوالا امام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ناراضگی کی وجہ کچھ ایسی ہی ہے جس سے خدائے پاک بھی ناراض ہو تو اس اعلان کی وجہ سے اس امام

کے پیچھے نماز کو ناجائز نہیں کہا جائیگا، البتہ اعلان کا یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ اس میں اپنی ناراضگی کو اصل قرار دیا گیا

ہے، اگر اس طرح بات کہی جائے کہ جس سے خدا ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں تو فی نفسہ بات صحیح

ہے (۲)، لیکن بجائے اعلان کے اس کو تفہیم کرنا، امید ہے کہ نافع ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۱/۹۵ھ۔

= "وعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

"التائب من الذنب كمن لا ذنب له". (مشکوٰۃ المصابيح، باب الاستغفار، الفصل الثالث: ۲۰۶،

قدیمی)

(۱) "ويكره إمامة عبد و فاسق هذا إن وجد غيرهم و إلا فلا كراهة اهـ". (قوله: فاسق:

ولعل المراد به من يرتكب الكبائر وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه،

و بأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعاً". (الدر المختار مع رد المحتار،

كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعيد)

(وكذا في تبين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۳۳، أمداديه ملتان)

(وكذا في البحر الزائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشيديه)

(۲) "وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن الله إذا أحب عبداً

دعا جبرائيل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادى في السماء، فيقول: إن الله =

تمباکو پینے والے کی امامت

سوال [۲۵۴۵]: جو امام تمباکو نوشی کرتا ہے اس کی امامت کے لئے کیا حکم ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

جو امام تمباکو پیتا ہے اس کے پیچھے بھی نماز درست ہے (۱)، لیکن بدبودار منہ لے کر مسجد میں آنا مکروہ تحریمی ہے، اس لئے وضو اور مسواک سے منہ خوب صاف کر کے مسجد میں آئے ورنہ فرشتوں کو بھی اذیت ہوگی (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۲/۸۸ھ۔

= يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبداً ادعوا جبرئيل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه قال: فيبغضه جبرئيل، ثم ينادى في أهل السماء: أن الله تعالى يبغض فلاناً فأبغضوه، قال: فيبغضونه، ثم يوضع البغضاء في الأرض“. (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب الحب في الله ومن الله: ۲/۴۲۵، قديمي)

(۱) ”وإن تقدموا، جاز لقوله عليه السلام: ”صلوا خلف كل برّ وفاجر“. (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۴۶، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من يصلح للإمامة: ۱/۲۶۶، دار الكتب العلمية بيروت)

(۲) ”و عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”من أكل من هذه الشجرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس“. متفق عليه“. (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلوة: ۱/۲۸، قديمي)

”وأكل نحو ثوم، و يمنع منه، و كذا كل مؤذ و لو بلسانه“. (الدر المختار). وقال ابن عابدين: ”(قوله: وأكل نحو ثوم): أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة، للحديث الصحيح في النهي عن قربان أكل الثوم والبصل المسجد، قال الإمام العيني في شرحه على صحيح البخاري: قلت: علة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين“. (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة و ما يكره فيها:

۱/۲۶۱، سعيد)

تمباکو نوش اور سینما بین شخص کی امامت

سوال [۲۵۲۶]: ایک امام مسجد ہے وہ سینما وغیرہ دیکھتا ہے، حالانکہ وہ عالم بھی ہے، بیڑی، سگریٹ کثرت سے پیتا ہے اور پان میں تمباکو چونا وغیرہ ملا کر کھاتا ہے، مسجد کے تمام مقتدی اس کے اس فعل سے سخت ناراض ہیں، کئی بار سمجھایا گیا مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے بلکہ حجت سے کام لیتے ہیں اور ہم ناخواندہ کو مکروہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، ہماری ان کی گفتگو ناگفتہ بہ ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تمباکو اور اس کے استعمال کرنے والے کے لئے کتاب و سنت و فقہ کے اعتبار سے کیا حکم ہے اور اس کی امامت کیسی ہے؟ جواب سے نوازیں۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

بدبودار تمباکو کھانا بدبو کی وجہ سے مکروہ ہے، البتہ مسجد میں جانے سے پہلے مسواک وغیرہ کے ذریعہ منہ صاف کر لینا چاہیے۔ اگر تمباکو خوشبودار ہو تو وہ مکروہ بھی نہیں، البتہ اگر تمباکو نشہ آور ہو جس سے عقل جاتے رہے تو اس کا کھانا پینا حرام ہے (۱)۔ سینما دیکھنے سے ان کو منع کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ اگر آئندہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ سینما تشریف لے گئے ہیں تو آپ کو امامت سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند۔

حقہ نوش کی امامت

سوال [۲۵۲۷]: حقہ پینے والے امام کا کیا حکم ہے، کیا حقہ نوش امام کی نماز ہو جائے گی؟

(۱) "قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالنتن فتنبه. وقد كرهه شيخنا العمادى في هديته إلحاقاً له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر". (الدر المختار).

"قولہ: وقد كرهه شيخنا العمادى في هديته) أقول: ظاهر كلام العمادى أنه مكروه تحريماً و يفسق متعاطيه، فإنه قال في فصل الجماعة: ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات، أو يداوم الإصرار على شيء من البدع المكروهات كاللذخاں المبتدع في هذا الزمان، ولا سيما بعد صدور منع السلطان وقال: ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل، وهو ملحق بهما". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الأشرطة: ۶/۴۶۰، ۴۶۱، سعيد)

الجواب حامداً ومصلياً:

حقہ پینے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس سے ملائکہ کو بھی اذیت ہوتی ہے (۱)، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ حقہ بالکل نہ پیا جائے، اگر معدہ کی اصلاح وغیرہ کے مقصد کے لئے بقدر ضرورت پیا جائے تو اس کا پینا حرام نہیں (۲)، البتہ مسواک وغیرہ سے منہ خوب صاف کر لیا جائے، پھر مسجد میں جائے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی نہ امام کی اور نہ مقتدی کی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

تمباکو کا منجن استعمال کرنے والے کی امامت

سوال [۲۵۲۸]: ہماری مسجد میں ایک امام صاحب ہیں وہ توحید کے قائل اور شرک و بدعت کے خلاف ہیں، بہت سے بدعتی کام مسجد میں ہوتے تھے وہ بند ہو گئے ہیں، کسی قسم کا فساد وغیرہ کچھ نہیں ہوا، مگر اب چند لوگ محرم والے، جنگ نامہ والے گیارھویں کرنے والے ان کے خلاف کچھ بھی الزام لگا کر ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ کے فضل سے امام صاحب اپنی باتوں پر اٹل ہیں، وہی لوگ عوام میں کچھ نہ کچھ باتیں امام صاحب کے خلاف پھیلا رہے ہیں، وہ یہ کہ امام صاحب تمباکو کا منجن دانٹوں پر لگاتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ایسا کہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ جو امام تمباکو جلا کر دانٹوں پر ملتے ہیں اور نماز سے پہلے مسواک لگا کر وضو

(۱) "عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "من أكل من هذه الشجرة المنتنة، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس". متفق علیہ. (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ: ۶۸/۱، قدیمی)

(۲) (قد سبق تخريجه تحت عنوان: "تمباکو نوش اور سینما بین کی امامت"۔)

وأيضاً قال الشامي في التنقيح: "وبالجمله إن ثبت في هذا الدخان إضرار صرف خال عن المنافع، فيجوز الإفتاء بتحريمه، وإن لم يثبت انتفاعه فالأصل حله، مع أن في الإفتاء بحله دفع الحرج عن المسلمين فإن أكثرهم مبتلون بتناوله مع أن تحليله أيسر من تحريمه نعم لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام، ولو نفع ببعض و قصد به التداوى فهو مرغوب". (تنقيح الفتاوى الحامدية:

مسائل و فوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك: ۳۶۶/۲، قندهار افغانستان)

(و كذا في حاشية الطحطاوى على الدر المختار، كتاب الأشربة: ۲۲۷/۳، دار المعرفة بيروت)

کرتے اور نماز پڑھاتے ہیں ایسے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص تمباکو کا منجن دانتوں میں استعمال کرے اور پھر مسواک وغیرہ سے اچھی طرح منہ صاف کر لے تو

اس منجن کی وجہ سے اس کی امامت میں کوئی نقصان نہیں بلا کراہت درست ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند، ۹/۶/۹۶ھ۔

قرآن سے فال نکالنے والے اور سگریٹ نوشی کی امامت

سوال [۲۵۴۹]: قرآن شریف کے ذریعہ سے فال کھولنا جائز ہے یا نہیں؟ اور ایسے عامل کی

امامت جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح دوسرے ذرائع سے فال کھولنا کیسا ہے؟ اور سگریٹ نوشی کرنے والے کے

پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

قرآن شریف یا کسی اور کتاب سے فال کھول کر اس کو حجت شرعیہ سمجھنا اور اس پر حق و باطل کا فیصلہ رکھنا

صحیح نہیں، غلط ہے (۲)، حق اور باطل کے فیصلے کے لئے شرعی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ محض رجحان قلبی کے

لئے اگر فال لی جائے تو مضائقہ نہیں (۳)، ایسے شخص پر کوئی سخت حکم نہیں لگے گا اور نہ اس کی امامت میں کوئی

(۱) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوة للقرآن، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم

الأحسن خلقاً، ثم الأحسن وجهاً، ثم الأشرف نسباً، ثم الأنظف ثوباً“۔ (تنوير الأبصار مع الدر المختار،

كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۵۵۷، ۵۵۸، سعید)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۲۴۱، امدادیه ملتان)

(و كذا في مراقی الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص: ۲۹۹، ۳۰۱، قدیمی)

(۲) ”وقد صرح ابن العجمی فی منسكہ كما قال: ولا يؤخذ الفال من المصحف، فإن العلماء اختلفوا

فی ذلك، فكرهه بعضهم..... ونص المالكية على تحريمه..... ومن حرمه اعتبر حروف

المبنى، فإنه في معنى الاستقسام بالأزلام“۔ (شرح الفقه الأكبر للملا علی القاری، ص: ۱۳۹، قدیمی)

(و كذا في الفتاوى الحديثية، مطلب في أنه يكره أخذ الفال من المصحف، ص: ۳۰۷، قدیمی)

(۳) ”ومنہ حدیث: ”كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير“..... ووجهه أن الفال أمل ورجاء=

خرابی آئے گی۔ جو شخص پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بطور دواسگریٹ، پیتا ہے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں، مگر مسواک وغیرہ سے منہ صاف کر کے مسجد میں آئے، اس کی امامت بھی درست ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

املاہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۴/۱۱/۱۴۰۰ھ۔

کمیونسٹ کو ووٹ دینے والے کی امامت

سوال [۲۵۵۰]: کمیونسٹ پارٹی کا ممبر بننا اور اس کو کامیاب بنانے کے لئے ووٹ دینا جائز

ہے کہ نہیں اور ووٹ دینے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

۲..... زید کمیونسٹ ٹکٹ سے ٹاؤن ایریا کا ممبر ہے اور اس کا حمایتی بھی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

۳..... بکر حافظ قرآن اور کمیونسٹ امیدوار کو کامیاب بنانے کے لئے ووٹ بھی دیا ہے، اس کے پیچھے

نماز تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ (خریدار نمبر: ۱۰۷۷)

الجواب حامدًا ومصلياً:

کمیونسٹ اپنی اصل کے اعتبار سے مذہب اسلام کے مخالف ہیں (۲) اور ان کی اس اصل کی پابندی کرتے ہوئے ان کی پارٹی کا ممبر بننا مذہب اسلام کی مخالفت کرنا ہے، ان کو ووٹ دینا ایک مذہب اسلام کے مخالف کو ووٹ دینا ہے (۳)، اس بات کو سمجھتے اور اعتقاد کرتے ہوئے ممبر بننے والے اور اس کو ووٹ دینے

= للخير من الله تعالى عن كل سبب ضعيف أو قوى“ (رد المحتار، باب العیدین، کتاب الصلوة، مطلب فی الفال والطيرة: ۲/۱۶۶، سعید)

(۱) ”وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب من مسجدنا..... اه“ (مشكاة المصابيح، باب المساجد و مواضع الصلاة، ص: ۶۸، قدیمی)
(و الصحيح مسلم، باب نهى من أكل ثوماً أو بصلاً..... الخ: ۱/۲۰۹، قدیمی)

(۲) ”إن المنافق غير معترف بنبوّة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، والدهرى كذلك مع إنكاره إسناد الحوادث إلى الصانع المختار سبحانه وتعالى“ (رد المحتار، کتاب الحدود، باب المرتد: ۳/۲۴۱، سعید)

(۳) ”وقوله تعالى: ﴿و تعاونوا على البر والتقوى﴾ يقتضى ظاهره إيجاب التعاون على كل ما كان طاعة الله تعالى؛ لأن البر هو طاعات الله“.

”وقوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ نهى عن معاونة غيرنا على معاصي الله =

والے کو امام بنانا درست نہیں (۱)۔

بعض آدمی مذہب اسلام کے معتقد اور پابند ہو کر بھی بعض سیاسی اور وقتی مصالح کی بنا پر کمیونسٹ یا کسی اور مخالف اسلام پارٹی کے ٹکٹ پر ممبر بنتے ہیں اور ان کی اس مصلحت کے پیش نظر سچے پکے مسلمان ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کا یہ حکم نہیں، لیکن ان کی اس روش سے ایک مخالف اسلام پارٹی کو فروغ ہو کر اقتدار حاصل ہوتا ہے جس سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوگی اور کمیونسٹ پارٹی کو اسلام کے خلاف نہیں بلکہ موافق سمجھیں گے۔ اور جب ایسے لوگ ممبر بن جائیں گے تو وہ کمیونسٹ جنہوں نے ان کو واقعہً کمیونسٹ سمجھ کر ووٹ دیا ہے ان سے اپنے ایسے مطالبات منظور کرائیں گے جو کہ اسلام کے مخالف ہوں گے، اگر یہ اس میں کوشش نہیں کریں گے، تو ووٹ دینے والے ان کو غدار اور مکار قرار دیں گے اور یہ غداری و مکاری سب اسلام کے سر رکھی جائے گی اور آئندہ نہ ایسے ممبر پر کبھی اعتماد ہوگا اور نہ ایسے ووٹ دینے والوں پر جو کمیونسٹ پارٹی کا سہارا لے کر ایک مسلمان کو ممبر بنائیں۔

نیز یہ عمل ایک شریف سچا آدمی کبھی اختیار نہیں کر سکتا کہ خود مسلمان ہو اور دنیا کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو کمیونسٹ ظاہر کرے اور ووٹ حاصل کرے، ایسے شخص پر اس کا ضمیر انتہائی ملامت کرے گا، اسلام میں ایسے عمل کی ہرگز اجازت نہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے جو لوگ ضمیر کے خلاف کہتے اور عمل کرتے تھے ان کی سخت مذمت قرآن پاک و حدیث شریف میں آئی ہے، ایسے لوگوں پر نہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعتماد تھا نہ خود ان کی پارٹی کو۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا: ﴿مذبذبین بین ذلك، لا إلیٰ ہؤلآء، ولا إلیٰ ہؤلآء﴾ (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

= تعالیٰ“۔ (أحكام القرآن للجصاص : ۲/۳۲۹، قدیمی)

(۱) (راجع ص: ۹۶، رقم الحاشية: ۱)

(۲) (سورة النساء: ۱۲۳)

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: (جوہر الفقہ، انتخابات میں ووٹ اور ووٹر اور امیدوار کی حیثیت: ۲/۲۹۵، مکتبہ دار

کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابی کا اقتدا کیا؟

سوال [۲۵۵۱]: مسلم شریف میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کی (۱)، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کی بھی اقتداء کی، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہے کسی عارض کی وجہ سے ہو؟ ایک صاحب اس کی نفی کر رہے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مرض الوفات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام تجویز فرمایا اور خود بھی ان کی اقتداء کے لئے تشریف لائے مگر وہ نماز نہیں پڑھا سکے، بالکل بے اختیار ہو کر رک گئے، اس نماز کی تکمیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، یکم/رجب/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، ۲/رجب/۸۸ھ۔

(۱) "قال أخبرنا جريج قال حدثني بن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة ابن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة: فبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلوة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخذت أهريق على يديه من الإداوة..... وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كَمَا جَبْتَهُ، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى يجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الأخرى، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلوته، فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلوته أقبل عليهم ثم قال: "أحسنتم" أو قال: "قد أصبتم". (أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقدم: ۱/۱۸۰، قديمي)

(۲) "عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يصلى بالناس في مرضه فكان يصلى بهم، قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من =

تنخواہ دار امام کی امامت

سوال [۲۵۵۲]: کسی مسجد کے پیش امام صاحب ایک دینی مدرسہ میں مدرس بھی ہیں، اکثر اوقات پابندی وقت سے مسجد میں تشریف نہیں لاتے، مزدور پیشہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک روز بوقت عصر نمازیوں نے ان کو ٹوکا تو انہوں نے برجستہ انگلیوں کی طرف روپیہ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مدرسہ میں سو (روپیہ) ملتا ہے، اور یہاں مسجد میں کیا، حالانکہ ۲۵/روپیہ ملتا ہے، دو سال سے وہ خدمت کر رہے ہیں۔ کیا اس قسم کا جواب ان کی شان کے لائق ہے؟ اسی وجہ سے ان کے پیچھے نماز ادا کرنے سے نمازیوں کو کراہت ہوتی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا جواب امام صاحب کی شان کے لائق نہیں، مقتدیوں کو بھی امام صاحب کے تاخیر سے آنے پر اس طرح نہیں ٹوکنا چاہئے جو ان کی شان کے خلاف ہو، ان کو اپنا تنخواہ دار ملازم نہ سمجھیں۔ نماز پڑھانے کا معاوضہ اس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، ۲۵/روپیہ ماہوار جو دیا جاتا ہے وہ ہرگز معاوضہ امامت نہیں بلکہ بہت معمولی خدمت ہے، اتنی سی بات سے غصہ ہو کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چھوڑیں، امام صاحب کو بھی مقتدیوں کی رعایت رکھنا چاہئے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

= نفسه خفة، فخرج، فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر“ (صحيح البخاري في كتاب الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعله: ۹۳/۱، قديمي)

(والصحيح لمسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس: ۱۷۹/۱، قديمي)

(۱) قال الله تعالى: ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾. (سورة البقرة: ۱۲۳)

”وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرناه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الراشدون بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول ومن أزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلاة ونحوها“ (أحكام القرآن للجصاص: ۹۸، ۹۷/۱، قديمي)

تنخواہ دار امام کے پیچھے نماز

سوال [۲۵۵۳]: زید قوم کا ایک فرد ہے، وہ اس لائق ہے کہ امامت کر سکے مگر وہ مجبوراً صدقات

واجبہ کی رقم لے کر کھاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر یہ چیزیں امامت کے عوض میں نہیں لیتا تو اس کی امامت درست ہے، امامت یا کسی دوسرے کام کے عوض میں فطرہ و چرم قربانی کی قیمت لینا اور دینا درست نہیں۔ اگر زبان سے معاوضہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، لیکن حال یہ ہو کہ اس کو یہ چیزیں نہ دیں تو وہ ناراض ہو اور اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کرتا ہو، نہ دینے کی صورت میں امامت ترک کرنے پر آمادہ ہو تو یہ بھی معاوضہ کی صورت ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

جو امام تنخواہ لینے کے باوجود نماز نہ پڑھائے اس کا حکم

سوال [۲۵۵۴]: ایک جامع مسجد کے امام سے مقتدی اس لئے ناراض ہیں کہ وہ کبھی وقت پر نماز

نہیں پڑھاتے اور جب مقتدی عرض کرتے ہیں کہ آپ جماعت میں پابندی سے تشریف لا کر نماز پڑھائیں تو

فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ سے تنخواہ پاتا ہوں، اسلئے مسجد کی امامت کا پابند نہیں، حالانکہ ہر سال ان کو رمضان

(۱) "و صدقة الفطر كالزكاة في المصارف إلا في جواز الدفع إلى الذمي، المراد في أحوال الدفع إلى

المصارف من اشتراط النية واشتراط التمليك". (التنوير مع رد المحتار، كتاب الزكاة، باب صدقة

الفطر: ۳۶۹/۲، سعید)

"ولو دفعها (أى الزكاة) المعلم لخليفته، إن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه، صح، وإلا: أى

لأن المدفوع يكون بمنزلة العوض". (الدر المختار، كتاب الزكاة: ۳۵۶/۲، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف: ۱۹۰/۱، رشيدية)

"ويتصدق بجلدها ولا يعطى أجره الجزار منها شيئاً؛ لأنه يأخذه بمقابلة عمله فصار

معاوضة كالبيع". (البحر الرائق، كتاب الأضحية: ۳۲۷/۸، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأضحية، الباب السادس: ۳۰۱/۵، رشيدية)

المبارک میں بڑی رقم پیش کی جاتی ہے۔ مزید ان کو دو سو روپے پیش کئے گئے تاکہ وہ نماز پڑھانے کی پابندی کریں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ روپیہ حرام ہے مگر تھوڑی دیر میں کوئی تاویل کر کے اس وقت ہم سے لے لیا اور فرمایا کہ اس جامع مسجد میں چار خاندان کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، فی خاندان سو روپے لوگ، چنانچہ ہم چار خاندان والے سو سو روپے پیش کرتے رہتے ہیں مگر پھر بھی نماز نہیں پڑھاتے۔

امام صاحب کے گھر میں ایک نوجوان لڑکا رہتا ہے جس کے سارے مصارف امام صاحب ہی برداشت کرتے ہیں اور اپنی بیوی کا بھی ان سے پردہ نہیں کرواتے، غرض خلاف شرع کام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ ابھی اسی بقرہ عید پر امام صاحب نے نماز عید پڑھائی ہے اتنی جلدی کہ سینکڑوں نمازی رہ گئے اور عید گاہ کے علاوہ مسجدوں میں دو نمازیں ہوئیں، دیہات کے جو مسلمان آئے ہیں وہ بغیر نماز پڑھے چلے گئے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

جو امام تنخواہ لینے کے باوجود پابندی نہ کرے اور نماز پڑھانے سے انکار کر دے اور کہہ دے کہ میں مدرسہ سے تنخواہ پاتا ہوں امامت کا پابند نہیں، تو وہ امامت کی تنخواہ کا حقدار نہیں (۱)، نمازیوں کو چاہئے کہ اپنے امام کا مستقل انتظام کریں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۶/۱/۹۸ھ۔
الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، ۲۷/۱/۹۸ھ۔

(۱) "ثم الأجرة تستحق بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا وُجد أحد هذه الأشياء الثلاثة، فإنه يملكها، كذا في شرح الطحاوي". (الفتاوى العالمكريد، كتاب الإجارة، الباب الثاني في بيان أنه متى تجب الأجرة. اهـ: ۴/۳۱۳، رشيدية)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الإجارة: ۶/۱۰، سعيد)

(و كذا في شرح المجلة، الباب الثالث في المسائل التي تتعلق بالأجرة، الفصل الثاني في المسائل التي المتعلقة بلزوم الأجرة وكيفية استحقاقها لمؤجر، (رقم المادة: ۴۶۹): ۱/۲۶۲، رشيدية، ۱/۲۶۱، دار الكتب العلمية، بيروت)

مسجد کا روپیہ اپنی تنخواہ میں وصول کر نیوالے کی امامت

سوال [۲۵۵۵]: جس امام کو مسجد کا حساب سپرد کیا ہو وہ امام صاحب جبکہ اس کی تنخواہ بتائی گئی ہو کہ جو مسجد کی دکانوں کا کرایہ ہے وہ اپنی تنخواہ میں لے لیا کرو، وہ امام جو روپے شادی میں لوگ دے گئے، کیا اس امانت کو بغیر محلہ والوں کے یا بغیر ان لوگوں کے وہ اس روپے کو جو کہ امانت ہے اٹھا سکتا ہے؟ یہ اگر اٹھائے تو کیا امانت میں خیانت کرنے سے اس امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو روپے مسجد کے لئے دیا گیا ہو، امام کو اس کے رکھنے کا حق نہیں (۱)، وہ اپنی تنخواہ وصول کر سکتا ہے (۲)، اس کے علاوہ مسجد کی امانت میں خیانت کرے گا تو اس کی امامت مکروہ ہوگی (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۵/۹۶ھ۔

(۱) "بعث شمعاً فی شہر رمضان إلی مسجد، فاحترق وبقی منه ثلثہ أو دونہ، لیس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذہ بغیر إذن الدافع". (البحر الرائق، کتاب الوقف: ۵/۴۱۹، رشیدیہ)

"ولو جمع مالاً لیسفقه فی بناء المسجد فأنفق بعضہ فی حاجتہ ثم رد بدله فی نفقة المسجد، لایسعه أن یفعل ذلك". (البحر الرائق، کتاب الوقف: ۵/۴۲۰، رشیدیہ)

"وإذا رأى حشيش المسجد..... فإن كان له أدنى قيمة، لا يأخذہ..... وكذا الجنائز العتق أو الحصر المقطعة والمنابر والقناديل المكسرة". (البحر الرائق، کتاب الوقف: ۵/۴۲۰، رشیدیہ)

(۲) "ولو أذن قيم مؤذناً لیسخدم مسجداً وقطع له الأجر وجعل ذلك أجرة المنزل وهو أجر المثل، جاز..... المتولى إذا أمر المؤذن أن یخدم المسجد وسمى له أجراً معلوماً لكل سنة..... فإذا نقد

الأجر من مال المسجد حل للمؤذن أخذه الخ". (البحر الرائق، کتاب الوقف: ۵/۴۰۵، رشیدیہ)

(۳) "(ويكره إمامة..... فاسق) من الفسق، وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد من يرتكب الكبائر..... بل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم". (تنوير الأبصار مع

ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۰، سعید)

(و كذا فى تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۳۴، امدادیہ)

اجرت پر قرآن شریف پڑھنے والے کی امامت

سوال [۲۵۵۶]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ میت ہو جائے اس کی قبر پر جو آدمی

قرآن شریف پڑھے اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اجرت لیکر قبر پر قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے (۱)، اگر وہ امام ایسا کرتا ہے اور باوجود مسئلہ معلوم

ہونے کے توبہ نہیں کرتا تو اس کو امام بنانا مکروہ ہے، بشرطیکہ اس سے بہتر امامت کا اہل دوسرا موجود ہو (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور یوپی۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ مفتی مدرسہ ہذا۔



(۱) "فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة، لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء

الثواب للأمر والقراءة لأجل المال، فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة، فأين يصل الثواب إلى

المستأجر؟ ولولا الأجرة ما قرأ أحدٌ لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلةً إلى جمع

الدنيا - إن الله وإنا إليه راجعون - اهـ". (رد المحتار، كتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ۵۶/۶، سعید)

(۲) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى ومبتدع لا يكفربها، وإن كفربها فلا يصح الاقتداء به

أصلاً، وولد الزنا، هذا إن وجد غيرهم، وإلا فلا كراهة". (الدر المختار). وفي رد المحتار: "قوله:

وفاسق) وهو الخروج عن الاستقامة: أي ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني

واكل الربا ونحو ذلك، بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم". (كتاب

الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۰، سعید)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱۰۸/۱، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقبى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة،

ص ۳۰۲، ۳۰۳، قديمي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۱۰/۱، ۶۱۱، رشيدية)

الفصل الثانی فی إمامة الفاسق

(فاسق کی امامت کا بیان)

فاسق کی امامت

سوال [۲۵۵۷]: زید ایک جگہ امامت کرتا ہے وہ افعالِ قبیحہ میں بھی شرکت کرتا ہے، مثلاً ناچ دیکھنا، سینما دیکھنا، گندے اور فحش مذاق کرنا، دین کا مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ۔ کیا ایسے شخص کو امام بنانا اور اس کی قتداء کرنا جائز ہے؟

رضا محمد ہمیر پور۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں (۱)۔ فقط۔

ایضاً

سوال [۲۵۵۸]: جو شخص خائن فاسق و فاجر ہو اس کی امامت ﴿وإن الفجار لفي جحيم﴾ (۱) کے ماتحت کیسی ہے اور نیز فاسق و فاجر کی کھلی علامتیں کیا کیا ہیں؟

(۱) ”ویکفره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“۔ (الدر المختار)۔ ”(قوله: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزانی و آكل الربا ونحو ذلك“۔ (ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، مكتبه شركة علمیه ملتان)

(و كذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الصلوة، فصل الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار

إحياء التراث العربی بیروت)

(۱) (سورة الانفطار: ۱۴)

الجواب حامداً ومصلياً:

فاسق و فاجر کی امامت مکروہ تحریمی ہے بشرطیکہ اس سے بہتر امامت کے لائق دوسرا صالح شخص موجود ہو (۱)۔ فاسق وہ شخص ہے جو کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۵/۵۸ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۱۳/جمادی الأولى/۵۹ھ۔

ایضاً

سوال [۲۵۵۹]: جو شخص خائن فاسق و فاجر ہو اس کی امامت ﴿وإن الفجار لفي جحيم﴾ (۳) کے ماتحت کیسی ہے اور نیز فاسق و فاجر کی کھلی علامتیں کیا کیا ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

فاسق و فاجر کی امامت مکروہ تحریمی ہے (۴) بشرطیکہ اس سے بہتر امامت کے لائق دوسرا صالح شخص

(۱) ”ویکره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“ (الدر المختار). ”فإن أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلا فالأقرباء أولى من الأفراد“ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، سعید)
(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، فصل في الإمامة الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيڈمی لاہور)
(و كذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة ص: ۳۰۳، قديمی)

(۲) ”(قوله: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني و آكل الربا ونحو ذلك“ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۰، سعید)
(۳) (سورة الانفطار: ۱۴)

(۴) ”(ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى)“ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۶۰، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، ۶۱۱، رشيدية)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

موجود ہو (۱)۔ فاسق وہ شخص۔ ہے جو کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۵/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبد اللطیف، ۱۳/جمادی الاول/۵۸ھ۔

حافظ فاسق کی امامت

سوال [۲۵۶۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں:

ایک شخص حافظ قرآن ہے لیکن وہ شریعت کی رو سے فاسق ہے اور یہ حافظ صاحب رمضان المبارک میں قرآن شریف بھی سناتا ہے اور جس مسجد میں یہ حافظ صاحب قرآن شریف سناتے ہیں، اس میں حافظ صاحب معین ہیں جو کہ تمام سال اس مسجد میں امامت کراتے ہیں یہ امام صاحب اس کے پیچھے تراویح کی نماز اور عشاء کے فرض وغیرہ بھی پڑھتے ہیں اور اہل محلہ میں سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسکے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور اس کے فاسق ہونے کی وجہ سے ہماری تو نماز نہیں ہوتی اس لئے ہم تو نہیں پڑھتے۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ آیا اس حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب مکمل اور مدلل عنایت فرمائیں۔ فقط والسلام۔

محمد الیاس، مدرس مدرسہ بدر العلوم قصبہ جیپور، ضلع نینی تال، ۱۹/جمادی الاولیٰ/۶۹ھ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

سائل نے ان حافظ صاحب کے فسق کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی بلکہ مجمل سوال کیا، لہذا جواب بھی مطلق فاسق کی امامت کا دیا جاتا ہے، اب اس کی تحقیق خود سائل کے ذمہ ہے کہ صورت مسئلہ میں فاسق کی

(۱) "فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلا فالأقرباء أولى من الأفراد" (رد المحتار، كتاب

الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، سعید)

(۲) "قوله: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة..... والمراد به من يرتكب الكبائر

كشارب الخمر و الزانى و آكل الرباء ونحو ذلك" (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة:

۱/۵۶۰، سعید)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۳۳، امدادیہ)

تعریف صادق آتی ہے یا نہیں۔

فاسق کو امام بنانا مطلقاً نماز میں خواہ نماز فرض ہو یا تراویح وغیرہ ہو مکروہ تحریمی ہے، جب کہ اس سے بہتر متبع سنت مسائل نماز سے واقف امامت کے لائق دوسرا شخص موجود ہو۔

”لو قدموا فاسقاً یا ثمناً بنا علی أن کراہة تقدیمہ کراہة تحریم؛ لعدم اعنائه بأمور دینہ، و تساہلہ فی الإلتیان بلوازمہ، فلا یبعد منه الإخلال ببعض شروط الصلوة، وفعل ما ینافیہا بل هو الغالب بالنظر إلی فسقہ، اھ۔“ کبیری، ص: ۴۷۹ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مظاہر علوم سہارنپور، ۲۳/ جمادی الاولیٰ/ ۱۳۹۹ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ۔

مرتکب کبائر کی امامت

سوال [۲۵۶۱]: ایک شخص کسی مسجد میں امام ہے، اکثر اوقات محلہ کے لوگوں کے ساتھ غیبت کیا کرتے ہیں، بہت باتوں میں جھوٹ کہنا بھی ثابت ہوا، عقیقہ عورت پر زنا کی تہمت لگائی، ”کسی“ وغیرہ ناشائستہ الفاظ کہے۔ چنانچہ ایسی بے گناہ پر تہمت زنا لگانے کی وجہ سے ایک دفعہ سرکاری عدالت میں مقدمہ دائر ہو کر ماخوذ ہو کر قانوناً جرم ثابت ہونے کے بعد تیس روپیہ جرمانہ بھی دیا ہے، اور بھی بعض بعض باتیں مثلاً بیگانہ عورتوں کے سینہ پر ہاتھ پھیرنا، چوڑے پتھر مارنا، کپڑا پکڑ کر کھینچنا وغیرہ افواہ ان کی بابت سنی جا رہی ہے۔

اب شرعاً ایسے آدمی کو فاسق کہا جائے گا یا نہیں؟ اگر شرعاً یہ فاسق ٹھہرا تو اس کے پیچھے جمعہ جماعت مکروہ ہے یا بلا کراہت جائز ہے؟ اگر مکروہ ہے تو کیا مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی ہے؟ واضح رہے کہ محلہ کے اکثر مصلیوں کو ان کے عیوب پر واقفیت ہونے کی وجہ سے رغبت اٹھ گئی ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے راضی بھی نہیں ہیں۔
اگر وہ شخص مذکورہ بزور امام رہے تو جمعہ جماعت میں انتشار پیدا ہو کر سوائے چند ان کے قریبی رشتہ

(۱) (الحلی الکبیر، کتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سہیل اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۰، سعید)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، فصل فی بیان الأحق بالإمامة،

ص: ۳۰۳، قدیمی)

داروں کے سارے مصلیاں دوسری مسجد میں منتقل ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ اب کیا اس شخص کو شرعاً امام رکھنا ضروری ہوگا یا ان کو معزول کر کے کسی نیک چلن آدمی کو مقرر کرنا بہتر ہوگا؟ بینوا تو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

غیبت کرنا، کسی پاکدامن پر تہمت لگانا وغیرہ گناہ کبیرہ ہے (۱) اور ایسے امور کا مرتکب فاسق ہے اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اگر کوئی بہتر امامت کا اہل آدمی موجود ہو تو امور مذکورہ کے مرتکب کو امام نہ بنانا چاہیے بلکہ دوسرے شخص کو امام بنانا چاہیے۔

اگر یہ شخص صدق دل سے توبہ کر لے اور اپنی ایسی حرکتوں سے باز آجائے تو پھر اس کی امامت بھی مکروہ نہ ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ شخص مذکورہ کو مسئلہ سمجھا کر اور فتنہ کا اندیشہ ظاہر کر کے توبہ کرا دی جائے، اگر وہ نہ مانے اور فتنہ کا اندیشہ ہو تو اس کو امامت سے علیحدہ کر کے کسی دوسرے بہتر شخص کو امام مقرر کر دیا جائے، اگر اس کی علیحدگی میں فتنہ اور دشواری ہو تو کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھ لی جائے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر شخص مذکورہ کے پیچھے بھی نماز

(۱) قال الله تعالى: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضاً﴾. (سورة الحجرات ۱۲)

”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”كل المسلم على المسلم حرام: ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.“

”عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها. أو قال في خدورها. فقال: ”يامعشر من آمن بلسانه! لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه، يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته، يفضحه في جوف بيته.“ (تفسير ابن كثير: ۲/۲۷۳، دار الفیحاء، دمشق)

قال الله تعالى: ﴿ولا يأتين بهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن﴾ (سورة الممتحنة: ۱۲)

”وأخرج أحمد: ”خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق.“

”وأخرج الطبرانی: ”من ذكر امرأ بشئ ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه.“ (الزواجر عن اقتراف الكبائر، الكبيرة الرابعة والخمسون بعد المائتين البهت: ۲/۴۱، دار الفكر، بيروت)

مكروهه نه هوگی (۱)۔

”اعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب العزيز وشبه المغتاب بأكل لحم أخيه ميتاً، إذ هو

أقبح من الأجنبي ومن الحي“ . شامى : ۲۶۰/۵ (۲)۔

”هو (أى القذف) من الكبائر بإجماع الأمة، فتح“ (۳)۔

”ويكره إمامة عبدو أعرابى وفاسق“ تنوير۔ ”(قوله: فاسق) من الفسق، وهو الخروج عن

الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزانى وأكل الربوا، ونحو ذلك، كذا

فى البرجندى إسماعيل . وفى المعراج: قال أصحابنا: لا ينبغى أن يقتدى بالفاسق إلا فى الجمعة؛ لأنه

فى غيرها يجد إماماً غيره، اه. قال فى الفتح: وعليه فيكره فى الجمعة إذا توارث إقامتها فى المصر

على قول محمد المفتى به؛ لأنه لا يسيل إلى التحول، اه. ردالمحتار، ص: ۵۸۴ (۴)۔

”لو قدموا فاسقاً يأمون بناءً على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم، لعدم اعتنائه بأمر

دينه“ . كبرى، ص: ۴۷۹ (۵)۔ فقط واللّه سبحانه تعالى أعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہى عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۹/۸/۵۵ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف عفا اللہ عنہ، ۹/شعبان/۱۳۵۵ھ۔

(۱) ”وفى المواقف وشرحه: إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجب، مثل أن يوجد منه ما يوجب

اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلانها، وإن أدى

خلعه إلى فتنة احتمال أدنى المضرتين“ . (ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب البغاة: ۲۶۳/۳، سعيد)

”ويكره إمامة عبد وأعرابى وفاسق وأعمى“ . وقال الشامى: فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم،

فهو أفضل وإلا فالأقتداء أولى من الانفراد“ . (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، سعيد)

(۲) (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى البيع: ۳۰۸/۲، ۳۰۹، سعيد)

(۳) (فتح القدير، كتاب الحدود، باب حد القذف: ۳۱۶/۵، مصطفى البابى الحلبي، بمصر)

(و كذا فى الدر المختار، كتاب الحدود، باب حد القذف: ۳۳/۳، سعيد)

(۴) (الدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۰، سعيد)

(۵) (الحلبى الكبير، كتاب الصلاة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيڈمى، لاهور)

معاصی متعدده کے مرتکب کی امامت

سوال [۲۵۶۲]: جو شخص ہمیشہ اپنی نماز پنجگانہ ادا نہ کرتا ہو بلکہ دیکھا دیکھی کبھی کبھی نماز پڑھتا ہو، یا اگر کہیں مسجد میں کبھی کسی نے امام بنایا ہو تو نماز ادا کر لی ورنہ نہیں۔ ایسے شخص کو امام مسجد بنایا جاوے یا نہیں؟ جو شخص نماز پنجگانہ ہمیشہ ادا کرتے ہیں ان کی نماز ایسے شخص کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟

۲..... اور اس شخص کو ایک مرتبہ بستی والوں نے مسجد سے بنظرِ حقارت علیحدہ کر دیا ہو اور یہ پھر دوبارہ آنے کی کوشش کر رہا ہو اور اس کی کوشش میں اگر کوئی دوسرا آدمی بستی والے اپنی مسجد میں امام بنانے کو لارہے ہوں تو یہ امام اپنی طمع نفسی کی وجہ سے ایسے شخص کی بُرائی کرے اور لوگوں کو اس آدمی کی ناجائز اور جھوٹی بُرائی کرے جو ہمیشہ ہمیشہ علاوہ نماز پنجگانہ ادا کرنے کے نفل اور نماز اشراق بھی ادا کرتا ہے۔

۳..... یہ کہ جس وقت یہ شخص (جس کے لئے دریافت کیا جا رہا ہے) دوبارہ بستی مذکورہ میں اپنے امام ہونے کی خواہش میں آیا ہے، اس کو بستی مذکورہ کے باشندے اس کے سامنے یہ لفظ کہیں کہ میاں جی صاحب! ہم تم کو دوبارہ امام رکھ لیتے لیکن تمہارے اندر چار عیب سخت ہیں، اس نے دریافت کیا کہ کیا ہیں؟ بستی والے بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ ہیں:

- ۱- ہم سب لوگ صبح کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور تم سوتے رہتے ہو۔
- ۲- اگر تمہارے ہم عمر تم کو سونے سے کبھی آ کر جگا دیوں تو تم اذان بے وضو مسجد میں جا کر پڑھ دیتے ہو۔
- ۳- جب کہ تم نوجوان ہو اور تمہاری بیوی نوجوان ہے اور تم اپنے بسترِ راحت پر لیٹے ہوئے ہو، ہمیں کیا معلوم کہ تم غسل کئے ہوئے ہو یا تم کو غسل کی حاجت ہے، ہمارے اٹھانے پر اور جگانے پر تم اٹھ کر مسجد میں فوراً مصلے پر آ کر جماعت کر دیتے ہو۔

۴- تم اکثر مویشی رکھتے ہو، جس کے واسطے گھاس وغیرہ کو تم گھیارے کی شکل ہو کر ہمارے کھیت وغیرہ میں کام کرتے ہو، ہم لوگ دور سے کیا شناخت کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام مسجد ہیں، اگر ہم کوئی لفظ گستاخانہ گھیارہ سمجھ کر کہتے ہیں تو بے ادبی ہے۔

اس لئے یہ دریافت طلب ہے کہ ایسی حالت جس شخص کی ہے اس کو امام مسجد بنایا جاوے یا نہیں اور

جو شخص نماز پنجگانہ کا نمازی ہے اس کی نماز ایسے شخص کے ساتھ ہو جائے گی یا نہیں؟ فقط۔

زیادہ حدادب: احقر محمد صدیق ساکن وتولی ضلع سہارنپور۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

اپنے جانوروں کے لئے گھاس کھود کر جائز طریقہ سے لانا اور محنت مزدوری کرنا شرعاً کوئی عیب کی چیز نہیں، اس سے امامت میں نقصان نہیں آتا (۱) اور ”گھسیارہ“ یا کوئی اور لفظ تحقیر و تذلیل کی نیت سے کہنا کسی کو بھی جائز نہیں (۲)۔

اذان بلا وضو بھی ہو جاتی ہے، لیکن افضل اور مستحب یہ ہے کہ وضو سے کہی جائے (۳)، جو شخص اپنے

(۱) ”عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال: قيل: يا رسول الله! أي الكسب أطيب؟ قال: ”عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور“، رواه أحمد“.

قال الملا علی القاری: ”قال: (عمل الرجل بيده): أي من زراعة أو تجارة أو كتابة أو صناعة“.
(مرقاة، کتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال: ۳۰/۶، رشیدیہ)

”عن عبد اللہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة“، رواه البيهقي في شعب الإيمان“، (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال: ۲۳۲/۱، قدیمی)

(۲) قال اللہ تعالیٰ: ﴿ولا تباذروا بالألقاب﴾ (سورة الحجرات: ۱۱)

”وهذا يدل على أن اللقب المكروه هو ما يكرهه صاحبه، ويفيد ذماً الموصوف به؛ لأنه بمنزلة السباب والشتيمة، فأما الأسماء والأوصاف الجارية غير هذا المجري فغير مكروهة، لم يتنا ولها النهي؛ لأنها بمنزلة أسماء الأشخاص والأسماء المشتقة من أفعال..... قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلي: ”يا أبا تراب“ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ..... وقال سهل بن سعد: ما كان اسم أحبَّ إلي علي رضي الله عنه أن يُدعى به من أبي تراب. فمثل هذا لا يكره؛ إذ ليس فيه ذم، ولا يكرهه صاحبه“.
(أحكام القرآن للجصاص: ۶۰۳/۳، قدیمی)

(۳) ”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”لا يؤذن إلامتوضئ“، (جامع الترمذی، أبواب الصلوة، باب ماجاء في كراهية الأذان بغير وضوء: ۵۰/۱، سعید) =

مکان سے اپنی بیوی کے پاس سے آیا ہے، اس کے متعلق یہ گمان کرنا کہ یہ بے غسل ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، یہ گمان لغو اور ممنوع ہے (۱)۔ البتہ اگر تحقیق سے معلوم ہو کہ فلاں شخص کو غسل کی حاجت ہے تو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اس کے پیچھے نماز پڑھنا قطعاً حرام ہے (۲)۔

غیبت کرنا حرام ہے (۳)۔ پنجگانہ نماز فرض عین ہے، اس کا تارک فاسق ہے (۴)۔ پس شخص مذکورہ

= ”ویکبرہ اذان جنب وإقامة محدث لاأذانه علی المذهب“۔ (الدر المختار)۔

”ثم اعلم أنه ذكر في الحاوي القدسي من سنن الأذان: كونه رجلاً عاقلاً، صالحاً، عالماً بالسنن والأوقات، مواظباً عليه، محتسباً، ثقةً متطهراً مستقبلاً“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ۱/۳۹۲، ۳۹۳، سعيد)

(۱) قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إثم﴾۔ (سورة الحجرات: ۱۲)

”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث“۔ فهذا الظن المحذور، وهو ظنه بالمسلم سواً من غير سبب يوجب“۔ (أحكام القرآن للجصاص: ۳/۲۰۴، ۲۰۵، قديمي)

(۲) ”عن أبي هريرة رضي الله عنه: ”لا تقبل صلوة من أحدث حتى يتوضأ“ متفق عليه“۔

”عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا تقبل صلوة بغير طهور، ولا صدقة من غلول“۔ رواه مسلم“۔ (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الوضوء: ۱/۴۰، قديمي)

(۳) قال الله تعالى: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضاً﴾ (سورة الحجرات: ۱۲)

”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”كل المسلم على المسلم حرام: ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم“۔ (تفسير ابن كثير: ۴/۲۷۳، دار الفحاء دمشق)

(۴) ”هي فرض عين على كل مكلف ويكفر جاحداً وتاركها عمداً مجاناً: أي تكاسلاً فاسق“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة: ۱/۳۵۱، ۳۵۲، سعيد)

کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، خصوصاً جب کہ دوسرا نیک آدمی امامت کے لائق تہجد گزار موجود ہے، ایسے غیر پابند نماز اور غیبت کرنے والے کو ہرگز ہرگز امام نہ بنایا جائے (۱)۔ تاہم اگر وہ توبہ کرے اور جس کی غیبت کرتا ہے اس سے بھی معاف کرالے اور نماز و جماعت کا پابند ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے نماز درست ہو جائے گی (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۱/۱۲/۵۷ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۱/ذی الحجہ/۵۷ھ۔

مرتب مکروہ کی امامت

سوال [۲۵۶۳]: مکروہات و سنت و مستحبات کی پابندی نہ رکھنے والے کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مکروہ ہوگی (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

(۱) ”ویکرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى“، (الدر المختار).

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم، فهو أفضل، وإلا فلا اقتداء أولى من الانفراد. وإن كراهة تقديمه كراهة تحريم“، (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۰، سعید)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيڈمی، لاہور)

(۲) ”والأحق بالإمامة الأعملم بأحكام الصلاة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه لفواحش الظاهرة“، (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۷/۱، سعید)

(۳) ”وكره إمامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يعظم بتقديمه للإمامة“ (مراقى الفلاح). وقال الطحطاوى فى حواشيه: ”قال القهستاني: أى أو إصرار على صغيرة“، (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل فى بيان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قديمى)

(و كذا فى الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۰، سعید)

زانی کی امامت

سوال [۲۵۶۲]: ایک حافظ صاحب کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور اس کو سمجھایا مگر وہ اپنی اس حرکت بد کو نہیں چھوڑتا، میں نے ان سے کتنی ہی مرتبہ یہ بھی کہا کہ تم نماز مت پڑھایا کرو، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لئے حضور سے اس مسئلہ کا فتویٰ تحریراً دریافت ہے تاکہ میں حافظ صاحب کو دکھا دوں اور چار آدمی اس کے شاہد ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

زنا کا ثبوت زانی کے اقرار یا چار عینی ثقہ شاہدوں کی شہادت سے ہوتا ہے، بغیر اس کے ثبوت نہیں ہوتا (۱)، اگر شرعی ثبوت ہے اور امام نے تو بہ نہیں کی تو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے جب کہ اس سے بہتر امامت کے لائق موجود ہو، اگر شرعی ثبوت نہیں تو محض بدگمانی کی بناء پر اس کو زانی کہنا جائز نہیں، البتہ امام کو اپنا چال چلن ایسا رکھنا ضروری ہے جس سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع نہ ملے (۲)۔

= (و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة ص: ۵۱۳، سهيل اكيڈمی لاہور)

(و كذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱۰۸/۱، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۱) ”ويثبت بشهادة أربعة رجال في مجلس واحد..... بلفظ الزنا لا الوطاء والجماع..... و عدلوا سرأ و علناً..... ويثبت أيضاً بإقراره أربعاً في مجالسة: أي المقر الأربعة اهـ.“
(الدر المختار، كتاب الحدود: ۴/۸، ۹، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكبرية، كتاب الحدود، الباب الثاني في الزنا: ۱۲۳/۲، رشيدية)

(و كذا في الهداية، كتاب الحدود: ۵۰۷/۲، مكتبه شركة علمية ملتان)

(۲) ”اتقوا مواضع التهم“: ذكره في الإحياء، وقال العراقي في تخريج أحاديثه: لم أجد له أصلاً، لكنه بمعنى قول عمر: ”من سلك مسالك الظن اتهم“. و رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق مرفوعاً بلفظ: ”من أقام نفسه مقام التهم، فلا يلومن من أساء الظن به“. و روى الخطيب في المتفق والمفتروق عن سعيد المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب: ثمانى عشرة كلمة..... ”و من عرض نفسه للتهمة، فلا يلومن من أساء به الظن“. (كشف الخفاء: ۴۵/۱، مؤسسة الرسالة بيروت)

”ویکرة إمامة عبد و أعرابی و فاسق. و كراهة تقديمه: أي الفاسق كراهة تحريم الخ“

در مختار و شامی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

ایضاً

سوال [۲۵۶۵]: ایک شخص کی سالی سے دوسرا شخص زنا کرتا ہے، کیا پہلا شخص دیوث ہوگا یا نہیں اور

اسے امام بنانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وہ شخص دیوث نہیں (۲)، البتہ اگر باوجود قدرت کے زنا سے نہیں روکتا تو گنہگار ہے (۳)۔

اور اگر سالی اس کی پرورش میں ہے پھر نہیں روکتا تو انتہائی بے غیرتی ہے اور ایسے شخص کی امامت ناجائز

ہے۔ زانی کی امامت کا ناجائز ہونا بالکل ظاہر ہے (۴)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۸/۸/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۱/شعبان/۵۸ھ۔

(۱) (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيڈمی لاہور)

(۲) ”ديوث من لا يعار على امرأته، أو محرمة“ (الدر المختار، کتاب الحدود، باب التعزير: ۷۰/۴،

سعید)

(۳) ”عن طارق بن شهاب: ”من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع

فبقلبه، و ذلك أضعف الإيمان“ (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر

من الإيمان اه: ۵۱/۱، قديمی)

(وسنن أبي داؤد، كتاب الخاتم، باب الأمر والنهي: ۲/۲۴۰، سعید)

(۴) ”ویکرة إمامة عبد و أعرابی و فاسق و أعمی“ (الدر المختار).

وفی رد المحتار: ”(قوله: و فاسق) من الفسق، وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد من =

زانی کی توبہ کے بعد امامت

سوال [۲۵۶۶]: اگر زانی ایک مرتبہ زنا کر لے تو اس کے پیچھے کتنے روز تک نماز مکروہ تحریمی ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

زانی کی توبہ پر جب وثوق ہو جائے اور وہ اعمالِ صالحہ اختیار کرے اور اعمالِ سیئہ سے اجتناب کرنے

لگے تو اس کی امامت درست ہوگی (۱)۔ فقط۔

توبہ کے بعد دوبارہ امامت

سوال [۲۵۶۷]: ہماری مسجد کے امام صاحب جو کہ بیس سال سے امامت کرتے ہیں، ان سے غلطی

ہوئی کہ مسجد کے باہر کچھ خشت پختہ ایک ہندو ٹھیکدار کی پڑی ہوئی تھی، اس میں سے کچھ اٹھا کر حجرہ میں رکھ لی اور

ایک دو یوم کے بعد اسی جگہ پر جوں کی توں بغیر تصرف اور بغیر کسی کمی بیشی کے واپس رکھ دی۔ مہتمم صاحب

اور مقتدیوں کو یہ حرکت ناگوار خاطر ہوئی، امام ملازمت سے برطرف ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے توبہ واستغفار

کیا اور مقتدیوں سے معذرت چاہی، ان سب حضرات نے معاف کیا اور سب خوش ہو گئے۔ مہتمم صاحب اور

مقتدیوں کی یہ خواہش ہے کہ امام عیالدار ہیں اور بتقاضائے بشری غلطی نہوگئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیو الے

ہیں، ہم سب نے بھی معاف کیا، حسب سابق ان کو امام رکھا جائے۔ اس کے پیچھے ہماری نماز درست ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توبہ کو قبول فرما کر معاف فرمادیتے ہیں، قرآن کریم

=يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني و آكل الربا ونحو ذلك“ (کتاب الصلوة، باب الإمامة :

۱/۵۶۰، سعید)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۱۲۲، مكتبه شركة علميه ملتان)

(۱) ”قال الله تعالى: ﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى﴾ (سورة طه: ۸۲)

”عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”التائب

من الذنب كمن لا ذنب له“، رواه ابن ماجه“، (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار

والتوبة : ۱/۲۰۶، قدیمی)

میں ہے: ﴿إِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ﴾ (۱) لہذا صورتِ مذکورہ میں ان امام صاحب کے پیچھے مقتدیوں کی نماز درست ہوگی (۲)۔ ان کا توبہ واستغفار کرنا اور اپنی غلطی کی معافی چاہنا قابلِ قدر ہے، حق تعالیٰ استقامت بخشتے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۸/۱۱/۸۹ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۸/۱۱/۸۹ھ۔

فیملی پلاننگ سے توبہ کرنے والے کی امامت

سوال [۲۵۶۸]: یہ تو معلوم ہے کہ فیملی پلاننگ ناجائز ہے، اور ﴿خشية إِمْلَاقٍ﴾ قلتِ رزق کی وجہ سے آپریشن یا مانع حمل ادویہ استعمال کرنا یا عزل یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔

البتہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نیم تعلیم یافتہ آپریشن کرائے اور بعد میں جب پوچھتا جھٹھ شروع ہو تو وہ مولوی صاحب مجمع عام میں جامع مسجد کے ایک مفتی صاحب کے سامنے اعلانیہ توبہ کریں اور مفتی صاحب اس کو توبہ کرانے کے بعد اس کے پیچھے نماز جائز قرار دے تو آیا اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں؟ اور اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں شدید اختلاف ہے اس لئے مفصل و مدلل جواب جلد از جلد عنایت فرما کر

(۱) (سورۃ طہ: ۸۲)

”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم: ”إن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب اللہ علیہ“. متفق علیہ“.

”وعن أبی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”إن الشیطان، قال: وعزتک یارب! لا أبرح أغوی عبادک مادامت أرواحهم فی أجسادهم. فقال الرب عزوجل: ”(وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی! لا أزال أغفر لهم ما استغفرونی)“. رواہ أحمد، (مشکوۃ المصابیح، کتاب الدعوات، باب الاستغفار و التوبة: ۱/۲۰۳، ۲۰۴، قدیمی)

(۲) ”عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”التائب من الذنب کمن لا ذنب له“. رواہ ابن ماجہ“. (مشکوۃ المصابیح، کتاب الدعوات، باب الاستغفار، والتوبة: ۱/۲۰۶، قدیمی)

مشکور فرمائیں۔

۲..... صورتِ ثانیہ اس مولوی صاحب سے جب مفتیوں نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ آپریشن کیوں کرایا؟ تو مولوی صاحب حلفیہ بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری صحت ہمیشہ کمزور رہتی تھی اور اہلیہ کی بھی، تو میں نے چند اشخاص کے کہنے پر یہ آپریشن کرایا، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ علماء لوگ اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے تو میں اب آپ مفتی حضرات کے سامنے اور تمام مقتدیوں کے سامنے جامع مسجد میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے کئے کی معافی مانگتا ہوں اور اپنے فعل پر خود نادم اور پشیمان ہوں۔

لہذا خدارا! میری توبہ قبول ہونے کا فتویٰ صادر فرما کر ممنون فرمائیں، مفتی صاحب نے جو کہ دارالعلوم کے فاضل ہیں عام لوگوں کے سامنے اس مولوی صاحب سے اعلانیہ توبہ کرائی اور اس کے بعد اس کے پیچھے نماز جائز ہونے کا حکم فرمایا۔ ان صورتوں کی علیحدہ علیحدہ تشریح فرما کر مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

توبہ جب سچے دل سے ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ توبہ قبول ہوگی، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ کسی کو کہنے کا حق نہیں کہ فلاں کی توبہ قبول نہیں (۱)، البتہ اگر کوئی شخص اس لئے توبہ کا اعلان کرے کہ اس کو امامت سے الگ کر دیا گیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی اور اب وہ گویا کہ بے روزگاہ ہے یا اس کا اقتداء جاتا رہے تو ظاہر ہے کہ یہ توبہ حقیقی توبہ نہیں، نمازی اس کو تسلیم کرنے کے مکلف بھی نہیں، مگر دل کا حال اللہ تعالیٰ کو معلوم (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ (سورة طه: ۸۲)

”عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”التائب

من الذنب كمن لا ذنب له“۔ رواه ابن ماجه“۔ (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار

والتوبة: ۱/۲۰۶، قديمی)

(۲) ”وقوله صلى الله عليه وسلم: ”أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا“؟..... ومعناه: إنك

إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر =

جاہل چور کی امامت

سوال [۲۵۶۹]: زید امام ہے اور بے علم ہے، فقط قرآن شریف پڑھا ہوا ہے وہ بھی غلط پڑھتا ہے اور معلوم نہیں کہ کس طرح پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور کس طرح نہیں اور اگر موقع ملے تو چوری بھی کر لیتا ہے اور غسالی اس کا پیشہ ہے، نکاح سابقہ پر دیگر نکاح کر دیتا ہے، مسجد میں آکر نماز پڑھ لی اگر کسی دوسری جگہ ہو تو نماز قضاء کر دیتا ہے، قوم کو اس سے نفرت ہے، زید کی وجہ سے جامع مسجد میں صرف بیس پچیس آدمی موجود رہتے ہیں حالانکہ آبادی گاؤں کی ہزار تک ہے۔ اب ایسے شخص کی امامت جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامدًا ومصليًا:

اگر واقعی یہ امور اس میں موجود ہیں اور اس سے بہتر امامت کا اہل آدمی موجود ہے تو اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، بہتر شخص کو امام بنانا چاہئے (۱)۔ اگر یہ شخص ان امور سے توبہ کر لے اور آئندہ ایسی ممنوعات نہ کرے، نیز قرآن شریف صحیح پڑھے تو اس کی امامت منع نہیں ہے (۲)۔ اگر گاؤں کی آبادی صرف ایک ہزار ہے تو اس میں جمعہ جائز نہیں جواز جمعہ کے لئے کم از کم تین چار ہزار آدمی اور بازار میں ضروریات کا وہاں پایا جانا ضروری ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور ۸/۸/۵۵ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۹/شعبان/۱۳۵۵ھ۔

= عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب و اعتقدها
و كانت فيه أم لم تكن، بل جرت على اللسان فحسب الخ". (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب
الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله: ۱/۶۸، ۶۹، قديمي)

(۱) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدرالمختار). وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى:
"فإن أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلا فالافتداء أولى من الانفراد على أن كراهة
تقديمه كراهة تحريم". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيڈمي، لاہور)
(۲) "والأحق بالإمامة الأعمى بأحكام الصلوة فقط صحة و فسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن
تلاوة للقرأة، ثم الأورع اه". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعيد)

(۳) "عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع". (إعلاء السنن، =

چوری سے توبہ کے بعد چور کی امامت

سوال [۲۵۷۰]: ایک شخص کو چوری کے معاملہ میں کئی مرتبہ سزا ہو چکی ہے، اب بھی اس کا اندیشہ ہے، مگر وہ شخص توبہ کر چکا ہے، نماز کا پابند ہے، یہ شخص لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اپنی گزشتہ زندگی پر نادم ہو کر اس نے سچی توبہ کر لی اور جن کا مال چوری کیا تھا ان سے معاف کر لیا، یا اس کے واپس کرنے کی فکر میں لگ گیا تو امید قوی ہے کہ حق تعالیٰ معاف فرمادیں اور اس حالت میں اس کی امامت بھی درست ہوگی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

= أبواب الجمعة، باب عدم جواز الجمعة في القرى : ۱/۸، إدارة القرآن كراچی

”لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاضي و منبر و خطيب، كما في المضمرات. و الظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة، ألا ترى لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر“۔ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الجمعة : ۱۳۸/۲، سعيد)

”قال رحمه الله: وهو: أي المصر كل موضع له أمير و قاض ينفذ الأحكام و يقيم الحدود، و هذا رواية عن أبي يوسف، و هو اختيار الكرخي. و عنه أنهم لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم، و هو اختيار البلخي. و عنه هو كل موضع يكون فيه كل محترف و يوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معاشهم، و فيه فقيه مفت و قاضي يقيم الحدود الخ“۔ (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة : ۵۲۳/۱، دار الكتب العلمية بيروت)

(۱) قال سبحانه تعالى: ﴿وإني لغفار لمن تاب﴾ (سوره طه: ۸۲)

”و عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”إن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه“۔ (مشكوة المصابيح، باب الاستغفار والتوبة، الفصل الأول: ۲۰۳، قديمي)
”ثم هذا إن كانت التوبة فيما بينه و بين الله و إن كانت عما يتعلق بالعباد، فإن كانت من مظالم الأموال فتتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى على الخروج عن عهدة الأموال وإرضاء الخصم في الحال والاستقبال بأن يتحلل منهم، أو يردها إليهم، أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث“۔ (شرح الفقه الأكبر، بحث التوبة: ۱۵۸، قديمي)

لڑکے کا بوسہ لینے والے کی امامت

سوال [۲۵۷۱]: اگر کوئی شخص کسی لڑکے کا بوسہ لے لے اور اس کو انزال ہو جائے تو کیا ایسے شخص

کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شہوت پوری کرنے کے لئے لڑکے کا بوسہ لینا ناجائز ہے (۱)، جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو امام بنانا مکروہ

تحریمی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جو امام لڑکے کا بوسہ لے اس کی امامت

سوال [۲۵۷۲]: ایک شخص دو سال سے امام ہے اور بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے، ایک بچہ جو نہایت

(۱) "قال في الهندية: والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال و لم يكن صحيحاً فحكمه حكم الرجال، وإن كان صحيحاً فحكمه حكم النساء، وهو عورة من قرنه إلى قدمه، لا يحل النظر إليه عن شهوة، و أما الخلوة والنظر إليه لا عن شهوة فلا بأس به، و لذا لم يؤمر بالنقاب، كذا في الملتقط وفوق ذلك الميل إلى التقيل، أو المعانقة، أو المباشرة، أو المضاجعة، ولو بلا تحرك آلة". (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر واللمس: ۳۶۵/۶، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل النظر إليه و ما لا يحل له امر: ۳۳۰/۵، رشيدية)

(۲) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدر المختار).

"(قوله: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب

الخمير، والزاني و آكل الربا ونحو ذلك". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۰/۱، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱۰۸/۱، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(و كذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة،

ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قديمی)

خوبصورت ہے اس کو کمرہ میں لے جاتے تھے اور بوسہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اس بچے نے شکایت کی کہ امام صاحب نے میرا بوسہ لیا ہے، امام صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں! میں اس کو بیٹا سمجھ کر بوسہ لیتا ہوں اور مصری لوگ بھی بوسہ لیتے ہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں، اس پر مسجد میں ہنگامہ ہوا دو پارٹیاں بن گئیں، بعد ازاں اس کو مسجد سے الگ کر دیا گیا، اب وہ پھر آنا چاہتے ہیں، حالانکہ بہت سے نمازی ان کو لانے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ ایسے امام کیلئے شرعاً کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

اگر امام صاحب سے بہتر صحیح العقیدہ، مسائل نماز اور طہارت سے واقف صحیح پڑھنے والا، متبع سنت دوسرا امام مل جائے تو سابق امام کو دوبارہ لانے اور امام بنانے پر ہرگز اصرار نہ کیا جائے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

کم سن بچوں سے تنہائی میں خدمت لینے والے اور فجر کے بعد سونے والے کی امامت

سوال [۲۵۷۳]: زید ایک مسجد کا امام ہے، ساتھ ہی بچوں کی تعلیم کا بھی کام ان کے ذمہ ہے، امام موصوف بسا اوقات فجر کی نماز مقتدیوں کے بار بار بلانے پر بھی نہیں پڑھاتے، عاجز آ کر دوسرے آدمی کو پڑھانا پڑتا ہے اور امام صاحب سوئے رہتے ہیں۔ کچھ کم سن بچے ایسے بھی ہیں جن کی عمر بارہ چودہ برس کی ہوگی، اپنے

(۱) ”والأحق بالإمامة الأعلیٰ بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً. آھ“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۱، ۱۲۲، مكتبة شركة علميه ملتان)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني في بيان من هو الأحق بالإمامة: ۱/۸۳، رشيدية)

کمرہ میں بند کر لینے کے بعد اب بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ اللہ جانے، لیکن بار بار ایسا دیکھنے کے بعد جب ان سے اس کی شکایت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ کمرہ بند کر کے ان سے کچھ خدمت کرا لیتے ہیں۔ جس پر سائل نے ان سے کہا کہ خدمت کرانے کیلئے کمرہ بند کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اس پر قطعاً ان کا دھیان نہیں۔ ایسی شکل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب سے نوازیں کہ امام موصوف کا یہ عمل ان کیلئے اچھا ہے؟ اگر نہیں تو امامت کے منافی تو نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر نیند کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے بیدار نہیں ہو پاتے تب تو ان کو علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں (۱)، البتہ اس کا انتظام ضروری ہے کہ وقت پر بیدار ہو جایا کریں، رات کو بعد عشاء جلد سو جائیں، گھڑی الارم کا انتظام کیا جائے، ایسی جگہ اور اس طرح سوئیں کہ ان کو بیدار کرنا سہل ہو، مؤذن یا کوئی اور شخص بیدار کر دیا کریں (۲)۔ اگر امام صاحب اس کی فکر اور انتظام نہ کریں بلکہ لا پرواہی سے رہیں، جب چاہیں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، وقت پرائٹھیں یا سوتے رہ جائیں، نماز ادا ہو یا قضاء ہو جائے، ان کو پرواہ بھی نہ ہو تو پھر وہ علیحدہ کئے جانے کے قابل ہوں گے (۳)۔

ایسے بچوں کو بند کمرہ میں ساتھ رہنے سے پرہیز کریں جن سے تہمت کا اندیشہ ہو، اور دوسروں کو بھی

(۱) ”وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم

حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل“۔ رواه الترمذی وأبو داؤد و الدارمی“۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب النکاح، باب الخلع والطلاق: ۲/۲۸۳، قدیمی)

(۲) ”ويشوب بين الأذان والإقامة في الكل لكل بما تعارفوه“۔ (ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب

الأذان: ۱/۳۸۹، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الأذان: ۱/۴۵۳، رشیدیہ)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الأذان: ۱/۱۷۷، مكتبة امدادیه، ملتان)

(۳) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“۔ (الدرالمختار)۔ ”وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه

بأنه لا يهتم لأمر دينه“۔ (ردالمحتار، كتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، ۶۱۱، رشیدیہ)

تہمت لگانے سے بچنا ضروری ہے، یہ سخت معصیت ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/۹/۹۲ھ۔

سالی سے مذاق کرنے والے کی امامت

سوال [۲۵۷۴]: زید و عمر آپس میں ہم زلف ہیں (۲) اور زید مذکور اپنی سالی کے ساتھ ناشائستہ

مذاق کرتا ہے، اور دعائی جماع کا ظاہراً ارتکاب کرتا ہے، اسی بناء پر عمر نے زید کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دیا۔ لہذا زید کا یہ فعل شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور عمر کا اس طرح زید سے تعلق ختم کر دینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ اور نیز یہ دونوں حضرات امام ہیں، لہذا ان دونوں کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، یا ظالم و مظلوم میں کچھ رعایت ہے؟ اور یہ تحریر کریں کہ کن کن لوگوں سے شرعی پردہ درست ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ طریقہ خلاف شرع ہے اور ناجائز ہے، سالی کو پردہ کرنا لازم ہے، تنہائی اس کے ساتھ حرام ہے (۳)۔ اگر زید فہمائش کے بعد بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آیا اور اس کے فتنہ سے حفاظت کے لئے عمر نے اس سے قطع تعلق کر دیا اور اپنی بیوی کی اس طرح اس سے حفاظت کر لی تو بہت اچھا کیا، اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے، ایسا کرنے

(۱) "اتقوا مواضع التہم". ذکرہ فی الإحياء: وقال العراقي في تخريج أحاديثه لم: أجد له أصلاً لكنه بمعنى قول عمر رضي الله عنه: "من سلك مسالك الظن التهم". ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق مرفوعاً بلفظ: "من أقام نفسه مقام التهم، فلا يلوم من أساء الظن به". وروى الخطيب في المتفق والمفترق عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثمانى عشرة كلمة.....

"ومن عرض نفسه للتهمة، فلا يلوم من أساء به الظن". (كشف الخفاء: ۱/۳۵، مؤسسة الرسالة، بيروت)

(۲) "ہم زلف: ساڑھو، سالی کا خاوند"۔ (فیروز اللغات، فیروز سنز لاہور)

(۳) قال الله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن،

أو إخوانهن، أو بنى إخوانهن، أو بنى أخواتهن، أو نسائهن، أو ماملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولى

الإربة من الرجال أو الطفل﴾. (سورة النور: ۳۱)

"والخلوة بالأجنبية حرام". (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر واللمس:

سے عمر کی امامت میں کوئی خلل نہیں (۱)، زید البتہ خطاوار ہے اس کو توبہ و احتیاط لازم ہے (۲) ورنہ وہ منصب امامت سے علیحدہ کرنے کے قابل ہوگا (۳)۔ جن لوگوں سے کسی وقت بھی نکاح جائز ہے ان سے پردہ کرنا لازم ہے (۴)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "قال الخطابی: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوقها، إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجوز ذلك فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات، ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق". (مرقاة المفاتيح، كتاب الأداب، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الأول، (رقم الحديث: ۵۰۲۷): ۸/۷۵۸، ۷۵۹، رشيدية)

(و كذا في عمدة القاري، كتاب الأداب، باب ما ينهى عنه من التحاسد والتدابير: ۲۲/۱۳۷، مطبوعه خيريه بيروت)

(۲) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله أشد فرحاً بتوبة أحدكم بضالته إذا وجد". قال النووي: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وإنها واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة الخ". (الصحيح لمسلم مع شرحه الكامل للنووي، كتاب التوبة: ۲/۳۵۴، قديمي)

(و كذا في روح المعاني، تحت آية ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ ۲۷/۱۵۹، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۳) "إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجب، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلانها، وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمال أدنى المضرتين". (كتاب الجهاد، باب البغاة: ۲/۲۲۳، سعيد)

(۴) "ومن محرمه هي من لا يحل له نكاحها أبداً بنسب أو سبب ولو بزنا". (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر واللمس: ۶/۳۶۵، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في النظر واللمس: ۸/۳۵۵، رشيدية)

(و كذا في تبيين الحقائق، كتاب الكراهية، فصل في النظر واللمس: ۷/۴۳، دار الكتب العلمية بيروت)

غیر محرم عورتوں سے بدن دبوانے والے کی امامت

سوال [۲۵۷۵]: زید ایک مسجد میں امام ہے اور قرآن مجید کا حافظ ہے اور پانی پتی لہجہ میں پڑھتا ہے، مگر اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے بعض بعض باتیں خلاف شرع معلوم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض نے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہی چھوڑ دی ہے اور بعض بادل ناخواستہ پڑھتے ہیں اور خلاف شرع یہ باتیں ہیں:

کہ ایک دفعہ حافظ صاحب مرض نمونیہ میں مبتلا ہو گئے تو حالت مرض میں غیر محرم مستورات سے بدن دبواتے رہے جو کہ حافظ کی دور کی رشتہ دار ہیں، مثلاً: ایک چچی ہے جس میں بہت دور کا واسطہ ہے اور اسی طرح سے ایک دور کے چچا زاد بھائی کی عورت ہے جس کو حافظ صاحب بھاوج کہہ کر پکارا کرتے ہیں اور ایک دو عورتیں ایسی اور بھی ہیں جن کے ساتھ دور کا رشتہ ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے۔

اور ایسے ہی ایک شکایت اور ہے کہ ایک دفعہ حافظ جی صاحب اسی مذکورہ بھاوج کے ساتھ بازار میں جاتے دیکھے گئے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک دفعہ اسی بھاوج کے ساتھ ہنسی اور دل لگی کرتے دیکھا گیا ہے جس کے باعث لوگ بہت متنفر ہیں اور بعض نے ان کے پیچھے نماز بھی ترک کر دی ہے۔ لہذا ارشاد فرماویں کہ آیا ایسے شخص کو امام بنانا جائز ہے یا ناجائز؟ باحوالہ تحریر فرماویں۔ بینو ابالبرہان و توجرو عند الرحمن۔

مقام سرسہ محلہ کھٹیکان، ضلع حصار، مدرسہ عربیہ خیر العلوم، محمد الدین۔

الجواب حامداً ومصلياً:

صرف اتنی باتوں سے بدگمان ہو کر ان کے پیچھے نماز چھوڑ دینا اور ان سے نفرت کرنا مناسب نہیں، بہتر یہ ہے کہ نرمی اور مناسب طریقہ سے ان کو سمجھا دیا جائے کہ آپ کی ان باتوں سے لوگوں کو بدگمانی اور نفرت پیدا ہوتی ہے (۱) لہذا آپ احتیاط کریں، خصوصاً جب کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تو اور زیادہ بدگمانی کا موقع ہے، ویسے بھی شرعاً اجنبی عورت کے ساتھ یعنی نامحرم (جس سے پردہ فرض ہو) خلوت ممنوع ہے (۲)۔ ذرا ذرا سی

(۱) قال الله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتی هی أحسن﴾

(سورة النحل: ۱۲۵)

(۲) قال الله تعالى: ﴿قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ویحفظوا فروجهم﴾ (سورة النور: ۳۰)

”سمعت أبا أمامة رضی الله تعالیٰ عنه یقول: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: =

بات پر امام کو علیحدہ کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن پھر صالح اور صحیح پڑھنے والے امام کا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲/۲/۱۳۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲/۲۴/۱۳۵۸ھ۔

نوجوان بیوہ سے پاؤں دبوانے والے کی امامت

سوال [۲۵۷۶]: ایک امام مسجد کچھ دنوں سے بیمار تھے، نوجوان ہیں اور غیر شادی شدہ بھی، انہوں نے بھتیجے کی بیوی کو جو بیوہ ہے اور نوجوان بھی ہے، اپنی خدمت کیلئے رکھ لیا ہے، اس سے پیر بھی دبواتے ہیں۔ جب نمازیوں نے اعتراض کیا تو جواب دیا کہ ہسپتال والوں میں نرسیں بھی تو رہتی ہیں۔ اب نمازیوں میں دوگروپ ہو گئے: ایک کہتا ہے کہ وہ بیٹی سمجھ کر پیر دبواتے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ یہ عورت بیوہ غیر محرم ہے، اس سے ایسی خدمت کیوں لی گئی؟ اب ان امام کے متعلق علمائے دین کا کیا فتویٰ ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام صاحب کو چاہئے کہ اس بیوہ سے نکاح کر لیں، پھر اس طرح کی خدمت لیں (۱)، نامحرم سے اس

= ”اکفلوا لی ستاً اکفل لکم بالجنة: إذا حدث أحدکم فلا یکذب، وإذا أوتمن فلا یخن، وإذا وعد فلا یخلف، وغضوا أبصارکم، وکفو أیدیکم، واحفظوا فروجکم.“

”عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم:

”إن النظرة سهمٌ من سهام إبليس مسمومٌ، من ترکها مخافتی، أبدلته إيماناً یجد حلاوته فی قلبه.“

”عن أبی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”کل عین

باکیة یوم القيامة إلا عیناً غضت عن محارم اللہ، و عیناً سهرت فی سبیل اللہ، و عیناً یخرج منها مثل رأس

الذباب من خشية اللہ عزوجل.“ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۷۶، ۳۷۷، دار الفیحاء دمشق)

”الخلوة بالأجنبية حرام.“ (الدرالمختار، کتاب الحظر، فصل فی النظر واللمس: ۳۶۸/۶، سعید)

(۱) قال اللہ تعالیٰ: ﴿وأنکحوا الأيامی منکم﴾ (سورة النور: ۳۲)

”الایامی جمع أیم، ویقال ذلک للمرأة التي لازوج لها وللرجل الذي لازوجة له، سواء كان

قد تزوج ثم فارق أولم یتزوج واحد منها“ (ابن کثیر: ۳/۳۸۳، دار الفیحاء، دمشق)

طرح خلط ملت نہ رکھیں (۱)۔ اگر امام نہ مانیں تو ان کو امامت سے الگ کر کے کسی پابند شریعت اور متبع سنت کو امام تجویز کر لیا جائے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

اغلام باز اور اغلام بازی کا الزام لگانے والے کی امامت

سوال [۲۵۷۷]: ایک امام صاحب جب کہ پانچ وقت کی نماز پڑھاتا ہے، دینی مدرسہ میں بچوں کو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہے اور بُری باتوں سے منع کرتا ہے، ایک دوسرے امام صاحب پر ایک نابالغ لڑکے کے ساتھ اغلام بازی کا الزام رکھتا ہے، امام مسجد خدا کی قسم کھاتا ہے کہ ہم نے کوئی بد فعلی نہیں کی۔ تو اب لڑکے کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے جو کہتا ہے کہ ہم سے تین چار بار بد تمیزی کی، یا امام کی قسم کا اعتبار کرنا چاہیے، اور امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

۲..... امام نے دوسرے امام کے اوپر اغلام بازی کا الزام لگایا ہے ان کے متعلق یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ امام پنج وقتہ نماز اور جمعہ پڑھاتا ہے اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ باہر جاتے ہیں تو کسی وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جب ملازمت پر رہتے ہیں تو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، درست ہے یا نہیں؟ یہ اکثر جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ ان دونوں میں کون سے امام افضل ہیں، کس کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... امام صاحب کو محض اس نابالغ لڑکے کے بیان پر مجرم قرار دے کر شرعی سزا کا مستحق نہیں

(۱) "الخلوة بالأجنبية حرام، إلا لملازمة مد يونة هربت ودخلت خربة، أو كانت عجوزاً شوهاء،

أوبحائل". (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر واللمس : ۳۶۸/۲، سعيد)

(۲) "والأحق بالإمامة الأعلّم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم

الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن". (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة:

۵۵۷/۱، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱۰۷/۱، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱، ۱۲۲، ۱۲۳، شركة علميه ملتان)

ٹھہرایا جائے گا، امام صاحب کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا (۱)۔ بغیر ثبوت شرعی کے کسی کے متعلق الزام لگانا کبیرہ گناہ ہے (۲)، امام صاحب کو بھی احتیاط سے رہنا چاہئے تاکہ بدگمانی کا موقع کسی کو نہ ملے (۳)۔

۲..... الزام لگانا، فرض نماز ترک کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا تینوں سخت قسم کے گناہ ہیں (۴)، اگر واقعہ

(۱) "عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". رواه مسلم، وفي شرحه للنووي: "إنه قال: وجاء في رواية البيهقي بإسناد حسن أو صحيح زيادة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعاً لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر". (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الإمامة والقضاء، باب الأفضیة والشہادات: ۳۲۶/۲، قدیمی)

(۲) قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بَهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ﴾. (سورة الممتحنة، ۱۲)
"وأخرج أحمد: "خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقطع بهامالاً بغير حق.

والطبراني: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه". (الزواج عن اقرار الكبائر، كتاب النكاح، الكبير الرابعة والخمسون بعد المائتين: البهت: ۴۱/۲، دار الفكر بيروت)

(۳) "اتقوا مواضع التهم". ذكره في الإحياء: وقال العراقي في تخريج أحاديثه: لم أجد له أصلاً، لكنه بمعنى قول عمر: "من سلك مسالك الظن اتهم"، ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق مرفوعاً بلفظ: "من أقام نفسه مقام التهم، فلا يلومن من أساء الظن به". وروى الخطيب في المتفق والمفترق عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب ثمان عشرة كلمة..... "ومن عرض نفسه للتهمة، فلا يلومن من أساء به الظن". (كشف الخفاء: ۴۵/۱، مؤسسة الرسالة بيروت)

(۴) "وأخرج أحمد: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير الحق، وبهت مؤمن". إلى آخر الحديث". (الزواج عن اقرار الكبائر، كتاب النكاح، الكبيرة، الرابعة والخمسون بعد المائتين: البهت: ۴۱/۲، دار الفكر بيروت)

"عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي: "أن لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلوة مكتوبة متعمداً، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر". رواه ابن ماجه". (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوة، الفصل الثالث: ۵۹/۱، قدیمی) =

ان میں یہ چیزیں موجود ہیں تو ان کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، جب تک وہ ان سب چیزوں سے پختہ توبہ نہ کر لیں، ہرگز ان کو امام نہ بنایا جائے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۲/۴/۸۷ھ۔

مخلوق اللہ کی امامت

سوال [۲۵۷۸]: یہاں ایک مسجد میں کسی نماز میں پیش امام صاحب کسی کام کی وجہ سے جماعت کے وقت نہ پہنچ پائے تو ان کی جگہ ایک دوسرا شخص جو پڑھا لکھا ہے مگر داڑھی ترشواتا ہے نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے جو مقتدی داڑھی صاف کراتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں اپنی نماز دہراتے ہیں۔ ان کو ایسا کرنا کیسا ہے؟
نثار احمد، خریدار نمبر: ۱۷۸۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امام متبع سنت ہونا چاہئے، لیکن ایسے مقتدیوں کو ایسے امام کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کا دہرانا لازم نہیں (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

ايضاً

سوال [۲۵۷۹]: جو داڑھی کا بالکل صفایا کراتا ہو اس کو امام بنانا کیسا ہے؟ اس کے پیچھے نماز ہوتی

= ”عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”الكبائر: الإشراك بالله و عقوق الوالدين و قتل النفس واليمين الغموس“ (الصحيح للبخارى، كتاب لأيمان والنذر، باب اليمين الغموس: ۲/۹۸۷، قديمي)

(۱) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“ (الدرالمختار).

”قولہ: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني، واكل الرباء ونحو ذلك..... على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم“ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۹، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۲) (تقدم تخريجه تحت عنوان: ”فاسق کی امامت“۔)

ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کو امام بنانا مکروہ ہے البتہ اگر وہ خود امام بن کر نماز پڑھاوے تو نماز ہو جائے گی، گو وہ ثواب نہ ملے گا جو متقی امام کے پیچھے پڑھنے سے ملتا:

”وإذا صلى الرجل خلف فاسق أو مبتدع، يكون محرزاً ثواب الجماعة لما روينا من الحديث: ”صلوا خلف كل بر وفاجر“. لكن لا ينال ثواب خلف عالم تقى، قال عليه السلام: ”من صلى خلف عالم تقى، فكأنما صلى خلف نبي من الأنبياء“. قاضى خان: ۱/۱۱۳ (۱)۔
والله تعالى أعلم۔

حرره العبد محمود عنى عنه، بنده عبد الرحمن، كيم/صفر/۵۲ھ۔

داڑھی کٹنے کی امامت تراویح میں

سوال [۲۵۸۰]: داڑھی کتر واکر ایک مشت سے کم رکھنے والے کے پیچھے نماز تراویح پڑھنا مکروہ تحریمی ہے یا تنزیہی؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ نیز شرعی داڑھی کی مقدار کیا ہے؟ حدیث کے حوالہ کے ساتھ رقم فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اصول فقہ چار ہیں: کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ جس اصل سے بھی جو مسئلہ ثابت ہو اور ثبوت بھی عبارة النص، اشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص، جس طرح بھی ہو وہ قابل تسلیم ہے، کسی ایک دلیل میں منحصر

(۱) (فتاویٰ قاضی خان، کتاب الصلوة، فصل فیمن یصح الاقتداء به وفیمن لا یصح: ۱/۹۲، رشیدیہ)
(و کذا فی حاشیة الشیخ الشلبی علی تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۲۶، دارالکتب العلمیة بیروت)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاوی التاتارخانیة، کتاب الصلوة، فی بیان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۰۳، إدارة القرآن کراچی)

(الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

قراردیکر اس دلیل کا مطالبہ منصب مقلد کے خلاف ہے اور مجیب اس کا مکلف بھی نہیں، اس بنیادی تمہید کے بعد عرض ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الآثار میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک مشتمت داڑھی رکھنا سنت ہے (۱)، صحابہ کرام کا بھی عامۃً معمول یہی تھا۔ تو گویا یہ چیزیں اجماعی ہیں، اسی وجہ سے فقہائے کرام نے لکھا ہے: ”و یحرم علی الرجل قطع لحیتہ“ (۲)۔

ایک مشتمت تک پہنچنے سے پہلے کٹانا، یا چھوٹی چھوٹی رکھنا کسی کے نزدیک بھی مباح نہیں: ”و أما الأخذ منها وہی دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال، فلم يبحه أحد“۔
شامی: ۱۱۳/۲ (۳)۔

(۱) ”عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما أنه كان يقبض علی لحیتہ ثم يقص ماتحت القبضة. قال محمد: و به نأخذ، وهو قول أبي حنيفة“۔ (کتاب الآثار، کتاب الحظر والإباحة، باب حف الشعر من الوجه، يقال: حفت المرأة وجهها: أي أخذت عنه الشعر، ص: ۱۹۸، إدارة القرآن کراچی)
(و کذا فی البحر الرائق: ۱۹/۳، کتاب الحج، باب الجنایات، رشیدیہ)
(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم و مالا یفسد: ۱۸۶/۲، دارالکتب العلمیة بیروت)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریة، کتاب الکراهیة، الباب التاسع عشر فی الختان والخصاء و قلم الأظفار و قص الشارب و حلق الرأس الخ: ۳۵۸/۵، رشیدیہ)
(و کذا فی حاشیة الشیخ الشلبی علی تبیین الحقائق، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم و مالا یفسد: ۱۸۶/۲، دارالکتب العلمیة بیروت)

”عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: ”خالقوا المشرکین أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحي“۔ ”وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”جزوا الشوارب، و ارحوا اللحي، خالفوا المجوس“۔ (الصحيح لمسلم، کتاب الطهارة، باب خصال الفطرة: ۱۲۹/۱، قدیمی)

(۲) (الدر المختار، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی البیع: ۴۰۷/۲، سعید)

(۳) (الدر المختار، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم و مالا یفسد: ۴۱۸/۲، سعید)

(و کذا فی بذل المجهود، کتاب الطهارة، باب السواک من الفطرة: ۳۳/۱، مکتبہ امدادیہ) =

جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، لہذا فاسق و کراہہ تقدیمہ کراہہ تحریم
کما فی الغنیة و رد المحتار و غیر ہما (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

املاہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

سودخور اور مخلوق اللہ کی امامت

سوال [۲۵۸۱]: سودخور اور دارہی منڈانے والے کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں اور ان کو امام بنانا
درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوگی، درمختار، شامی (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

= (و كذا في مرقاة المفاتيح ، كتاب الطهارة، باب السواك : ۹۱ / ۲ ، رشيدية)

(و كذا في حجة الله البالغة، خصال الفطرة و ما يتصل بها : ۵۱۷ / ۱ ، قديمي)

(و أيضاً فيه، باب إطالة اللحي و إحقاق الشوارب : ۵۱۶ / ۲ ، قديمي)

(۱) (الحلبى الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيڈمی لاہور)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۵۶۰ / ۱ ، سعيد)

(و كذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل فى بيان الأحق بالإمامة،
ص: ۳۰۳، قديمي)

(۲) ”ويكره إمامة عبد و أعرابي و فاسق و أعمى“. (الدر المختار).

”قوله: و فاسق) من الفسق : وهو الخروج عن الاستقامة، و لعل المراد من يرتكب الكبائر
كشارب الخمر، و الزانى و آكل الربا و نحو ذلك“. (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة :
۵۶۰ / ۱ ، سعيد)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱۲۲ / ۱ ، مكتبه شركة علميه ملتان)

(و كذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الصلوة، فصل الجماعة سنة مؤكدة : ۱۰۸ / ۱ ، دار
إحياء التراث العربى بيروت)

(و كذا في فتاوى قاضى خان، فصل فيمن يصح الاقتداء و فيمن لا يصح : ۹۱ / ۱ ، رشيدية)

جو امام داڑھی رکھنے سے منع کرے اس کی امامت

سوال [۲۵۸۲]: جو امام لڑکوں کو داڑھی رکھنے سے منع کرتا ہو کہ ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے کی نہیں

ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

داڑھی رکھنے سے منع کرنا حدیث پاک کا مقابلہ کرنا ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۷/۳/۹۲ھ۔

تعلیم یافتہ بے داڑھی والے کی امامت

سوال [۲۵۸۳]: ایک موضع میں مسجد ہے جس میں زید امامت کرتا ہے، زید داڑھی نہیں رکھتا، موضع

میں صرف زید ہی ایسا ہے جو امامت کے قابل تعلیم یافتہ ہے، دیگر اشخاص صرف نماز پڑھنے کی قابلیت رکھتے ہیں

خطبہ وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ ایسی صورت میں امامت کے متعلق زید کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ جو لوگ خطبہ پڑھنے کی

قابلیت نہیں رکھتے ان میں سے چند داڑھی بھی رکھتے ہیں، کبھی کبھی ایسے شخص آجاتے ہیں جو کافی علم داں ہوتے

ہیں اور داڑھی بھی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی موجودگی میں امام مذکور بالا کیا امامت نہیں کر سکتے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

زید کو چاہئے کہ داڑھی شریعت کے موافق رکھے پھر امامت کرے، جو شخص نماز پڑھا سکتا ہے، خطبہ نہیں

جانتا، اس کو چاہئے کہ الحمد شریف اور درود شریف، سوم کلمہ، استغفار پڑھ دے، بس خطبہ ادا ہو جائے گا، یہ ضروری

(۱) ”عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: ”أحفوا الشوارب واعفوا اللحي“.

”وعن ابن عمر قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”خالفوا المشركين أحفوا

الشوارب وأوفوا اللحي“.

”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”جزوا

الشوارب وأرخوا اللحي خالفوا المجوس“ (الضحیح لمسلم، کتاب الطہارة، باب خصال الفطرة:

۱/۱۲۹، قدیمی)

نہیں کہ جو خطبہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی پڑھے (۱) اور جب مسائل سے واقف متبع سنت شخص موجود ہو تو داڑھی نہ رکھنے والے کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۹/ رمضان/ ۶۷ھ۔

الجواب صحیح سعید احمد غفرلہ، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۰/ رمضان/ ۶۷ھ۔

امام کس کو بنایا جائے کم داڑھی والے کو یا دوسرے متبع سنت کو؟

سوال [۲۵۸۲]: ایک موضع میں ایک صاحب ہیں جن کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے، لیکن

قرآن کریم تجوید سے پڑھتے ہیں، مسائل میں خاص جائگاری رکھتے ہیں، باعلم باشعور ہیں، حلال و حرام کی حدود قائم رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو تجوید سے قرآن پڑھتا ہو یا مسائل نماز و دیگر مسائل ضروریہ سے واقف ہو، مگر داڑھی ایک مشت والے ہیں۔ ایسی صورت میں کس کو امام بنایا جائے؟

۲..... اگر کوئی شخص لمبی داڑھی والا یہ کہہ کر جماعت میں نہ شریک ہو کہ داڑھی چھوٹی ہے، اس کا یہ فعل

کیسا ہے؟ ساتھ ہی چھوٹی داڑھی والے کو یہ کہنا کہ تم اپنی نماز گھر پر ادا کرو امامت نہ کرو، یہ کیسا ہے؟ حالانکہ بغیر تجوید والے کے پیچھے تجوید سے پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ چھوٹی داڑھی والے صاحب دوسرے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہیں؟

(۱) ”و کفت تحمیدة أو تحلیلة أو تسبیحة للخطبة المفروضة مع الكراهة، و قالوا: لا بد من ذکر طویل، و أقله قدر التشهد الواجب، اهـ“۔ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة: ۱۳۸/۲، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة: ۲۶۱/۲، رشیدیہ)

(و کذا فی النهر الفائق، کتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة: ۳۵۹/۱، مکتبہ امدادیہ ملتان)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة: ۵۳۰/۱، دارالکتب العلمیة بیروت)

(۲) ”بل مشی فی شرح المنیة علی أن کراهة تقدیمہ کراهة تحریم لما ذکرنا، و لذا لم تجز الصلوة خلفه أصلاً عند مالک، و روایة عن أحمد“۔ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۰/۱، سعید)

(و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، ۵۱۴، سهیل اکیڈمی لاہور)

الجواب حامدًا ومصلياً:

..... جو شخص ضروری مسائل طہارت و نماز سے واقف ہو اور قرآن پاک اتنا صحیح پڑھ لیتا ہو جس سے نماز درست ہو جائے اگرچہ باقاعدہ جوید سے واقف نہ ہو اور عمومی زندگی میں تبع سنت ہو اس کو امام بنا لیا جائے (۱)۔ اور جو شخص مسائل کثیرہ سے واقف ہو اور اس کا مطالعہ بھی وسیع ہو مگر عملی زندگی اس کی سنت کے مطابق نہ ہو، علی الاعلان سنت و شعار کی مخالفت کرتا ہو کہ داڑھی کو ایک مشت نہ بڑھنے دیتا ہو، اس سے پہلے ہی کٹا کر کم کر دیتا ہو اس کو امام نہ بنایا جائے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود نسری، دارالعلوم دیوبند، ۳/۹/۸۸۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۹/۸۸ھ۔

(۱) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للقواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراء، ثم الأورع، ثم الأسن.“ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۲۲۹، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۷، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۲) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى أه.“ (الدر المختار). وفي رد المحتار: ”قوله: وفاسق من الفسق): أي الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني وأكل الرباء ونحو ذلك.... على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم.“ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(و كذا في مراقب الفلاح مع حاشية الطحطاوي، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص ۳۰۲، ۳۰۳، قديمي)

داڑھی منڈے اور انگریزی بال والے کی امامت

سوال [۲۵۸۵]: انگریزی بال جس کے ہوں اس کے پیچھے نماز یا تراویح اور بوجہ داڑھی منڈے کے نماز یا تراویح جائز ہے یا نہیں؟

محمد ادریس۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے بشرطیکہ اس سے بہتر نماز پڑھانے والا موجود ہو: ”و کرہ إمامة العبد والأعرابي والفاسق“۔ بحر: ۱/۳۴۸ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۸/۵۷ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۸/۵۷ھ۔

ٹھوڑی کے بال کٹوانے والے کی امامت

سوال [۲۵۸۶]: اگر کسی شخص کے ٹھوڑی کے بال کٹے ہوئے ہوں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نیز داڑھی کی طول میں کتنی مقدار ضروری ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو بال داڑھی کا جزو ہیں ان کو ایک مشت تک پہنچنے سے پہلے کٹوانا اور منڈوانا جائز نہیں (۲)، جو امام

(۱) (البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۷، ۶۱۰، رشیدیہ)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، سعید)

(و کذا فی الہدایة، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، مکتبہ شرکتہ علمیہ ملتان)

(۲) ”عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”خالفوا المشرکین، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحي“.

”عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قال: ”أحفوا الشوارب وأعفوا اللحي“۔ (الصحيح لمسلم، کتاب الطہارۃ، باب خصال الفطرة: ۱/۱۲۹، قدیمی)

”والسنة فیہا القبضة:..... ولذا یحرم علی الرجل قطع لحيته“۔ (الدر المختار). ”قوله: =

ایسا کرتا ہے اس کی امامت مکروہ ہے (۱)، داڑھی ایک مٹھی رکھی جائے، جب تک ایک مٹھی نہ ہو جائے کٹوانا درست نہیں، جو مقدار ایک مٹھی سے زائد ہے اس کو کٹوانا درست ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۳/۸۹ھ۔

انگریزی بال والے کی امامت

سوال [۲۵۸۷]: ایک شخص جس کے سر پر انگریزی بال، داڑھی خشکی ہو، لباس بھی صالحین کا نہ ہو تو ایسے شخص کو بغیر بڑھائے امامت کے مصلے پر کھڑا ہونا کیسا ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

نائب امام کے ہوتے ہوئے دوسرے شخص کو خود امامت کے لئے آگے نہیں بڑھنا چاہئے، جس شخص کے سر کے بال داڑھی، لباس، خلاف شرع ہو اس کو نہ دوسرے لوگ امام بنائیں نہ وہ خود امامت کے لئے مصلے پر جائے، چونکہ ایسا شخص فاسق ہے اور فاسق کو مستقل امام بنانا مکروہ تحریمی ہے (۳)۔ فقط واللہ اعلم۔

= والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض الرجل لحيته، فمأزاد منها على قبضة، قطعه، كذا ذكره محمد رحمه الله تعالى في كتاب الآثار عن الإمام، قال: وبه أخذ، محيط. اهـ. (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ۶/۴۰، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيري، كتاب الكراهية، الباب التاسع في الختان والخصاء وقلم الأظفار وقص الشارب: ۵/۳۵۸، رشيدية)

(۱) ”ويكره إمامة عبدو أعرابي وفاسق وأعمى..... اهـ.“ (الدر المختار). ”قوله: وفاسق من الفسق): أي الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني و آكل الربا ونحو ذلك.“ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قديمي)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربى بيروت)
(۲) (راجع رقم الحاشية ۲)

(۳) ”ويكره إمامة عبدو أعرابي وفاسق وأعمى.“ (الدر المختار، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد) =

داڑھی منڈے کا عید کا خطبہ

سوال [۲۵۸۸]: ہمارے یہاں عیدین کا خطبہ وکیل صاحب پڑھتے ہیں جن کی داڑھی مونچھ صاف ہے، نماز دوسرے حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، دعاء تیسرے وکیل صاحب کراتے ہیں۔ تو یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ وکیل صاحب داڑھی کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ خطبہ کے لئے داڑھی کی کوئی قید نہیں ہے، اگر رکھنی ہی ہوگی تو ہم موسمی داڑھی رکھ لیں گے، یعنی خطبہ کے ایک ہفتہ پہلے رکھ لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اچھی بات تو یہ ہے کہ نماز اور خطبہ دونوں کام ایک ہی شخص انجام دے اگرچہ دونوں کام دو آدمیوں کے کرنے سے بھی ادا ہو جائیں گے (۱)۔ وکیل صاحب حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مان کر شرعی داڑھی رکھ لیں تو بہت بڑے اجر کے مستحق ہوں گے، موسمی داڑھی کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ یہ تو شریعت کے ساتھ فریب کاری ہے کہ خطبہ پڑھنے کی خاطر رکھی گئی ہے تاکہ لوگ اعتراض نہ کریں، کام وہ مقبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لئے ہو (۲)۔

= "بل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا، قال: ولذا لم تجز الصلوة خلفه أصلاً عند مالك، ورواية عن أحمد". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۲۰، سعيد)

(۱) "ولا يسغى أن يصلى غير الخطيب؛ لأنهما كشيء واحد، فإن فعل بأن خطب صلى بإذن السلطان وصلى بالغ، جاز، هو المختار". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة: ۲/۱۶۲، سعيد)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة: ۲/۲۵۸، رشيدية)

(و كذا فى النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة: ۱/۳۵۸، مكتبة امداديه ملتان)

(۲) "قال الله تعالى ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَاؤِهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ (سورة الحج: ۳۷)

"عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هجر إليه". (مشكوة المصابيح:

دعاء کے لئے تو کسی خاص شخص کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر شخص اپنی اپنی دعاء جس طرح پختگانہ نماز کے بعد مانگتا ہے اسی طرح عید کی نماز کے بعد مانگ لے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۵/۱۱/۸۹ھ۔

بڑی مونچھ والے کی امامت

سوال [۲۵۸۹]: اگر امام حافظ ہو اور وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہو جن سے ہونٹ ڈھکے ہوئے ہوں اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ داڑھی میں مونچھ رکھتا ہے۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

اتنی بڑی مونچھ رکھنا جس سے ہونٹ بالکل ڈھک جائے، حدیث شریف کے خلاف اور مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۷/۲/۹۲ھ۔

(۱) ”عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: ”أحفوا الشوارب وأعفوا اللحي“.

”وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، وأوفوا اللحي“.

”عن أبي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”جزوا الشوارب، وأرخوا اللحي وخالفوا المجوس“۔ (الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة: ۱/۱۲۹، قديمی)

”وأما روايات ”أحفوا الشوارب“ فمعناها: أحفوا ما طال على الشفتين“۔ (شرح النووي على صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة: ۱/۱۲۹، قديمی)

”وتفسير القص أن ينقص حتى ينتقص عن الإطار، وهو بكسر الهمزة، ملتقى الجلد واللحم من الشفة“۔ (رد المحتار كتاب الحج، باب الجنایات: ۲/۵۵۰، سعيد)

”قال القاری: قال ابن حجر: فيسن إحفاءه حتى تبدو حمرة الشفة العليا“۔ (بذل المجهود،

كتاب الطهارة، باب السواك من الفطرة: ۱/۳۳، مكتبة امداديه ملتان)

رشوت خور کی امامت

سوال [۲۵۹۰]: رشوت خور کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک حافظ صاحب پر شبہ ہے کہ وہ رشوت کا مال بھی کھاتا ہے اور زمین بھی لیتا ہے تو آیا اس صورت میں اس کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ فقط۔
الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اس سے بہتر امام موجود ہو تو رشوت خور کو امام بنانا مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

سود خور کی امامت

سوال [۲۵۹۱]: زید سود کھاتا ہے اور لوگوں کا سامان رہن پہ سود رکھتا ہے اور فال وغیرہ دیکھتا ہے اور لوگوں کی قسمت کا حال بیان کرتا ہے اور کان سے بہرا ہے، قرآن مجید غلط پڑھتا ہے، تعویذات قیمتیہ فروخت کرتا ہے، زید مذکور بستی کا امام اور قاضی ہے اور معمولی مدرس، مذکورہ صفات کا حامل ہو کر زید امامت اور قضاة کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب قرآن کریم اور احادیث مقطوع و فقہ ائمہ مجتہدین اہل السنۃ والجماعت کی رو سے عنایت فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

سود کھانا حرام ہے (۲) اسی طرح سود پر سامان رکھنا حرام ہے (۳)، فال دیکھنا بھی منع ہے اور قسمت کا حال خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں: ﴿و ما تدری نفس ما ذات کسب غداً﴾ الایۃ، لہذا قسمت کا حال بیان کرنا غیب کا دعویٰ کرنا ہے یہ سخت خطرناک کبیرہ گناہ بلکہ شرک ہے (۴)۔

(۱) "ویکفرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمی". (الدر المختار). "قولہ وفاسق): من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من یرتکب الكبائر کشارب الخمر، والزانی و آکل الربا و نحو ذلك". (ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، فصل فی بیان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قدیمی)

(و کذا فی مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، کتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(و کذا فی الهدایة، کتاب الصلوة، بالإمامة: ۱/۱۲۲، مکتبہ شركة علمية ملتان)

(۲) قال الله تعالیٰ: ﴿الذین یأکلون الربا لا یقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، =

= ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. (سورة البقرة: ۲۷۵)

”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ”اجتنبوا السبع الموبقات“: أي المهلكات، قالوا: يا رسول الله! وماهن؟ قال: ”الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات“. أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي“.

”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”الربا سبعون حوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه“. أخرجه ابن ماجه و البيهقي“.

”عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تشتري الثمرة حتى تعظم“. وقال: ”إذا ظهر الزنا والربا في قرية، أحلوا بأنفسهم عذاب الله“. (الحاكم وصححه). (الزواج عن اقتراف الكبائر، كتاب البيع، الكبيرة التاسعة والسبعون والحادية والثمانون، والثانية والثالثة والرابعة والثمانون بعد المائة: أكل الربا وإطعامه و كتابته الخ: ۱/ ۳۷۸، دار الفكر بيروت)

(۳) ”لا انتفاع به مطلقاً، لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو رهن إلا باذن كل للآخر، وقيل: لا يحل للمرتهن؛ لأنه ربا، وقيل: إن شرطه كان ربا، وإلا لا“.

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”(قوله: وقيل: لا يحل للمرتهن) وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندي - وكان من كبار علماء سمرقند - أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الرهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملاً فتبقى له المنفعة فضلاً؛ فيكون ربا، وهذا أمر عظيم..... ويؤيده قول الشارح الأتي في آخر الرهن: إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية، فتأمل..... قلت: والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولا ذلك لما أعطاه الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط؛ لأن المعروف كالمشروط، وهو مما يعين المنع“. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الرهن: ۲/ ۲۸۲، سعيد)

(۴) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنزِلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (سورة لقمان: ۳۴)

= ”هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها.....“

بہرہ ہونے میں اس کے اختیار کو کچھ دخل نہیں اس میں وہ معذور ہے اور نہ اس سے امامت وغیرہ ناجائز ہو سکتی ہے، قرآن مجید غلط پڑھنے سے بسا اوقات ایسی غلطی ہوتی ہے کہ اس سے معنی بگڑ کر نماز فاسد ہو جاتی ہے، جائز تعویذ پر معاوضہ لینا یا اس کو فروخت کرنا بھی منافی امامت نہیں (۱)۔

یہ جملہ امور زید کو اولاً نرمی سے سمجھائیے جاویں اگر وہ ناجائز امور سے توبہ کر لے تب تو خیر ورنہ اس کو امام بنانا ناجائز ہے، اس کو امامت سے علیحدہ کر کے کسی دوسرے صالح اور لائق شخص کو امام بنایا جائے، زید اگر توبہ کر کے امام رہے یا امامت سے علیحدہ کر دیا جائے، ہر صورت میں اس کو قرآن مجید صحیح کرنا ضروری ہے، غلط پڑھنے سے خود اس کی نماز خراب ہوگی اور مقتدیوں کی بھی، کم از کم دو تین سورتیں ضرور صحیح کر لے بقیہ قرآن مجید صحیح ہونے تک صحیح سورتوں کو نماز میں پڑھا کرے (۲)۔

= و کذا لا تدری نفس ما ذاتکسب غداً فی دنیاها و آخرها..... وأيضاً قال: ﴿ما تدری نفس ما ذا تکسب غداً﴾ «أخيراً أم شرّاً، و لا تدری - یابن آدم! - متى تموت لعلک المیت غداً، لعلک المصاب غداً». (تفسیر ابن کثیر: ۵۹۹/۳، ۶۰۱، دار الفیحاء دمشق)

”قلت: و حاصله أن دعوی علم الغیب معارضة لنص القرآن فیکفر بها، إلا إذ أسند ذلك صریحاً أو دلالةً إلى سبب الله تعالى کَوْحِي أو إلهام، و کذا لو أسند إلى أمانة عادية بجعل الله تعالى..... و لو لم یعتقدہ بقضاء الله تعالى أو ادعی علم الغیب بنفسه، یکفر“. (رد المحتار، کتاب الحدود، باب المرتد: ۲۴۳/۴، سعید)

(۱) ”جوڑوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن، كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضه، بل من التداوي“. (رد المحتار کتاب الإجارة، باب الإجارة الفاسدة: ۵۷/۶، سعید)

(و کذا فی العرف الشذی علی هامش جامع الترمذی، أبواب الطب عن رسول الله صلی الله تعالى علیه وسلم، باب ما جاء فی أخذ الأجر علی التعویذ: ۲۶/۲، ۲۷، سعید)

(۲) ”والأحق بالإمامة الأعلی بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، و حفظه قدر فرض، وقیل: واجب، وقیل: سنة، ثم الأحسن تلاوةً و تجويداً للقراءة، ثم الأورع: أى الأكثر اتقاءً للشبهات، والتقوى: اتقاء المحرمات“. (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة:

”ویکرة إمامة عبد وأعرابي و فاسق، اھ۔“ تنویر (۱)۔ ”لو قدموا فاسقاً، یاثمون بناءً علی أن کراهة تقدیمه کراهة تحریم، اھ۔“ کبیری (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
 حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۳/۱۲/۵۹ھ۔
 الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۲۵/صفر، عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۷/صفر/۵۹ھ۔
 امام کو سود کھلانا اور اس کے پیچھے نماز

سوال [۲۵۹۲]: زید کی مسجد میں ایک امام صاحب ہیں جو بہت متقی و پرہیزگار ہیں اور محلہ میں سود دینے والوں کے یہاں کھانا کھاتے ہیں۔ تو ان کا یہ کھانا کھانا جائز ہوگا یا نہیں اور ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟
 الجواب حامداً ومصلياً:

محلہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ امام صاحب کو حلال کمائی سے کھانا کھلائیں، یا حلال کمائی سے اتنی تنخواہ دیں کہ وہ اپنے کھانے کا خود انتظام کر لیں، سود لینا حرام اور سود سے بچنا فرض ہے (۳)، خود بھی وہ توبہ کریں (۴) اور امام صاحب کو بھی سود نہ کھلائیں۔ اگر امام صاحب کو معلوم ہو کہ یہ سودی مال سے نہیں کھلاتے بلکہ حلال کی کمائی سے کھلاتے ہیں، مثلاً سود کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ آمدنی ہے، یا قرض لے کر کھلاتے ہیں تو وہ مال حرام نہیں، اس کا کھانا درست ہے (۵)۔ حرام کھانے والے کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوگی (۶)، جو سود

(۱) (الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(۲) (الحلبی الکبیر، کتاب الصلوٰۃ، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سہیل اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی الهدایة، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، مکتبہ شرکتہ علمہ ملتان)

(۳) قال اللہ تعالیٰ: ﴿يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا أضعافاً مضاعفة﴾. (سورة آل عمران: ۱۳۰)

(۴) ”واتفقوا علی أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وإنها واجبة علی الفور، لا يجوز تأخيرها سواء كانت صغيرة أو كبيرة“۔ (شرح النووی علی الصحیح لمسلم، کتاب التوبة: ۲/۳۵۳، قدیمی)

(۵) ”أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه، إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس، إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام، إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع“۔ (الفتاویٰ العالمکیرية، الباب الثانی عشر فی الهدایا والضيافات: ۵/۳۳۲، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ البزازية علی هامش الهندية، الرابع فی الهدية: ۶/۳۶۰، رشیدیہ)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الکراهية، فصل فی الکسب: ۲/۵۲۹، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(۶) ”ویکرة إمامة عبد وأعرابي و فاسق وأعمى“۔ (الدر المختار)۔ ”قوله: و فاسق (من الفسق: وهو =

دیتا ہے وہ گنہگار ہے مگر اس کا مال حرام نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

غاصب کی امامت

سوال [۲۵۹۳]: ایک امام جو مدت سے مسجد میں رہتا تھا اس نے پانچ ملزموں پر دعویٰ کیا کہ ان لوگوں نے زمین مسجد معافی خدمت ہوئی ہے یا جبراً گاؤں والوں نے بوائی ہے اور میرے بل چھڑا دیئے اور یہ کہتا ہے کہ یہ زمین ملک مسجد معافی خدمت نہیں ہے اور زمین دار اہل ہنود سے ہے، جس نے زمین مسجد کے نام کی ہے وہ کہتا ہے کہ ملک مسجد معافی خدمت ہے اور امام کہتا ہے کہ میری ہے اس میں مسجد کا کوئی حق نہیں۔ تو اس شخص کے پیچھے یا اس کے بھائی، اولاد وغیرہ کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص مسجد کی ملک کو اپنی ملک بتائے اور دعویٰ اپنی ملک کا کرے اور زمین مسجد دانا چاہے وہ شخص شرعاً فاسق ہے، لہذا اس سے بہتر اگر امامت کا اہل کوئی دوسرا شخص مل جاوے تو اس کو امام بنانا چاہئے۔ اس کو امام بنانا مکروہ ہے جب تک وہ پختہ توبہ نہ کرے، اسی طرح اس کا بھائی یا اولاد اس کے فعل پر راضی اور اس کے مددگار ہوں تو ان کو بھی امام نہ بنانا چاہئے جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں (۲)، لیکن اگر وہ نماز پڑھا دے تو ادا

= الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني و آكل الربوا

نحو ذلك“۔ (رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۵۶۰، سعید)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة : ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث

العربی بیروت)

(۱) ”عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آكل الربوا وموكله و

كاتبه و شاهده، و قال: ”هم سواء“۔ رواه مسلم“۔ (مشکوٰۃ المصابيح، کتاب البيوع، باب الربوا :

۱/۲۳۲، قدیمی)

(۲) (راجع عنوان ”امام کوشود کھلانا“)

ہو جائے گی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۴/۷/۵۲ھ۔

صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۶/رجب المرجب/۵۲ھ۔

قرض ادا نہ کرنے والے کی امامت

سوال [۲۵۹۴]: کوئی آدمی تاجر تھا اس کا کام فیل ہو گیا، لوگوں کا پیسہ اس کے پاس موجود ہے

اور دوسرے لوگوں کے پاس اس کا روپیہ موجود ہے، جب وہ دائن اپنا قرض طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں دوسرے

لوگوں نے ہمارا روپیہ مار لیا ہم تمہارا پیسہ نہیں دیں گے۔ کیا حق العباد تلف کرنے والے کے پیچھے نماز درست ہے

جبکہ وہ معاف بھی نہ کرایا ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص دوسروں کا روپیہ مار لے اور استطاعت کے باوجود واپس نہ دے اور مطالبہ کرنے پر یہ کہدے

میرا روپیہ غیروں کے پاس مارا گیا، اسلئے میں تمہارا روپیہ نہیں دیتا، وہ شخص بہت گنہگار ہے، اس کو امام بنانا مکروہ

تحریمی ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۸/۷/۹۲ھ۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، ۸/۷/۹۲ھ۔

(۱) ”وإن تقدموا جاز، لقوله عليه السلام: ”صلوا خلف كل بر وفاجر“۔ (تبیین الحقائق، کتاب

الصلاة، باب الإمامة: ۱/۳۳۶، دارالکتب العلمیة، بیروت)

”هذا إن وجد غیرهم، وإلا فلا كراهة اه..... صلی خلف فاسق أو مبتدع، نال فضل

الجماعة“۔ (الدر المختار، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من يصلح للإمامة: ۱/۶۶۶، دارالکتب العلمیة، بیروت)

(۲) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“۔ ”(قوله: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن

الاستقامة، ولعل المراد به من یر تكب الكبائر كشارب الخمر والزانی، و آكل الرباء ونحو ذلك“۔

(الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید) =

خائن کی امامت

سوال [۲۵۹۵]: امام صاحب حج کو گئے، مسجد کا گھنٹہ لانے کے لئے پیسے دیئے گئے، انہوں نے بمبئی میں لا کر بیچ دیا اور کم روپے کا بمبئی سے خرید کر مسجد میں دیدیا۔ ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

جو گھنٹہ مسجد کے روپے سے خریدا، اس کو فروخت کر کے خود نفع کمانا جائز نہیں، یہ خیانت ہے (۱) پھر جو پرانا گھنٹہ خرید کر دیا ہے اگر وہ مسجد کے لئے مناسب ہو تو اس کو رکھ لیا جائے، اور جو نفع پہلے گھنٹہ کو فروخت کرنے سے ملا ہے وہ بھی مسجد کے واسطے لے لیا جائے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۷/۹۳ھ۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

= (و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱۰۸/۱، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(و كذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قديمی)

(۱) قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (سورة الأنفال: ۲۷)

”قلت: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية.“ (تفسير ابن كثير: ۳۹۸/۲، دار الفيحاء بيروت)

”عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.“ (صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق: ۱۰/۱، قديمی)

(۲) ”وأمله أن الغاصب والمودع إذا تصرف في المغصوب أو الوديعة وربح، لا يطيب له الربح عندهما =

مسجد و مدرسہ کی رقم میں خیانت کرنے والے کی امامت

سوال [۲۵۹۶]: اگر کسی مسجد کے پیش امام نے مسجد یا مدرسہ کے حساب و کتاب میں جو کہ منتظمین کمیٹی نے اس کے ذمہ کر دیا ہو اور اس نے کوئی خیانت کی ہو، اور منتظمہ کمیٹی کو اس کا مکمل ثبوت بھی مل گیا، ایسی حالت میں مذکورہ کمیٹی پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ امام موصوف سے امامت کراتے رہیں یا منصب امامت سے انہیں علیحدہ کر دیں؟ ایسی حالت میں نمازیوں کی نماز کے بگڑنے کے ذمہ دار صرف امام صاحب ہونگے یا کہ مذکورہ کمیٹی پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اللہ کے یہاں مذکورہ کمیٹی بھی ذمہ دار ٹھہرائی جائے گی؟

۲..... پیش امام کی سپردگی میں ایک دینی مدرسہ ہے، مسجد کی منتظمہ کمیٹی امام صاحب کو مدرسہ کے چندہ وغیرہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، عطیات و خیرات و چرم قربانی کی رقومات جمع کر کے باقاعدہ حساب رکھتے ہوئے..... مناسب خرچ کرنے کا ذمہ دار بنا دیتی ہے، جب ان سے حساب مانگا گیا اور انہوں نے حساب پیش کیا اس میں کچھ رسیدات و اخراجات پیش نہیں کئے گئے اور تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حساب اخراجات سے بے شمار زیادہ ہے جس سے بددیانتی ثابت ہوتی ہے۔ کیا از روئے شریعت ایسا حساب جائز ہے اور ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا یا اس سے نماز پڑھوانا کیسا ہے اور شریعت مطہرہ میں ایسے امام کی کیا سزا مقرر ہے؟

۳..... امام موصوف نے چار طلباء کو کپڑے بنا کر دینا حساب میں لکھا ہے، تحقیقات سے معلوم ہوا کہ نہ کپڑے بنوائے گئے اور نہ طلباء کو دیئے گئے اور بددیانتی سے وہ رقم حساب میں لکھ دی گئی، اس پیسہ کی خیانت ہوئی اور جھوٹا حساب منتظم کمیٹی کو دیا گیا۔ کیا امام صاحب کا یہ عمل از روئے شرع جائز ہے؟

۴..... امام صاحب کے حساب پیش کرنے کے بعد جو رقم تحویل باقی نکالی جو کہ اخراجات کے علاوہ ان کے پاس باقی رہی تھی انہوں نے اس میں سے کچھ رقم جمع کر کے لکھ دیا۔

= خلافاً لأبی یوسف وقال مشايخنا: لا يطيب له قبل أن يضمن و كذا بعد الضمان بكل

حال، و هو المختار، لإطلاق الجواب في الجامعين والمبسوط، (الهداية، كتاب الغصب : ۳/۳۷۳،

۳۷۴، مکتبہ امدادیہ ملتان)

و الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير، كتاب الغصب ص: ۲۶۶، ۲۶۷، ادارة القرآن كراچی)

۵..... امام موصوف سے جب ایک دوسرے مد کا حساب لیا گیا تو انہوں نے بہت کم رقم تحویل باقی میں بتلائی اور جب ان کے حساب کے مطابق پانچ کمیٹی کے معزز اہل شرع حضرات نے جانچ کی تو وہ رقم تحویل باقی جو امام صاحب نے پیش کی تھی اس سے چار گنا زیادہ نکلی، تحویل کی یہ رقم موصوف نے خود خرچ کر ڈالی، مطلوبہ رقم مانگنے پر تنخواہ میں سے کاٹنے کو کہہ دیا، حالانکہ یہ رقم موصوف کے پاس ہمیشہ امانت رکھی جاتی تھی۔

۶..... امام موصوف کو جب یہ پتہ چلا کہ میرے دیئے ہوئے حساب کے لئے کمیٹی مقرر کر دی گئی ہے اور میری خیانتیں اب منظر عام پر منتظمہ کمیٹی کے اور عوام کے سامنے آ جائیں گی تو امام صاحب نے سیدھے سادے مسلمانوں کو منتظمہ کمیٹی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور اپنے بچاؤ کے لئے ایک گٹ بنایا اور پارٹی بندی کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی بھرپور کوشش کی اور قوم کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا۔ اس امام کا یہ عمل کیسا ہے اور ایسے امام کی کیا سزا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا یا پڑھوانا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱-۶..... جھوٹ، خیانت، غبن، اپنے قصور کو چھپانے کے لئے تفرقہ و انتشار پھیلانا یہ امور ایسے ہیں جن کا حکم کسی مسلمان پر بھی مخفی نہیں (۱)، سب ہی جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ناجائز اور گناہ ہے اور منصب امامت

(۱) "عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلاً من نتن ما جاء به". (مشکوٰۃ المصابیح، باب حفظ اللسان: ۴۱۳/۲، قدیمی)

"و عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، و إذا وعد أخلف، و إذا أؤتمن خان". (مشکوٰۃ المصابیح، باب الكبائر، الفصل الأول: ۱/۱، قدیمی)

"و عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ".....
"ولا تناجسوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا، و كونوا عباد الله إخواناً". (مشکوٰۃ المصابیح، باب ما ينهى عنه من التهاجر، الفصل الأول، ص: ۴۲۷، قدیمی)

"و عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "إياكم و سوء ذات البين، فإنها الحالقة". (مشکوٰۃ المصابیح، باب ما ينهى عنه من التهاجر، الفصل الثاني، ص: ۴۲۸، قدیمی)

بلند منصب ہے، امام کو سب مقتدیوں سے زیادہ متبع سنت اور بلند کردار ہونا چاہئے (۱)، یہ بد قسمتی ہے کہ مقتدیوں کو ایسے امام ملتے ہیں، تاہم اگر امام صاحب امانت کی چیزیں اور ان کا حساب صحیح صحیح سے دیں اور پختہ توبہ کر لیں اور یہ توبہ امانت کی خاطر نہ ہو بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے ہو اور ان کے حالات سے اطمینان ہو جائے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کو معاف کر دیا جائے (۲) ورنہ دوسرے دیانت دار لائق امام کو تجویز کر لیا جائے۔ اولاً کچھ روز کے لئے عارضی طور پر امانت کا انتظام کسی اور دیانت دار کے سپرد کر دیا جائے، تو بہتر ہے تاکہ امام موصوف اس الجھن سے علیحدہ رہیں اور صرف نماز پڑھانا ان کے ذمہ رہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/۴/۱۴۰۱ھ۔

رہن کی آمدنی کھانے والے کی امانت

سوال [۲۵۹۷]: ایک شخص امام مسجد ہے اور قوم سے راعی ہے اور وہ زمین رہن رکھتا ہے اور بٹائی کے لئے دیتا ہے۔ اس کے پیچھے نماز جماعت جائز ہے یا نہیں؟

۲..... اور اس امام سے جو دریافت کیا کہ آپ کے پاس زمین رہن ہے تو امام صاحب نے قرآن شریف کی قسم کھائی کہ میرے پاس زمین رہن نہیں، اس کے پیچھے پٹواری صاحب حلقہ کے جو کاغذات رجسٹری

(۱) فإن استووا فی العلم فأورعهم : قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم : "من صلی خلف عالم تقی، فکانما صلی خلف نبی". (بدائع الصنائع، کتاب الصلوة، فصل فی بیان من هو أحق بالإمامة: ۶۷۰/۱، دارالکتب العلمیة، بیروت)

(و کذا فی رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۲/۱، سعید)

(۲) "وقد منا أنه لا یعزله القاضی بمجرد الطعن فی أمانته، ولا یخرجه إلا بخيانة الظاهرة بیئنة..... ثم تاب وأتاب أعاده". (البحر الرائق، کتاب الوقف: ۳۱۱/۵، رشیدیہ)

(۳) "إذا ظهرت خیانتہ فإن القاضی یعزله وینصب أمیناً..... فرأى الحاکم أن یدخله معه آخر أو یخرجه من یدہ ویصیره إلى غیره..... لا ینبغی للقاضی أن یأمن الخائن بل سبیلہ أن یعزله..... أو یضم إليه ثقة الخ. وقد یقال: إن المراد من عزله إزالة ضرره عن الوقف، وذلك حاصل بضم ثقة". (البحر الرائق مع منحة الخالق، کتاب الوقف: ۳۹۱/۵، ۳۹۲، رشیدیہ)

انتقال دیکھا تو کئی رہن امام صاحب کے نام نکلے۔ اب عندالشرع اس امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا کہ نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... رہن کی آمدنی مرتبہ کو کھانا جائز نہیں (۱) امام اگر اس سے باز نہ آئے تو اس کی امامت ناجائز ہے (۲) جبکہ اس سے بہتر امامت کے لائق دوسرا اور امام موجود ہو، البتہ اگر اس آمدنی کو زریعہ میں منہا کر دے تو درست ہے۔

(۱) "قال في المنح: وعن عبد الله محمد بن أسلم السمرقندی - وكان من كبار علماء سمرقند - أنه لا يحل له أن ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الرهن؛ لأنه أذن له في الربا؛ لأنه يستوفي دينه كاملاً فتبقى له المنفعة فضلاً، فيكون ربا، وهذا أمر عظيم..... قلت: هذا مخالف لعامة المعتمرات من أنه يحل بالإذن..... ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطاً، صار قرضاً فيه منفعة وهو ربا..... قلت: والغالب من الناس انهم يريدون عند الارتفاع، ولولا له لما أعطاه الدراهم، وهذا بمنزلة الشرط؛ لأن المعروف كالمشروط." (ردالمحتار، كتاب الرهن: ۶/۳۸۲، سعيد)

(و كذا في ملتقى الأبحر مع سكب الأنهر، كتاب الرهن: ۲/۵۸۸، دار إحياء التراث العربي، بيروت)
(۲) "لكونه فاسقاً، لو قدموا فاسقاً يَأْتُمُونَ بِنَاءً عَلَى أَنْ كَرَاهَةَ تَقْدِيمِهِ كَرَاهَةَ تَحْرِيمِ الْخ." (الحلبى الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيذمي لاهور)

"ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى ومبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها، فلا يصح الاقتداء به أصلاً، وولد الزنا. هذا إن وجد غيرهم، وإلا فلا كراهة." (الدر المختار). وفي رد المحتار: "قوله: وفاسق) وهو الخروج عن الاستقامة: أى ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزانى واكل الربا ونحو ذلك..... على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم." (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ۵۵۹/۱، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱۰۸/۱، دار إحياء التراث العربى، بيروت)

(و كذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل فى بيان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قديمى)

۲..... اگر واقعہً امام نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور وہ رہن کی آمدنی لیتا ہے تو جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کو امام بنانا مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم، سہارنپور، ۱۳/ شعبان/ ۵۹ھ۔
صحیح: عبداللطیف مدرسہ ہذا۔

مکان کا کرایہ نہ دینے والے کی امامت

سوال [۲۵۹۸]: جو شخص نہ مکان خالی کرے اور نہ ہی کرایہ ادا کرے اور مالک مکان کو پریشان کرے تو ایسے شخص کی امامت کیسی ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

مکان خالی نہ کرنا، نہ کرایہ ادا کرنا یہ ظلم و غصب ہے، ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے جب تک وہ توبہ کر کے اصلاح نہ کر لے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

امام صاحب کیلئے کسی عامل کی منی پینا

سوال [۲۵۹۹]: یہاں پر پیش امام حافظ ہے، اخلاق اچھے ہیں، شریعت کے پابند ہیں، پوری جماعت ان سے خوش ہے، مگر ایک بار ایسی غلطی سرزد ہوگئی کہ امام نے ایک عامل متقی پر ہیزگار کی منی پی لی (پیالہ

(۱) (راجع، ص: ۱۴۲، رقم الحاشیة: ۲)

(۲) ”(ویکرہ إمامة فاسق وأعمی)“ (الدر المختار). وقال ابن عابدين: (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من یر تکب الكبائر كشارب الخمر والزانی، وآكل الربا ونحوها..... وأما الفاسق، فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا یهتم لأمر دینه وبأن فی تقديمه للإمامة تعظیمه، وقد وجب علیهم إهانته شرعاً..... بل مشی فی شرح المنیة علی أن كراهة تقديمه كراهة تحریم.“

(ردالمحتار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلاة، فصل: ۱/ ۶۳، غفاریہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۱۳۴، امدادیہ)

میں لے کر) اور کہا مجھے یہ بشارت ہوئی تھی کہ ان کی منی پینے سے دلی مراد حاصل ہوگی۔

مگر اب امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا غلبہ تھا جس کی بناء پر یہ عظیم غلطی سرزد ہوئی، معافی کا خواستگار ہوں، وہ بیچارے خدا کے حضور میں بھی گڑگڑاتے ہیں، اپنی جہالت کے قائل ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے اور شرعاً کیا سزا ہوگی؟ وہ شریعت کا ہر حکم ماننے کو تیار ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

منی خواہ کسی عامل متقی کی ہو یا کسی فاسق و فاجر کی ہو نجس اور حرام ہے، اس کا پینا نجس اور حرام چیز کا پینا ہے، جس کو ایسی بشارت ہو کہ منی پینے سے مراد پوری ہوگی اس کو اس پر عمل کرنا جائز نہیں، ایسی بشارت شیطان کی طرف سے ہے (۱)۔ اف! امام صاحب سے سخت غلطی ہوگئی، اگر وہ سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کریں اور اطمینان ہو کہ ان عامل صاحب یا کسی بھی عامل صاحب کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی امامت درست ہوگی (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "ثم نجاسة المنى عندنا مغلظة..... وفي المسعودي: منى الإنسان نجس، وكذا منى كل حيوان"

(البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ۱/۳۹۰، رشیدیہ)

(و كذا في رد المحتار على الدر المختار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ۱/۳۱۳، سعید)

"قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم". (رد المحتار، كتاب

الطهارة، باب الأنجاس: ۱/۲۱۰، سعید)

(۲) قال سبحانه وتعالى: ﴿وإني لغفار لمن تاب﴾ الآية (سورة طه: ۸۲)

"وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا

اعترف، ثم تاب، تاب الله عليه". (مشكوة المصابيح، باب الاستغفار والتوبة، الفصل الأول، ص:

۲۰۳، قديمی)

"وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التائب

من الذنب كمن لا ذنب له". (مشكوة المصابيح، باب الاستغفار والتوبة، الفصل الثالث،

ص: ۲۰۶، قديمی)

ناجائز رقم سے پنکھا خریدنے والے کی امامت

سوال [۲۶۰۰]: زید مسجد کا امام ہے مگر زید کے حجرے میں جو بجلی کا پنکھا لگا ہے وہ چندہ سے لایا گیا ہے جس میں ایسے لوگوں کا پیسہ ہے جن کا شراب کا مکمل دھندہ ہے اور سینما کا بھی پیسہ ہے اور زید ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ لہذا جو امام ایسے روپے سے لائے ہوئے پنکھے سے ہوا استعمال کرتا ہے تو کیا شریعت کے نزدیک ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام کو ناجائز پیسوں سے پنکھا خریدنا درست نہیں تھا (۱)، اگر ناجائز و ناجائز دونوں قسم کا پیسہ پنکھے کی قیمت میں لگایا تو اس میں گنجائش ہے، تاہم شراب کی قیمت اور سینما کی آمدنی سے امام صاحب کو پیسہ لینا نہیں چاہئے، اگر سینما و شراب والوں کے پاس جائز پیسہ بھی ہو تو وہ پیسہ لینا درست ہے (۲)، امامت ان امام صاحب کی درست ہے، ایسے پنکھے کی حجرہ میں ہوا لگنے کی وجہ سے ان کی نماز اور انکے پیچھے مقتدیوں کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر امام صاحب ناجائز پیسے سے خریدے ہوئے پنکھے کو وہاں سے ہٹا کر جائز پیسے سے خریدا ہو اپنکھا استعمال کریں تو معترض کا یہ اعتراض بالکل ختم ہو جائے گا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔

(۱) "اكتسب حراماً واشترى به أو بالدرهم المغصوبة شيئاً، قال الكرخي رحمه الله تعالى: إن نقد قبل البيع، تصدق بالربح، وإلا لا، وهذا قياس. وقال أبو بكر: كلاهما سواء، ولا يطيب له". (الدر المختار، كتاب البيوع، باب المتفرقات: ۲۳۵/۵، سعید)

(۲) "أهدى إلى رجل شيئاً أو أضافه، إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس، إلا أن يعلم بأنه حرام. فإن كان الغالب هو الحرام، ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام، إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع". (الفتاوى العالمكيري، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات: ۳۲۲/۵، رشیدیہ)

(و كذا في الفتاوى البزازية على هامش الهدية، الرابع في الهدية: ۳۶۰/۶، رشیدیہ)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فصل في الكسب: ۵۲۹/۲، دار إحياء التراث العربي)

بغیر دباغت چمڑے کا کاروبار کرنے والے کی امامت

سوال [۲۶۰۱]: ایک مسلمان بغیر دباغت چمڑہ کا بیوپار کرتا ہے اور بازار کا بیٹھنے والا ہے، وہ شخص

امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام صحیح العقیدہ، قرآن پاک صحیح پڑھنے والا، مسائل نماز و طہارت سے واقف، متبع سنت ہونا چاہئے (۱)۔ مردار کی کھال بغیر دباغت بیچنا اور خریدنا جائز نہیں، یہ بیع باطل ہے (۲)، ایسے کاروبار کرنے والے کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے (۳)۔ دباغت کے بعد بیع و شرا درست ہے (۴)، دباغت کے لئے کھال کو باقاعدہ

(۱) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوةً للقرأة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً، ثم الأحسن وجهاً، ثم الأشرف نسباً، ثم الأنظف ثوباً“۔ (تنوير الأَبصار مع الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/ ۵۵۷، ۵۵۸، سعيد)

(۲) ”عن عبد الله بن عكيم رضى الله تعالى عنه قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب“۔ (جامع الترمذی، أبواب اللباس، باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت : ۱/ ۳۰۳، سعيد)

”وجلد ميتة قبل الدبغ لو بالعرض، ولو بالثمن، فباطل . ولم يفصله ههنا اعتماداً على ما سبق، قاله الدانى كما لا يخفى“۔ (الدر المختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد : ۵/ ۷۳، سعيد)

(۳) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى، إلا أن يكون أعلم القوم“۔ (تنوير الأَبصار مع الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/ ۵۵۹، سعيد)

(۴) ”عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”أيما إهاب دبغ، فقد طهر“۔ (جامع الترمذی، أبواب اللباس، باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت : ۱/ ۳۰۳، سعيد)

”وجلد ميتة قبل الدبغ لو بالعرض، ولو بالثمن فباطل وبعده: أى الدبغ يباع، إلا جلد إنسان وخنزير وحيّة“۔ (الدر المختار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد : ۵/ ۷۳، سعيد)

پکانا بھی ضروری نہیں بلکہ دھوپ میں یا نمک وغیرہ مسالہ لگا کر ایسا بنا لینا بھی کافی ہے کہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہ سکے اور خون کی رطوبت ختم ہو جائے (۱)، جو جانور شرعی طور پر ذبح کیا جائے اس کی کھال بغیر دباغت ہی پاک ہے (۲)۔ خنزیر کی کھال کسی طرح پاک نہیں ہوتی، وہ نجس العین ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

حج میں ایفون کی سمگلنگ کرنے والے کی امامت

سوال [۲۶۰۲]: ایک امام مسجد حج کے بہانہ ایفون لیکر عرب جاتے ہیں اور وہاں سے سونا لاتے ہیں اور رشوت دے کر نکل آتے ہیں، ایسے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس سے اکثر مقتدی ناراض ہیں۔ فقط۔
منور حسین، محلہ دیپا سرائے سنجل، مراد آباد۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

اگر شخص مذکور کو اس کا اعتراف ہے یا اس پر شرعی شہادت موجود ہے تو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے

(۱) ”والدباغ على ضربين: حقيقي و حكمي، فالحقيقي هو أن يدبغ بشيء له قيمة كالشبه والقرظ والعفص وقشور الرمان و لُحي الشجر و الملح و ما أشبه ذلك، و الحكمي أن يدبغ بالتشميس والتتريب والإلقاء في الريح، لا بمجرد التجفيف“، (البحر الرائق، كتاب الطهارة: ۱/ ۱۷۹، رشیدیہ)
(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضوء: ۱/ ۲۵، رشیدیہ)

(۲) ”وما: أي إهاب طهر به بدباغ، طهر بذكاة على المذهب“، (الدر المختار، كتاب الطهارة، باب المياه: ۱/ ۲۰۴، ۲۰۵، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، الفصل الثاني فيما لا يجوز به التوضوء: ۱/ ۲۵، رشیدیہ)

(۳) ”قوله: إلا جلد الخنزير والادمي) یعنی كل إهاب دُبغ، جاز استعماله شرعاً، إلا جلد الخنزير لنجاسة عينه“، (البحر الرائق، كتاب الطهارة: ۱/ ۱۷۹، رشیدیہ)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الطهارة، باب المياه: ۱/ ۲۰۴، ۲۰۵، سعید)

جب تک وہ توبہ نہ کرے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۳/۸۹ھ۔

غلط مسئلہ بتانے والے کی امامت

سوال [۲۶۰۳]: جو شخص اکثر مسئلہ غلط بتاتا ہو اور اپنے اندر عالم ہونے کا فخر رکھتا ہو تو اہل محلہ کو اس

کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

اگر نماز صحیح پڑھادی تو نماز ادا ہو ہی جائے گی، اگر غلط پڑھائی تو غلط ہوگی، اکثر مسئلہ غلط بتانے میں ہر

نماز کے متعلق احتمال رہے گا، جب صحیح مسائل جاننے اور بتانے والا موجود ہو تو غلط مسئلہ بتانے والے کو امام نہ بنایا

جائے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹/۱۰/۹۲ھ۔

(۱) ”ویکفرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى“. وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”(قوله: وفاسق)

من الفسق، وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني

واكل الرباء ونحو ذلك“. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة:

۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث

العربی بیروت)

(و كذا في الهدايه، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، شركة علمية ملتان)

(۲) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم

الأحسن تلاوةً للقرأة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً، ثم الأحسن وجهاً، ثم الأشرف نسباً، ثم

الأنظف ثوباً“. (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، ۵۵۸، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۶۹، دار الكتب

العلمية بیروت)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۲۳۹، مكتبة امداديه ملتان)

کاروبار کی وجہ سے تارکِ جماعت کی امامت

سوال [۲۶۰۴]: زید کاروباری مصروفیات کی بناء پر جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، ایسی حالت میں

اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

نماز ہو جائے گی مگر اس کو امام بنانا مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

تارکِ جماعت کی امامت

سوال [۲۶۰۵]: تارکِ جماعت کی امامت جمعہ و عیدین میں شرعاً درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

جو شخص بلا عذر ترکِ جماعت کا عادی ہو اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، بحالتِ مجبوری اس کے پیچھے جو

(۱) "الجماعة سنة مؤكدة للرجال، قال الزاهدی: أرادوا بالتأكيد الوجوب". (الدر المختار).

"وقال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته،

ويأثم الجيران بالسكوت عنه". (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۲، سعيد)

(و كذا في التاتار خانية، كتاب الصلاة، الفصل الثامن في الحث على الجماعة: ۱/ ۶۲۷، إدار القرآن،

كراچی)

"ويكره إمامة فاسق". (الدر المختار). قال ابن عابدين: "قوله وفاسق) من الفسق: وهو

الخروج عن الاستقامة". (رد المحتار، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة: ۱/ ۶۳، غفاريه كوئته)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۱۳۲، امدادیه)

"وأما بيان من يصلح للإمامة في الجملة، فهو كل عاقل مسلم كإبن عمر وغيره

والتابعون اقتدوا بالحجاج في صلوة الجمعة وغيرها، مع أنه كان أفسق أهل زمانه ولأن جواز

الصلوة متعلق بأداء الأركان، وهؤلاء قادرون عليها، إلا أن غيرهم أولى". (بدائع الصنائع، كتاب

الصلوة، فصل في بيان من يصلح للإمامة: ۱/ ۶۲۶، ۶۲۷، دار الكتب العلمية بيروت)

نماز ادا کی جائے گی اسکا اعادہ لازم نہیں ہوگا:

”قال فی شرح المنیة: والأحكام تدل علی الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ویأثم الجیران بالسكوت عنه، وقد یوفق بأن ذلك مقید بالمدائمة علی الترك، كما هو ظاهر قوله صلی الله علیه وسلم: ”لا یشهدون الصلوة، اهـ“. ردالمحتار: ۱/۳۷۱ (۱)۔

”كراهة تقديمه كراهة تحريم“. شامی: ۱/۳۷۶ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفرلہ۔

تارک نماز کی امامت

سوال [۲۶۰۶]: ہمارے گاؤں میں فلاں نامی ایک آدمی جس کا کام ذبح و کفن و دفن کا ہے اور اس نے کبھی ہر روز کی نماز اور عیدین کی نماز و خطبہ نہیں پڑھی اور نہ پڑھائی، اس پر بھی وہ کہتا ہے کہ عیدین کی نماز پڑھانے والا میں ہوں اور یہ میرا ہی حق ہے، اس میں جماعت کا کوئی حق نہیں، میرا ہی رائٹ ہے، کلکٹر کو فریب دے کر اپنا رائٹ لے کر آیا ہے، اس لئے ہم جماعت والے کورٹ میں مقدمہ چلانے والے ہیں کہ پیش امام مسجد کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے یا کہ ملان کی طرف سے؟ اس باب میں مفصل تحریر فرمائیں۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

جو شخص ہر روز کی نماز پابندی سے نہ پڑھتا ہو وہ فاسق ہے اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے: ”و كره إمامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يعظم بتقديمه للإمامة، آه“.

(۱) (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۰۳، رشیدیہ)

(۲) (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۶۰، سعید)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلاة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهیل اکیڈمی، لاہور)

(و كذا في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة،

ص: ۳۰۲، قدیمی)

مراقی الفلاح۔ ”كون الكراهة في الفاسق تحريمية، اھ۔“ طحطاوی، ص: ۱۶۵ (۱)۔
امام مقرر کرنے کا حق بانی مسجد کو ہے، پھر اس کے خاندان والوں کو اولاد وغیرہ کو، پھر اہل محلہ کو، لیکن

امام میں اہلیت ہونا شرط ہے:

”البانی أولى بنصب الإمام والمؤذن، وولد البانی وعشیرتہ أولى من غیرہم۔ بنی مسجدًا فی محلہ..... المؤذن فنزاعہ بعض أهل المحلہ..... إن كان ما اختاره أهل المحلہ أولى من الذی اختاره البانی، فما اختاره أهل المحلہ أولى، وإن كانا سواء، فمنصوب البانی أولى، اھ۔“ أشباه، ص: ۱۴۱ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

غیر پابند نماز کی امامت

سوال [۲۶۰۷]: کسی بستی میں ایک مسجد ہے، مگر ایک ایسا مسلم شخص موجود ہے جو نماز کا پابند تو نہیں ہے مگر نماز پڑھاتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو لوگ پابند صلوٰۃ ہیں وہ نماز پڑھنا درست نہیں سمجھتے اور جو صرف جمعہ کے نمازی ہیں وہ درست سمجھتے ہیں۔

(۱) حاشیة الطحطاوی مع مراقی الفلاح، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی بیان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قدیمی)

(و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلوٰۃ، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳ سہیل اکیڈمی، لاہور)

(و کذا فی الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(۲) ”الأشباہ والنظائر، کتاب الوقف، رقم القاعدة: ۴۲، ۴۳، ۴۴: ۲/۲۳۲، ۲۳۳، إدارة القرآن کراچی)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الوقف، الموضوع الثالث فی الناظر المولی من القاضی فی نصبه القاضی فی مواضع: ۵/۳۸۹، رشیدیہ)

(و کذا فی الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الوقف، فصل یراعی شرط الواقف فی إجارته: ۳/۴۳۰، سعید)

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز تو اس کے پیچھے بھی ادا ہو جاتی ہے لیکن اوصافِ امامت کا جامع شخص موجود رہتے ہوئے غیر پابند کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے (۱)، اگر اس کو علیحدہ کرنے میں فتنہ ہے اور اہل حق اقلیت میں ہیں اور مجبور ہیں تو اس شخص سے کہا جائے کہ بیچ وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرے (۲) کہ بلا عذر ترک جماعت منافق کی علامت ہے اور اس کی عادت کرنے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، جس کی گواہی بھی شرعاً قبول نہیں (۳)، اور ایسے طریقہ سے نہ کہا جائے کہ وہ طنز اور طعنہ سمجھ کر ضد میں آجائے بلکہ حسن اسلوب سے کہا جائے (۴) اور اللہ پاک سے دعا بھی کی جائے کہ وہ مقلب القلوب ہے، وہ حق بات کو دل میں ڈالتا ہے اور عمل کی توفیق دیتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) ”ویکرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى..... هذا إن وجد غيرهم، وإلا فلا كراهة.“ (قوله: أى غير الفاسق)..... على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم.“ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۹، ۵۶۲، سعيد)

(و كذا فى مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/ ۱۰۸، دار احياء التراث العربى بيروت)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۶۱۰، ۶۱۱، رشيدية)

(۲) قال الله تعالى: ﴿وأمر أهلك بالصلوة واصطبر عليها﴾. (سورة طه: ۱۳۲)

(۳) ”الجماعة سنة مؤكدة للرجال، فتسن أو تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة من غير حرج“.

”ولذا قال فى الأجناس: لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافاً و مجاناً، إما سهواً أو بتأويل ككون الإمام من أهل الهواء أو لا يراعى مذهب المقتدى، فتقبل.“ (الدر المختار مع رد المحتار، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۲، ۵۵۳، سعيد)

(و كذا فى النهر الفائق، باب الإمامة: ۱/ ۲۳۸، امداديه ملتان)

(و كذا فى البحر الرائق، باب الإمامة: ۱/ ۶۰۳، رشيدية)

”عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: لقد رأيتنا و ما يتخلف عن الصلوة إلا منافق، و قد علم نفاقه.“ الحديث. (مشكوة المصابيح، باب الجماعة و فصلها: ۱/ ۹۶، قديمي)

(۴) قال الله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة﴾. (سورة النحل: ۱۲۵)

جو امام نماز کی پابندی نہ کرے اس کا حکم

سوال: [۲۶۰۸]: زید بکر کی مسجد کا امام ہے، زید کو مسجد کی طرف سے تنخواہ، اور نمازیوں کی طرف سے کھانا پابندی سے ملتا ہے، زید زیادہ تر سوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نماز کا مقررہ وقت نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنے ذاتی کاروبار یعنی تجارت کی غرض سے دن دن بھر غائب رہتا ہے، اور لوگ فرداً فرداً نماز پڑھ کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں نماز پڑھنے والوں کو بوجہ مجبوری امام کے جماعت کا ثواب ملے گا یا اپنی تنہا نماز کا، اور اس کا مواخذہ امام سے قیامت میں ہوگا یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

جب امام تنخواہ لے کر امامت کرتا ہے تو اس کو پابندی لازم ہے، عموماً اوقات نماز میں مسجد میں حاضر ہو اور تجارت وغیرہ میں مشغول رہنا اوقات نماز میں اور لوگوں کے واسطے بھی جائز نہیں، چہ جائیکہ تنخواہ دار امام کیلئے، ایسا شخص حق اللہ اور حق العباد ہر دو کو ضائع کرتا ہے، ایسی صورت میں مسجد میں جماعت نہ ہونے کی ذمہ داری امام کے سر ہے (۱)، مقتدیوں کو چاہئے کہ امام سے پابندی وقت کا مطالبہ کریں، اگر امام پابندی نہ کرے تو اس کی تنخواہ وضع کر لے (۲) اور اس کی عدم حاضری کی صورت میں کسی دوسرے شخص کو امام بنا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، تنہا تنہا نہ پڑھیں (۳)، اگر امام پھر بھی پابندی نہ کرے تو اس کو علیحدہ کر کے کسی دوسرے لائق اور پابند کو امام بنائیں (۴)۔ اگر کبھی اتفاقاً طور پر امام کو ضرورت کی وجہ سے کہیں جانا ہو تو مقتدیوں کو اطلاع کر کے یا اپنا

(۱) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾. (سورة النساء: ۵۸)

(۲) ”ولیس للخاص أن يعمل لغيره، ولو عمل، نقص من أجرته بقدر ما عمل. فتاویٰ النوازل. وقال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ: ”(قوله: و لیس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا أن یصلی النافلة، قال فی التاتارخانیة: وفي فتاویٰ الفضلی: وإذا استاجر رجلاً يوماً یعمل کذا، فعليه أن یعمل ذلك العمل إلى تمام المدة، ولا یشغل بشئ آخر سوى المكتوبة“.(الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الإجارة، باب ضمان الأجير: ۶/۷۰، سعید)

(۳) (راجع كفاية المفتی، کتاب الصلوة، تیسرا باب امامت و جماعت تحت عنوان: ”امام وقت پر نہ پہنچے تو دوسرا شخص نماز پڑھا سکتا ہے“: ۸۷/۳، دار الإشاعت کراچی)

(۴) ”لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد، تفسخ الإجارة“۔ ”والأصل أن كل عذر لا يمكن معه =

نائب مقرر کر کے جانا چاہیے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۴/۶/۱۳۶۱ھ۔

ایضاً

سوال [۲۶۰۹]: ایک پیش امام نماز کے ٹائم کی پابندی نہیں کرتا، ان سے ایک دفعہ کہا بھی گیا ہے،

انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنی صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب، حامداً و مصلياً:

امام صاحب کو چاہئے کہ وقت مقررہ کی پابندی کیا کرے، مقتدیوں کو پریشان نہ ہونے دے، جب وہ

وقت جائز میں نماز پڑھادیتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

= استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله، يثبت له حق الفسخ. بيري على الأشباه.

(شرح المجلة لرستم باز، الكتاب الثاني في الإجارة، الفصل الأول في مسائل ركن الإجارة، المادة:

۲۴۳، ۱/۲۲۹، حنفیہ کوئٹہ)

(۱) "عن عميد الله بن عبد الله قال: "دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ألا تحدثني عن مرض

رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى! ثقل النبي صلى الله عليه وسلم..... فقال: "أصلى الناس؟"

قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله!..... فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلى

بالناس، فأتاه الرسول، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلى بالناس آه."

(مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق: ۱/۱۰۲، قديمی)

"وإذا علمت جواز الاستخلاف للخطبة والصلوة مطلقاً بغير عذر حال الحضرة والغيبة

وجواز الاستخلاف للصلوة دون الخطبة وعكسه، فاعلم أنه إذا استتاب لمرض ونحوه، فالنائب يخطب

ويصلى بهم والأمر فيه ظاهر." (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الجمعة: ۲/۱۴۰، سعید)

(۲) "ثم الأداء فعل الواجب في وقته." (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب قضاء

الفوائت: ۲۰/۲۲، سعید)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت: ۲/۱۳۸، رشیدیہ)

جو شخص نماز کا عادی نہ ہو اس کو امام مقرر کرنا

سوال [۲۶۱۰]: زید کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں مگر وہ امامت کرانے کی لیاقت رکھتا ہے تو اگر اہل محلہ اس کے واسطے کچھ ٹھہرا کر اس کو امام بنالیں اور وہ اس لالچ کی وجہ سے امام بن جائے اور نماز کا عادی ہو جائے تو آیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو وہ مکروہ ہوگی یا نہیں، اگر ہوگی تو وہ تحریمی ہوگی یا تنزیہی؟ اگر بغیر کچھ ٹھہرائے اس خیال سے امام بن جائے کہ لوگ میری عزت کریں گے اور نماز کا عادی ہو جائے۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

جب تک زید نماز کا عادی نہیں تو فاسق تھا تو اس کی امامت مکروہ تحریمی تھی (۱)، جب توبہ کر کے نماز کا عادی ہو گیا تو اس کی امامت جائز ہوگی، کچھ ٹھہرا کر امامت کرائے یا بلا ٹھہرائے دونوں حالتوں میں اس کی امامت صحیح ہے (۲)۔ رہا نیت کا حال، سو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، محض قیاس سے اس کی نیت کو فاسد کہہ کر اس کی امامت

(۱) ”ویکره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“۔ ”(قوله وفاسق): من الفسق: أي الخروج عن الإستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربا ونحو ذلك..... على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(و كذا في مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قدیمی)

(۲) ”والأحق بالإمامة الأعلّم بأحكام الصلوة فقط صحّة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، اهـ“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۶۹، دار الكتب العلمية بیروت)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۲۲، ۳۲۳، دار الكتب العلمية بیروت)

کونا جائز نہیں کہا جاسکتا (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

مستقلاً سنت چھوڑنے والے کی امامت

سوال [۲۶۱۱]: زید ایک مسجد میں امام ہے اور حفظ کے بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے جس کی وجہ سے دو تنخواہیں الگ الگ ملتی ہے۔ مذکورہ امام تمام وقت کی سنتیں نہیں پڑھتا، خواہ وہ مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، کہے جانے پر کہتے ہیں کہ غیر مؤکدہ نہ پڑھنے پر کوئی بات نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہیں لیکن ہر وقت قصداً نہ پڑھنا کیسا ہے؟ ان کے اس فعل سے جاہل طبقہ پر بھی اثر پڑتا ہے اور ان کے شاگرد ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک نمازی صاحب نے اس کے اس فعل پر ان سے کہا بھی، جس کا انہوں نے مذکورہ جواب دیا، مسجد زیادہ تر جاہل محلے والوں کی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سنت مؤکدہ کا مستقلاً ترک کرنا اور ترک کی عادت ڈالنا بد نصیبی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا سبب ہے (۲)، ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ ہے (۳)، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہئے، سنت غیر

(۱) قال اللہ تعالیٰ: ﴿واللہ عنیم بذات الصدور﴾ (سورة آل عمران: ۱۵۴)

”عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه - وهذا حديث ابن أبي شيبة - قال: بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سرية..... قال: ”أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا اه“.

قال الإمام النووي في شرحه: ”و معناه إنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر و ما ينطق به اللسان، و أما القلب، فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان. وقال: ”أفلا شققت عن قلبه“ لتنظر هل قالها القلب و اعتقد و كانت فيه أم لم تكن فيه؟ بل جرت على اللسان فحسب يعنى و أنت لست بقادر على هذا، فاقصر على اللسان و لا تطلب غيره“.

شرحہ الكامل للنووی، کتاب الإیمان، باب تحریم قتل الکافر بعد قوله: لا إله إلا الله: ۶۸/۱، قديمی

(۲) ”قال عليه السلام: ”من ترك الأربع قبل الظهر، لم تنله شفاعتي“.

قلت: غريب جداً“.

(نصب الراية لأحاديث الهداية، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة، (رقم الحديث: ۲۵۶۳): ۲/۱۶۲، مؤسسة الريان بيروت)

(۳) ”ويكره إمامة عبد و أعرابي و فاسق و أعمى“.

(الدر المختار). وفي رد المحتار: ”(قوله و فاسق): من =

مؤکدہ کا پڑھنا بھی فضیلت کی چیز ہے اور حسنات میں ترقی کا ذریعہ ہے (۱) لیکن اگر کوئی شخص ترک کرے تو اس پر مواخذہ نہیں (۲) مگر غیر مؤکدہ کو بھی حقیر اور خفیف سمجھنا درست نہیں (۳)۔ تحفة الأخیار میں سنت سے متعلق نہایت اعلیٰ مضامین و مسائل مذکور ہیں، استدلال میں حدیث بھی نقل کی گئی ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جو امام سنت نہ پڑھے اس کی امامت

سوال [۲۶۱۲]: ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں پر ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے اور عشاء کی سنت نہیں پڑھتا ہے، اگر اس کو کہتے ہیں تو یہ جواب دیتا ہے کہ میں کہنے سے نہیں پڑھتا، اور اذان بھی نہیں دیتا، کہتا ہے کہ میرے اوپر واجب نہیں ہے۔ دریافت یہ ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں؟

= الفسق: أى الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من یر تکب الكبائر كشارب الخمر والزانی واکل الربا ونحو ذلك، فقد عللوا کراهة تقديمه بأنه لا یهتم لأمر دینہ، وبأن فی تقديمه للإمامة تعظیمه، وقد وجب علیهم إهانته شرعاً، علی أن کراهة تقديمه کراهة تحريم“. (کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(وکذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤکدة: ۱/ ۱۰۸، دار احیاء التراث العربی بیروت)
(۱) ”عن أم حبیبة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”من صلی فی یوم وليلة ثنتی عشرة رکعة، بُنی له بیت فی الجنة: أربعاً قبل الظهر، ورکتین بعدها، ورکتین بعد المغرب، ورکتین بعد العشاء، ورکتین قبل صلاة الفجر“۔ (رواه الترمذی) وفی رواية مسلم: ”ما من عبد یصلی لله ثنتی عشرة رکعة تطوعاً غیر فريضة، إلا بنی الله له بیتاً فی الجنة“۔ أو ”إلا بنی له بیت فی الجنة“۔ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوة، باب السنن وفضائلها: ۱/ ۱۰۳، قدیمی)

(۲) ”ترک السنة لا یوجب فساداً ولا سهواً بل إساءة لو عامداً غیر مستخف“۔ (الدر المختار).
”قوله: عامداً غیر مستخف“ فلو غیر عامد، فلا إساءة أيضاً“۔ (رد المختار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۱/ ۴۷۳، ۴۷۴، سعید)

(۳) (تحفة الأخیار فی إحياء سنة سيد الأبرار مع حاشیة ”نخبة الأنظار“ من رسائل مجموعة اللکنوی، ج: ۴، إدارة القرآن، کراچی)

الجواب حامدًا ومصلياً:

اگر اس کے ذمہ اذان نہیں ہے اس لئے وہ اذان نہیں دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے دوسرا آدمی اذان دیا کرے، اگر وہ سنتیں وہاں نہیں پڑھتا ہے، اپنے مکان پر یا کسی اور جگہ پڑھتا ہے یا لوگوں کے کہنے سے نہیں پڑھتا ہے بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس سے اس کی امامت میں نقصان نہیں آتا ہے۔ اگر وہ سنتیں بالکل نہیں پڑھتا ہے اور نمازیوں کے کہنے سے ضد ہو گئی ہے تو اس کو سمجھا دیا جاوے کہ یہ ضد ٹھیک نہیں ہے، اس کا انجام خراب ہے اور اگر پھر بھی نہ مانے بلکہ سنتوں کو مستقل ترک کر دے تو اس سے بہتر متبع سنت کو امام تجویز کر لیا جائے، تارک سنت کو امام نہ بنایا جائے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

محمود غفرلہ۔

تراویح نہ پڑھنے والے کی امامت

سوال [۲۶۱۳]: ایک حافظ ہیں قرآن کریم پورا یاد نہیں، کبھی تراویح نہیں پڑھتے، کانوں سے بہرے ہیں مگر جمعہ وعیدین کی امامت ضرور کرتے ہیں۔ تو ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

اگر وہ صحیح طریقہ سے نماز پڑھا دیتے ہیں تو نماز ان کے پیچھے بھی ادا ہو جاتی ہے (۲) لیکن ان کو چاہیے

(۱) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن الخ“ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱ / ۵۵۷، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، الجماعة سنة مؤكدة: ۱ / ۱۰۷، دار إحياء التراث العربي، بيروت) (والهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱ / ۱۲۱، ۱۲۲، شركة علمية، ملتان)

(۲) ”عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برأ كان أو فاجرًا، والصلوة واجبة عليكم خلف كل مسلم برأ كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر، والصلوة واجبة على كل مسلم برأ كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر“ (سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور: ۱ / ۳۵۰، امداديه ملتان)

کہ وہ خود ہی امامت سے دست بردار ہو جائیں، تراویح مستقل ترک کرنا ایک سنت کو ترک کرنا ہے جس کا انجام عتاب الہی ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۴/۱۱/۸۹ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۴/۱۱/۸۹ھ۔

نماز قضاء ہونے پر امام کا یہ جواب کہ ”نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز قضاء ہوئی تھی“

سوال [۲۶۱۴]: ایک مولوی صاحب کی فجر کی نماز قضاء ہوگئی جب لوگوں نے ان سے کہا کہ جب

تم نے نماز قضاء کر دی تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا، تو برجستہ انہوں نے کہا کہ نماز حضور کی بھی قضاء ہوئی ہے۔ اس جملے سے لوگوں پر غلط اثر پڑا۔ ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے ہے علماء کی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایک جہاد سے واپس تشریف لاتے ہوئے ایک مقام پر پورے انتظام کے باوجود فجر کی نماز قضاء ہوگئی

تھی (۲)، نیز ایک جہاد کی مشغولی میں نماز کی مہلت ملی نہیں، اس وقت نماز قضاء ہوئی جس کا حضور اکرم صلی اللہ

= ”وإن تقدموا، جاز لقوله عليه الصلوة والسلام: ”صلوا خلف كل بر وفاجر“۔ (تبيين الحقائق،

كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۴۶، دار الكتب العلمية، بيروت)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من يصلح للإمامة: ۱/۲۶۶، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۱) ”و حکمها ما يؤجر علی فعله و یلام علی ترکہ“۔ (الدر المختار). وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”(قوله: يلام): أي يعاتب بالتاء و لا يعاقب، كما أفاده في البحر والنهر، لكن في التلويح: ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة. لقوله عليه الصلوة والسلام: ”من ترك سنتي، لم ينل شفاعتي اه“۔ و في التحرير: أن تاركها يستوجب التضليل و اللوم اه، والمراد الترك بلا عذر علی سبيل الإصرار“۔ (ردالمحتار، كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة: ۱/۱۰۴، سعيد)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الطهارة: ۱/۳۵، امداديه ملتان)

(و كذا في العناية على هامش فتح القدير، كتاب الطهارة: ۱/۲۰، مصطفى البابی الحلبي بمصر)

(۲) ”عن عبد الله بن قتادة عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقلان =

علیہ وسلم کو بے حد افسوس ہوا اور قلق ہوا، حتیٰ کہ آپ نے بددعاء بھی فرمائی کہ ”اللہ تبارک و تعالیٰ ان دشمنوں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہم کو نماز بھی نہ پڑھنے دی“ (۱)۔

لیکن آج اگر کسی کی نماز قضاء ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس قضاء ہوئی نماز پر افسوس کرے، پشیمان ہو کر خدا سے معافی مانگیں، نہ یہ کہ جسارت سے کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نماز قضاء ہوئی ہے۔ ایسا کہنے والے کو پورا اجتناب لازم ہے ورنہ مطلب یہ ہوگا کہ جس قصور میں یہ شخص مبتلا ہے، نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں مبتلا ہوئے، یا یہ مطلب ہوگا کہ نماز کا قضاء کر دینا دنیا میں سنت ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضاء ہو جانے میں بھی شرعی حکم اور تعلیمات ہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند۔

امامت جب

سوال [۲۶۱۵]: اگر کوئی شخص حالت جنابت میں امامت کرے تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور سب نمازیوں کی نماز کو بھی غارت کرتا ہے، اگر اس طرح نماز پڑھنے

= بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله! قال: ”أخاف أن تناموا عن الصلاة“ قال بلال رضي الله تعالى عنه: أنا أو قظكم فاضطجعوا وأسند بلال رضي الله تعالى عنه ظهره إلى راحلته، فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: ”يا بلال! - رضي الله تعالى عنه - أين ما قلت؟“ قال: ما ألقيت على نومة مثلها قط. قال: ”إن الله قبض أرواحكم حين شاء، وردها عليكم حين شاء، يا بلال! - رضي الله تعالى عنه - فأذن بالناس بالصلاة“. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس ابيضت، قام فصلى“. (صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلوة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت: ۸۳/۱، قديمي)

(۱) ”عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال يوم الخندق: ”ملا الله عليهم بيوتهم و قبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس“. (صحيح البخاري:

۵۹۰/۲، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، قديمي)

سے نماز کا استخفاف مقصود ہے تو یہ کفر ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، مظاہر علوم سہارنپور۔

گالی دینے والے کی امامت

سوال [۲۶۱۶]: ایک مسجد کے امام صاحب اگر کسی مولانا صاحب کو ”حرام زادہ“ یا ”حرام خور“ اور ”گدھے کی طرح چلاتا ہے“ وغیرہ کہہ کر گالی دیں تو اس سے امام صاحب کو کس قسم کا گناہ ہو سکتا ہے، اور یہ گالی بکنے کے بعد جتنے روز نماز پڑھائی ہے تو اس نماز کی حالت کیا ہوگی اور امامت میں کوئی نقص پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

معمولی مسلمان کو گالی دینا بھی فسق ہے: ”سباب المسلم فسوق“ (۲)۔ عالم دین کو بلا وجہ گالی دے تو ایمان کا خطرہ ہے (۳)۔ امام صاحب کو اس کا تدارک ضروری ہے، معافی مانگے، توبہ کرے (۴) ورنہ وہ

(۱) ”وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين، فإن كان على وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفراً عند الكل“۔ (رد المحتار، كتاب الطهارة: ۸۱/۱، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ۲۰۶/۵، رشيدية)

(و كذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب السير، باب المرتد، ثم أن الفاظ الكفر أنواع: ۶۹۳/۱، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، مطلب: موجبات الكفر أنواع، منها ما يتعلق بالإيمان والإسلام: ۲۶۹/۲، رشيدية)

(۲) ”حدثني عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر“۔ (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله: ۱۲/۱، قديمي)
(و الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سباب المسلم فسوق
اه: ۵۸/۱، قديمي)

(۳) ”و يخاف عليه الكفر إذا شتم عالماً أو فقيهاً من غير سبب“۔ (البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ۲۰۷/۵، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، مطلب: موجبات الكفر أنواع، ومنها ما يتعلق بالعلم والعلماء: ۲۷۰/۲، رشيدية)

(۴) ”واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة“۔ =

امامت سے علیحدہ کئے جانے کے مستحق ہوں گے اور ان کو امام بنانا ناجائز ہوگا (۱)۔ جو نمازیں پڑھی جا چکی ہیں ان کا اعادہ لازم نہیں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۶/۱/۹۲ھ۔

گالی کے عادی کی امامت

سوال [۲۶۱۷]: جس آدمی کی عادت ہو کہ وہ بات کرنے میں گالی دیتا ہو اور مقتدیوں کو گالی دیتا ہو منافق کہتا ہو تو کیا وہ شخص امامت کے قابل ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

یہ وصف ہرگز امام کے لئے زیبا نہیں، اس کا منصب جلیل ہے، شانِ امامت کے خلاف ہے، اس کو اصلاح کرنی چاہئے ورنہ تو وہ امامت سے الگ کئے جانے کے قابل ہوگا (۳)۔

تنبیہ: مقتدیوں کے لئے سخت ابتلا ہوتا ہے جب ان کو ایسے امام ملتے ہیں، حق تعالیٰ کی رحمت ہو تو مقتدی بھی اچھے ہوں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند۔

مسجد میں گالی گلوچ کرنے والے کی امامت

سوال [۲۶۱۸]: جو امام مسجد میں گالی گلوچ کرے اور مسجد کا احترام نہ کرے..... ایسے امام کی

= (شرح مسلم للنووی، کتاب التوبة: ۲/۳۵۴، قدیمی)

(۱) ”ویکرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى“. وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”(قوله: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزانی و آكل الربا ونحو ذلك“ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۲) نماز میں کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کیا ہے کہ جس سے نماز کا اعادہ لازم ہو۔

(۳) ”ويعزل به إلا لفتنة“ (الدر المختار). وفي رد المحتار: ”(قوله: يعزل به): أي بالفسق لو طرأ عليه،

والمراد أنه يستحق العزل“ (كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۴۹، سعید)

(و كذا في رد المحتار، كتاب الجهاد، باب البغاة: ۲/۲۶۴، سعید)

امامت کیسی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسی حرکت سے تو ہر مسلمان کو بچنا لازم ہے (۱) امام کا منصب تو بلند ہے، اگر امام باز نہ آئے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

باپ کو گالی دینے والے کی امامت

سوال [۲۶۱۹]: جو شخص باپ کو ”حرامی، تیرے جنم میں نطفہ کا فرق ہے“ بول کر گالی دے، اس کے اوپر از روئے شرع کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا شخص فاسق اور نہایت کمینہ ہے اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۶/۱۰/۹۲ھ۔

(۱) ”عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر“۔ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الأداب، باب حفظ اللسان والغیبة والشتیم: ۴۱۱/۲، قدیمی)

”فالحاصل أن المساجد بُنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم إهانتها و تلويثها فيما ينبغي التنظيف منه، ولم تُبن لأعمال الدنيا ولو لم يكن فيه توهم تلويث و إهانة“۔ (الحلبی الكبير، فصل فی أحكام المساجد، ص: ۶۱۱، سهیل اکیڈمی لاہور)

(۲) ”(ویکرہ إمامة عبد و أعرابی و فاسق و أعمی) قال ابن عابدين رحمه الله تعالى ”(قوله: و فاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، و لعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب الخمر و الزانی و آكل الربا و نحو ذلك“۔ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۰ سعید)

(و كذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشیدیہ)

(و كذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۳۳، امدادیہ ملتان)

(۳) (سیاتی تخریجہ تحت عنوان: ”استاد کے نافرمان شاگرد کی امامت“۔)

باپ کو گالی دینے اور ستانے والے کی امامت

سوال [۲۶۲۰]: ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو بہت ستاتا ہے، اس پر کبھی کبھی فاقہ ڈالتا ہے جھگڑتا ہے، کبھی والد کو دھوکا بھی دیا، والد بے نمازی ہے۔ ایسے شخص کو امام مقرر کرنا کیسا ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

جب باپ غریب اور ضعیف ہو کھانے کمانے کے قابل نہ ہو تو اس کا نفقہ بیٹے کے ذمہ ہوتا ہے (۱)۔
باپ اگرچہ بے نمازی اور گنہگار ہو تب بھی باپ کا احترام واجب اور لازم ہے، اس کو گالی دینا اور ستانا حرام ہے (۲)۔ جو شخص باپ کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو سوال میں درج ہے وہ فاسق اور بہت بڑا گنہگار و ظالم ہے، اس کو ہرگز امام نہ بنایا جائے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۱/۹۰ھ۔
الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند،
الجواب صحیح: سید احمد علی سعید۔

(۱) "قال: ويجبر الولد الموسر على نفقة الأبوين المعسرين، مسلمين كانا أو ذميين، قدرا على الكسب أو لم يقدر، بخلاف الحربيين. ولا يشارك الولد الموسر أحداً في نفقة أبويه المعسرين، كذا في العتابية". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الخامس في نفقة ذوى الأرحام: ۱/۵۶۳، رشيدية)

(و كذا في الهداية، كتاب النكاح، باب النفقة، فصل: وعلى الرجل أن ينفق على أبويه اهـ: ۲/۴۴۵، مكتبه شركة علميه ملتان)

(۲) قال الله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَلْفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾. (سورة الإسراء: ۲۳)
وقال الله تعالى: ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾. (سورة لقمان: ۱۵)

"ثم بين صفة الإحسان إليهما بالقول والفعل والمخاطبة الجميلة على وجه التذلل والخضوع، ونهى عن التبرم والتضجر بهما بقوله ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَلْفٌ﴾. ونهى عن الإغلاظ والزجر لهما بقوله: ﴿وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ فأمر بلين القول والاستجابة ما يأمرانه أنه به مالم يكن معصية". (أحكام القرآن للجصاص: ۳/۲۹۱، قديمي)

(۳) "ويكره إمامة عبدوا اعرابي وفاسق وأعمى". وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "وقوله: وفاسق"، =

جھگڑا اور فساد کی امامت

سوال [۲۶۲۱]: گزارش ہے کہ اس سے قبل خطر روانہ کر چکا ہوں، اس میں آپ نے پانی کے متعلق تو تحریر کر دیا لیکن حافظ جی کے متعلق کچھ نہیں تحریر کیا۔ جو حافظ جھگڑے فساد گالی وغیرہ سے پیش آتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بے وجہ جھگڑا فساد کرنا اور گالی دینا بہت بُرا ہے (۱) امام اور مقتدی سب کو اس سے باز آنا چاہئے، توبہ کرنا چاہئے (۲)۔ جو نمازیں اس امام کے پیچھے پڑھی گئی ہیں ادا ہو گئیں ہیں، آئندہ ایسا نہ کریں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

استاد کی شان میں بے ادبی کرنے والے کی امامت

سوال [۲۶۲۲]: عالم خالد نے عباس کو عرصہ دراز تک دینی تعلیم پڑھا لکھا کر دین اسلام سے آشنا

= من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر، والزاني و آكل الربا الخ. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید) (و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، شركة علميه، ملتان)

(۱) ”عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”سباب المسلم فسوق وقتاله كفر“. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الأداب، باب حفظ اللسان والشتيم: ۲/۴۱۱، قديمي)

(۲) ”واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، سواء كان المعصية كبيرة أو صغيرة“. (شرح النووي على صحيح مسلم، كتاب التوبة: ۲/۳۵۳، قديمي)

کیا، علم فقہ سے مفصل واقف کار کرایا، بعد ازیں اگر عباس مذکور اپنے پدر بزرگوار یا برادر کے کہنے پر مولوی خالد کو کسی مجلس سے درخواست کر دے، زد و کوب کی دھمکی دے اور خود پیشوا بنے۔ کیا ایسا بے ادب شاگرد امام بن سکتا ہے یا نہیں؟

۲..... جب تک عباس توبہ واستغفار نہ کرے یا اپنی خطا کی اپنے استاد سے معافی نہ مانگے، کیا اس کے

پیچھے نماز جنازہ، نماز عید وغیرہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس استاد نے دین اسلام کی تعلیم دی اور علم فقہ سے مفصل واقف بنایا وہ بہت بڑا محسن ہے (۱)، اس کا

حق باپ بھائی سے زیادہ ہے، باپ بھائی یا کسی اور کے کہنے پر استاذ کو زد و کوب کی دھمکی دینا نہایت کمینہ حرکت ہے (۲)، ایسا شخص امامت کا مستحق نہیں، جب تک نالائق حرکت پر نادم ہو کر توبہ نہ کرے اور استاذ سے معافی نہ مانگ لے اس کو امام نہ بنایا جائے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۶/۳/۹۶ھ۔

(۱) ”وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من لم يشكر الناس لم يشكر الله“۔ (مشکوٰۃ المصابيح، کتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة الفصل الثاني: ۲۶۱/۱، قدیمی)

(۲) ”اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره، فقد قيل: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما سقط من سقط إلا بترك الحرمة، وقيل: الحرمة خير من الطاعة، ألا ترى أن الإنسان لا يكفر بالمعصية وإنما يكفر باستخفافها وبترك الحرمة. ومن تعظيم العلم تعظيم المعلم. قال علي كرم الله وجهه: ”أنا عبد من علمني حرفاً واحداً، إن شاء باع وإن شاء أعتق، وإن شاء استرق“۔ فإن من علمك حرفاً مما تحتاج إليه في الدين فهو أبوك في الدين. وفي الجملة يطلب رضاه، ويجتنب سخطه، ويمثل أمره في غير معصية الله تعالى“۔ (تعليم المتعلم تأليف الإمام برهان الإسلام تلميذ صاحب الهداية، ص: ۲۱، قدیمی)

”حق العالم على الجاهل وحق الأستاذ على التلميذ واحد على السواء، وهو أن لا يفتح الكلام

قبله، ولا يجلس مكانه. الخ“۔ (رد المحتار، مسائل شتى: ۷۶/۷، سعيد)

(۳) ”قد نصوا على أن أركان التوبة ثلاثة: الندامة على الماضي، والإقلاع في الحال، والعزم على عدم“

استاد کے نافرمان شاگرد کی امامت

سوال [۲۶۲۳]: ایک استاد مثلاً (زید) نے اپنے شاگرد مثلاً (عمر) کو کسی ناراضگی کی بنا پر عاق کر دیا، کیا عاق کرنا شرعاً کوئی حکم رکھتا ہے؟ بصورتِ دوم کیا حکم ہے اور اس شخص کو امام مسجد بنانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟
نوٹ: استاذ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی زوجہ سے ناجائز تعلق رکھتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

عاق کہتے ہیں نافرمان کو، شاگرد صورتِ مسئلہ میں یقیناً ایسی حرکت کا مرتکب ہے کہ جو استاد کی ناخوشی کا موجب ہے، شاگرد کو ایسی حرکت سے توبہ کرنا اور استاد کو راضی کرنا ضروری ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے تب تک اس کو امام نہ بنانا چاہئے (۱) بعد توبہ اس کی امامت درست ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
 حررہ العبد محمود گنگوہی، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۸/۸/۵۸ھ۔
 الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۱/شعبان/۵۸ھ۔

امامت پر لعنت بھیجنے والے کی امامت

سوال [۲۶۲۲]: ہماری مسجد میں ایک امام ہیں اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہ پانچ منٹ دیر سے

= العود فی الاستقبال..... وإن كانت عما يتعلق بالعباد..... وأما إن كانت المظالم فی الأعراس..... فيجب فی التوبة فيها مع ما قدمناه فی حقوق الله أن يخبر أصحابها بما قال من ذلك ويتحلل منهم“ (شرح الفقه الأكبر، ص: ۱۵۸، ۱۵۹، قديمی)
 (۱) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“ (الدر المختار).

” (قوله: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني و آكل الربا ونحو ذلك“ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۰، سعید)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱۰۸/۱، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱۲۲/۱، مكتبه شركة علمية ملتان)

(۲) ”والأحق بالإمامة الأعم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً للقرأة، ثم الأورع اهـ“ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۷/۱، سعید)

آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، لہذا ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ ظہر کی نماز میں امام آئے نہیں، تو امام کے چھوٹے بھائی نے نماز پڑھائی، لیکن بعد میں امام صاحب بھی تشریف لے آئے تو وہ مؤذن پر بہت ناراض ہوئے اور یوں کہا کہ تمہاری آنکھیں نہیں تھیں دیکھنے کے لئے جو تم نے مجھے دیکھا نہیں میں حوض پر وضو کر رہا تھا، بہر حال میں نے مؤذن کی حمایت کی اور کہا کہ جب آپ نہیں تھے تو آپ کے بھائی نے نماز پڑھا دی، آپ مؤذن پر بے کار گرم ہو رہے ہیں، لہذا انہوں نے نماز پڑھانی چھوڑ دی۔

اس کے بعد نمازیوں نے ان سے کہا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو انہوں نے کہا ”لعنت ہے ایسی امامت پر“ اور کئی مرتبہ کہا۔ تو آپ بتائیں کہ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے جب کہ وہ تین سال سے امامت کر رہے ہیں اور کئی دفعہ ایسا ہی ہو چکا ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

جن امام صاحب کے متعلق آپ کو تشویش ہے اور ان کی خرابی لکھ کر فتویٰ دریافت کیا ہے تو پھر آپ کو موقع مل گیا ہے کہ ان امام صاحب نے خود ہی نماز پڑھانا چھوڑ دیا ہے، غنیمت جانے ان سے امامت کے لئے دوبارہ عرض کر دیا گیا انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ ایسی امامت پر لعنت کی۔ اب بہتر ہے کہ کوئی دوسرا امام جو عقائد کے اعتبار سے صحیح ہو اور مسائل طہارت و صلوٰۃ سے واقف ہو، قرآن پاک صحیح پڑھتا ہو، متبع سنت ہو تجویز کر لیا جائے، موجودہ امام صاحب کو لعنت سے بچایا جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

”جھوٹ کہوں تو ابو جہل سے زیادہ بُرا میرا حشر ہو“ کہنے والے کی امامت

سوال [۲۶۲۵]: ایک صاحب جو فاضل عربی یعنی مولوی ہیں اور پیش امام بھی، نیز ایک دینی ادارہ میں تعلیم بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے معلم کے بارے میں جو کافی دنوں سے امام شہر بھی تھے، ان پر اغلام بازی اور مشمت زنی کے واقعہ کا چرچا ہوا، اس سے پہلے بھی چند بار ہو چکا تھا، جب معاملہ کی تحقیق و تفتیش کا موقع آیا تو مذکورہ فاضل عربی

(۱) (راجع عنوان المتقدم: ”استاد کے نافرمان شاگرد کی امامت“۔)

امام نے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں البتہ جو باتیں میں نے سنی ہیں ان الفاظ کو دہراتے ہوئے واقعہ کی سچائی اور ثبوت میں ان الفاظ سے قسم کھائی کہ ”جو میں کہہ رہا ہوں اس میں جھوٹ کہوں تو ابو جہل سے زیادہ برا میرا حشر ہو“۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ موصوف نے جو قسم کھائی ہے، کچھ صاحبان کو شبہ ہے کہ ان کی امامت درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

کسی کو مجرم قرار دینے کے لئے اس کا اقرار ضروری ہے، یا شرعی ثبوت (چشم دید گواہوں کا بیان) ضروری ہے، جب تک ان میں سے کوئی بات نہ ہو اس کو مجرم قرار نہیں دیا جاسکتا (۱)۔ پھر ایسی صورت میں یہ کہا کہ ”جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس میں جھوٹ کہوں تو ابو جہل سے زیادہ برا میرا حشر ہو“، نہایت خطرناک ہے۔ امام صاحب فاضل عربی موصوف یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں، محض سنی ہوئی بات پر بغیر خود دیکھے اور بغیر گواہی کے ایسی سخت بات کہنا اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے ہم معنی ہے (۲)، ان کو لازم ہے کہ فوراً اپنی اس غلطی پر نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کریں اور جن کے سامنے ایسا کہا ان کے سامنے بھی اپنی توبہ کا اظہار کریں (۳)، ورنہ امامت سے علیحدہ کئے جانے کے مستحق ہوں گے (۴)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۴/۹۶ھ۔

(۱) ”ومن نظائرہ: لو ادعی علی رجلین عمداً فأقرّ أحدهما بالخطاء والآخر بالعمد فالدية عليهما“۔ (الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الجنایات، الباب الخامس فی الشهادة فی القتل والإقرار: ۱۹/۶، رشیدیہ)
”وإذا شهد شاهدان علی رجل أنه ضرب رجلاً بالسيف، فلم یزل صاحب فراش حتی مات، فعليه القصاص“۔ (الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الجنایات، الباب الخامس فی الشهادة فی القتل..... الخ: ۱۶/۶، رشیدیہ)

(۲) ”إذا كان المقذوف رجلاً، يكون القذف أيضاً من الكبائر، ويجب الحد أيضاً“۔ (مرقاة المفاتيح، باب الكبائر وعلامات النفاق، الفصل الأول: ۳۵/۱، رشیدیہ)

(۳) قال الله تعالى: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ (التحریم: ۸)

”وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”إن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه“۔ (مشكاة المصابيح، باب التوبة والاستغفار، الفصل الأول، ص: ۲۰۳، قدیمی)
(۴) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۰/۱، سعید)

”اگر کوئی میرا گلا گھونٹ کر مار دے“ کہنے والے کی امامت

سوال [۲۶۲۶]: جس امام کو یہ کہا گیا کہ دو حجرے ہیں ایک میں جو سامان مسجد کا ہے اس کو رکھ لو، وہ یہ جواب دے دے کہ ”جو کوئی آ کر مجھ کو گلا گھونٹ کر مار گئے تو اس کا ذمہ دار کون ہے“ اس نے اللہ کی ذمہ داری ختم کر دی اور انسان کی ذمہ داری طلب کرے وہ شخص کون ہوتا ہے خواہ امام ہو یا عام مسلمان، اس کا کیا حکم ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

یہ انتظام اور تدبیر کی بات ہے، اللہ کی ذمہ داری ختم کرنا نہیں ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۵/۹۶ھ۔

مسجد میں بیٹھ کر غیبت کرنے والے کی امامت

سوال [۲۶۲۷]: کیا کسی امام کا دوسروں کو سخت سست کہنا مقتدیوں میں نشانہ بناتے ہوئے عزت ریزی کے الفاظ استعمال کرنا اور احاطہ مسجد میں چند لوگوں کے ہمراہ بیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنا کیسا ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

بلاوجہ کسی کو سخت سست کہنے کا حق نہیں کسی بھی مسلمان کی عزت ریزی نہ کی جائے، کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ نہ کیا جائے (۲)۔

(۱) ”عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحرس، وکان یرسل معہ أبو طالب کل یوم رجال من بنی ہاشم یحرسونہ حتی نزلت: ﴿واللہ یعصمک من الناس﴾ (تفسیر روح المعانی: ۱۹۹/۶، دار احیاء التراث العربی، بیروت)
(و کذا فی تفسیر ابن کثیر: ۷۸/۲، سہیل اکیڈمی لاہور)

وقال الجصاص الرازی: ”ولم یدفع أحد من علماء الأمة وفقہائها سلفہم وخلفہم وجواب ذلك (أی الدفاع) إلا قوم من الحشو و جهال أصحاب الحديث الخ“، (أحكام القرآن: ۵۰/۲، قدیمی)

(۲) قال اللہ تعالیٰ: ﴿ولا یغتب بعضکم بعضاً﴾ (سورة الحجرات: ۱۲)

”عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، فنادی =

مقتدیوں کی نرمی اور حکمت کیساتھ اصلاح کی جائے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جھوٹے کو امام و مؤذن بنانا

سوال [۲۶۲۸]: زید کی کذب بیانی پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہے، دھوکے باز ہے جھوٹے کیس علماء و

اہل اللہ پر ڈالے تو کیا اس کو مؤذن رکھا جاسکتا ہے اور امام بنایا جاسکتا ہے، اس کی مؤذنی اور امامت دائمی طور

پر درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے شخص کو امام بنانا بھی مکروہ تحریمی ہے (۲) اور مؤذن بنانا بھی مکروہ ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۳/۹۵ھ۔

= بصوت رفيع فقال: "يامعشر من أسلم بلسانه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه! لا تؤذوا المسلمين، ولا

تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فبانه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته،

ليفضحه ولو في جوف رحله". رواه الترمذی. (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الأداب، باب ما ينهى عنه من

التهاجر والتقاطع اهـ: ۲/۲۹۲، قديمی)

"قد يتوهم من حدهم السابق للغيبة أنها تخص باللسان وليس كذلك وهذا موجود

حيث أفهمت الغير ما يكرهه المغتاب ولو بالتعريض أو الفعل أو الإشارة أو الإيماء أو الغمز أو الرمز،

أو الكتابة". (الزواج عن اقتراف الكبائر، كتاب النكاح، الكبيرة الثامنة والتاسعة والأربعون بعد

المائتين: الغيبة والسكوت عليها رضا وتقرير: ۲/۲۷، دار الفكر بيروت)

(۱) قال الله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن﴾

(سورة النحل: ۱۲۵)

(۲) "ويكره إمامة فاسق" قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "قوله: وفاسق) من الفاسق: وهو الخروج عن

الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يتهم

لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانتة شرعاً كراهة تقديمه كراهة

تحریم". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)

(وكذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۳۳، امدادیه)

(۳) "و ينبغي أن يكون المؤذن رجلاً عاقلاً صالحاً تقياً عالماً بالسنة ويكره أذان الفاسق". =

جھوٹ بولنے والے اور غیبت کرنے والے کی امامت

سوال [۲۶۲۹]: زید نے جھوٹ غیبت بکر کی کی تو کیا زید قابل امامت ہے؟ بیٹا تو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جھوٹ (۱) اور غیبت (۲) ناجائز ہے لہذا زید کو اس سے توبہ ضروری ہے، اگر زید توبہ نہ کرے بلکہ جھوٹ اور غیبت پر اصرار کرے تو اس کو امام نہ بنایا جائے بشرطیکہ دوسرا شخص اس سے بہتر امامت کے

= (الفتاویٰ العالمکیرية، کتاب الصلاة، الباب الثانی فی الأذان: ۱/۵۳، ۵۴، رشیدیہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب الأذان: ۱/۹۴، امدادیہ ملتان)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الأذان: ۱/۳۹۲، سعید)

(۱) قال الله تعالى: ﴿فنجعل لعنة الله على الكذابين﴾. (سورة ال عمران: ۶۱)

”عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”علیکم

بالصدق، فإن الصدق یهدی إلى البر، والبر یهدی إلى الجنة، وما یزال الرجل یصدق ویتحرى الصدق

حتى یکتب عند الله صديقاً. وایاکم والكذب، فإن الكذب یهدی إلى الفجور، وإن الفجور یهدی إلى

النار، وما یزال العبد یکذب ویتحرى الكذب حتى یکتب عند الله كذاباً“. رواه أبو داود والترمذی و

صححه“. (الزواج عن اقرار الكبائر، الكبيرة الأربعون بعد الأربع مائة الكذب الذى فيه حد أو

ضرر: ۲/۳۲۲، دار الفكر بیروت)

(۲) قال الله تعالى: ﴿ولا یغتب بعضکم بعضاً، أیحب أحدکم أن یأكل لحم أخیه ميتاً فكرهتموه﴾.

(سورة الحجرات: ۱۲)

”عن أبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال فی خطبة

الوداع: ”إن دماءکم وأعراضکم حرام کحرمة یومکم هذا، فی شهرکم هذا، فی بلدکم هذا، ألا هل

بلغت“. رواه الشيخان“.

”كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله“. رواه مسلم“. (الزواج عن اقرار

الكبائر، کتاب النکاح، الكبيرة الثامنة والتاسعة والأربعون بعد المائتين: الغيبة والسکوت علیها رضا و

تقرير: ۲/۱۲، دار الفكر بیروت)

لائق ہو (۱) اور زید کو امامت سے علیحدہ کرنے میں فتنہ و فساد یا مسجد کی ویرانی کا خوف نہ ہو (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۹/ صفر/ ۵۹ھ۔

اندھے جھوٹے کی امامت

سوال [۲۶۳۰]: کوئی شخص اندھا ہو اور امامت کرتا ہو، یا قرأت غلط پڑھتا ہو، ہدایت کرنے پر عمل

نہ کرتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو، ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، اگر بوجہ ثواب جماعت کی نماز پڑھے اور نماز اپنی دہرائے تو کوئی گناہ تو نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک کوئی ایسی چیز معلوم نہ ہو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی (۳)، ہاں! اگر

(۱) ”ویکره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“۔ (الدر المختار). ”فإن أمكن الصلوة خلف غيرهم، فهو

أفضل، وإلا فالافتداء أولى من الانفراد“۔ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۹، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۶۱۱، رشیدیہ)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۲، سعید)

(۲) ”إن لأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجب، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين

وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلانها، وإن أدى خلعها إلى فتنة احتمال

أدنى المضرتين اه“۔ (رد المحتار، كتاب الحدود، باب البغاة: ۳/ ۲۶۳، سعید)

(۳) ”صلى خلف فاسق أو مبتدع، نال فضل الجماعة“۔ (الدر المختار). ”أفاد أن الصلاة خلفهما أولى

من الانفراد، لكن لا ينال كما ينال خلف تقى ورع“۔ (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة:

۱/ ۵۶۲، سعید)

”و كره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى، وإن تقدموا، جاز لقوله عليه السلام:

”صلوا خلف كل بر وفاجر“۔ (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۱۳۴، امدادیہ، ملتان)

”ينبغي أن يكون محل الكراهة عند وجود غيرهم لا ما إذا لم يوجد غيرهم“۔ (النهر الفائق، =

کوئی چیز ایسی معلوم ہو مثلاً قرآۃ میں ایسی غلطی کی جس سے معنی بگڑ گئے، یا اس کے جسم یا کپڑے پر نجاست مانعہ موجود تھی تو نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھنا ضروری ہے (۱)، جب کہ دوسرا شخص صحیح پڑھنے والا طہارت و نماز کے مسائل سے واقف متبع سنت امامت کیلئے موجود ہو تو جھوٹ بولنے والے غلط قرآۃ کرنے والے نابینا کو امام بنانا مکروہ ہے (۲)، جب تک بہتر امام کا انتظام نہ ہو تو ایسی موجودہ صورت میں امام مذکور کے پیچھے نماز ادا کر لی جائے تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

= کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۲۴۴/۱، امدادیہ، ملتان)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۶۱۱/۱، رشیدیہ)

(۱) ”ولا یصح الاقتداء غیر الأئمة بالأصح علی الأصح ولا تصح صلاته إذا أمکنه الاقتداء بمن یحسنه أو ترک جهده. و کذا من لا یقدر علی التلفظ بحرف من الحروف أو لا یقدر علی إخراج الفاء إلا بتکرار“۔ (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۸۱/۱، سعید)

”و إذا ظهر حدث إمامه، و کذا کل مفسد فی رأی مقتدی، بطلت، فیلزم إعادتها لتضمنها صلاة المؤتم صحة و فساداً، كما یلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب أو فاقد شرط أو رکن“۔ (الدر المختار)۔ ”فلو قال المصنف كما فی النهر: ولو ظهر أن إمامه ما یمنع صحة الصلاة، لکان أولى، لیشمل ما لو أخل بشرط أو رکن لو علم من إمامه ما یعتقد أنه مانع و الإمام خلافه، أعاد“۔ (ردالمحتار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۹۱/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۶۲۰/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی النهر الفائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۲۵۵/۱، امدادیہ، ملتان)

(۲) ”ویکره إمامة عبد و أعرابی و فاسق و أعمی هذا إن وجد غیرهم، و إلا فلا کراهة“۔ (الدر المختار مع ردالمحتار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۲، سعید)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤکدة: ۱/۰۸، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱۳۲/۱، امدادیہ، ملتان)

(۳) ”فإن أمکن الصلوة خلف غیرهم، فهو أفضل، و إلا فالأقتداء أولى من الانفراد، و ینبغی أن یکون محل کراهة الاقتداء بهم عند وجود غیرهم، و إلا فلا کراهة كما لا یخفی“۔ (البحر الرائق، کتاب

الصلاة، باب الإمامة: ۶۱۱/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی النهر الفائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۲۴۴/۱، امدادیہ، ملتان)

چغٹل خور کی امامت

سوال [۲۶۳۱]: جو آدمی چغٹل خوری کرتا ہو اس کی امامت کیسی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

چغٹل خوری کبیرہ گناہ ہے (۱) اگر امام اس سے توبہ نہ کرے تو اس کی امامت مکروہ ہے (۲)۔ فقط واللہ

تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۶/۸۸ھ۔

حاسد کی امامت

سوال [۲۶۳۲]: حاسدوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

(۱) قال الله تعالى: ﴿هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ﴾ (سورة القلم: ۱۱)

”یعنی الذی یمشی بین الناس، و یحرش بینہم، و ینقل الحدیث لفساد ذات البین وہی الحالقة، و قد ثبت فی الصحیحین من حدیث مجاہد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بقبرین فقال: ”إنهما لیعذبان، وما یعذبان فی کبیر، أما أحدهما فكان لا یتتر من البول، و أما الآخر فكان یمشی بالنمیمة“.

”عن حذیفة قال: سمعت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم یقول: ”لا یدخل الجنة قتات“.

یعنی ناماً“۔ (تفسیر ابن کثیر: ۴/۵۱۸، ۵۱۹، دار الفیحاء دمشق)

”خيار عباد الله الذين إذا رُؤوا، ذُكر الله، و شرار عباد الله المشاءون بالنمیمة، المفروقون بین الأحبة، الباغون للبراء العیب“۔ رواه احمد.

”ویروی عن النبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم أنه قال: ”هی الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، و

لکن تحلق الدین“۔ (الزواج عن اقتراف الكبائر، الكبيرة الثانية والخمسون بعد المائتين: النمیمة:

۲/۳۶، دار الفکر بیروت)

(۲) ”و کذا تکره خلف أمر د وسفیه و شارب الخمر و آکل الرباء و نامام“۔ (الدر المختار،

کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

(و کذا فی مجمع الأنهر ملتقى الأبحر، کتاب الصلوة، فصل الجماعة سنة مؤکدة: ۱/۸۰۸، دار احیاء

التراث العربی بیروت)

الجواب حامدًا ومصلياً:

حسد کرنا گناہ ہے (۱) امامت مکروہ ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

وعدہ خلاف کی امامت

سوال [۲۶۳۳]: زید تجارت کرتا ہے مگر قرض وقت پر ادا نہیں کرتا بلکہ وعدہ پر وعدہ کرتا رہتا ہے، اکثر اشخاص کو تجارت میں شرکت کی دعوت دے کر روپیہ وصول کر لیا جاتا ہے اور ادائیگی میں حیلہ بہانہ کرتا رہتا ہے۔ بکر سے زیور مستعار لیا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ کسی شادی میں شریک ہوں گی اور تین چار یوم کا وعدہ کیا جاتا ہے، مگر وقت پر واپس نہیں کیا جاتا، متعدد تقاضوں پر مختلف بہانوں سے جواب ملتا ہے، بالآخر اقرار کیا جاتا ہے کہ زیور رہن رکھا ہے اور اہلیہ کہیں نہیں گئی۔ اگر کوئی بات مسئلہ کی اسے کہی جاتی ہے تو تیوری پر شکن ڈال لیتے ہیں اور ترش روئی سے ہم کلام ہوتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ زید امامت کے قابل ہے یا نہیں، زید کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جو

(۱) قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ شَرَّ حَاسِدًا إِذَا حَسَدَ﴾ (سورة الفلق: ۵)

”لأن الله عز وجل لم يخصص من قوله: ﴿وَمَنْ شَرَّ حَاسِدًا إِذَا حَسَدَ﴾ حاسداً دون حاسد، بل عمّ بأمره إياه بالاستعاذة من شر كل حاسد، فدل على عمومته“۔ (جامع البيان في تفسير القرآن للطبري: ۲۲۸/۳۰، دار المعرفة بيروت)

”و عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً“۔ وفي رواية: ”ولا تنافسوا“۔ متفق عليه“۔

”عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين“۔ رواه أحمد والترمذي، (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الأدب، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات: ۴۲۷/۲،

۴۲۸، قديمي)

(۲) (قد مضى تخريجه تحت عنوان: ”جھوٹ بولنے والے اور غیبت کرنے والے کی امامت“۔)

نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ عمر زید کی ان حرکات کی بنا پر زید کے پیچھے نماز ترک کر دیتا ہے مگر کلام ترک نہیں کرتا، تا کہ شر پیدا نہ ہو، زید عمر کو منافق کہتا ہے۔ زید کا یہ فعل کہاں تک درست ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

بلا وجہ شرعی وعدہ خلافی کرنا ناجائز اور گناہ ہے (۱)، اگر وعدہ کرتے وقت تو پورا کرنے کی نیت تھی لیکن بعد میں کسی مجبوری سے پورا نہیں کر سکا تو اس میں مضائقہ نہیں (۲)۔ مسئلہ بتانے پر چیں بچیں ہونا بھی برا ہے۔ اگر زید کی وعدہ خلافی اور بد معاملگی کی عادت ہو گئی ہے جس سے دوسروں کو بھی اذیت ہوتی ہے تو اولاً زید کو نرمی سے سمجھانا چاہئے کہ یہ عادت خلاف شرع اور ناجائز ہے (۳)۔ اسی طرح مسئلہ شرعیہ پر ترش رو ہونا اور سخت کلام ہونا بھی منع ہے (۴)، اس سے توبہ لازم ہے۔ اسی طرح کسی مسلم کو بلا وجہ شرعی منافق کہنا سخت گناہ ہے اس سے

(۱) قال الله تعالى: ﴿وَأوفوا بالعهد إن العهد كان مستزلاً﴾ (سورة الاسراء: ۳۴)

وقال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (سورة المائدة: ۱)

”وقد اشتمل قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ على إلزام الوفاء بالعهود والذمم التي نعقد ها لأهل الحرب وأهل الذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس“۔ (أحكام القرآن للجصاص: ۲/۴۱۸، قديمی)

”عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: ”أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر“۔ (صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق: ۱۰/۱، قديمی)

(۲) ”عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”إذا وعد الرجل أخاه و من نيته أن يفى له فلم يف ولم يجيء للميعاد، فلا إثم عليه“۔ رواه أبو داؤد والترمذى“۔ (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب الوعد، الفصل الثانى: ۲/۴۱۶، قديمی)

(۳) قال الله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتى هى أحسن﴾ (سورة النحل: ۱۲۵)

(۴) ”إذا كان المستفتى بعيد الفهم فليرفق به، و يصبر على تفهم سؤاله و تفهيم جوابه، فإن ثوابه جزيل“۔ (آداب المفتى للنووى). قال المحشى: (قوله: فإنه ثواب جزيل) ”قال العلامة الآلوسى“

بھی توبہ ضروری ہے (۱)۔

اگر زید توبہ کر لے اور آئندہ ان چیزوں کو چھوڑ دے تب تو خیر (۲) ورنہ زید کو امامت سے علیحدہ کر دیا جائے بشرطیکہ زید سے بہتر امامت کے لائق دوسرا موجود ہو (۳)۔ عمر حرکات مذکورہ کی بناء پر زید کے پیچھے نماز نہ پڑھنے سے منافق نہیں ہوا (۴)، زید کا اس کو منافق کہنا جائز نہیں، بلکہ سخت گناہ ہے، ایسے کلام سے زبان کو روکنا

= فی تفسیر قولہ تعالیٰ: ﴿فاحکم بیننا بالحق﴾ ما لخصه أنه ينبغي للمفتی، و کذا للحاکم أو من له نوع رجوع إليه من أهل الحاجة والخصومة أن يتحمل على شطاطة الخصم وأغلاطه، و يقتدى في مثل ذلك بالنبي داود الأواب عليه السلام في قوله تعالیٰ: ﴿فاحکم بیننا بالحق و لا تشطط﴾ فإنه لم يغضب و لم يؤیخهم علی فعلهم تسور المحراب اهـ. (آداب المفتی للإمام النووی مع حاشيته، ص: ۴۷، الرشید کراچی)

(۱) ”حدثني عبد الله أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”سباب المسلم فسوق، و قتاله كفر“ (صحيح البخاری، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر اهـ: ۱۲/۱، قديمی)
”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”لله أشد فرحاً بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجد“.

وقال الإمام النووی: ”واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة اهـ.“ (الصحيح لمسلم مع شرحه الكامل للنووی، كتاب التوبة: ۳۵۲/۲، قديمی)

(و کذا فی روح المعانی: ۱۵۹/۲۸، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(۲) ”عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”التائب من الذنب كمن لا ذنب له“ (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبة: ۲۰۶/۱، قديمی)

(۳) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى و ولد الزنا، هذا إن وُجد غيرهم، وإلا فلا كراهة“ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۲، سعيد)

(و کذا فی الهدایة، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱۲۲/۱، مکتبه شركة علمیه ملتان)

(۴) ”عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: ”ثلاثة لا يقبل منهم صلوة من تقدم قوماً وهم له كارهون“ قال الشوكاني في النيل: وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضاً فينتهضن =

نہایت ضروری ہے (۱)۔ جو نمازیں پڑھیں ہیں ان کا اعادہ لازم نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۲/۵/۵۷ھ۔

صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/جمادی الثانیہ/۵۷ھ۔

جعل سازی کرنے والے کی امامت

سوال [۲۶۳۴]: زید ایک اسلامی ادارہ میں تنخواہ دار امام ہے، زید نے ادارہ کو اپنے حجرہ مسکونہ کی مرمت کرانے کی اطلاع دی اور مبلغ چالیس روپے مطالبہ کیا، ادارہ نے اس سے ادائیگی مبلغ چالیس روپے کی رسید طلب کی تو امام مذکور نے ایک رسید اپنی ادائیگی کی تصدیق کر کے ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ ادارہ کے افسر اعلیٰ نے اس مرمت کی جانچ کے لئے ایک شخص کو متعین کر دیا جس پر اس نے رپورٹ دی کہ حجرہ کی مرمت ایک صاحب خیر نے اپنی جانب سے کرادی ہے اور امام مذکور کا مطالبہ غلط ہے اور رسید جعلی ہے۔ امام مذکور نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ کیا اس صورت میں امام قابل امامت ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

امام نے جعل سازی کر کے غلط طریقہ پر ناحق روپیہ وصول کرنا چاہا مگر اللہ پاک نے ناکام کر کے اس کو بچا دیا، وہ ناحق روپیہ وصول نہیں کر سکا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور کرم کر کے ناجائز روپیہ اس تک نہیں پہنچنے دیا تو اب اگر وہ اپنی غلطی پر نادم ہو کر توبہ کر لے تو مقتدی کو بھی چاہئے کہ اس کو معاف کر دیں۔ "التائب من الذنب كمن لا ذنب له"۔ الحدیث (۲) امید ہے کہ اس سے امام کی اصلاح ہوگی اور وہ

= للاستدلال بها على تحريم ان يكون الرجل إماماً لقوم يكرهونه، ويدل على التحريم نفى قبول الصلوة، وأنها لا تجاوز اذان المصلين ولعن الفاعل لذلك قال في الدر المختار: ولو أم قوماً وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه"۔ (بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب الرجل يؤم قوماً وهم له كارهون: ۱/۳۳۱، امدادیہ، ملتان)

(۱) (راجع، ص: ۱۷۸، رقم الحاشیة: ۱)

(۲) والحدیث بتمامه: "عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "التائب من

الذنب كمن لا ذنب له"۔ (رواه ابن ماجه، أبواب الزهد، باب ذكر التوبة، ص: ۳۲۳، مير محمد كتب خانہ کراچی)

آئندہ ایسا اقدام نہیں کرے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۹/۸۷ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۹/۸۷ھ۔

جلسہ سازی اور فریب دہی جیسی نازیبا حرکات والے کی امامت

سوال [۲۶۳۵]: ایک شخص مسٹی محی الدین جس پر ہم لوگوں کے بہت احسان ہیں، چچا مرحوم نے انہیں نہایت پریشانی اور خستہ حالی کے وقت ایک کمرہ کرایہ پر دلایا، کھانے وغیرہ کا انتظام کیا اور ایک مسجد میں کمیٹی والوں سے بڑی سفارش کر کے ان کو مسجد کی امامت دلوائی وغیرہ وغیرہ، مگر وہ شخص نہایت جعل ساز، فریبی اور جھوٹا ثابت ہوا، کرایہ کا مکان بھی جعل کر کے غصب کر لیا اور مسجد میں تفرقہ، فتنہ و فساد پیدا کر دیا جس کی وجہ سے کافی خلفشار ہے اور متولیان و ممبران مسجد نے آنا چھوڑ دیا اور اس کی نازیبا حرکتوں کی وجہ سے الگ جماعت اسی مسجد کے بالائی حصہ میں کرنے ہیں جنکی تعداد بیس، چالیس آدمی ہیں۔ تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جو اپنے مفاد کی خاطر غلط بیانی اور کذب بیانی سے مسجد کے اندر شر و فساد برپا کئے ہوئے ہیں اور بہت خلفشار پھیلا دیا؟ امید ہے جواب سے مطلع فرمائیں گے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جھوٹ بولنا اور دھوکہ دیکر جعلی بیع نامہ بنانا، اور دوسرے کے مکان پر غاصبانہ قبضہ کرنا شرعاً ناجائز ہے اور سخت گناہ ہے (۱)۔ اگر یہ تحریر کردہ واقعات اسی طرح ہیں، ان میں جھوٹ نہیں تو ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ

= "عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون". (ابن ماجه، أبواب الرهد، باب ذكر التوبة، ص: ۳۲۳، مير محمد)

(ومشکوۃ المصابيح، کتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبة: ۲۰۶/۱، قدیمی)

(۱) قال تعالى: ﴿أَلَا لعنة الله على الظالمين﴾ (سورة هود: ۱۸)

"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر". زاد مسلم في رواية:

"وإن صام وصلى، وزعم أنه مسلم". رواه الشيخان.

"ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له." (رواه أبو داود =

تحریکی ہے تا وقتیکہ امام توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کرے، اس کے پیچھے نماز مکروہ ادا ہوگی (۱)۔ دوسری جماعت اسی مسجد میں کرنا بھی مکروہ ہے، اس سے بھی پرہیز لازم ہے، اس سے مستقل خلفشار پیدا ہو جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں (۲)۔ مناسب یہ ہے کہ چند معزز دیندار آدمی سر جوڑ کر تعصب سے علیحدہ ہو کر اصل واقعہ کی تحقیق و تفتیش

= والترمذی وحسنه والنسائی والبیہقی۔ (الزواج عن اقرار الکبائر، کتاب الشهادات، الکبيرة الأربعة بعد الأربعمائة: الکذب الذی فیہ حد أو ضرر: ۳۲۳/۲، ۳۲۵، دار الفکر بیروت)

قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أو فوا بالعقود﴾ (سورة المائدة: ۱)

”وأخرج الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: ”أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر“.

”وفى مسلم وغيره: ”إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، يُرفع لكل غادر لواء يعرف به يقال: هذه غدرة فلان بن فلان“۔ (الزواج عن اقرار الکبائر، کتاب الجهاد، الکبيرة الثانية والثالثة والرابعة بعد الأربعمائة: قتل أو غدر أو ظلم اه: ۲۹۴/۲، دار الفکر بیروت)

”أخرجه الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”من ظلم قيد شبر من أرض“: أى قدره، ”طوقه من سبع أرضين“..... و مسلم: ”لا يأخذ أحداً شبراً من الأرض بغير حقه، طوقه إلى سبع أرضين“۔ (الزواج عن اقرار الکبائر، باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير ظلماً: ۴۳۴/۱، دار الفکر بیروت)

(۱) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“۔ وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”(قوله: وفاسق) هو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وأكل الربا ونحو ذلك“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا فى مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنن مؤكدة: ۱۰۸/۱، دار احياء التراث العربى بیروت)
(و كذا فى حاشية الطحطاوى على مرقى الفلاح، كتاب الصلاة، فصل فى بيان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قديمى)

(۲) ”أقول وبالله التوفيق: ما قاله الإمام الحلوانى مبنى على ما كان فى زمن السلف من صلاة الجماعة مرة واحدة و عدم تكرارها، كما هو فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم و زمن الخلفاء بعده، و قد =

کر کے خلفشار کو ختم کر دیں یا امام کو الگ کر دیں یا جماعت ثانیہ کو ختم کر دیں۔ جس کی غلطی ہو وہ اپنی غلطی تسلیم کرے اور سب اتفاق کے ساتھ رہیں (۱)۔

تنبیہ: اس کا بھی لحاظ ضروری ہے کہ امام اور مقتدی ہر ایک کے منصب کی رعایت رکھتے ہوئے بیان لیا جائے اور معاملہ نمٹا دیا جائے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹/۱/۹۳ھ۔

حلال کو حرام سمجھنے والے کی امامت

سوال [۲۶۳۶]: ایک امام صاحب حلال کو حرام کہتے ہیں اور حرام کو بھی حلال کہتے ہیں، تو اس کی اقتداء ٹھیک ہے یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

جوشی حرام لعینہ ہو اور اسکی حرمت قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت نصوص سے ثابت ہو اس کو حلال اعتقاد کرنا کفر ہے، اسی طرح اس کے عکس کا حکم ہے۔ اگر اس شی کی حرمت لعینہ نہیں یا قطعی الثبوت نہیں یا قطعی الدلالت نہیں تو اس کو حلال سمجھنا کفر نہیں بلکہ فسق ہے۔ بہر دو صورت جس امام کی یہ حالت ہو وہ امامت کے لائق نہیں، اس کو امامت سے علیحدہ کر کے کسی دوسرے پابند شرع اور اہل حق کو امام مقرر کرنا چاہئے (۲)۔

= علمت أن تكررهما مكرهه في ظاهر الرواية، إلا في رواية عن الإمام ورواية أبي يوسف كما قدمنا.

(رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ۳۹۶/۱، سعيد)

(وكذا أيضاً في باب الإمامة: ۵۵۲/۱، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۰۵/۱، رشيديه)

(۱) قال الله تعالى: ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم﴾ (سورة الحجرات: ۱۰)

(۲) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن.

اه“ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۵۷/۱، سعيد)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو الأحق بالإمامة: ۶۶۹/۱، دار الكتب

العلمية، بيروت)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل الجماعة سنة مؤكدة: ۱۰۷/۱، دار إحياء التراث العربي بيروت)

”من اعتقد الحلال حراماً أو على القلب، يكفر إذا كان حراماً لعينه، وثبتت حرمة بدليل قطعي، أما إذا كان حراماً لغيره بدليل قطعي أو حراماً لعينه بخبر الأحاد، لا يكفر إذا اعتقده حلالاً، آه“۔ طحطاوی، ص: ۷۴ (۱)۔ ”من اعتقد الحرام حلالاً أو على القلب يكفر، أما لو قال لحرام: هذا حلال، لترويج السلعة أو بحكم الجهل، لا يكون كفرة، وفي الاعتقاد: هذا إذا كان حراماً لعينه وهو يعتقد حلالاً حتى يكون كفرة، أما إذا كان حراماً لغيره، فلا فيما إذا كان حراماً لعينه إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع به، أما إذا كانت بأخبار الأحاد فلا يكفر، كذا في الخلاصة، آه“۔ فتاویٰ عالمگیریہ، ص: ۲۷۲ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲/۲/۱۳۶۱ھ۔

الجواب صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲/۸/۱۳۶۱ھ۔

حدیث شریف کی توہین کرنے والے کی امامت

سوال [۲۶۳۷]: ایک شخص مسجد سے نکل کر جا رہا تھا اور دنیا کے مال و اسباب کی تعریف کر رہا تھا، دوسرا شخص مسجد میں تھا، مسجد والے شخص نے باہر جانے والے سے کہا کہ اس کے منہ سے دنیائے فانی کی تعریف کرنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے دنیا کے مال کو مال کہا اس کا آگے مال نہیں اور دنیا کے گھر کو گھر کہا اس کا آگے گھر نہیں، تو باہر جانے والے نے کوٹ کر جواب دیا۔ نعوذ باللہ:- ”حدیث گئی ایسی تیسی میں“۔ ایسا کہنے والے کے متعلق کیا حکم ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

(۱) حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الطہارة، باب الحيض والنفاس والاستحاضة، ص: ۱۳۸، قدیمی)

(۲) الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب السیر، الباب التاسع فی أحكام المرتدین، منها ما يتعلق بالحلال والحرام و کلام الفسقة والفجار وغير ذلك: ۲/۲، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب السیر، باب أحكام المرتدین: ۲۰۶/۵، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتاریخانیہ، کتاب أحكام المرتدین، فصل فيما يتعلق بالحلال والحرام: ۵/۵۰۵،

إدارة القرآن والعلوم الإسلامية کراچی)

الجواب حامداً ومصلياً:

اس نے بہت سخت بات کہی، جب تک وہ نادم ہو کر سچی پکی توبہ نہ کرے اس کو امام نہ بنایا جائے، بحر، عالمگیری وغیرہ میں اس کا حکم سخت لکھا ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۷/۹۳ھ۔

جو شخص علمائے حق کی تکفیر کر چکا ہو اس کی امامت

سوال [۲۶۳۸]: کیا کسی ایسے حافظ یا قاری کو جامع مسجد کا امام بنانا شرعاً جائز ہے جو زمانہ سابق میں علمائے حق اور اکابر دین کو اپنے قلم سے کافر لکھ چکا ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر صدق دل سے توبہ کرے اور اعلان کر دے کہ میں نے غلط فہمی اور نفسانیت کی وجہ سے علمائے حق کو کافر لکھا تھا، میں اب توبہ کرتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کافر نہیں، کیونکہ جو شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور واقعتاً وہ کافر نہیں تو یہ کلمہ خود اس کافر کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے اور اس پر اس کا وبال پڑتا ہے (۲)۔ پھر قوم کو

(۱) ”ویکفر..... برده حديثاً مروياً إن كان متواتراً، أو قال علی وجه الاستخفاف: سمعناه كثيراً“.
(البحر الرائق، کتاب السیر، باب أحكام المرتدین: ۲۰۳/۵، رشیدیہ)

”و من أنکر المتواتر فقد کفر، و من أنکر المشهور، یکفر عند البعض. وقال عیسی بن أبان: یضلل و لایکفر، و هو الصحیح. و من أنکر خبر الواحد، لایکفر، غیر أنه یأثم بترک القبول“۔ (الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب السیر، الباب التاسع فی أحكام المرتدین و منها ما یتعلق بالأنبیاء علیہم السلام: ۲۶۳/۲، رشیدیہ)
(و کذا فی شرح الفقہ الأكبر للملا علی القاری، مطلب فی إیراد الألفاظ المکفرة التي جمعها العلامة بدر الرشید من أئمة الحنفیة، ص: ۱۶۶، قدیمی)

(۲) ”قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ”أیما امریء قال لأخیه: کافر، فقد باء بها أحدهما، إن کان کما قال، و إلا رجعت علیه“.

”وقال علیه السلام: ”من دعا رجلاً بالكفر، أو قال: عدو الله، و لیس كذلك إلا حار علیه“.
الحديث. (الصحیح لمسلم، کتاب الإیمان، باب بیان حال ایمان من قال لأخیه المسلم یا کافر: ۵۷/۱، قدیمی)

اطمینان ہو جائے کہ اس کا یہ اعلان و اقرار خطیب بننے کے لئے نہیں بلکہ اصلاحِ نفس اور اپنے گناہ سے ندامت کی بنا پر ہے تو اس قاری حافظ کو امام و خطیب بنانا درست ہے جب کہ اس میں امامت کی دوسری شرائط بھی موجود ہوں: قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ﴾ الآية (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

منکرین قرآن و حدیث اور فاسق کے مرید کی امامت

سوال [۲۶۳۹]: ایک امام ہے وہ ایک بے نمازی داڑھی منڈے ہوئے فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا اور اس کو دو عالموں نے سمجھایا اور کہا کہ جب تک شریعت ساتھ نہ ہوگی طریقت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کلام پاک و حدیث سے ثابت ہے۔ تو وہ غصہ ہو گیا اور کہا کہ میں کلام پاک و حدیث کو نہیں مانتا، اس معاملہ میں شریعت کا کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اب اس نے بیعت کو فسخ کر دیا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز درست ہے؟
الجواب حامدًا ومصلياً:

جب امام صاحب نے کہا کہ ”میں کلام پاک و حدیث شریف کو نہیں مانتا“ تو اس کو ہرگز امام نہ بنایا جائے (۲)، جب تک کہ وہ اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے توبہ و استغفار و تجدید ایمان و تجدید نکاح نہ کرے (۳)۔ شریعت کو ترک کر کے طریقت حاصل نہیں کی جاسکتی، بے نمازی داڑھی منڈے فاسق کے ہاتھ پر بیعت ہونے

(۱) (سورۃ طہ، پ: ۱۶، الآیۃ: ۸۲)

”عن عبد اللہ بن مسعود قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ“۔ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبۃ، الفصل الثالث، ص: ۲۰۶، قدیمی)

(۲) ”ویکفر إذا أنکر آیۃ من القرآن، أو تسخر بآیۃ منه“۔ (البحر الرائق، کتاب السیر، باب أحكام المرتدین: ۲۰۵/۵، رشیدیہ)

(۳) ”ماکان فی کونہ کفرًا اختلافًا، فإن قائلہ یؤمر بالتوبۃ الرجوع عن ذلک، وتجدید النکاح بینہ وبين امرأته“۔ (الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب السیر، الباب التاسع فی أحكام المرتدین، قبیل الباب العاشر: ۲۸۳/۲، رشیدیہ)

سے خدائے پاک کی خوشنودی حاصل نہ ہوگی، بلکہ شیطان کی خوشنودی حاصل ہوگی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

مشرک کے جنازہ کی نماز پڑھانے والے کی امامت

سوال [۲۶۲۰]: جو شخص مشرک انسان کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز کیسی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس کا خاتمہ شرک پر ہوا ہو اس کے لئے دعائے مغفرت کرنا اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھنا قطعاً جائز نہیں، ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ (۲) الآیہ جو آدمی علم کے باوجود ایسا کرے اس کو امام بنانا جائز نہیں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۳/۱۴۰۱ھ۔

غیر مسلم سے سارق کا نام معلوم کرنے والے کی امامت

سوال [۲۶۲۱]: کسی مسلم یا غیر مسلم سے سارق کا نام اور شیئ مسروقہ کے پتہ پوچھنے والے اور یہ

ظاہر کرنے والے کہ ہر ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا عقیدہ اور عمل غلط ہے، خلاف شرع ہے (۴) جب تک اس سے توبہ نہ کر لے، ہرگز امام نہ

(۱) قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة آل عمران: ۳۱، ۳۲)
(۲) (سورة التوبة: ۱۱۳)

(۳) قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”(قوله وفاسق) ويكره إمامة فاسق) من الفسق، وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر الخ بل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم الخ“. (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۶۰، سعيد)

(و كذا فى تبیین الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۳۲، امدادیہ)

(۴) ”وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”من أتى كاهناً =

بنایا جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

غلط اوصاف والے شخص کی امامت

سوال [۲۶۲۲]: ایک شخص جو کہ مندرجہ ذیل اخلاق اور عادات کا حامل ہے، امامت کا اہل ہو سکتا ہے یا نہیں، ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر کسی جگہ ایک مسجد ہے اور اس میں مندرجہ ذیل صفتوں والا امام ہو تو مقتدی کو اس کے پیچھے مجبوراً نماز پڑھنی جائز ہے یا نہیں:

۱- خیانت کا ارتکاب کر چکا ہے۔

۲- اپنی بیوی کو بغرض سیر و تفریح باہر لیجاتا ہے جو کہ اکثر اوقات بلا پردہ ہوتی ہے۔

= فصدقه بما يقول فقد برئى مما أنزل على محمد“.

”الفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن: إنما يتعاطى الخبر عن الغيب في مستقبل الزمان، و يدعى معرفة الأسرار، والعراف: هو الذى يتعاطى معرفة الشئء المسروق و مكان الضالة ونحوهما من الأمور“.

”و فى رواية لأحمد والحاكم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه بلفظ: ”من أتى عرافاً أو كاهناً، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد“، (مرقاة المفاتيح شرح المشكوة، كتاب الطب والرقي، باب الكهانة: ۳۶۶/۸، رشيدية)

”ومنها: أن تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفر، لقوله تعالى: ﴿قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله﴾ و لقوله عليه السلام: ”من أتى كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد“، (شرح الفقه الأكبر، حكم تصديق الكاهن، ص: ۱۳۹، قديمي)

و قال سبحانه تعالى: ﴿وإنى لغفار لمن تاب﴾ الآية: ۸۲، سورة طه

(۱) ”و يكره إمامة عبد و فاسق و لعل المراد به من يرتكب الكبائر و أما الفاسق، فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، و بأن فى تقديمه للإمامة تعظيمه، و قد وجب عليهم إهانته شرعاً“، (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا فى تبیین الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۳۳، امداديه ملتان)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشيدية)

- ۳- اکثر جھوٹ بولنے کا بھی عادی ہے۔
 ۴- ریاکار ہے۔
 ۵- مسلمانوں میں تفرقہ بازی کرنا چاہتا ہے۔
 ۶- نماز کے اوقات کا پابند نہیں، بمشکل آوازیں دینے پر جماعت کرتا ہے۔
 ۷- گورنمنٹ کے مال کی چوری بتلاتا ہے۔ آیا یہ صحیح ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

خیانت کرنا گناہ ہے (۱) جس سے توبہ اور صاحبِ حق سے معافی طلب کرنا اور اس کو راضی کرنا ضروری ہے (۲)۔ عورت کو نامحرم کے سامنے بے پردہ کرنا منع ہے، اگر کسی ضرورت سے شرعی پردہ کے ساتھ باہر لیجاوے تو جائز ہے (۳)۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون﴾ (سورة الأنفال: ۲۷)

﴿وتخونوا أماناتكم﴾ عطف على المجزوم أولاً، والمراد النهي عن خيانة الله تعالى والرسول وخيانة بعضهم بعضاً، والكلام عند بعض على حذف مضاف: أي أصحاب أماناتكم. (تفسير روح المعاني: ۱۹۲/۹، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

”عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”أية المنافق ثلث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أو تمن خان.“ (الصحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق: ۱۰/۱، قديمي)

(۲) ”عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”ألا! لا تظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.“ رواه البيهقي في شعب الإيمان والدارقطني في المجتبي.“
 ”و عن سمرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ”على اليد ما أخذ حتى يؤدى.“ رواه أحمد، وأبو داؤد، والنسائي.“ (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الغصب والعارية: ۲۵۵/۱، قديمي)

(۳) قال الله تعالى: ﴿و قرن في بيوتكن﴾: أي الزمن، فلا تخرجن لغير حاجة، و من الحوائج الشرعية =

ریا کاری بھی سخت گناہ ہے (۱)، مسلمانوں میں بلا وجہ تفریق ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے (۲)۔ نمازی کا اپنے وقت پر پابند رہنا از خود ہر ایک کے لئے ضروری ہے، کسی عذر کی وجہ سے اگر کبھی تاخیر ہو جائے اور دوسرا شخص مطلع کر دے تو مضائقہ نہیں۔ گورنمنٹ کی چوری علاوہ حکم شرعی کے جان، مال عزت خطرہ میں ڈالنا ہے جن کی حفاظت لازم ہے (۳)۔

= الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن ثقلات". وقوله تعالى: ﴿و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية وقال مقاتل بن حيان والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده، فيواري قلائدها وقرطها و عنقها، ويبدو ذلك كله منها". (تفسير ابن كثير، (سورة الأحزاب): ۳/۶۳۶، ۶۳۷، دار الفيحاء دمشق)

(۱) "وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سَمِعَ سَمِعَ الله به، و من يراني يراني الله به". متفق عليه."

"عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر". قالوا: يا رسول الله! وما الشرك الأصغر؟ قال: "الرياء". رواه أحمد، وزاد البيهقي في شعب الإيمان: "يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم: "أذهبوا إلى الدين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً وخيراً)". (مشكاة المصابيح، كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة: ۲/۳۵۳، ۳۵۶، قديمي)

(۲) قال الله تعالى: ﴿و لا تفرقوا﴾ أمرهم بالجماعة و نهامهم عن التفرقة، و قد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق، والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويسخط لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدون و لا تشركوا به شيئاً، وأن تعصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا، و أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثاً: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال". (تفسير ابن كثير، (سورة آل عمران): ۱/۵۱۶، دار الفيحاء دمشق)

(۳) "عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه في حديث طويل: "فإن دمأءكم و أموالكم و أعضاكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليلبغ الشاهد الغائب إهـ". (صحيح البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رُب مبلغ أوعى من سامع: ۱/۱۶، قديمي) =

کسی ذی اثر عالم کے ذریعہ سمجھا دیئے جائیں، اگر وہ مان جائیں اور ناجائز امور سے توبہ کر کے اپنی حالت شریعت کے مطابق کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اگر ان سے بہتر امامت کے لائق متبع سنت آدمی موجود ہو تو اس کو امام بنا لیا جائے (۱) اور موجودہ امام کو الگ کر دیا جائے بشرطیکہ اس کے علیحدہ کرنے میں فتنہ پیدا نہ ہو اور مسجد کے ویران ہونے کا خوف نہ ہو (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۴/۷/۶۴ھ۔

ایک امام صاحب کی خرابیاں

سوال [۲۶۴۳]: زید و عمرو، بکر پر دیوث اور اس کی بیوی ہندہ پر زانیہ اور اس کے دیور پر زانی کا الزام لگاتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس باہمی ناجائز تعلق کی خبر ہم لوگوں کو سالوں سے ہے، مگر ذکر اس کا اب کرتے ہیں اور ثبوت میں بکر ہی کو جو ہندہ کا شوہر ہے پیش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بکر ہی نے کہا تھا کہ ہماری بیوی سے ہمارے بھائی کا ناجائز تعلق ہے، حالانکہ بکر اب اس بات کا انکار کرتا ہے، کیا زید وغیرہ کتمان شہادت کی وجہ سے مجرم ہو کر امامت کر سکتے ہیں؟

۲..... لواطت پر بلا یعنی شرعی ثبوت پیش کئے کسی پر الزام لگا دینے والا امامت کر سکتا ہے؟

”عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”المسلم =
أخو المسلم، لا يخنونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام: عرضه و ماله و دمه،
التقوى ههنا، اه“۔ (جامع الترمذی، أبواب البر والصلوة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، باب
ما جاء في شفقة المسلم على المسلم: ۱۴/۲، سعید)

(۱) ”قال رحمه الله تعالى: (ثم الأورع) لقوله عليه السلام: ”اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما
بينكم و بين ربكم“۔ (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۳۴۴/۱، دار الكتب العلمية بيروت)
(۲) ”و في المواقف و شرحه: إن للأمة خلع الإمام و عزله بسبب يُوجب، مثل أن يُوجد منه ما يوجب
اختلال أحوال المسلمين و انتكاس أمور الدين، كما كان لهم نصبه و إقامته لانتظامها و إعلانها، وإن
أدى خلعه إلى فتنة احتمال أدنى المضرتين“۔ (رد المحتار، كتاب الجهاد، باب البغاة:

۳..... امانت کے طور پر بوعده واپسی ایک کاغذ زید نے لیا اور باوجود واپس نہ کرنے کے بھی امامت کرتا ہے، کیا یہ امامت صحیح ہے؟
الجواب حامداً ومصلحاً:

اصل پورا واقعہ ہمارے علم میں نہیں، باہمی مخالفت کی بناء پر جن امور کو سوال میں لکھا ہے ان کا جواب خود بھی واضح ہے، تاہم نمبر وار تحریر ہے:

۱..... بغیر ثبوت شرعی کے ایسا کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اگر شرعی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے، جب بکر حلفیہ انکار کرتا ہے تو اس کو ثبوت میں کیسے پیش کیا جاسکتا ہے، جو لوگ ایسے اتہامات لگانے میں ملوث ہیں ان کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، جب تک وہ توبہ کر کے اصلاح نہ کر لیں (۱)۔

۲..... اس کا حکم بھی نمبر: ۱ کی طرح ہے (۲)۔

۳..... جس کی امانت واپسی کے وعدہ پر لی تھی اس کو واپس کرنا ضروری ہے، واپس نہ کرنا خیانت ہے،

(۱) "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "ذكرك أخاك بما يكره". قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول اغتبه، وإن لم يكن فيه فقد بهته". قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "قوله: وإذا لم تبلغه يكفيه الندم، قوله: وإلا شرط بيان كل ما اغتابه به مع الاستغفار والتوبة، والمراد أن يبين له ويعتذر إليه ليسمح عنه بأن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه، ويلزم ذلك حتى يطيب قلبه الخ". (الدر المختار مع رد المحتار، باب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ۶/۴۱۰، ۴۱۱، سعيد)

"(ويكره إمامة فاسق) من الفسق، وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر..... وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانتهم شرعاً..... بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم". (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة: ۱/۱۶۳، غفارية)

(۲) (راجع الحاشية المتقدمة)

جو شخص ایسا کرے وہ بھی مستحق امامت نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

امام کی خرابیاں

سوال [۲۶۴۴]: ایک شخص عالم ہے لیکن بہرہ ہے، چیخ و پکار کے ذریعہ ہی سن سکتا ہے، نماز میں مقتدی آواز سے اشارہ کرتے ہیں تو بعض وقت درستی کر لیتا ہے اور بعض وقت نہیں، منبر پر ایسے شخص کی تعریف کرتا ہے جس سے ذاتی مفاد ہو اور جس سے رنجیدگی ہوتی ہے اس کی مذمت و عیب جوئی کرتا ہے۔ جھوٹے مقدمہ پر اپنے احباب و اقارب کی اعانت کرتا ہے اور خاص دلچسپی رکھتا ہے، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اس کا کافی دخل ہے۔ کیا ان سب نقائص کے پیش نظر ایسے امام کی امامت ناجائز ہے یا جائز؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر حالات یہی ہیں تو ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ ہے جبکہ اس سے بہتر امامت کے لائق دوسرا آدمی موجود ہو (۲)، غیبت، عیب جوئی، غلط تعریف، جھوٹے مقدمہ بازی میں اعانت و استعانت، ان میں ہر وجہ مستقل نقص ہے، سیاسی پارٹی سے تعلق صحیح نقص نہیں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

(۱) "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أوتمن خان". (مشکوٰۃ المصابيح، باب الكبائر وعلامات النفاق، الفصل الأول: ۱/۱، فدیمی)

(والصحيح لمسلم، باب خصال المنافق: ۱/۵۶، قديمی)

(وأيضاً راجع، ص: ۱۹۱، رقم الحاشية: ۱)

(۲) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۱۱، رشيدیه)

(وكذا في التبيين، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۳۴، امدادیہ)

(۳) "وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغيبه أشد من الزنا". =

امام کے متعلق چند خرابیاں

سوال [۲۶۴۵]: جس امام کے اندر مندرجہ ذیل کمزوریاں ہوں تو اس امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟

۱..... جو اپنے مقتدیوں میں سے کسی ایک سے ترک موالات کرے۔

۲..... جو بڑے دنوں پر گھر گھر جا کر چاؤل یا آٹا جمع کرے۔

۳..... جو نماز پڑھانے کی اجرت طلب کرتا ہو۔

= (إلى آخر الحديث). (مشکوٰۃ المصابیح، باب حفظ اللسان، الفصل الثالث، ص: ۴۱۵، قدیمی)
 ”وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا“ الخ. (مشکوٰۃ المصابیح، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الأول، ص: ۴۲۷، قدیمی)
 ”وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال:
 ”ومن ستر مسلماً، ستره الله يوم القيامة“. (مشکوٰۃ المصابیح، باب الشفقة والرحمة على الخلق، ص: ۴۲۲، قدیمی)

”وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: ”أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: ”ويلك! قطعت عنق أخيك“ -ثلاثاً- من كان منكم مادحاً لا بحالة فليقل: أحسب فلاناً والله حسبي إن كان يرى أنه كذلك“ الخ. (مشکوٰۃ المصابیح، باب حفظ اللسان، الفصل الأول، ص: ۴۱۲، قدیمی)

”وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، و من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة“. الخ. (مشکوٰۃ المصابیح، باب الشفقة والرحمة على الخلق، ص: ۴۲۲، قدیمی)

”فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى في الدنيا والآخرة، فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم و باطنهم ومن علماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير“. (ردالمحتار، كتاب الحدود، مطلب في الكلام على السياسة: ۱۵/۳، سعيد)

۴..... جس کے متعلق یہ شبہ ہو کہ زانی ہے اگرچہ شرعاً اس پر زنا ثابت نہ ہو۔
 ۵..... جو شخص کسی پر جان بوجھ کر قرض جتائے، اس نے لیا ہی نہ ہو، صرف اپنے آپ کو کسی جرم سے بچانے کی خاطر۔

۶..... جو بستی کے چند کھٹو، پنچوں کی کٹھ پتلی بن گیا ہو۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

- ۱..... ترکِ موالات کی وجہ معلوم ہونی چاہئے شرعی ہے یا غیر شرعی؟
- ۲..... یہ جمع کرنا کس نظم اور کس مقصد کے تحت ہے؟
- ۳..... کیا تنخواہ ماہانہ یا ششماہی یا سالانہ طلب کرتا ہے، یا ایک نماز پڑھانے کی اجرت طلب کرتا ہے؟
- ۴..... شبہ کرنے والے مجرم ہیں، جب کہ بلا ثبوت شرعی شبہ کرتے ہیں (۱)۔
- ۵..... اگر یہ قرض جتنا جھوٹ ہے تو وہ شخص کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں نے قرض نہیں لیا، نیز کوئی جرم اس پر ثابت ہے جس سے بچنے کی خاطر یہ قرض جتایا ہے، یا یہ بھی نمبر ۴ کی طرح ہے، غرض بات مجمل ہے۔
- ۶..... اس کی بھی تفصیل سامنے آنی ضروری ہے۔ کسی کی امامت کو مجروح کرنے کیلئے غلط قسم کی کوشش کرنا فتیح و مذموم ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
 حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

ایک امام کے خراب حالات، وارٹھی کی حد

سوال [۲۶۲۶]: ہمارے محلے کی مسجد میں جو پیش امام ہے اس محلہ سے کچھ دوری پر ایک جامع مسجد آباد ہے، جس میں چند اشخاص زیادہ تر نماز ادا کرتے ہیں، صرف فجر کی نماز ایسی ہے کہ جس میں کم وقت رہتا ہے

(۱) قال اللہ تعالیٰ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ (سورة الحجرات: ۱۲)

”عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث“. آه. متفق عليه.“ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب ما ينهى عنه من التهاجر والنقاطع: ۱/۲۲۷، قدیمی)

اور جامع مسجد پہنچنے میں نماز نکل جانے کا حدشہ رہتا ہے ایسی صورت میں یہ لوگ اس محلہ کی مسجد میں مقیم پیش امام کے پیچھے اپنی نماز ادا کرتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے اور امام صاحب کے عقائد یہ ہیں، بزرگوں کی نیاز وغیرہ کو ضروری سمجھتے ہیں اور قبروں کو سجدہ کرنا جائز کہتے ہیں، اور عوام جتنے بھی افعال آج کل بزرگوں کی قبروں پر کرتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں، انبیاء کرام حضرات اولیاء کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں اور بوقت مصیبت بزرگوں سے استمداد و استعانت کو جائز کہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو رب العزت کی ذات میں حلول سمجھتے ہیں..... کسی نے سمجھا ہی نہیں اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کامل جب ہوتا ہے تو وہ ہر وقت ذکر میں رہتا ہے نماز میں الٹا سیدھا ہونا ضروری نہیں، علماء کو گالیاں دیتے ہیں اور لوگوں میں علماء کے خلاف بدظنی پیدا کرتے ہیں داڑھی فرنیچ کٹ رکھتے ہیں، انگریزی بال سر پر رکھتے ہیں اگر ان سے کہو تو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا کچھ ضروری نہیں، لمبی داڑھی تو سکھوں کی ہوتی ہے، تعزیہ وغیرہ کو شوکت اسلام کہتے ہیں، داڑھی رکھنا کیسا ہے اور اس کی حد کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے شخص کو امام بنانا اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اگر یہ امام اپنے عقائد فاسدہ اقوال کا سدہ اعمال قبیحہ سے تائب ہو کر اپنی اصلاح نہ کرے اور تبع سنت نہ بن جائے (۱) تو اس کو امامت سے جدا کرنا واجب ہے (۲) جدا کرنے پر قدرت نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے دوسری مسجد میں جا کر جہاں

(۱) ”ویکفرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى ومبتدع لا یکفر بها، وإن کفر بها، فلا یصح الاقتداء به

أصلاً“ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعید)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤکدة: ۱/۱۰۸، دار احیاء التراث

العربی بیروت)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۳۵، دار الکتب العلمیة بیروت)

(۲) ”إن للامة خلع الإمام وعزله بسبب یوجبہ مثل أن یوجد منه ما یوجب اختلال أحوال المسلمین

وانتکاس أمور الدین کما کان لهم نصبه واقامته لانتظامها وإعلانها، وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمال أدنی

المضرتین“ (رد المحتار، کتاب الجهاد، باب البغاة: ۳/۲۶۳، سعید)

کا امام صحیح العقیدہ اور تبع سنت ہو نماز پڑھا کریں (۱) ورنہ اپنی نماز کو تو یہ امام تباہ کرتا ہی ہے مقتدیوں کی نماز بھی اس کے پیچھے تباہ و برباد ہوگی (۲) داڑھی کی حد ایک مشت ہے اس سے پہلے کٹانا جائز نہیں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/۳/۸۹ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

ایک امام صاحب کی کوتاہیاں

سوال [۲۶۴]: آج سے ایک ماہ قبل ایک صاحب اپنے پیسے کاغذ کے ٹھونگے میں رکھ کر مسجد کے برآمدہ میں بھول کر چلے گئے تھے، نماز عشاء میں ایک گھنٹہ بعد جب ان کو یاد آیا تو وہ دوبارہ مسجد آئے جبکہ مسجد کھلی تھی اور امام صاحب موجود نہیں تھے، قریب ہی ایک دعوت میں شریک تھے۔ اس شخص نے متولی مسجد سے رجوع کیا جو کہ مسجد ہی میں موجود تھے، متولی نے امام صاحب کے لڑکے کو امام صاحب سے معلوم کرنے کیلئے بھیجا، امام صاحب نے کھانے کے درمیان اس واقعہ سے انکار کر دیا مگر دوسرے ہی دن صبح کو خود جا کر مذکور رقم اس شخص کے گھر پہنچادی، دریافت کرنے پر امام صاحب نے فرمایا کہ محض تنبیہ کی غرض سے رات کو نہیں بتلایا۔

اس واقعہ کا بیان امام صاحب نے ہر موقع پر مختلف دیا جس کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی پھیل گئی اور

(۱) "قال الإمام: إذا كان إمامه لحاناً، لا بأس بأن يترك مسجده و يطوف". (الفتاوى العالمكيريّة،

كتاب الصلوة، الباب التاسع في النوافل فصل في التراويح: ۱/۱۱۶، رشيدية كوئٹہ)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، تراويح ص: ۴۰۷، ۴۰۸، سهيل اكيذمي لاهور)

(۲) قال الله تعالى: ﴿والذين كذبوا بآياتنا و لقاء الآخرة حبطت أعمالهم﴾ (سورة الأعراف: ۱۳۷)

وقال تعالى: ﴿أولئك حبطت أعمالهم و في النار هم خالدون﴾ (سورة التوبة: ۷۷)

(۳) "عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى".

"ومنهم من حد و بما زاد على القبضة فيزال". (النووي على صحيح مسلم، كتاب الطهارة،

باب خصال الفطرة: ۱/۱۲۹، قديمي)

و أخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة..... و لذا يحرم على الرجل قطع لحيته".

(الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ۶/۴۰۷، سعيد)

لوگ ان کو بد نیت تصور کرنے لگے، اس واقعہ سے ان چند حضرات نے نماز جماعت و مسجد دونوں ترک کر دی ہے اور اپنے گھروں پر پنج وقتی نمازیں ادا کرتے ہیں، اور نماز جمعہ دوسری مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بظاہر دو جماعتیں بن گئی ہیں، اکثریت امام کی ہمدرد ہے اور سختی سے ان کی بحالی اور مشاہرہ میں اضافہ کی متمنی ہے جبکہ ان چند افراد کا مطالبہ ہے کہ امام صاحب کو فوراً برطرف کر دیا جائے۔

۲..... ایک بیمار نے نظر مانی تھی کہ صحت مند ہونے پر ایک گائے قصائی سے خرید کر صدقہ کر دوں گا، امام صاحب قصائی سے پہلے ہی طے کر چکے تھے کہ گائے کی جو بھی قیمت ہو میں تم سے مبلغ سو روپے لے لوں گا، جو نہی وہ شخص قصائی کو گائے کی قیمت دے کر گیا، امام نے قصائی سے طے شدہ رقم وصول کر لی، اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام صاحب صدقہ لینے سے بھی پرہیز نہیں کرتے ہیں۔

۳..... زید نے مسجد کی موم بتیاں کئی مرتبہ فروخت کی ہیں اور کمیٹی کی میٹنگ میں دریافت کرنے پر بتایا کہ سب جلا دی گئی ہیں، اس پر ممبر کمیٹی نے بیان دیا کہ فلاں شخص نے موم بتیاں فروخت کی ہیں، جس کا میں ثبوت دے سکتا ہوں، تب زید نے اقرار کیا کہ ہاں! میں نے کچھ موم بتیاں فروخت بھی کی ہیں۔ اس واقعہ سے غلط بیانی کا ثبوت ملتا ہے۔

۴..... زید کے بارے میں یہ بھی شکایت ہے کہ پنج وقت کی نمازیں وقت مقرر پر نہیں پڑھاتے ہیں اور خصوصاً فجر میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اکثر اوقات میں وقت مقررہ پر مسجد کھلتی بھی نہیں ہے۔

۵..... زید مسائل سے بھی ناواقف ہے۔

مندرجہ بالا عیوب کی بناء پر کیا ان کی امامت از روئے شریعت جائز ہے یا نہیں؟ جو لوگ فی الحال ان کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام صاحب اپنی ان غلطیوں کا اعتراف کر کے آئندہ کو احتیاط رکھیں، سب لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں خلفشار و تفریق پیدا نہ کریں، جمعہ و جماعت ترک نہ کریں، مسجد کو نہ چھوڑیں، البتہ اگر امام صاحب مسائل نماز و طہارت سے واقف نہیں تو پھر دوسرا مسائل طہارت و نماز سے واقف پابند شریعت امام تجویز

کیا جائے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۱۲/۹۲ھ۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۱۲/۹۲ھ۔

ایضاً

سوال [۲۶۲۸]: ایک شخص اجنبی ہے، اس کا گھر ہمارے گھر سے تقریباً دو سو میل پر ہے اور یہاں نہ تو اس کا کوئی رشتہ ناطہ ہے، کسی زمانے میں یہاں اس کی کبھی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، نہ ہی ہمارے کفو برادری کا ہے، نہ کوئی مستقل پیشہ ہے، جی حضوری میں مالداروں کی رہتا ہے۔ ایسا شخص ہماری جماعت، عیدین میں ان خود غرض پیشہ والے زیر سایہ اپنی بناوٹی مجبوری دکھا کر جماعت عید الفطر کے روپے کبھی آدھا کبھی آدھے سے کم رقم لیتا رہا، امام و مقتدی بن کر خود غرض لوگ اپنے علاقہ کے غرباء و مساکین کی حق تلفی کر کے دیتے رہے۔

اب حال یہ ہے، اس جماعت میں سے چند پڑھے لکھے ایسے ہیں کہ اللہ کا فضل ہر اعتبار سے بہتر ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کی نماز اس شخص مذکور کے پیچھے جائز ہے؟ خود غرضوں کا یہ حال ہے کہ اپنی طبیعت سے ہر ایک سال دو سال پر جس کو چاہے امام بنائیں، جس جماعت کا وہ اجنبی شخص عید گاہ کی تخمیناً دو ایکڑ زمین میں سے ڈیڑھ ایکڑ زمین اہل ہنود میں سے ہریجن لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر اور اپنے کو وہ انصاری بتا کر حکومت سے چپ چاپ

(۱) "عن إسماعیل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضمعج يقول: سمعت أبا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقول لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "یوم القوم أقرؤهم لکتاب اللہ، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتہم سواء، فلیؤمهم أقدمهم هجرة. اهـ". (الصحيح لمسلم، کتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۱/۲۳۶، قدیمی)

(و جامع الترمذی، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ۱/۵۵، سعید)

"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، وحفظه قدر فرض، وقيل: واجب، وقيل: سنة، ثم الأحسن تلاوة و تجويداً للقراءة". (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵، سعید)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلوة، فصل فی بیان من هو أحق بالإمامة: ۱/۲۶۹، دار الکتب العلمیة بیروت)

بے خبری میں بندوبست کر کے اور غیر قوم اس مذکورہ عید گاہ کی زمین کچھ پیسہ لے کر دینے کیلئے تیار ہو جائے اور وہ اجنبی تانہوز اس جماعت سے مستفیض ہوتا رہا ہو، وہ اس صورت مذکورہ بالا پر بھی زمین کو واپس دینے کیلئے تیار نہ ہو، لطف یہ ہے کہ وہ تیار شدہ لوگوں کو بھی بہکا کر ناکام کر دے۔ اسی صورت حال پر اگر مسلمانوں کے دو گروہ ہو جائیں اور سابق جگہ سے آدھ میل یا پانچ میل دوری پر یا اس کے قریب دوسری زمین پر جماعت نماز عیدین ادا کرے، اس حال میں نماز عیدین دوسرے گروہ کی جائز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جماعت عید الفطر کا روپیہ اگر نماز پڑھانے کی اجرت میں دیا جائے تو یہ درست نہیں، اگر یہ صدقہ فطر ہے تو وہ بھی اجرت میں دینا درست نہیں بلکہ وہ غریبوں کا حق ہے (۱)۔ جو شخص جس کو ضرورت مند سمجھے اس کو دے (۲)۔ نماز کیلئے ایسے آدمی کو امام بنایا جائے جو صحیح طور پر نماز پڑھائے اور متبع شریعت ہو (۳) اگرچہ نماز شخص مسؤل عنہ کے پیچھے بھی ادا ہوگئی۔ عید گاہ کی وقف زمین کو فروخت کرنا ہرگز جائز نہیں، جو شخص ایسا کرے وہ سخت گنہگار ہے (۴)، اس کی امامت برقرار رکھنا جائز نہیں، اس کو امامت سے برطرف کیا جائے، اور کسی دیندار

(۱) "ومصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزكاة، كذا في الخلاصة"۔ (الفتاویٰ العالمکیریہ، کتاب

الزكاة، الباب الثامن في صدقة الفطر: ۱/۱۹۴، رشیدیہ)

(و كذا في تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر: ۲/۳۶۹، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر: ۲/۴۲۶، رشیدیہ)

(۲) "وجاز دفع كل شخص فطرته إلى مسكين على المذهب، كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين

واحد بلا خلاف"۔ (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر: ۱/۳۶۷، سعید)

(۳) "عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضميج يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله تعالى عنه

يقول لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "يَوْمَ الْقَوْمِ أقرؤهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن

كانت قراءتهم سواء، فليؤمهم فأقدمهم هجرة. آه"۔ (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق

بالإمامة: ۱/۲۳۶، قديمی)

(و أيضاً تقدم تخريجه تحت عنوان: "أبي امام صاحب كوتاهیاں"۔)

(۴) "وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على =

و پابند سنت کو امام بنایا جائے (۱)۔ اگرچہ نماز عید دوسری جگہ بھی درست ہے (۲)، مگر سب ایک جگہ متفق ہو کر نیک و دیندار امام کے پیچھے پڑھا کریں، اس میں خیر و برکت ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۱۲/۷ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۹۲/۱۲/۲ھ۔

= وجه تَعُودِ مَنْفَعَتِهِ إِلَى الْعِبَادِ، فَيَلْزَمُ، وَ لَا يَبَاعُ وَ لَا يُوْهَبُ وَ لَا يُوْرَثُ، وَ اللَّفْظُ يَنْتَظِمُهُمَا، وَ التَّرْجِيحُ بِالِدَلِيلِ، لِهَمَا قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَرْضٍ لَهُ تَدْعَى "ثَمَغٌ": تَصَدَّقْ بِأَرْضِهَا لَا يَبَاعُ وَ لَا يُوْرَثُ وَ لَا يُوْهَبُ". (الهداية، كتاب الوقف: ۲/۶۳۷، مكتبه شركة علميه ملتان)

(و كذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الوقف: ۳/۳۳۸، ۳۳۹، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الأول في تعريفه و ركنه اهـ: ۲/۳۵۰، رشيديه)

(۱) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدر المختار). وفي رد المحتار: "قوله: وفاسق من الفسق:

وهو الخروج عن الاستقامة، لعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني و آكل الربا

ونحو ذلك و كراهة تقديمه كراهة تحريم". (كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، ۵۱۴، سهيل اكيذمي، لاهور)

(و كذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة،

ص: ۳۰۲، قديمي)

(۲) "عن أبي سعيد رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "الأرض كلها

مسجد إلا المقبرة والحمام". رواه أبو داود والترمذي والدارمي". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة،

باب المساجد ومواضع الصلوة: ۱/۷۰، قديمي)

"عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "فُضِّلْنَا عَلَى

الناس بثلاث: جُعِلتْ صَفُوفُنَا كَصَفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَ جُعِلتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَ جُعِلتْ تَرْبَتُهَا لَنَا

طَهْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، كتاب الطهارة، باب التيمم: ۱/۵۴، قديمي)

(۳) "قال رحمه الله تعالى: (ثم الأورع) لقوله عليه السلام: 'اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما

بينكم و بين ربكم". و لأنه عليه السلام قدم أقدمهم هجرة، و لا هجرة اليوم، فأقمنا الورع مقامها".

(تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۳۴۴، دار الكتب العلمية بيروت)

ترش رو اور جھوٹ بولنے والے کی امامت

سوال [۲۶۴۹]: امام مسجد کا عام رویہ مقتدیان مسجد کے ساتھ ترش روئی کا رہتا ہے اور مقتدی

ان سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے اس امام کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟

۲..... جب جی میں آیا اذان دیتے ہیں اور جب جی میں آیا جماعت کرتے ہیں جس سے مقتدیوں کو

سخت تکلیف ہوتی ہے، ان سے بارہا کہا گیا کہ اذان اور جماعت کا وقت مقرر فرمادیتے، آج تک امام صاحب

مذکور نے وقت اذان و جماعت پنجگانہ مقرر نہیں کیا، اس بابت پر اصرار کیا گیا تو فرماتے ہیں کہ میں بورڈ کا ملازم

ہوں، میرا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

۳..... امام صاحب مذکور کھلا جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ کیا ایسے امام کے پیچھے شرعی طور پر

نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

۴..... امام موصوف پنجاب ہریانہ مسلم وقف بورڈ سے فرائض امامت کی تنخواہ پاتے ہیں، ان سے

کہا گیا کہ مسجد میں جو تیل سرسوں آتا ہے اس کو اپنی ذات پر استعمال نہ کریں، قبل ازیں ان سے اس بات پر جھگڑا

ہوا اور فتویٰ منگایا گیا جس میں مسجد کا تیل ان کیلئے ناجائز قرار دیا گیا۔ امام صاحب نے تیل اپنی ذات پر استعمال

نہ کرنے کا وعدہ کیا اور تیل مقتدیوں کے حوالہ کرتے رہے جس کو فروخت کر کے چھوٹے چھوٹے مصارف کی

تعمیل کی جانے لگی، اب پھر امام مذکور نے یہ تیل اپنی ذات پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ کیا یہ تیل امام

صاحب کے لئے جائز ہے؟ اور ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... امام صاحب کی ان کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود جو نمازیں ان کی اقتداء میں پڑھی گئی ہیں وہ

ادا ہو گئیں، ان کے لوٹانے کی ضرورت نہیں، جبکہ دوسری مسجد نماز کیلئے وہاں کھلی ہوئی نہیں ہے تو مجبوراً امام

موصوف کے پیچھے نماز ادا کرتے رہیں، جماعت مسجد ترک نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھی ہے، جماعت ترک نہیں کی (۱)،

(۱) "وكان ابن عمرو أنس رضي الله عنهما يصليان الجمعة خلف الحجاج". (تبيين الحقائق، كتاب

الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۳۴۷، دارالكتب العلمية، بيروت) =

حدیث پاک میں ارشاد ہے: ”صلوا خلف کل برو فاجر“ ابو داؤد (۱) جس میں ہر فاجر اور نیک کے پیچھے نماز پڑھنے کیلئے فرمایا گیا ہے۔ ذاتی رنجش سے متاثر ہو کر جماعت ترک کر کے گھر پر نماز پڑھنا غلط اور شرعاً مذموم ہے (۲)۔

امام صاحب سے جو شکایات ہیں ان کی اطلاع باقاعدہ وقف بورڈ کو کی جائے وہاں فہمائش ہوگی، تو امید ہے کہ شکایات دور ہو جائیں گی، ورنہ وقف بورڈ کی طرف سے شکایات دور کرنے کا انتظام کر دیا جائے گا، مثلاً: جنتری سامنے رکھ کر اوقات نماز کیلئے سال بھر کا نقشہ بنا کر مسجد میں لٹکا دیا جائے گا جس سے سب کو سہولت ہو جائے گی، جو بچے امام صاحب کے سپرد ہیں ان کا امتحان لیا جائے گا۔ کوتاہی ہوگی تو تنبیہ کی جائے گی۔ وقت

= (و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی بیان من یصلح للإمامة: ۱/۲۶۶، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

(۱) ”عن أبی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”الجهاد واجب علیکم مع کل أمیر برأ کان أو فاجرًا، والصلوٰۃ واجبة علیکم خلف کل مسلم برأ کان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر، والصلوٰۃ واجبة علی کل مسلم برأ کان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر“۔ (سنن أبی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی الغزو مع أنسۃ الجور: ۱/۳۵۰، امدادیہ ملتان)

”وإن تقدموا، جاز لقوله عليه السلام: ”صلوا خلف كل برو فاجر“۔ (تبيين الحقائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۳۲۶، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی بیان من یصلح للإمامة: ۱/۲۶۶، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

(و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلوٰۃ، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سنهیل اکیڈمی لاہور)

(۲) ”الجماعة..... فتسن أو تجب - ثم رته تظهر فی الإثم بترکه - علی الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين علی الصلوٰۃ بالجماعة من غير حرج“۔ (الدر المختار).

ولذا قال فی الأجناس: لا تقبل شهادته إذا ترکه استخفافاً و مجاناً، إما سهواً أو بتأویل کكون الإمام من أهل الأهواء أو لا یراعی مذهب المقتدی، فتقبل اهد“۔ (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۲۰۳، سعید)

(و کذا فی النهر الفائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۲۳۸، امدادیہ ملتان)

پر غیر حاضری ہوگی تو اس کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ جب امام صاحب سے آپ لوگوں نے خود معاملہ نہیں کیا تو آپ باز پرس قوت سے نہیں کر سکتے، وقف بورڈ نے معاملہ کیا ہے وہاں سے باز پرس خوب ہو سکتی ہے، اس کا اثر بھی امام صاحب پر ہوگا۔

(تنبیہ:) آپس کے اختلافات کو ختم کیجئے، اس اختلاف کی وجہ سے مسجد کو ویران نہ کیجئے، ایسا نہ ہو کہ اس مخالفت کی نحوست سے یہ مسجد بھی دیگر مساجد کی طرح بند ہو جائے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود وغفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۹/۹۵ھ۔

جھوٹ بولنے، درست طور پر طہارت حاصل نہ کرنے والے بہرے امام کی امامت

سوال [۲۶۵۰]: امور ذیل دریافت وضاحت طلب ہیں:

۱..... مسیٰ حاجی محمد شفیع صاحب نقشبندی جامع مسجد عثمانیہ رسالہ بازار بلد روم کے پیش امام ہیں جن کے تعلق سے آپ کی رائے درکار ہے، جو بوقت امامت زبان سے صحیح طور پر الفاظ ادا کرنے کے بجائے عربی الفاظ کی ترتیب بدل دیتے ہیں۔

۲..... جھوٹ بولتے ہیں۔

۳..... طہارت صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔

۴..... بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں حالانکہ مسجد جماعت سے پیش امام صاحب کو تنخواہ بھی ملتی ہے جن کے زیر پرورش کوئی نہیں ہے جو مسجد ہذا میں رہتے ہیں۔

۵..... مسجد کے قرآن شریف کی حفاظت کی الماری میں اپنا بستر اور استعمال شدہ کپڑے وغیرہ رکھتے ہیں اور کلام پاک کو باہر رکھ کر بے حرمتی کرتے ہیں۔

۶..... پیش امام صاحب کان سے بہرے ہیں۔

۷..... آنکھ کی بینائی بھی برابر نہیں ہے۔

۸..... پیش امام صاحب مسجد ہذا ہی کے اندر رہتے ہیں، خورد و نوش کرتے ہیں، جہاں ہم مسلمان وضو کرتے ہیں پیش امام صاحب اس جگہ غسل وغیرہ کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے کپڑے وغیرہ وہیں دھوتے ہیں۔

۹..... اکثر نماز کے بعد ڈراؤنی آواز میں روتے ہیں۔

۱۰..... نماز میں عربی الفاظ کو جھٹکے دیکر ادا کرتے ہیں۔

۱۱..... نماز کے وقت پیش امام صاحب سورت میں اکثر غلطی کر دیتے ہیں تو لقمہ دینے کے باوجود توجہ نہیں کرتے اس لئے کہ بہرے ہیں، اگر کوئی پیش امام صاحب سے دریافت کرے تو موصوف جہالت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو پیش امام ہوں، جن کا اکثر یہ کہتے رہنا ہے کہ میں پیش امام ہوں اور اکثر یہ بھی ادا کرتے ہیں کہ میں اپنی نماز ادا کرتا ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ نماز پڑھے تو ان کی مرضی۔ اس کے علاوہ بلاوجہ کسی مسلم پر جھوٹ کا الزام عائد کر دیتے ہیں تو موصوف کسی شرعی مسائل سے واقف نہیں اور نہ کوئی عربی ترجمہ سے واقف ہیں، غرض کہ کوئی بات نہیں سنتے۔

لہذا عرض ہے کہ اگر مندرجہ بالا عنوان پیش امام کی عادت میں داخل ہیں تو برائے کرم فرمایا جائے کہ اس خصوص میں کیا فتوہ جات عائد ہوتے ہیں، معلوم فرما کر مشکور فرمائیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... ترتیب کس طرح بدل دیتے ہیں کیا ”اب“ کو ”برادر“، ”من“ کو ”تم“ اور ”ما“ کو ”ام“ پڑھتے ہیں یا کیا صورت ہے؟

۲..... صریح جھوٹ بولتے ہیں یا (۱) توریہ و تعریض سے کام لیتے ہیں؟ اول تو عین الکذب کو درمختار میں حرام لکھا ہے، توریہ و تعریض کی گنجائش بھی دی ہے (۲)، پھر اتفاقاً گناہ کا سرزد ہو جانا جس پر ندامت و توبہ بھی

(۱) ”عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.“ رواه صحاح ستہ . (تنبیه الغافلین ، باب الزجر عن الكذب، ص: ۸۲، حقانیہ بشاور)

(۲) ”والكذب حرام إلا فى الحرب للخذعة، وفى الصلح بين اثنين، وفى رضاء الأهل، وفى دفع الظالم عن الظلم، و المراد التعریض؛ لأن عين الكذب حرام، قال فى المجتبى: وهو الحق، والمراد به التعریض؛ لأن عين الكذب حرام إلا لحاجة.“ (مجمع الأنهر، كتاب الكراهية، فى المتفرقات: =

ہو اور بات ہے اور گناہ کا عادی ہونا جس پر عموماً امت بھی نہیں ہوتی ہے یہ اور بات ہے جو کہ پہلی بات سے بہت تخت ہے (۱) (اللہ محفوظ رکھے)۔

۳..... وضو و غسل صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، یا حقیقی نجاست کو صحیح طور پر دور نہیں کرتے، وضو و غسل صحیح طور پر ادا نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آیا فرض ترک کرتے ہیں اس طرح کہ اعضاء خشک رہ جاتے ہیں یا نہیں؟ یا تین دفعہ دھو کر پورے سنن و مستحبات کو ادا نہیں کرتے، اسی طرح نجاست حقیقی بدن یا کپڑے پر لگی رہ جاتی ہے یا تین تین دفعہ نہیں دھوتے؟ حکم سب کا یکساں نہیں اس لئے تفصیل کی ضرورت ہے۔

۴..... جتنی تنخواہ ملتی ہے کیا وہ سب ضروریات کیلئے کافی ہوتی ہے اور بلا ضرورت محض لالچ کی وجہ سے بھیک مانگتے ہیں تو شرعاً و عرفاً بہت فتنج اور مذموم ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے (۲)۔ کسی بے تکلف دوست سے

= ۵۵۲/۲، دار إحياء التراث العربی

”الكذب مباح لإحياء حقه و دفع الظلم عن نفسه، والمراد التعريض؛ لأن عين الكذب حرام، قال: وهو الحق، قال تعالى ﴿قتل الخراصون﴾ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ۶/۲۲۷، سعيد)

(۱) ”عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”ما أصرّ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة“، رواه الترمذی و أبو داود“.

”و عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون“، رواه الترمذی وابن ماجه و الدارمی“.

”و عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب“.

”و عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”التائب من الذنب كمن لا ذنب له“، رواه ابن ماجه و البيهقي في شعب الإيمان“، وقال: تفرد به النهراي وهو مجهول، وفي شرح السنة: روى عنه موقوفاً، قال: ”الندم توبة، والتائب كمن لا ذنب له“، (مشکوٰۃ الصابیح، کتاب الدعوات، باب الاستغفار و التوبة: ۱/۲۰۲، ۲۰۶، قدیمی)

(۲) قال الله تعالى ﴿لا يسألون الناس إلحافاً﴾ (سورة البقرة: ۲۷۳)

قال ابن كثير تحت هذه الآية: ”عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: =

کسی وقت یہ کہہ دینا کہ فلاں چیز کھلاؤ مثلاً چائے پلاؤ بھیک میں داخل نہیں ہے، کیونکہ بے تکلف دوستوں میں کھانے اور کھلانے کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں (۱)۔

۵..... اگر ان کے پاس رہنے اور سامان رکھنے کیلئے جگہ موجود ہے تو پھر ان کو مسجد کی الماری کو جو کہ قرآن پاک رکھنے کیلئے ہے اپنے کام میں نہیں لانا چاہئے (۲)، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ قرآن شریف اگر بجائے الماری کے طاق میں رکھ دیا جائے تو اس میں بے حرمتی کیا کی؟

۶..... یہ بے اختیاری چیز ہے (۳) لیکن اگر کبھی ان کو غلطی ہو جائے تو بہرے پن کی وجہ سے لقمہ میں دشواری پیش آئے گی۔

= ”من سأل وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً“ أو ”كدوحاً في وجهه“. قالوا: يا رسول الله! و ما غناه؟ قال: ”خمسون درهماً أو حسابها من الذهب“. (تفسیر ابن کثیر: ۴۳۵/۱، دار الفیحاء دمشق)

(۱) قال الله تعالى: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [سورة النور: ۶۱] ”أى بيوت أصدقائكم و أصحابكم، فلا جناح عليكم فى الأكل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم، ولا يكرهون ذلك“. (تفسیر ابن کثیر: ۴۰۷/۳، دار الفیحاء دمشق)

”عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى سرية..... قال: ”وما علمت أنها رقية، اقبضوا الغنم واضربوا لى معكم بسهم“. هذا حديث حسن صحيح“. (جامع الترمذى، أبواب الطب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، باب ما جاء فى أخذ الأجر على التعويد: ۲۶/۲، سعيد)

(۲) ”متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته“. (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر فى المسجد و ما يتعلق به، الفصل الأول فى الوقف على المسجد و تصرف القيم و غيره فى مال الوقف عليه: ۴۶۲/۲، رشيدية)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل فى أحكام المساجد: ۴۲۰/۵، رشيدية كوئته)

(۳) قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ﴾ (سورة الأنعام: ۴۶)

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصَارَ﴾ (سورة يونس: ۳۱)

- ۷..... یہ بھی معذوری ہے (۱) لیکن اگر اس کی بچہ سے طہارت میں کمی رہے ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ کپڑے پر ناپاک چھینٹ پڑ گئی تو اشکال ہوگا (۲)۔
- ۸..... مسجد میں مستقلاً رہنا نہیں چاہیے (۳)، ان کیلئے کمرہ کا انتظام کر دیا جائے، وضو کی جگہ خارج مسجد ہو تو وہاں غسل کرنا، کپڑے دھونا بھی درست ہے (۴)۔
- ۹..... خدا کے ڈر سے رونا تو عیب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، بہت خوش قسمت ہے وہ شخص

(۱) (راجع، ص: ۲۰۶، رقم الحاشیة: ۲)

(۲) "قال رحمه الله تعالى: (والأعمى)؛ لأنه لا يتوقى النجاسة، ولا يهتدى إلى القبلة بنفسه، ولا يقدر على استيعاب الوضوء غالباً. وفي البدائع: إذا كان لا يوازيه غيره في الفضيلة في مسجده فهو أولى، ومثله في المحيط. وقد استخلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك على المدينة، وكانا أعميين". (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۳۴۵، ۳۴۶، دارالكتب العلمية، بيروت)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۶۱۰، رشيدية)

(و كذا في بدائع الصنائع، فصل في بيان من يصلح للإمامة: ۱/ ۶۶۸، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۳) "ويكره النوم والأكل فيه لغير المعتكف، وإذا أراد أن يفعل ذلك، ينبغي أن ينوي الاعتكاف الخ. ولا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في المسجد في الصحيح من المذهب، والأحسن أن يتورع فلا ينام، كذا في خزنة الفتاوى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد اه: ۵/ ۳۲۱، رشيدية)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره: ۱/ ۶۶۱، سعيد)

(۴) "و من منتهياته التوضؤ..... في المسجد إلا في إناء أوفى موضعٍ أعد لذلك". (الدر المختار،

كتاب الطهارة، أركان الوضوء أربعة: ۱/ ۱۳۳، سعيد)

"لو بنى فوقه بيتاً للإمام لا يضر؛ لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية، ثم أراد البناء، مُنع، و لو قال: عنيت ذلك، لم يصدق، تاترخانية". (الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب في أحكام

المساجد: ۳/ ۳۵۸، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد: ۵/ ۴۲۱، رشيدية)

جس کو یہ دولت نصیب ہو، اور وہ مقتدی بھی خوش قسمت ہیں جن کو خوفِ خدا سے رونے والا امام مل جائے (۱)۔

۱۰..... عربی کے بعض حروف جھٹکے سے ادا ہوتے ہیں، اسی طرح وہ بھی ادا کرتے ہوں گے، اگر ملاقات ہو اور زبانی ادا کر کے آپ بتلاتے تو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ یہ صورت ہے تب اس کا حکم معلوم ہوتا۔

۱۱..... وہ لقمہ دینے پر توجہ تو جب کریں جب وہ لقموں کو سنیں، بہرے پن کی وجہ سے نہ وہ لقمہ سنیں نہ وہ توجہ دیں۔ جہالت سے پیش آنا جہالت ہے جبکہ ان کے ساتھ کوئی جہالت نہ کرے تو وہ کیوں جہالت کریں، اگر کسی مقتدی کو واقعہ کوئی اشکال پیش آئے تو اس کو چاہئے کہ اپنے امام کا احترام ملحوظ رکھ کر ادب سے ان کی خدمت میں عرض کریں اور ان کو چاہئے کہ وہ نرمی اور شفقت سے اس کا جواب دیں، نہ مقتدی امام صاحب کے احترام کے خلاف کوئی بات کہے، نہ امام صاحب کسی کو حقیر و ذلیل کریں، اسی میں خیر ہے (۲)۔

نماز و طہارت کے مسائل سے واقف ہونا تو بہت ضروری ہے ورنہ بسا اوقات نماز خراب ہو جائیگی اور پتہ بھی نہیں چلے گا، مقتدی کی نماز کا وبال بھی امام کے ذمہ رہے گا، جو شخص نماز و طہارت کے مسائل سے واقف نہ ہو اس کو امام نہ بنایا جائے (۳)۔ جھوٹا الزام عائد کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے (۴)۔

(۱) "عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: "سبعة یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ....." ورجل ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ." (صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلوۃ و فضل المساجد: ۹۱/۱، قدیمی)

(۲) قال تعالیٰ: ﴿ یأیہا الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یكونوا خیراً منهم و لا نساء من نساء عسی ان یکن خیراً منہن ﴾. (سورۃ الحجرات: ۱۱)

(۳) "والأحق بالإمامة الأعدم بأحكام الصلوۃ فقط صحۃ و فساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاہرة، ثم الأحسن تلاوةً و تجويداً للقراءة، ثم الأورع آھ." (تنویر الأبصار مع الدر المختار، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة: ۵۵۷/۱، سعید)

(و كذا فی بدائع الصنائع، كتاب الصلوۃ، فصل فی بیان من هو أحق بالإمامة: ۲۶۹/۱، دار الكتب العلمیة بیروت)

(و كذا فی تبیین الحقائق، كتاب الصلوۃ، باب الإمامة: ۳۴۲/۱، ۳۴۳، دار الكتب بیروت)

(۴) "خمسة ليس لهن كفارة: الشرك بالله، و قتل النفس بغير حق، و بُهت مؤمن، و الفرار من =

جو شخص صحیح پڑھتا ہو، اگر عربی ترجمہ نہ جانتا ہو نماز اس کی بھی صحیح ہو جائیگی، امام ہو یا مقتدی سب کا یہی حکم ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۷/۹/۹۰ھ۔

امام صاحب اگر غلط مذاق کریں تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۶۵۱]: امام صاحب وضو کی جگہ بیٹھ کر گندا گندا مذاق کرتے ہیں، اور بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے جماعت کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے اور مسجد کی صفائی بھی بند ہو سکتی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امام صاحب کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ یہ چیز آپ کے منصب کے خلاف ہے اس سے احتیاط فرمائیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۴/۶/۹۵ھ۔

بیوی کا نفقہ نہ دینے والے کی امامت

سوال [۲۶۵۲]: زید نے اپنی لڑکی کی شادی کی، جب داماد سے خرچہ نہ چلا تو باپ نے عدالت سے نکاح فسخ کر لیا، جس سے نکاح ہوا تھا، وہ طلاق نہیں دیتا اور امامت کرتا ہے۔ اس کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے، ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

= الزحف، و یمن صابرة یقتطع بها مالا بغير حق“۔ أخرجه أحمد۔

”من ذکر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به، حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه“۔

رواه الطبرانی“۔ (الزواج عن افتراء الكبائر، كتاب النكاح، الكبيرة الرابعة والخمسون بعد المائتين :

البهت: ۲/۴۱، دار الفكر بيروت)

(۱) (راجع، ص: ۲۰۸، رقم الحاشية: ۳)

(۲) ”عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ليس المؤمن

بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذئ“۔ رواه الترمذی“۔ (مشکوٰۃ المصابیح، كتاب الآداب، باب

حفظ اللسان والغيبة والشتيم: ۲/۴۱۳، قديمی)

الجواب حامداً ومصلياً:

محض یک طرفہ درخواست پر نکاح ثانی کی عدالت کی طرف سے اجازت مل جانے پر پہلا نکاح فسخ نہیں ہو اور دوسرے نکاح کی ابھی اجازت نہیں (۱)۔ جو امام بیوی کو نہ آباد کرتا ہے نہ طلاق دیکر آزاد کرتا ہے وہ گنہگار ہے، اسکو برادری اور پچائنت کے ذریعے سے روکا جائے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے یا اسکو طلاق دے کر آزاد کر دے تاکہ بعد عدت وہ دوسری جگہ نکاح کرنے کی حقدار ہو جائے (۲)، ورنہ امامت سے الگ کر دیا جائے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "جاء رجل وامرأة إلى علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- ومع كل واحد قيام من الناس، فأمرهم علي رضي الله تعالى عنه، فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ثم قال للحكمين: "ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا، تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا، تفرقا. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله ما عليّ فيه ومالي. وقال الرجل: أما الفرقة، فلا، فقال علي رضي الله تعالى عنه: "كذبت -والله!- حتى تقمر (بمثل الذي أقرت به)". دليل علي أن رضاه شرط للفرقة، فمالم يوكله للطلاق، ويفوض أمره إليه لا ينفذ طلاقه". (أحكام القرآن، للعلامة زفر أحمد العثماني: ۲/ ۲۶۰، إدارة القرآن)

(۲) "قال سبحانه تعالى: ﴿وإن تحسنوا﴾ في العشرة مع النساء وتتقوا النشوز والإعراض وإن تظافرت الأسباب الداعية إليهما ﴿وتصبروا﴾ على ذلك ولم تضطروهن على فوت شيء من حقوقهن أو بذل ما يعز عليهن فإن الله كان بما تعملون من الإحسان والتقوى خبيراً فيجازيكم ويثيبكم على ذلك. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لا تقدروا ألبتة على العدل بينهن بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب في شأن من الشؤون كالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة والمعاكحة والموانسة الخ ﴿ولو حرصتم فلا تميئوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾ وهي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التي ليست مطلقة ولا ذات بغل ﴿وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً، وإن يفرقا﴾ المرأة وبعليها: أي إن لم يصطلحا ولم يقع وفاق بوجدهما من الصلح وغيره، ووقعت بينهما الفرقة بطلاق. ﴿يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً﴾. (روح المعاني، سورة النساء: ۵/ ۱۶۲، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

وقال سبحانه تعالى: ﴿ولا تمسكوهن ضراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه﴾ (سورة البقرة: ۲۳۱)

(۳) "ويعزل به الإلغتنة". (الدر المختار). "يعزل به): أي بالقسق لو طراً عليه، والمراد أنه يستحق العزل". (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۵۳۹، سعيد)

سینما دیکھنے اور قوالی سننے والے کی امامت

سوال [۲۶۵۳]: ایک پیش امام صاحب جو ہمیشہ سینما دیکھتے ہیں اور قوالی بھی سنتے جاتے ہیں اور ان کے لڑکے کی تجارت بھی سینما کی ہے اور خود امامت کرتے ہیں اور مصلیٰ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم میں کیا ہے؟ اس کا جواب تحریر فرمائیں۔

الجواب حامداً و مصلياً:

سینما دیکھنا اور قوالی سننا مستقل عیب ہے اس کے باوجود اپنے کو بے عیب سمجھنا بہت بڑا عیب ہے، قوالی کی حرمت ”سکب الأنهر“ (۱) اور فتاویٰ بزازیہ (۲) و تنقیح الفتاویٰ الحامدیہ (۳) میں موجود ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عثمی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

قوالی سننے والے کی امامت

سوال [۲۶۵۴]: جیسا کہ آج کل عرسوں میں قوالی ہوتی ہے ان میں کسی امام مسجد کا شریک ہو کر سننا یا اس کو اچھا کہنا کیسا ہے؟ آیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟

(۱) ”واستماع الملاہی حرام لقولہ علیہ السلام: ”استماع صوت الملاہی معصیۃ، والجلوس علیہا فسق، والتلذذ بہا کفر: ای بالنعمۃ کما بسطہ البزازی، أو لتغلیظ الذنب کما فی الاختیار، أو للاستحلال کما فی النہایۃ“۔ (سکب الأنهر شرح ملتقى الأبحر، کتاب الکراہیۃ، فصل فی المتفرقات: ۵۵۴/۲، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(۲) (الفتاویٰ البزازیۃ، کتاب الکراہیۃ، الثالث فیما یتعلق بالمنہی: ۳۵۹/۶، رشیدیہ)

(۳) (تنقیح الفتاویٰ الحامدیۃ، مسائل و فوائد شتی من الحظر والإباحۃ و غیر ذلک و مطالبہ فی سماع

الآلات المطربۃ: ۳۵۵/۲، تاجران ارگ بازار قندھار افغانستان)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الحظر والإباحۃ: ۳۴۹/۶، سعید)

(و کذا فی المحيط البرہانی فی الفقہ العمانی، کتاب الاستحسان و الکراہیۃ، الفصل الثامن عشر فی

الغناء واللہو، و سائر المعاصی، والأمر بالمعروف: ۱۱۲/۶، المكتبة الغفاریہ کوئٹہ)

الجواب حامداً و مصلياً:

جب تک دوسرا آدمی موجود ہو تو قوالی سننے والے عرس میں شریک ہونے والے کو امام نہیں بنانا

چاہئے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

ایضاً

سوال [۲۶۵۵]: زید پیرزادہ ہے، موجودہ دور کی قوالی مع مزا میر سنتا ہے، رسم گاگر کرتا ہے (۲)،

چادر مرغا جو لوگ قبر پر چڑھاتے ہیں اس کو بھی منع نہیں کرتا حتیٰ کہ طواف قبر و سجدہ سے مانع نہیں ہوتا، ایسے شخص کو امام بنانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس نماز کا کیا حکم ہے جو ایسے شخص کی امامت میں ادا کی گئی ہو؟

الجواب حامداً و مصلياً:

”من ذهب إلى الغزو و فاتته صلوة، فقد ارتكب سبع مائة كبيرة“۔ كذا عن الشيخ الرازي فما ظنك فيمن فاتته صلوة لمثل هذا الحضور و غرضه استماع الدف والمزمار واللعب بالرقص الذي أحدثه أولاً السامري حين أخرج لهم عجللاً جسداً له خوار، و قد نقل صاحب الهداية فيها: أن المغنى للناس إنما لا تقبل شهادته؛ لأنه يجمعهم على كبيرة، والقرطبي على أن هذا الغنى وضرب القضيب والرقص حرام بالإجماع عند مالك وأبي حنيفة

(۱) ”و كرهه إمامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين، فتجب إهانتة شرعاً، فلا يعظم بتقديمه للإمامة“.

(حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۲،

۳۰۳، قدیمی)

(و كذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربي

بيروت)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳ سهيل اكيڈمی لاہور)

(۲) ”گاگر: مٹی کا وہ برتن جس میں شربت بھر کر منہ پر سرخ کپڑا اور پھولوں کے ہار ڈال کر مزاروں پر چڑھاتے ہیں“۔ (فیروز

اللغات، ص: ۱۰۷۸، فیروز سنز، لاہور)

والشافعی وأحمد رحمه الله تعالى في مواضع في كتابه، اهـ“. الفتاوى البزازية: ۳/۳۴۹، علی هامش الهندية (۱)۔ وبسط الكلام في تنقيح الفتاوى الحامدية: ۲/۳۵۵(۲)۔

”اعلم أن النذر الذي يقع للأموال من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقريباً إليهم، فهو بالإجماع باطلٌ وحرام ما لم يقصدوها صرفها لفقراء الأنام، اهـ“۔ الدرالمختار علی هامش رد المحتار: ۲/۱۲۸(۳)۔

”لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الأولياء والشهداء من السجود والطواف واتخاذ السرج والمساجد عليها، ومن الاجتماع بعد الحول كالأعياد، ويسمونه عرساً، اهـ“۔ التفسير المظهری (۴)۔

جو شخص امور مذکورہ کا ارتکاب کرتا ہے، یا قدرت کے باوجود ان امور کو منع نہیں کرتا بلکہ بلا تکلف دیکھتا رہتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان امور سے ناخوش نہیں ہے، ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے، اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے (۵)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۱/۹۴ھ۔

- (۱) (الفتاوى البزازية، كتاب ألفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطأ في المتفرقات: ۶/۳۴۹، رشيدية)
- (۲) (تنقيح الفتاوى الحامدية، مسائل و فوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك و مطالبه، في سماع الآت المطربة: ۲/۳۵۵، تاجران كتب ارگ بازار قندهار افغانستان)
- (و كذا في الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة: ۶/۳۴۹، سعيد)
- (و كذا في البحر الرائق، كتاب الكراهية، فصل في الأكل والشرب: ۸/۳۴۶، رشيدية)
- (۳) الدر المختار، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم: ۲/۴۳۹، سعيد)
- (و كذا في البحر الرائق، كتاب الصوم، فصل في النذر: ۲/۵۲۰، رشيدية)
- (و كذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصوم، باب ما يلزم الوفاء به، ص: ۶۹۳، قديمي)
- (۴) (التفسير المظهری: ۲/۶۵، سورة آل عمران: ۶۴، حافظ كتب خانہ، كوئٹہ)
- (۵) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“۔ وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، و بأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، و قد وجب عليهم إهانتته شرعاً =

ساز پرگانے والے کی امامت

سوال [۲۶۵۶]: ایک شخص نائی ہے اور ساز پرگاتا ہے، کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

نائی کا پیشہ درست ہے بشرطیکہ دائرہی نہ موٹتا ہو، ساز پرگانا جائز ہے، ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

ناچ گانے میں شرکت کرنے والے کی امامت

سوال [۲۶۵۷]: امام نماز پڑھا کر گھر چلا گیا، محلہ میں ناچ گانا بھیر ہو رہی تھی، محلہ کے کافی مسلمان اس میں شرکت فرماتے تھے، اس مجلس میں روشنی کی ضرورت تھی، ایک شخص نے کہا گیس جلا لو، حاضرین میں جتنے لوگ تھے گیس جلا نا نہیں جانتے تھے، لوگوں نے کہا کہ امام صاحب کو بلا دو وہ جلا دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پھر امام صاحب واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اب محلہ کے ایک سو دو خور حاجی صاحب کہتے ہیں کہ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، علیحدہ نماز پڑھتا ہے، باقی سب محلہ کے لوگ امام صاحب کی اقتدا میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں سب کی نماز درست ہو جاتی ہے یا نہیں؟

= علی أن كراهة تقديمه كراهة تحريم. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۵۵۹/۱، ۵۶۰، سعید)

وكذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قديمي)

(۱) قال الحصكفي رحمه الله تعالى: "يكره إمامة..... فاسق)". " (قوله: فاسق) من الفسق : وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني و آكل الربا و نحو ذلك..... وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، و بأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، و قد وجب عليهم إمانته شرعاً..... بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۵۵۹/۱، ۵۶۰، سعید)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل : ۱/۶۳، غفاريه كوئته)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۳۴۵/۱، دارالكتب العلمية، بيروت)

الجواب حامداً ومصلياً:

ناج گانا غلط کام کرنا اور اس میں شریک ہونا گناہ ہے، جو لوگ اس میں شریک تھے سب ہی گنہگار ہونگے (۱)، پرگیس جلانے کے لئے امام صاحب کو بلانا اور بھی غلطی ہے، ان کے بلانے پر امام صاحب نے گیس جلادیا، اگر نہ آتے تو اس کے سب مخالف ہو جاتے، ابھی تو ایک ہی آدمی مخالفت کرتا ہے پھر سب مخالفت کرتے، اس ڈر کے مارے اگر امام نے آ کر گیس جلادی تو اس کو ایسی سزا دینا کہ ایک حاجی صاحب اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کو ناجائز بتلاتے ہیں تو یہ زیادتی ہے۔ امام صاحب بھی استغفار کریں (۲) اور حاجی صاحب بھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں۔ سو کا لینا دینا حرام ہے اور موجب لعنت ہے (۳) اس سے بھی حاجی صاحب باز آئیں اور توبہ کریں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) قال اللہ تعالیٰ: ﴿و من الناس من يشتري لهو الحديث﴾ (سورة لقمان : ۶)

” (لهو الحديث) علی ما روى عن الحسن: كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى و ذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها و ذكر بعض تلامذة الغوري في كتابه الذي سماه ”التغريب“: أن الغناء حرام فعله و سماعه و قال ابن الصلاح في فتاواه بعد كلام طويل: فإذا هذا السماع حرام بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين“. (روح المعاني : ۲۱ / ۶۷، ۶۹، دار إحياء التراث العربی بیروت)

”عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع“. رواه البيهقي في شعب الإيمان“. (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب البيان والشعر، الفصل الثالث : ۲ / ۴۱۱، قديمی)

(۲) قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: ”واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة، والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة“. (شرح النووي على الصحيح لمسلم، كتاب التوبة : ۲ / ۳۵۴، قديمی)

(۳) قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربوا أضعافاً مضاعفة﴾ (سورة آل عمران : ۱۳۱)

”عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آكل الربوا و موكله و كاتبه و شاهديه، و قال: ”هم سواء“. رواه مسلم“. (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الربوا : ۱ / ۲۴۴، قديمی)

غلط محفل میں شریک ہونے والے کی امامت

سوال [۲۶۵۸]: ایک شخص ہنسی گول کی جگہ اور گانے بجانے کی جگہ شوق سے بیٹھتا ہے اس کی

امامت کیسی ہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

ایسی مجالس میں شرکت ناجائز ہے اگر اس شخص سے بہتر امامت کے لائق دوسرا آدمی موجود ہو تو اس

شخص کی امامت مکروہ ہے دوسرے کو امام بنانا چاہئے تا وقتیکہ یہ شخص توبہ نہ کرے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۵/۳/۵۶ھ۔

صحیح: عبداللطیف، ۱۶/ربیع الاول/۵۶ھ۔

گانے بجانے کی مجلس میں نکاح پڑھانے والے کی امامت

سوال [۲۶۵۹]: جو شخص ایسی مجلس میں نکاح پڑھائے جس میں باجے بجاتے ہوں، تو اس کی امامت

درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

جس شادی میں خلاف شرع امور: گانا بجانا وغیرہ ہوں اور پہلے سے معلوم بھی ہو تو اس میں شرکت منع

ہے (۲) امام کو بھی اور مقتدی کو بھی، اگر امام نے ایسی جگہ نکاح پڑھا دیا اور شرکت کر لی ہے تو اس کو توبہ واستغفار

(۱) "ویکفرہ إمامة عبد و أعرابی و فاسق و أعمی و مبتدع لا یکفر بها، وإن کفر بها فلا یصح الاقتداء به

أصلاً، وولد الزنا، هذا إن وُجد غیرهم، وإفلا کراهة". (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة:

۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، ۶۱۱، رشیدیہ)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤکدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربی،

بیروت)

(۲) "دعی الی ولیمة و ثمة لعب أو غناء، قعد و أکل، فإن قدر علی المنع فعل، وإلا صبر إن لم یکن ممن

یقتدی به، فإن کان (أی فإن کان هو المقتدی) و لم یقدر علی المنع، خرج و لم یقعد، وإن علم أولاً، لا =

کرنا چاہئے اور آئندہ کو پرہیز کرنا چاہئے (۱)، اگر امام بازنہ آئے تو اس کی امامت مکروہ ہوگی (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

گانے بجانے کی فحش مجلس اور اس کے روکنے والے امام کا حکم

سوال [۲۶۶۰]: ایک قریہ کے لوگوں نے بوقت نماز عشاء بالمقابل مسجد ایک مکان پر باجہ گراموفون لگا کر عوام الناس مذکورہ مؤنث کو ہر قسم کے اور ہر عمر کے جمع کر کے تمام رات ایسی بے حیائی میں گزاری، قریہ مذکورہ کے امام نے بایں الفاظ منع کیا کہ ”اوبے حیاء، بے شرموں اور بے سلیقہ کنجرو، دیوثو! تمہیں

= يحضر أصلاً“ (الدر المختار، کتاب الحظر والإباحة : ۶/۳۳۷، ۳۳۸، سعید)

(و کذا فی ملتقى الأبحر مع شرحه الدر المنقى، کتاب الکراهية، فصل فی المتفرقات : ۲/۵۵۰، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(۱) قال الله تعالى: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليماً حكيماً﴾ (سورة النساء : ۱۷)

وقال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً﴾ (سورة التحريم : ۸) وقال الثوري : عن السماك عن النعمان عن عمر رضي الله تعالى عنه قال : التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه. ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر، ويندم على ما سلف منه في الماضي، ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحق لا دمي رده إليه بطريقه“ (تفسير ابن كثير : ۳/۵۰۳، دار الفحاء دمشق)

(۲) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“ . وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى : ”قوله : وفاسق من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وأكل الربا ونحو ذلك..... على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم“ . (الدر المختار مع رد المحتار،

كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص : ۵۱۳، سهيل اكيڈمی لاہور)

(و کذا فی الهداية، کتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۱۲۲، مکتبه شركة علمية ملتان)

شرم نہیں آتی کہ بچوں کو جمع کر کے عورتوں کو بھی شامل کرتے ہو، یہ انگو ہو جائیں گے، ایسی بے حیائی کی تعلیم دے رہے ہو۔ آخر قوم نے یوں ہی رات بے ہودہ گوئی میں گزاری جیسے مثال کے طور پر ایک مصرع نقل کرتا ہوں۔
جس کے معنی یہ ہیں:

یعنی میری تماک میں تو مکان کی چھت پر چار پائی نہ بچھا کیونکہ اب تو میں تمام کی تمام تیری ہی ہو چکی ہوں، جہاں میں کیوں شہرت کرتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

قوم کا یہ ہی شعار بن گیا ہے، اس سے قبل بھی چند مرتبہ ان کو منع کر دیا گیا تھا، مگر قوم باز نہ آئی تو امام نے اس قوم کی امامت چھوڑ دی، تعلیم قرآن چھوڑ دی، اب قوم اپنے استاد (جو کہ ان کی چند پشتوں کا امام رہ چکا ہے) کے خلاف طرح طرح کے منصوبے، غیبت و ناجائز حملے کر رہی ہے اور اپنا دوسرا امام تلاش کر رہی ہے اور قوم کہتی ہے کہ باجے ہمارے پیر صاحب سنتے اور بجاتے آئے ہیں، منع کہاں، اگر یہ بے حیائی ہوتی تو پیر صاحب کہاں سنتے وغیرہ وغیرہ۔ اور امام کہتا ہے کہ اگر اسلام میں ایسے کھیل کو دتماشے کے کام جائز ہیں تو میں ایسے اسلام و ایمان سے بیزار ہوں جو سکھوں کی طرح ہر حال میں یعنی شادی میں ساز وغیرہ کے ساتھ شادی منائی جاوے اور موت کے وقت میں وہی ڈھولک مولک سے ماتم کی رسم ادا کی جاوے۔

علاوہ اس کے چند یوم کے بعد وہی باجہ بجانے والے دوسرے گاؤں سے ایک عورت بال بچے اور شوہر والی عورت انگو کر کے رائے پور لے گئے اور مغویہ کو مسیحی مذہب میں داخل کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مرتدہ کر کے نکاح اول تو گر جائے، یہ ہے اس وقت کے مسلمانوں کا ایمان۔ اب یہ قوم حق پرست ہے یا امام قوم؟ اب قوم حق استادی فراموش کر سکتی ہے یا نہیں؟ ایسی قوم کا صوم و صلوة درست ہے یا نہیں؟ امام عند اللہ مجرم ہے یا نہیں؟ شرعاً اس کا کیا حکم ہے اور امام کے واسطے کیا حکم ہے؟ جواب صاف صاف۔ تحریر فرمائیں۔ بحوالہ کتب مع دلائل شرعیہ کے۔ بینوا تو جروا۔

عام باغ، فقیر یہ ڈاکخانہ بندہ، ضلع راو پلنڈی، محمد شفیع، ۱۵/ شعبان/ ۱۳۷۵ھ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

قوم کے یہ افعال شنیعہ ناجائز اور کبیرہ گناہ ہیں (۱) خاص کر غیر کی عورت کو انگو کر کے مرتد بنانا کفر

(۱) ”وفی السراج: ودلت المسألة أن الملاهی کلها حرام، ویدخل علیہم بلا إذنیہم لأنکار المنکر =

ہے (۱)، اگر وہ خدا نخواستہ مرتد ہو کر مسیحی مذہب میں داخل ہو گئی تب بھی مفتی بہ قول کے موافق پہلا نکاح منسوخ نہ ہوگا (۲) اور اس کو مرتد بنانے والا، یا اس کے لئے مشورہ دینے والا کافر ہو جائے گا، اس عورت کو اس کے پہلے شوہر کے پاس واپس کرنا فرض ہے (۳)۔

اسی طرح گانے بجانے وغیرہ حرکات سے بھی توبہ لازم ہے (۴) اور جس طرح ہو سکے اپنے ناشائستہ

= قال أبو سعود: صوت اللہو و الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء النبات .

قلت: وفي البزازية: استماع صوت الملاهی حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: "استماع الملاهی معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر". (الدرالمختار، كتاب الحظر و الإباحة: ۳۲۸/۶، ۳۲۹، سعید)

"وفي الأشباه: الخلوة بالأجنبية حرام..... اه". (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل فی النظر واللمس: ۳۶۸/۶، سعید)

(۱) "وفي المحيط والفتاوی الصغری أيضاً: من لَقن غیره کلمة الکفر لیتکلم بها، کفر الملقن وإن کان علی وجه اللعب والضحک. ومن أمر امرأة بأن ترتد کفر الأمر وفي المحيط: من أمر أحداً أن یکفر، کفر الأمر". (شرح فقه الأكبر، ص: ۱۸۲، ۱۸۳، قدیمی)

(و کذا فی التاتارخانیة، فصل فی تعلیم الکفر و تلقینه والأمر بالارتداد: ۵۲۶/۵، إدارة القرآن کراچی) (و کذا فی الفتاوی العالمکیریة، الباب التاسع فی أحكام المرتدین: ۲۷۵/۲، رشیدیہ)

(۲) "ولو ارتدت) وأفتی مشایخ بلخ بعدم الفرقة بردتها زجراً وتیسيراً لا سیما التي تقع فی الکفر". (الدرالمختار، کتاب النکاح، باب نکاح الکافر: ۱۹۳/۳، سعید)

"(قوله: زجراً لها) عبارة البحر: حسماً لباب المعصية: الحيلة للخلاص منه الخ". (ردالمحتار)

(۳) "أن من أمر امرأة حتى ترتد عن الإسلام لتبين من زوجها، فهو كافر وفي المضمورات: وتجبر المرأة على الإسلام، وتضرب خمسة وسبعين سوطاً، وليس لها أن تتزوج إلا بزوجه الأول". (التاتارخانیة، کتاب أحكام المرتدین، فصل فی تعلیم الکفر و تلقینه اه: ۵۲۶/۵، إدارة القرآن کراچی)

(۴) قال الله تعالى: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ (التحریم: ۸) =

افعال سے توبہ کر کے امام صاحب کو راضی کریں اور امام صاحب کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو نرمی اور شفقت کے ساتھ نصیحت کریں کہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور سخت الفاظ استعمال نہ کریں اور ان کے لئے دعا بھی کریں۔ اور امام صاحب کو (یہ) بھی چاہیے دوسری جگہ نہ جائیں، کیا عجب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے قوم کی اصلاح فرمادیں۔ البتہ اگر قوم سخت مخالف ہو جاوے اور امام صاحب کا رہنما دشوار کر دے اور ان کے وہاں رہنے سے اصلاح کی توقع نہ ہو بلکہ فتنہ پیدا ہو تو امام صاحب کو چاہیے کہ کسی دوسری جگہ اپنا انتظام کر لیں۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۷/۸/۵۷ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۱۷/شعبان/۵۷ھ۔

عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح پڑھانے والے کی امامت

سوال [۲۶۶۱]: ایک شخص نے عدت کے دنوں میں نکاح کر دیا ہے، اس کی امامت کیسی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر باوجود علم کے ایسا نکاح کیا ہے تو نکاح پڑھانے والا اور اس نکاح میں شریک ہونے والے اور باوجود قدرت کے اس نکاح کو نہ روکنے والے سب گنہ گار ہوئے، سب کے ذمہ توبہ علی الاعلان لازم ہے (۱)۔ اگر اس شخص سے بہتر امامت کے لائق دوسرا آدمی موجود ہو تو اس شخص کی امامت مکروہ ہے، دوسرے کو

= "وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: "يا أيها الناس! توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة" (مشکوٰۃ المصابیح، باب التوبة والاستغفار، الفصل الأول، ص: ۲۰۳، قدیمی)

"وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه" (المشکوٰۃ، المصدر السابق)

(۱) قال الله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا﴾ (سورة البقرة: ۱۶۰)

"يدل على أن التوبة من الكتمان إنما يكون بإظهار البيان، وأنه لا يكتفى في صحة التوبة بالندم

على الكتمان فيما سلف دون البيان فيما استقبل" (أحكام القرآن للحصاص: ۱/۱۴۳، قدیمی)

"عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من رأى منك

منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" رواه

مسلم" (مشکوٰۃ المصابیح، كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول: ۲/۴۳۶، قدیمی)

امام بنانا چاہیے تا وقتیکہ یہ شخص توبہ نہ کرے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
 حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۵/۳/۵۶ھ۔
 صحیح: عبداللطیف، ۱۶/ربیع الاول/۵۶ھ۔

غیر مطلقہ کا نکاح پڑھانے والے کی امامت

سوال [۲۶۶۲]: ایک امام نے ایک شخص کے گھر میں اس کی سگی ہمشیرہ کا نکاح بغیر طلاق کر دیا
 اگرچہ لوگوں نے منع بھی کیا اور اس نے بعد میں اقرار کر کے توبہ کر لی ہے تو اب اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟
 رحمت خان، راجپوت ڈاکخانہ شاہ آباد، ضلع کرنال، پنجاب۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

صورت مسئلہ میں وہ نکاح صحیح نہیں ہوا، کیونکہ جب تک پہلا شوہر زندہ ہے اور اس نے طلاق وغیرہ
 بھی نہیں دی تو اس کی عورت کا نکاح کسی جگہ شرعاً درست نہیں اور امام نے جو باجوہ علم کے وہ نکاح پڑھایا تو امام
 گہنکار ہوا اور لوگوں کے سمجھانے سے نہ ماننے کی وجہ سے اور سخت گناہ ہوا (۲)، لہذا ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ
 ہے جب کہ کوئی دوسرا شخص اہل امام موجود ہو: ”ویکفرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق“۔ درمختار:
 ۱/۵۲۳ (۳)۔ لیکن جب سب کے سامنے توبہ کر لی اور اپنی غلطی کا اقرار کر کے نادم ہوا تو اب اس کی امامت

(۱) ”ویکفرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى ومبتدع لا یکفر بها، وإن کفر بها فلا یصح الاقتداء به
 أصلاً، وولد الزنا، هذا إن وجد غیرهم، وإلا فلا کراهة“۔ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة:
 ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعید)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤکدة: ۱/۱۰۸، دار احیاء التراث
 العربی بیروت)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، ۶۱۱، رشیدیہ)

(۲) قال الله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلاملکت أیمانکم﴾ [سورة النساء: ۲۴] [أی وحرّم
 علیکم من الأجنبات المحصنات، وهن المزوجات“۔ (تفسیر ابن کثیر، ۱/۶۲۹، دار الفیحاء، دمشق)
 (۳) (تنویر الأبصار مع الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید) =

جائز ہے، لقوله عليه السلام: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود عفا اللہ عنہ، ۶/۸/۵۲ھ۔

صحیح: عبد اللطیف، ۶/شعبان/۵۲ھ۔

مطلقة مغلظه کو بلا حلالہ کے رکھنے والے کی امامت

سوال [۲۶۶۳]: ایک شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دی، اس پر حکم شرعی معلوم کیا گیا تو علمائے کرام نے طلاق مغلظه ثابت کرتے ہوئے حلالہ کا حکم دیا، لیکن یہ شخص مذکور حلالہ کو عارضیاً خیال کرتا ہے اور تعلق زوجین قائم رکھتے ہوئے اپنے پاس زوجہ کو رکھے ہوئے ہے، یہ شخص پنج وقت نماز کا امام ہے، جمعہ و عیدین وغیرہ کا امام کبھی برابر ہوتا ہے۔ صورتِ بالا کے ہوتے ہوئے یہ امامت کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں؟ اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جو نمازیں اس کے پیچھے پڑھی جائیں گی وہ صحیح ہوں گی یا نہیں؟ اکثر لوگ اس واقعہ کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ایسی صورت میں اس کو امامت کرنی چاہیے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس عورت کو طلاق مغلظه واقع ہو چکی ہے اس کو بلا حلالہ کے رکھنا حرام ہے، اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ (۲) پھر جب تک شخص مذکور (اس) عورت کو جدا کر کے حرام کاری سے توبہ نہ کریں، اس وقت تک اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، اس کے

= (و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، شركة علميه ملتان)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث بيروت)

(۱) (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبة: ۱/۲۰۶، قديمي)

(۲) (سورة البقرة: ۲۳۰)

”وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رفاعة القرظي رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة، ثم طلقها فتزوجت آخر، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة. فقال: ”لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك“ (صحیح البخاری، کتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثاً،

تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسه: ۲/۸۰۱، قديمي)

پچھے نماز پڑھنے سے فرض ادا ہو جائیگا مگر اس کو امام بنانے سے کراہت تحریمی کا گناہ ہوگا۔

”لو قدموا فاسقاً، یا ثمون بناءً علی أن کراہة تقدیمہ کراہة تحریم لعدم اعتنائہ بأمور دینہ، وتساہلہ فی الإتیان بلوازہ، فلا یبعد منه الإخلال لبعض شروط الصلاة وفعل ما ینافیہا، بل هو الغالب بالنظر إلی فسقہ، ولذالم تجز الصلوة خلفہ أصلاً عند مالک وروایة عن أحمد، إلا أناجوزناہا مع الکراہة لقولہ علیہ الصلاة والسلام: ”صلوا خلف کل بر وفاجر.....“۔ رواہ الدار قطنی..... : لکن قال أصحابنا: لا ینبغی أن یقتدی بہ إلی فی الجمعة للضرورة فیہا، بخلاف سائر الصلوة للتمكن من التحول إلی مسجد آخر فیما سوی الجمعة، وعلیہ یحمل عمل الصحابة والتابعین فی الاقتداء بالحجاج، وعلی هذا ینبغی أن تکره الجمعة أيضاً إذا تعددت الجوامع کما فی زماننا لإمكان التحول؛ إذ الفتوی علی جواز التعدد“۔ کبیری (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۶/۷/۶۱ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۶/۷/۶۱ھ۔

تین طلاق کے بعد رکھنے والے کے احکام: امامت، جنازہ، معاشرہ وغیرہ

سوال [۲۶۶۴]: زید نے بقائم ہوش و حواس معززین شہر کے سامنے بکبر و اکراہ تین طلاق

دیدي، آیا دوبارہ اس مطلقہ کو رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ نکاح کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو کن شرائط کے ساتھ؟

۲..... اگر زید مذکور تین طلاق کے بعد تجدید نکاح کرے اور دلیل میں یہ کہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ

کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے، اس لئے میں نے ایسا کیا۔ کیا یہ قول اس کا معتبر ہے؟

(الف) کیا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ یا کسی اور امام کا یہ مسلک ہے کہ تین طلاق کے بعد تجدید نکاح

(۱) (الحلی الكبير، کتاب الصلوة، الأولى بالإمامة: ۵۱۳، ۵۱۴، سہیل اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی الدر المختار مع الرد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۲، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۱۰/۱، ۶۱۱، رشیدیہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب الامامة: ۳۳۶/۱، ۳۳۷، دار الکتب العلمیة، بیروت)

کر کے مطلقہ کو رکھے؟

(ب) مقلد امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہو کر ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟

(ج) ایسے شخص کیساتھ معاشرت خود رو نوش مصاحبت وغیرہ کرنا کیسا ہے؟

(د) اگر یہ شخص مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہئے یا نہیں؟

(ه) ایسے شخص کی امامت کیسی ہے؟

(ز) اگر وہ لوگوں کے بتلانے کے بعد اس بیوی کو مثل منکوحہ سمجھے تو عام مسلمانوں کو اس کے ساتھ

کیا معاملہ رکھنا چاہیے؟

(و) کیا اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... اس پر طلاق مغلظہ واقع ہوگی، اب اس سے نکاح حرام ہے: ﴿حتى تنكح زوجاً

غیرہ﴾ الآية (۱)۔

۲..... اگر کوئی شخص بیک وقت تین طلاق دے مثلاً کہے: ”أنت طالق ثلاثاً“۔ تو یہ طلاق مغلظہ

باتفاق ائمہ اربعہ واقع ہو جاتی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس میں اختلاف نہیں، ان کے نزدیک بھی تجدید

نکاح بغیر حلالہ کافی نہیں، لہذا زید کا قول غلط ہے، ایسا شخص ائمہ اربعہ اور اجماع اور نص قطعی کے خلاف کرتا ہے،

جب تک کہ شخص مذکور عورت مذکورہ سے قطع تعلق نہ کرے اور اپنی اس حرکت سے سچی توبہ نہ کرے اس سے

معاشرت و مجالست ترک کر دی جائے تاکہ وہ تنگ آ کر اپنی حالت شریعت کے مطابق بنائے (۲)۔

(۱) (سورة البقرة: ۲۳۰)

”وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة، ثم طلقها، فتزوجت آخر،

فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرته أنه لا يأتيتها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: ”لا، حتى

تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك“ (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثاً، ثم تزوجت

بعد العدة زوجاً غيره، فلم يمسه: ۲/ ۸۰۱، قديمي)

(۲) قال الملا علي القاري رحمه الله تعالى تحت هذا الحديث: ”(لا يحل لرجل أن يهجر أخاه النخ) قال =

اس کی جنازہ کی نماز ضروری پڑھی جائے (۱)، البتہ اگر کوئی مقتدا شخص اس غرض سے اس کے جنازہ کی نماز میں شریک نہ ہو کہ لوگوں کو عبرت ہو اور وہ ایسے کام نہ کریں تو گنجائش ہے (۲)۔ زید مذکور کی امامت بھی مکروہ تحریمی ہے (۳)، پس کفارہ یہی ہے کہ عورت مذکورہ کو علیحدہ کر دے اور خدا پاک کے سامنے سچی توبہ کرے، اس

= الخطابی: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوقها، إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجوز فوق ذلك فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق“. (مرقاة المفاتيح للملا علي القاري، كتاب الآداب، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع، واتباع العورات، الفصل الأول، (رقم الحديث: ۵۰۲۷): ۸/۷۵۸، رشیدیہ)

(و کذا فی عمدة القاری، کتاب الآداب، باب ما ينهى من التحاسد الخ: ۲۲/۱۳۷، مطبعة خیریه بیروت) (۱) ”وہی فرض علی کل مسلم مات خلا بغاء و قطاع طریق إذ قتلوا فی الحرب و کذا مکابر فی مصر لیلاً بسلاح و خناق“۔ (تسویر الأبصار مع الدر المختار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنابة، مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي: ۲/۲۱۰، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی الجنائز، الفصل الخامس فی الصلاة علی الميت: ۱/۱۶۲، رشیدیہ)

(۲) ”وعن مالک وغيره، أن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم“۔ (الشرح الكامل للنووی علی الصحيح لمسلم، کتاب الجنائز، باب ترک الصلاة علی القاتل نفسه: ۲/۳۱۴، قدیمی)

(۳) ”ویکره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى“۔ (الدر المختار)۔ ”(قوله: وفاسق): من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزانی واکل الربا ونحو ذلك، فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانتة شرعاً، على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم“۔ (رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلاة، باب الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، ۵۱۴، سهیل اکیڈمی، لاہور)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فی بیان الأحق بالإمامة: ۳۰۲، ۳۰۳، قدیمی)

نکاح کے دوام پر اصرار سخت خطرناک ہے۔

اس مسئلہ پر مستقل رسائل: ”الأعلام المرفوعة في حكم الطلقات المجموعة“ اور ”الأزهار المربوعة“ وغیرہ بھی تصنیف ہوئے ہیں، جن میں استدلال بالحدیث کی حیثیت سے کافی بحث کی گئی ہے۔

”وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث، قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه: وهذا يعارض ما تقدم، وأما إمضاء عُمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة، فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أول علمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم بإننا طته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر. وقول بعض الحنابلة: تُوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائة ألف عين رآته فهل صحح لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل؟ أما أولاً فإجماعهم ظاهر؛ لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر رضى الله تعالى عنه حين أمضى الثلاث، ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوّتي، وأما ثانياً فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين.

والمائة ألف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة رضى الله تعالى عنهم أجمعين، والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم. وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحاً بإيقاع الثلاث، ولم يظهر لهم مخالف - فماذا بعد الحق إلا الضلال - وعن هذا قلنا: لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه؛ لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف“۔ شامی: ۲/ ۵۷۶ (۱)۔

إعلاء السنن جلد ۱۱، کے اخیر میں اس مسئلہ پر نہایت مبسوط و مدلل کلام کیا ہے، من شاء البسط

(۱) (رد المحتار، کتاب الطلاق: ۳/ ۲۳۳، سعید)

(و کذا فی فتح القدیر، کتاب الطلاق، باب طلاق السنة: ۳/ ۴۶۹، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

فليراجع إليه (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور، ۱۸/شوال/۶۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مظاہر علوم سہارن پور، یوپی، ۱۹/شوال/۶۶ھ۔

محض ضد میں طلاق دینے والے کی امامت

سوال [۲۶۶۵]: ایک شخص نے مولوی عالم ہو کر اپنی عورت کو محض اس وجہ سے طلاق دی کہ میرے

بہنوئی نے میری بہن کو طلاق دی ہے یعنی ایک کی بہن دوسرے کو بیاہی تھی، جب پہلے اس نے مولوی صاحب کی

بہن کو طلاق دے دی ہے تو مولوی صاحب نے بھی ضد اس کی بہن کو طلاق دیدی، پھر علاوہ ازیں مہر خرچ وغیرہ

نہیں دیتا۔ تو کیسا ایسے ظالم کے پیچھے نماز پڑھنا اور سلام، طعام کا معاملہ رکھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو لوگ اس ظلم یا اس سے بڑے ظلم (حق اللہ یا حق العباد کو تلف کرنے میں) ملوث نہ ہوں ان کو چاہیے

کہ ایسے شخص کو اپنی نماز کے لئے امام نہ تجویز کریں (۲)، سلام، طعام کے ترک کرنے سے بہتر یہ ہی ہے کہ ان کو

اصلاح پر آمادہ کیا جائے، ورنہ آج کل سلام طعام کے ترک کرنے سے صلاح نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات طبیعت

میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، خاص کر اہل علم حضرات جن کا کسی صاحب نسبت بزرگ سے اصلاحی تعلق نہ ہو اور وہ خود

فکر اصلاح سے خارج ہوں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) (اعلاء السنن، کتاب الرقة هل وقوع الطلاق البدعي مسألة خلافية بين الصحابة والتابعين:

۱/۷۵۲، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، کراچی)

(۲) ”ویکرہ امامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمی“، وفي رد المحتار ”(قوله: وفاسق): من الفسق وهو

الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزانی واکل الربا

ونحو ذلك، فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب

عليهم إهانته شرعاً، على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم“، (کتاب الصلوة، باب الإمامة،

۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلوة، باب الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيڈمی لاہور)

(۳) اگر قطع تعلق سے اصلاح کی امید ہو تو اس سے قطع تعلق کرنے کی گنجائش ہے:

زبردستی طلاق کی وجہ سے امامت درست ہوگی یا نہیں؟

سوال [۲۶۶۶]: زید کو بہکا کر سسرال والوں نے اپنے گھر بلا لیا اور کورے کاغذ پر انگوٹھے کا نشان لگو لیا، اس کے بعد زید گھر آ گیا، مگر چند لوگ امام مسجد کے ساتھ ہیں اور خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ کوئی دھوکہ والی بات نہیں، زید اپنی بیوی کے پاس گیا، امام ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یقین کر لیا اور لڑکا یعنی زید اس کے ساتھ کر دیا، لڑکی والے نے گھر لیجا کر اس کو مارا پیٹا اور زبردستی طلاق لے لی، لڑکی بے پردہ رہتی ہے۔ وہ امامت کا مستحق ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر امام صاحب نے بلا وجہ شرعی محض دھوکہ دے کر دیدہ دانستہ اس طرح جبراً طلاق دلوانے میں مدد کی ہے تو وہ بھی گنہگار ہوئے کہ انہوں نے ظالم کی مدد کی ہے، اگر وہ توبہ نہ کریں اور اپنی غلطی کا اقرار نہ کریں تو ان کو امام بنانا مکروہ ہوگا (۱)۔ اگر حالات دوسرے ہوں تو حکم بھی دوسرا ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

= قال الملا علی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ تحت حدیث: "لا یحل لرجل أن ینہجر أخاه الخ:" قال الخطابی: رخص للمسلم أن یغضب علی أخیه ثلاث لیال لقلته، ولا یجوز فوقها، إلا إذا کان الہجران فی حق من حقوق اللہ تعالیٰ، فیجوز فوق ذلك..... فإن ہجرة أهل الأهواء والبدع واجبة علی مرالأوقات ما لم یظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق". (مرقاة المفاتیح للملا علی القاری، کتاب الآداب، باب ما ینہی عنہ من التہاجر والتقاطع، واتباع العورات، الفصل الاول، رقم الحدیث: ۵۰۲۷: ۵۸/۸، رشیدیہ)

(و کذا فی عمدة القاری شرح البخاری، کتاب الآداب، باب ما ینہی من التحاسد والتدابیر الخ: ۱۳۷/۲۲، مطبعہ خیریہ بیروت)

(۱) "ویکرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمی". (الدر المختار) وفي رد المحتار: "قوله: وفاسق): من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من یر تکب الكبائر کشارب الخمر والزانی واکل الربا ونحو ذلك، فقد عللو کراهة تقديمه بأنه لا یهتم لأمر دینہ، وبأن فی تقديمه للإمامة تعظیمه، وقد وجب علیهم إهانته شرعاً، علی أن کراهة تقديمه کراهة تحريم". (کتاب الصلوة، باب الإمامة،

= (۵۵۹/۱، ۵۶۰، سعید)

خالہ اور بھانجی کا ایک شخص سے نکاح پڑھانے والے کی امامت

سوال [۲۶۶]: ایک پیش امام مسجد ناظرہ حافظ ہے، صحیح ظن سے قرآن قرأت میں پڑھ سکتا ہے، نماز جمعہ بھی وہی پڑھاتے ہیں جو کہ خطبہ میں پڑھتے ہیں، ہر روز پنجگانہ اذان بلا وضو کے دیتے ہیں، چند اشخاص اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بلا وضو اذان دینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن امام صاحب اس پر اصرار کرتے ہیں کہ بلا وضو اذان دینا جائز ہے اور صحیح ہو جاتی ہے۔ اور وہ پیش امام عقائد نکاح سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے ہیں، ایک نکاح امام صاحب موصوف نے ناجائز پڑھا دیا ہے، نکاح کثیثیت دستور طریقہ سے پڑھایا، ایک شخص کے گھر میں خالہ موجود ہے اس کی بھانجی سے اس کا نکاح جائز قرار دے دیا، آیا یہ مسئلہ جائز ہے یا نہیں؟ خالہ اور بھانجی ایک مرد کے عقد میں رہ سکتی ہیں؟ اور ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

آپ نے لکھا ہے کہ ”ایک پیش امام مسجد ناظرہ حافظ ہے“، اس کا مطلب میں نے نہیں سمجھا ”ناظرہ حافظ“ کسے کہتے ہیں؟ قرأت قرآن شریف میں کیا غلطی کرتے ہیں؟ اس کو لکھئے کیونکہ غلطی معمولی ہوتی ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے اور بعض غلطی سخت ہوتی ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، خطبہ کے متعلق کیا لکھا ہے سمجھ میں نہیں آیا، صاف صاف لکھئے۔

اذان کے لئے افضل یہ ہے کہ با وضو کہے لیکن اگر بے وضو کہدے تب بھی ناجائز نہیں، بلکہ درست ہے: ”ویکره اذان جنب، وإقامة محدث لا أذانه على المذهب الخ“۔ درمختار: ۱/۴۰۷ (۱)۔

= (و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة، ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(و كذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، فصل في بيان الأحق بالإمامة: ۳۰۲، ۳۰۳، قديمی)

(۱) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ۱/۳۹۲، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأول في صفته وأحوال المؤذن: ۱/۵۴، رشیدیہ)

(و كذا في المبسوط، كتاب الصلوة، باب الأذان: ۱/۲۷۵، مكتبة غفارية، كوئٹہ)

امام صاحب کو اگر معلوم تھا کہ اس شخص کے گھر میں ایک عورت پہلے سے موجود ہے اور اب دوسری سے نکاح کرتا ہے اور وہ دوسری بھانجی ہے پہلی خالہ ہے اور یہ ناجائز ہے تو وہ شخص اور وہ عورت اور امام صاحب جس قدر لوگ نکاح میں شریک ہوئے سب پر توبہ لازم ہے، اور جس کو علم نہیں تھا وہ گنہگار نہیں ہوگا (۱)۔

اب لازم ہے کہ اس مرد اور عورت میں تفریق کرادیں (۲) اور امام صاحب اور سب شریک ہونے والے توبہ کریں اور امام صاحب توبہ نہ کریں تو ان کو امامت سے علیحدہ کر دیا جائے بشرطیکہ دوسرا آدمی امامت کے لائق ان سے بہتر موجود ہو (۳)۔ وہ مرد و عورت اگر مفارقت نہ کریں اور باوجود فہمائش کے نہ مانیں تو سب مل کر ان سے قطع تعلق کر لیں تاکہ وہ دونوں تنگ آ کر توبہ کریں (۴)، اگر وہ شخص دوسری عورت کو رکھنا چاہتا ہے تو فی

(۱) "ومن استحل حراماً وقد علم تحريمه في الدين: أي ضرورة ككباح المحارم أو شرب الخمر وعن محمد رحمه الله بدون الاستحلال ممن ارتكب كفر: أي في رواية شاذة عنه "والفتوى على التردد إن استعمل مستحلاً كفر، وإلا لا، فإن ارتكب من غير استحلال فسق". (شرح الملا على القاری علی الفقه الأكبر، فصل فی الکفر صریحاً وکنایة، ص: ۱۸۸، قدیمی)

(۲) "ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لقوله عليه السلام: "لا تنكح المرأة على خالتها، ولا على عمتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها". (الهداية، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ۳/۲، ۳۰۸، ۳۰۹، شركة علميه ملتان)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في بيان بعض المحرمات: ۳/۳، ۳۳۰، دار الكتب العلمية بيروت) "يجب على القاضى التفريق بينهما". (الدر المختار، كتاب النكاح، مطلب في النكاح الفاسد: ۳/۱۳۳، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، القسم الرابع في المحرمات بالجمع: ۱/۲۷۷، رشيدية) (۳) "ويكفره إمامة عبدو أعرابي وفاسق وأعمى ومبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلاً، وولد زنا، هذا إن وجد غيرهم، وإلا فلا كراهة". (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، ۶۱۱، رشيدية)

(۴) "رُخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوقها، إلا إذا كان المهجران في حق =

الحال دونوں کو الگ کر دے اور پہلی کو طلاق دیدے جب اس کی عدت ختم ہو جائے تب دوسری سے نکاح کرے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم، ۱۶/۱۰/۵۹ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ مفتی مدرسہ ہذا۔

سوتیلی نانی سے نکاح پڑھانے والے کی امامت

سوال [۲۶۶۸]: ایک شخص نے اپنی ماں کی ماں سے یعنی سوتیلی نانی سے نکاح کر لیا ہے، آیا یہ

نکاح کیسا ہوا ہے، اور سوتیلی نانی محرمات میں سے ہے یا نہیں؟

۲..... اگر محرمات میں ہے تو جس شخص نے اس کا نکاح پڑھایا اور جو لوگ اس میں شامل ہوں ان کے

لئے کیا حکم ہے؟

۳..... اگر نکاح پڑھانے والا امام ہو اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو تو اس کے لئے امامت درست ہے یا

نہیں؟ اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سوتیلی نانی محرمات میں سے ہے تو نکاح فسخ کر دیا جائے یا نہیں؟ اور امام

صاحب جتنے دن تک لوگوں کو نماز پڑھائے ہیں وہ نماز لوٹانا پڑے گا یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

= من حقوق اللہ تعالیٰ، فیجوز فوق ذلک“۔ (مرقاۃ المفاتیح، کتاب الآداب، باب ما ینھی عنہ من

التہاجر الخ: ۸/۷۵۸، رشیدیہ)

راجع للتفصیل: (فیض القدیر، (رقم الحدیث ۹۹۶۲): ۱۲/۶۵۲۱، نزار مصطفیٰ

الباز ریاض)

(۱) ”وإن أراد أن يتزوج إحداهما بعد التفريق، فله ذلك إن كان التفريق قبل الدخول، وإن كان بعد

الدخول، فليس له ذلك حتى تنقضى عدتها، وإن انقضت عدة إحداهما دون الأخرى، فله أن يتزوج

المعتدة دون الأخرى ما لم تنقض عدتها، وإن دخل بإحداهما، فله أن يتزوج دون الأخرى ما لم تنقض

عدتها، وإن انقضت عدتها، جاز له أن يتزوج بأیتھما شاء، كذا فی التبیین“۔ (الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب

النکاح، القسم الرابع المحرمات بالجمع: ۱/۲۷۸، رشیدیہ)

(و كذا فی رد المحتار، کتاب الصلاة، فصل فی المحرمات: ۳/۴۱، سعید)

الجواب حامدًا ومصلياً:

۱..... سوتیلی نانی سے کیا مراد ہے، اگر یہ مراد ہے کہ حقیقی ماں کی سوتیلی ماں یعنی حقیقی نانا کی بیوی، پھر تو اس سے نکاح ناجائز ہے: ”حرم أصله وفرعه، وزوجة أصله وفرعه مطلقاً ولو بعيداً آھ“۔
درمختار (۱)۔

اور اگر یہ مراد ہے کہ سوتیلی ماں کی حقیقی ماں یعنی کسی عورت سے اس کی باپ نے دوسرا نکاح کر لیا اس عورت کی حقیقی ماں یا سوتیلی ماں سے اس نے نکاح کر لیا ہے تو یہ نکاح جائز ہے:

”قال الخیر الرملى: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراتب الخ“۔ درمختار (۲)۔

۲..... جائز نکاح پڑھنا اور اس میں شامل ہونا تو جائز ہے اور ناجائز نکاح پڑھنا اور اس میں شامل ہونا جائز نہیں، جواز عدم جواز سے نمبر: ”۱“ سے معلوم ہو سکتا ہے۔

۳..... اگر جائز سے پڑھایا ہے پھر تو اس کی امامت میں کوئی اشکال نہیں، اگر ناجائز نکاح پڑھایا ہے اور مسئلہ سے واقف ہوتے ہوئے ایسا کیا ہے تو نکاح پڑھانے والا اور مرد اور عورت نیز شرکاء سب کو گناہ ہوا سب کو توبہ لازم ہے (۳)۔ اور مرد و عورت میں تفریق ضروری ہے (۴)، اگر امام توبہ نہ کرے تو اس کو امام نہ

(۱) (الدر المختار، کتاب النکاح، فصل فی المحرمات: ۲۸/۳، ۳۱، سعید)

قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (النساء: ۲۳)

”عموم فی جميع ما تناوله الاسم حقيقة، ولا خلاف أن الجدات وإن بَعْدن محرمات، واكتفى بذكر الأمهات؛ لأن اسم الأمهات يشملهن كما أن اسم الأباء تناول الأجداد وإن بَعْدوا“۔ (أحكام القرآن للجصاص: ۱۷۶/۲، قديمی)

(و كذا فی مجمع الأنهر، كتاب النکاح، باب المحرمات: ۳۲۳/۱، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

(۲) (ردالمحتار، كتاب النکاح، فصل فی المحرمات: ۳۱/۳، سعید)

(۳) ”واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة“۔ (شرح النووي على مسلم، كتاب التوبة: ۳۵۲/۲، قديمی)

(۴) ”يجب على القاضي التفريق بينهما“۔ (الدر المختار، كتاب النکاح، مطلب فی النکاح الفاسد: ۱۳۳/۳، سعید) =

بنایا جائے (۱)۔

اگر مسئلہ سے ناواقفیت کی بناء پر ایسا کیا ہے تو گناہ نہیں ہوا (۲)، البتہ تفریق پھر بھی ضروری ہے۔ جو نمازیں ایسے امام کے پیچھے لوگ پڑھ چکے ہیں اس نکاح پڑھانے کی وجہ سے ان کا اعادہ کسی حال میں لازم نہیں، خواہ نکاح جائز پڑھایا ہو خواہ ناجائز، جواز عدم جواز کا حال نمبر: ۱ میں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۶/۱/۵۹ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: عبداللطیف عفا اللہ عنہ، مدرسہ مظاہر علوم، ۵۹ھ۔

زبردستی نکاح پڑھانے والے کی امامت

سوال [۲۶۶۹]: ہندہ سے بکر زبردستی زیادہ مہر پر نکاح کروایا گیا، اس نکاح کے متعلق مسجد کا مستقل امام بخوبی واقف ہے۔ جب کمیٹی اور بکر کے درمیان نکاح و مہر کے متعلق جدوجہد ہوئی اس وقت پر وہ بھی حاضر تھے اور جان گئے کہ نکاح بالکل جبراً ہو رہا ہے، مگر کمیٹی کو کوئی شرعی رائے دیئے بغیر کمیٹی کا حکم پاتے ہی نکاح پڑھ دیا گیا۔ ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہو سکتی ہے؟ اس نکاح کے بعد وہ جو نکاح پڑھائے گا تو وہ شریعت کی بنیاد سے درست ہو سکتا ہے یا نہیں؟

= (و كذا في الفتاوى العالمية، كتاب النكاح، القسم الرابع في المحرمات: ۱/۲۷۷، رشیدیہ)

(۱) "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلوة، باب

الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، شركة علمیه ملتان)

(۲) "رفع عن أمتي الخطاء والنسيان". الحديث: أي إثمه لا حكمه..... وقال ابن الهمام: قوله رفع

الخطاء من باب المقتضى ولا عموم له؛ لأنه ضروري فوجب تقديره على وجه يصح والإجماع على أن

رفع الإثم مراد، فلا يراد غيره الخ". (فيض القدير: ۴/۳۳۰۳، ۳۳۰۴، (رقم الحديث: ۲۲۶۱)،

مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، ریاض)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر امام صاحب نے بھی اس ظلم میں حصہ لیا ہے تو وہ گناہ میں شریک ہیں (۱)، تاہم اس کے بعد جو نکاح پڑھیں گے وہ صحیح ہو جائیں گے، نکاح خواں سفیر محض ہوتا ہے، کذا فی بحر الرائق۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۱۲/۸۸ھ۔

حمل ساقط کرانے والے کی امامت

سوال [۲۶۷۰]: ایک شخص نے کنواری لڑکی سے نکاح کیا، بعد دو ماہ کے پتہ چلا، تشخیص کرائی تو معلوم ہوا کہ منکوحہ کو پانچ چھ ماہ کا حمل حرام سے ہے، تب اس حمل کو ایک ناگوار سمجھ کر قصداً ساقط کرا کر پھر دوبارہ الناکر نکاح کیا۔ اب اسکے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟
حافظ عظمت اللہ، مقام مصطفیٰ آباد، محلہ قاضیان، ضلع انبالہ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

صورتِ مسئلہ میں نکاح صحیح ہو چکا تھا، حمل ساقط کرا کے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہ تھی، البتہ وضع حمل سے پہلے صحبت کرنا درست نہ تھا (۲)، قصداً حمل کو ساقط کرنا ایسی صورت میں سخت گناہ ہے (۳)۔ اگر باوجود علم کے ایسا کیا ہے تو توبہ کرنا لازم ہے (۴)، اگر توبہ نہ کرے تو اس کو امام نہ بنایا جائے، بشرطیکہ دوسرا شخص امامت کا اہل

(۱) کسی بھی معصیت میں اعانت کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے: قال الله تعالى ﴿ولا تعاونوا على الإثم﴾ الآية.

(۲) ”وصح نكاح حبلى من زنى، لا حبلى من غيره وإن حرم وطؤها ودواعيه، حتى تضع -متصل بالمسألة الأولى- لئلا يسقى ماؤه زرع غيره“۔ (الدر المختار، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات : ۳۸/۳، ۳۹، سعید)

(و كذا فى الهداية، كتاب النكاح، فصل فى بيان المحرمات : ۳۱۲/۲، مكتبه شركة علميه ملتان)

(۳) قال الله تعالى : ﴿وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت﴾ (سورة التكوير : ۸، ۹، الآية)

”إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذى قال تعالى فيه وإذا الموءودة سئلت

بأي ذنب قتلت) (فتاوى ابن تيمية : ۲/۲۱۷، بحواله جديد فقهي مسائل، مصنفه مولانا سيف الله رحمانى)

(۴) ”واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة“۔ =

ہو اور یہ جب صدق دل سے توبہ کر لے تو اس کو امام بنانے میں بھی مضائقہ نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۲/۸/۵۳ھ۔

صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف عفا اللہ عنہ، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/شعبان/۵۳ھ۔

زانیہ کے شوہر کی امامت

سوال [۲۶۷۱]: زید کی شادی ایک عورت سے ہوئی جس کے بطن سے ایک لڑکی تولد ہوئی، لڑکی جب دو سال کی ہوئی تو عورت مذکورہ دیگر شخص سے ناجائز تعلقات پیدا کر کے اس کے ہمراہ چلی گئی زید کی عدم موجودگی میں، زید اور اس کے اعزہ و اقارب ایک برس تک تلاش کرنے میں نہایت پریشان رہے، عدالتی کارروائی بھی چھ ماہ تک رہی لیکن ناکامیاب رہے۔ بعد عرصہ ایک برس تقریباً اتفاقاً ایک جگہ سے ہمراہ زانیہ کے وہ پکڑی گئی جب کہ وہ حاملہ تھی بدکاری سے اس وقت قطعاً زید کے ساتھ رہنے کو پسند نہ کرتی تھی لیکن زبردستی زید نے پکڑ کر اس کے والدین کے سپرد کر دی۔

کچھ روز بعد اس کے بطن سے زنا کا لڑکا تولد ہوا، اس کے تولد ہونے کی خبر اس کے والدین نے زید کو بھی دی، اس وقت زید کی رضامندی بھی اس کو اپنے گھر میں آباد کرنے کی نہ تھی، لیکن بعد از ایک برس اس کے والدین نے منت سماجت کی کہ ہماری عزت اسی میں ہے کہ آپ ہماری لڑکی کو مع لڑکے مذکور کے گھر میں آباد کر لیں، زید نے اس خیال سے کہ اس کے والدین نہایت دیندار اور مخلص ہیں اور لڑکی نے بقول اس کے والدین توبہ بھی کر لی ہے اس کو اپنے گھر آباد کر لیا، ہمراہ لڑکا بھی آیا جس پر لوگوں کا خیال ہے بہت بُرا ہوا، کیونکہ زید بذاتِ خود بہت دیندار حافظ

= (شرح مسلم للنووی، کتاب التوبة: ۲/۳۵۴، قدیمی)

(۱) ”ویکره إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى“۔ (الدر المختار). ”إن أمکن الصلوة خلف غیرہم فہو أفضل، وإلا فالافتداء أولى من الانفراد“..... (قوله: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من یرتکب الكبائر کشارب الخمر والزانی و آکل الربا ونحو ذلك“۔ (ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشیدیہ)

”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش

الظاهرة“۔ (الدر المختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید)

قرآن اور متقی ہے، نیز امام مسجد اور پیری مریدی بھی کرتا ہے، کیونکہ امام کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔

اب دریافت طلب یہ ہے کہ آیا جب زنا سے پیدا ہوا لڑکا بھی زید کے گھر میں ہے اور وہ عورت مذکور بھی، اس صورت میں شریعت اسلامیہ کے نزدیک امامت کرانے میں کوئی قباحت تو نہیں، اگر ہے تو شریعت اسلامیہ کا ایسے متقی امام کے لئے کیا حکم ہے؟ اس معاملہ کی بنا پر انگشت نمائی بہت ہوتی ہے اس لئے فتویٰ کی ضرورت ہوئی تاکہ جواب ہو سکے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

زید اپنی بیوی کی اس حرکت سے خوش نہیں بلکہ ناخوش ہے اور اب جب کہ زوجہ نے توبہ کر لی ہے تو پھر کیا اشکال ہے، قرآن کریم اور حدیث شریف سے سچی توبہ کا مقبول ہونا ثابت ہے (۱)۔ اگر بالفرض زید کی زوجہ اب بھی حرام کاری میں مبتلا ہے اور زید اس حرام کاری سے ناخوش ہے اور زوجہ کو روکتا ہے مگر وہ باز نہیں آتی تو ایسی صورت میں بھی زید کے ذمہ واجب نہیں کہ اس زوجہ کو طلاق دے: "ولا يجب على الزوج تطليق الفاحشة اھ۔" در مختار (۲)۔ زید کی امامت درست ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، یوپی۔

الجواب صحیح سعید احمد غفرلہ، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، یوپی۔

صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۳/ ذی الحجہ/ ۶۲ھ۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا توبوا إلى الله توبةً نصوحاً، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنت تجرى من تحتها الأنهار﴾ (سورة التَّحْرِيمِ: ۸)

وقال الله تعالى: ﴿قل يعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، إنه هو الغفور الرحيم﴾ (سورة الزمر: ۵۳)

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "والذى نفسى بيده! لو لم تذبوا، لذهب الله بكم و لجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم". رواه مسلم.

"عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". رواه ابن ماجه و البيهقى فى شعب الإيمان، وقال: تفرد به النهرانى وهو مجهول. وفى شرح السنة: روى عنه موقوفاً. قال: "الندم توبة، والتائب كمن لا ذنب له". (مشكوة

المصابيح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار و التوبة: ۱/ ۲۰۳، ۲۰۶، قديمى)

(۲) (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر و الإباحة، فصل فى البيع: ۶/ ۴۲۷، سعيد)

(و كذا فى الفتاوى العالمكيرية، الباب الثلاثون فى المتفرقات: ۵/ ۳۷۲، رشيديه)

زوج مزنیہ کی امامت

سوال [۲۶۷۲]: زید کی شادی ایک عورت سے ہوئی جس کے بطن سے ایک لڑکی تولد ہوئی، لڑکی جب دو سال کی ہوئی تو عورت مذکور نے دیگر شخص سے ناجائز تعلقات پیدا کر کے اس کے ہمراہ چلی گئی زید کی عدم موجودگی میں۔ زید اور اس کے اعزہ واقارب ایک برس تک تلاش کرنے میں نہایت پریشان رہے، عدالتی کارروائی بھی چھ ماہ تک رہی لیکن ناکامیاب رہے۔

بعد عرصہ ایک برس تقریباً اتفاقاً ایک جگہ سے ہمراہ زانی کے وہ پکڑی گئی، جب وہ حاملہ تھی بدکاری سے، اس وقت قطعاً زید کے ساتھ رہنے کو پسند نہ کرتی تھی، لیکن زبردستی زید نے پکڑ کر اس کے والدین کے سپرد کر دی۔ کچھ روز بعد اس کے بطن سے زنا کا لڑکا تولد ہوا، اس کے تولد ہونے کی خبر اس کے والدین نے زید کو بھی دی، اس وقت زید کی رضامندی بھی اس کو اپنے گھر میں آباد کرنے کی نہ تھی لیکن بعد از ایک برس اس کے والدین نے منت سماجت کی کہ ہماری عزت اس میں ہے کہ آپ ہماری لڑکی کو مع لڑکے مذکور کے اپنے گھر میں آباد کر لیں۔ زید نے۔ اس خیال سے کہ اس کے والدین نہایت دین دار اور مخلص ہیں اور لڑکی نے بقول اس کے والدین کے توبہ بھی کر لی ہے۔ اس کو اپنے گھر میں آباد کر لیا ہے، ہمراہ لڑکا بھی آیا، جس پر لوگوں کا خیال ہے کہ بہت برا ہوا کیونکہ زید بذات خود بہت دین دار حافظ قرآن اور متقی ہے، نیز امام مسجد اور پیری مریدی بھی کرتا ہے کیونکہ امام کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔

اب دریافت طلب امور یہ ہیں کہ آیا جب زنا سے پیدا ہوا لڑکا بھی زید کے گھر میں موجود ہے اور وہ عورت مذکور بھی۔ اس صورت میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے امامت کرانے میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو شریعت اسلامیہ کا ایسے متقی امام کے لئے کیا حکم ہے؟ اس معاملہ کی بناء پر انگشت نمائی بہت ہوتی ہے، اس لئے فتویٰ کی ضرورت ہوئی تاکہ جواب ہو سکے۔ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

زید اپنی بیوی کی اس حرکت سے خوش نہیں بلکہ ناخوش ہے اور اب جب کہ زوجہ نے توبہ بھی کر لی ہے تو

پھر کیا اشکال ہے، قرآن کریم اور حدیث شریف سے سچی توبہ کا مقبول ہونا ثابت ہے (۱)۔ اگر بالفرض زید کی زوجہ اب بھی حرام کاری میں مبتلا ہے اور زید اس حرام کاری سے ناخوش ہے اور زوجہ کو روکتا ہے مگر وہ باز نہیں آتی تو اس صورت میں بھی زید کے ذمہ واجب نہیں کہ اس زوجہ کو طلاق دے: ”ولا یجب علی الزوج تطلیق الفاجرة، اھ“۔ درمختار: ۵/۳۰۳ (۲)، لہذا زید کی امامت درست ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

جس امام کی بیوی کا تعلق کسی غیر سے ہو اس کی امامت

سوال [۲۶۷۳]: ایک حافظ صاحب ایک محلہ کی مسجد میں امامت کرتے تھے، اس محلہ کا ایک لڑکا امام صاحب کے گھر آتا جاتا تھا، بتلایا گیا کہ امام صاحب کی بیوی سے اس لڑکے کا ناجائز تعلق ہے، اتفاق سے ایک روز وہ لڑکا پکڑا گیا اس حالت میں کہ عورت مکان کے باہر صحن میں تھی اور لڑکا مکان کے اندر دروازہ بند کئے ہوئے تھا، اس پر کچھ تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد امام صاحب نے مسجد سے امامت چھوڑ دی اور اپنے گھر رہے اور کوئی بات آج تک نہیں ہوئی۔ امام صاحب بذات خود نیک اور شریف ہیں، دوسرے محلہ کے لوگ ان کو اپنی مسجد میں امام رکھنا چاہتے ہیں، آیا ان کو امام رکھنا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

شخص مذکور کی امامت جبکہ وہ نیک ہیں، شریف ہیں قطعاً جائز ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
املاہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۷/۶/۱۴۰۱ھ۔

(۱) ”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”إن العبد إذا اعترف وتاب، تاب اللہ علیہ“۔ (مشکاة المصابیح، باب التوبة والاستغفار، الفصل الأول، ص: ۲۰۳، قدیمی)
”وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”التائب من الذنب کمن لا ذنب له“۔ (مشکوة المصابیح، باب التوبة والاستغفار، الفصل الثالث، ص: ۲۰۶، قدیمی)
(۲) (الدر المختار، کتاب الحظر والإباحة، قبیل کتاب إحياء الأموات: ۶/۴۳۱، سعید)
(۳) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن“۔ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید) =

فاجرہ کے شوہر کی امامت

سوال [۲۶۷۲]: ایک شخص کی بیوی دوسرے آدمی کے ساتھ چلی گئی اور کافی عرصہ اس کے پاس رہی، اس عرصہ میں اس عورت سے ایک بچہ اغواء کنندہ کا پیدا ہوا ہے، بعدہ اس کا خاوند عورت مذکورہ کو لایا اور اپنے گھر عورت مذکورہ کو آباد کر لیا، کیا اس عورت کا خاوند امام بن سکتا ہے یا نہیں؟ نیز اس کا خاوند یہ بھی کہتا ہے کہ عورت تائب ہوگئی ہے۔ بالدلیل بیان فرمایا جائے۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

اگر عورت فاجرہ ہو اور شوہر اس کے فجور سے رضا مند نہ ہو بلکہ اس کو منع کرتا ہو اور عورت باز نہ آتی ہو تو اس کا گناہ شوہر پر کچھ نہیں اور شوہر کے ذمہ ایسی عورت کو طلاق دینا واجب نہیں: "لہ امرأة فاسقة لا تنزجر بالزجر، لا يجب تطليقها، كذا في القنية، اهـ". عالمگیری: ۳۷۲/۵ (۱)۔

"لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. اهـ". درمختار۔ "ولا عليها تسريح الفاجرة إلا إذا خافت أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس أن يتفرقا اهـ. مجتبیٰ. والفجور يعم الزنا وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن زوجته لا ترد يد لامس، وقد قال: إني أحبها: "استمتع بها". اهـ". درمختار: ۳۰۳/۵ (۲)۔

اور پھر جبکہ زوجہ نے توبہ کر لی ہے تو شوہر کی امامت میں کوئی مضائقہ نہیں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱/۴/۱۳۶۲ھ۔

= (و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۶۶۹/۱، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱۰۷/۱، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۱) (الفتاوى العالمكيريہ، كتاب الكراهية، الباب الثلاثون في المتفرقات: ۳۷۲/۵، رشيدية)

(۲) (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع: ۴۲۷/۶، سعید)

(وأيضاً كتاب النكاح، فصل المحرمات: ۵۰/۳، سعید)

(۳) "عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التائب من =

ایسے شخص کی امامت جس کی بیوی بے پردہ ہو

سوال [۲۶۷۵]: ایک حافظ اور اس کی بیوی بے پردہ ہو کر بازار میں دوکان لگا کر مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں، اس حافظ کے پیچھے نماز فرض یا تراویح درست ہے یا نہیں، اگر درست ہے تو کن شرائط کے ساتھ؟
ملا امیر علی، معلم امام باڑہ، گاؤں قصابان کھنڈوہ محلہ، املی پورہ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اس حافظ کی بیوی شرعی طور پر پردہ نہیں کرتی اور وہ بے پردگی سے نہیں روکتا بلکہ اس کے اس فعل سے خوش ہے اور اس سے بہتر امامت کا اہل دوسرا شخص موجود ہے تو ایسے حالات میں اس حافظ کو امام بنانا مکروہ ہے، کیونکہ ایسا شخص شرعاً فاسق ہوتا ہے۔ اگر وہ بے پردگی سے روکتا ہے اور بیوی نہیں مانتی تو امامت مکروہ نہیں: ”ویکفرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق“۔ تنویر: ۱/ ۵۸۴ (۱)۔ واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، ۱۷/ جمادی الثانیہ/ ۱۳۵۲ھ۔

الجواب صحیح عبد اللطیف عفا اللہ عنہ، ۲۰/ جمادی الثانیہ/ ۱۳۵۲ھ۔

کبوتر باز امام کی امامت جس کی بیوی بے پردہ ہو

سوال [۲۶۷۶]: جو امام کبوتر بازی کھلی کرتا ہو وہ نہ مانے تو شریعت میں نماز کیلئے کیا حکم ہے، اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ شریعت میں امام کی بیوی کیلئے پردہ کی کیا شرائط ہیں؟ وہ بھی تحریر فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امام صاحب نے شوقیہ کبوتر پال رکھے ہیں جن کو اڑاتے بھی ہیں تب تو محض نامناسب کام کیا ہے جس کی وجہ

= الذنب کمن لا ذنب له“۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الإیمان وقال: تفرده النهرانی وهو مجهول. وفي شرح السنة: روى عنه موقوفاً قال: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له“.

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبة: ۱/ ۲۰۶، قدیمی)

(۱) (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی الهدایة، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۲۲، مکتبہ شرکتہ علمیہ، ملتان)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/ ۱۰۸، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

سے امامت میں خلل نہیں، اگر ہرجیت میں اڑاتے ہیں تو پھر ان کی امامت مکروہ ہے جب تک کہ توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کر لیں (۱)۔ ہر ایسے آدمی سے پردہ لازم ہے جس سے نکاح جائز ہو (۲)، اگر گھر سے باہر کا بھی عورت کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے تو میلے کپڑے پہن کر سب بدن ڈھانپ کر باہر جائے اور ضرورت پوری کر کے واپس آجائے، اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر نکلنے کی اجازت نہیں (۳)۔ اگر کوئی امام اپنی بیوی کو پردہ میں رکھنا چاہتا ہے اور اس پر زور بھی دیتا ہے مگر بیوی نہیں مانتی، گھر سے نکلتی ہے، امام اس سے ناخوش ہے تو اس کی وجہ سے اس کی امامت میں خلل نہیں آئے گا (۴)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفر لہ۔

(۱) ”ویکفرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى“، وقال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ: ”(قوله: وفاسق) من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من یرتکب الكبائر کشارب الخمر والزانی وأکل الربا ونحو ذلك“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید) (وکذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۹، دار إحياء التراث العربی، بیروت) (۲) قال الله تعالیٰ: ﴿ولا یبیدین زینتھن إلی البعولتھن أو آبائھن أو آباءھن أو أبناءھن أو أبنائھن أو إخوانھن أو بنی إخوانھن أو بنی أخواتھن﴾ (سورة النور: ۳۱) ”ومن لا یحل لہ نکاحھا أبداً بنسب أو سبب ولو بزناً“۔ (الدر المختار، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی النظر واللمس: ۶/۳۶۷، سعید)

(۳) قال الله تعالیٰ: ﴿وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى﴾ (سورة الاحزاب: ۳۳) ”ولا یکن خراجات ولاجات طوافات فی الطرُق والأسواق وبیوت الناس، وهذا لا ینافی خروجھن للحج أو لمامیہ مصلحة دینیة مع التستر وعدم الابتذال“۔ (روح المعانی: ۲۲/۹، دار إحياء التراث العربی بیروت) ”عن أبی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: إذا استعطرت المرأة، فمرت علی القوم یجدوا یریحھا، فھی کذا وکذا“۔ قال قولاً شديداً. وعن أبی هريرة قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”أیما امرأة أصابت بخوراً، فلا تشهدن معنا العشاء“۔ قال ابن نفیل: الآخرة“۔ (سنن أبی داود، کتاب الترجل، باب فی طب المرأة للخروج: ۲/۲۱۹، سعید)

(۴) قال الله تعالیٰ: ﴿ولا تنزر وازرة وزر أخرى﴾ (سورة الفاطر: ۱۸)

جو شخص ستر کا اہتمام نہ کرے اس کی امامت

سوال [۲۶۷۷]: اگر کوئی شخص بسا اوقات کاشف العورة رہے یعنی بکارِ دنیوی مشغول ہو کر مانند لنگوٹ کے کپڑا پہنے رہے تو اس عالم با صفت مذکورہ کے پیچھے عند الشرح نماز جائز ہے یا نہیں؟ (۱)۔

ایضاً

سوال [۲۶۷۸]: اگر کوئی عالم ننگا ہو کر نہر یا چشمہ پار ہو جاوے، دریں حالت کہ اس کے آس پاس آدمی بھی موجود ہوں تو اس شخص پر منجانب شرع کیا حکم ہے؟ (۲)۔

بے پردہ بیوی کے ساتھ بازار میں گھومنے والے کی امامت

سوال [۲۶۷۹]: ہمارے یہاں جامع مسجد کے پیش امام صاحب اپنا لباس پینٹ شرٹ وغیرہ بھی پہنتے ہیں اور دوسرے ان کے گھر کے اندر بالکل بے پردگی ہے، میاں بیوی دونوں کو بازار اور تمام جگہوں پر گھومتے دیکھا گیا ہے۔ امام صاحب سے جب کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ احمد آباد اور مہاراشٹر کیلئے پردہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور دوسرے یہ بھی روزانہ کا معمول ہے کہ دونوں میاں بیوی دروازے اور کھڑکی وغیرہ کھلی رکھتی ہیں، مستی کرتے رہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور ان سے کہنے پر انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مشرک ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جو امام بیوی کو ساتھ لیکر اس کی بے پردگی کی حالت میں بازار میں گھومتا پھرتا ہے اور شوقیانہ زندگی بسر کرتا ہے اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۱۰/۹۲ھ۔

(۲۱) ان دونوں سوالوں کا جواب کتاب میں مذکور نہیں۔

(۳) ”ویکرہ إمامة عبد وأعراسی وفاسق وأعمی“۔ وقال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ: ”(وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزانی و آكل الربا ونحو ذلك..... فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعاً..... على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيذمي لاهور)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، شركت علميه ملتان)

جس کی بیوی قریبی رشتہ داروں سے پردہ نہ کرے اس کی امامت

سوال [۲۶۸۰]: زید کی بیوی اپنے ماموں اور چچا کے لڑکے سے پردہ نہیں کرتی، بلکہ سامنے آتی ہے اور زید اس کو منع بھی کرتا ہے مگر صرف زبان سے منع کرتا ہے اور کوئی تشدد نہیں کرتا تو زید پر بیوی کے پردہ نہ کرنے کا گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اور زید کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا مکروہ؟ اور زید کو کس قدر تشدد کرنا چاہئے؟ اگر تشدد کرنے سے فساد کا اندیشہ ہو پھر بھی تشدد کرے یا نہیں؟ اگر زید کی بیوی اور زید کا بھائی، عمر و ایک ہی گھر میں رہتے ہوں دوسرے گھر میں رہنے کی گنجائش نہ ہو، ایسی صورت میں پردہ کی کیا صورت ہوگی؟ اگر زید کی بیوی عمر و سے پردہ نہ کرے تو اس کا گناہ عمر و کو بھی ہوگا یا نہیں؟ اگر اندیشہ فساد کا نہ ہو تو پھر بھی پردہ نہ کرنے کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ اگر زید اور پر جو مذکور ہے مسائل خوب جانتا ہو تو جاہل کے مقابلہ میں امامت کا حق رکھتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

چچا اور ماموں کے لڑکے سے شرعاً پردہ ضروری ہے، اگر زید کی بیوی ان سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہے (۱) اور زید کو منع کرنا ضروری ہے، اگر منع نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا (۲)، زید کو تشدد کرنا اور اپنی زوجہ کو پردہ نہ کرنے پر شرعاً مارنا بھی درست ہے۔ اگر ناقابل برداشت فساد کا خیال ہو اور اس وجہ سے زید اپنی بیوی پر تشدد نہ کرے اور بلا تشدد کے نہ

(۱) قال الله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾ (سورة النور: ۳۱)

وقال الله تعالى: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من

جلايبهن﴾ (سورة الأحزاب: ۵۹)

(۲) "إن سالماً حدثه أن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما یقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: "کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، الإمام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، والرجل راعٍ فی أهلہ وهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، والخادم راعٍ فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ". (صحیح البخاری، کتاب الجمعة، باب الجمعة فی القرى والمدن:

مانے تو شرعاً زید پر گناہ نہیں۔ اول صورت میں زید کی امامت مکروہ ہے جبکہ اس سے بہتر امامت کا اہل موجود ہو (۱) ثانی صورت میں زید کی امامت مکروہ نہیں۔

”يجوز له: أي الزوج أن يضربها في أربعة الأمور ومافی معناها ومنه إذا كشفت وجهها

لغير محرم، ومنه ما إذا سمعت صوتها للأجنبي“. كذا في الخيرية، ص: ۱۱۸ (۲)۔

پر وہ کرنا ہر حال میں ضروری ہے خواہ اندیشہ فساد ہو یا نہ ہو (۳) مگر شریعت نے جن مواقع کو مستثنیٰ کر دیا ہے وہ مستثنیٰ ہیں (۴)، اگر وسعت ہے تو زید کے ذمہ اپنی عورت کیلئے مستقل مکان یعنی کوٹا دینا ضروری ہے جس میں اس کا

(۱) ”ویکفره إمامة عبد وأعراسی وفاسق وأعمی ومبتدع لایکفر بها، وإن کفر بها فلا یصح الاقتداء به أصلاً، وولد الزنا، هذا إن وجد غیرهم، وإلا فلا کراهة. بحر بحثاً“

”وأما الفاسق فقد عللوا کراهة تقديمه بأنه لایهتم لأمر دینه، وبأن فی تقديمه للإمامة تعظیمه، وقد وجب

عليهم إهانتہ شرعاً“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشیدیہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۳۵، ۳۳۶، بیروت)

(۲) (البحر الرائق، کتاب الحدود، باب حد القذف، فصل فی التعزیر: ۵/۸۲، رشیدیہ)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الحدود، باب التعزیر: ۳/۷۷، سعید)

(۳) قال الله تعالى: ﴿يَأْيِهَ النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكِ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (سورة الأحزاب: ۵۹)

”عن نبهان مولى أم سلمة رضى الله عنها أنه حدث أن أم سلمة رضى الله عنها حدثته أنها كانت عند رسول

الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه—وذلك بعد ما أمرنا

بالحجاب— فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”احتجبا منه“ فقلت: يا رسول الله! أليس هو أعمى، لا يبصرنا

ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أَوْ عَمِيًّا وَإِنْ أَنْتُمْ؟ أَلَسْتُمْ تَبْصُرَانِهِ؟“ (ابن كثير، سورة

النور: ۳/۳۷۸، دار الفحاء دمشق)

(۴) ”فإن خاف الشهوة أو شك، امتنع نظره إلى وجهها..... إلحاجة كقاض وشاهد يحكم ويشهد عليها،

—لف ونشر مرتب—، لا لتحمل الشهادة في الأصح، وكذا مرید نکاحها..... وشرائها ومداواتها، وينظر الطبيب=

بھائی وغیرہ کوئی نہ رہتا ہو (۱)۔ اگر وہ پردہ کرنے کو کہتا ہے اور زید کی بیوی باوجود کوشش اور فہمائش کے پردہ نہیں کرتی تو اس کا گناہ زید کے ذمہ نہیں ہوگا (۲)، اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

گانے بجانے والی کے شوہر کی امامت

سوال [۲۶۸۱]: وہ حفاظ جو مختلف مساجد میں امامت کراتے ہوں اور ان کے مکانات مسکونہ کسی ایک مسجد سے بہت ملحق ہوں مگر ان کی عورتیں ان کی موجودگی ہی میں اپنے ناچ گانے اور بے ہودہ نعمات سے نمازیوں کے خیالات منتشر کرتی ہوں، حالانکہ مسلمان غیر مسلموں سے فوراً دست و گریباں ہو جاتے ہیں، اگر وہ کسی مسجد کے پاس سے باجا بجاتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔

۲..... اگر ان کے ان شوہروں کو کہ وہ امام ہیں روکنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ حجت کرتے ہیں اور دین سے بے خبر لوگوں کی عورتوں کو اپنی عورتوں کے لئے مثال بناتے ہیں، لہذا:

الف: ان کا یہ فعل دین میں کس قسم کا ہے؟

ب: ان لوگوں کی امامت جائز ہے یا نہیں اور ان کی سزا کیا ہے، نیز وہ عورتیں جن کے شوہر امام ہیں اور وہ یہ ہی اگر تقاریب میں اپنے اس بے ہودہ گانے کی آواز سے طوفانِ بدتمیزی اٹھائیں اور اسے جائز سمجھیں تو ان کے لئے کیا حکم

= إلى موضع مرضها بقدر الضرورة؛ إذ الضرورات تقدر بقدرها، وكذا نظر قابلة وختان“ (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر واللمس: ۶/۳۷۰، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الكراهية، فصل في بيان أحكام النظر ونحوه: ۲/۵۳۰، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(۱) ”وكذا تجب لها السكنى في بيت خالٍ عن أهلها وأهلها بقدر حالهما كفاها. وفي البحر عن الخانية: يشترط أن لا يكون في الدار أحدٌ من أحماء الزوج يؤذيها“. وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”(قوله: من أحماء الزوج) صوابه من أحماء المرأة كما عبر به في الفتاوى الهندية عن الظهيرية؛ لأن أقارب الزوج أحماء المرأة وأقاربها أحماء ه.“

(الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ۳/۵۹۹، ۶۰۱، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ۳/۳۲۶، ۳۲۷، رشيدية)

(۲) قال الله تعالى: ﴿ولا تنزروا زرة وزر أخرى﴾ (سورة الفاطر: ۱۸)

ہے؟ اس قسم کے گھروں کا مسلمان اگر مقاطعہ کر دیں تو ان کا یہ فعل کیسا ہے؟ فقط۔

والسلام: احقر العباد بوعلی سنساری پوری، ۱۱/ربیع الثانی/۵۸ھ۔

الجواب حامداً ومصلياً :

اگر وہ امام اپنی عورتوں کے روکنے پر قادر ہیں اور پھر نہیں روکتے تو وہ لوگ گنہگار ہیں، ان کے ذمہ واجب ہے کہ عورتوں کو ناشائستہ اور ناجائز افعال سے منع کریں (۱)۔ اگر وہ روکنے پر قادر نہیں، یا روکتے ہیں لیکن نہیں مانتے پھر ان اماموں پر عورتوں کے ان افعال کا گنہ نہیں اور اس صورت میں ان کی امامت میں بھی اس سے نقصان نہیں آتا (۲)۔ البتہ اگر باوجود قدرت کے نہیں روکتے بلکہ عورتوں کے افعال مذکورہ کو اچھا سمجھتے ہیں تو ان کی امامت منع ہے بشرطیکہ دوسرا شخص امامت کے لائق ان سے بہتر موجود ہو (۳)۔ اگر مقاطعہ کرنے سے ان کی اصلاح کی توقع ہو تو مقاطعہ کرنا مناسب ہے (۴)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۱/۴/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۱/ربیع الثانی/۵۸ھ۔

(۱) "عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - : عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". رواه مسلم."

"وعن العرس بن عميرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا عملت الخطيئة في الأرض من شهدها ففكرها، كان كمن غاب عنها. و من غاب عنها ففرضها، كان كمن شهدها". رواه أبو داود". (مشکوٰۃ المصابيح، کتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف: ۲/۴۳۶، قدیمی)

(۲) قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (سورة فاطر: ۱۸)

(۳) "ويكفره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى و مبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلاً، وولد الزنا، هذا إن وجد غيرهم، وإلا فلا كراهة". (التبوير مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، ۶۱۱، رشيدية)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۴) "وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلث ليل، فليتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام". (صحیح البخاری، =

جس کی بیوی گھاس کاٹتی ہو اس کی امامت

سوال [۲۶۸۲]: جس امام کی بیوی گھاس کاٹتی ہو ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر تنگ دستی اور عسرت کی وجہ سے مجبوراً باہر جا کر گھاس کاٹتی ہے کہ بغیر اس طرح کے کام کے گزارہ نہیں ہوتا اور اپنی خاصیت کے موافق میلے کھیلے کپڑوں میں جاتی ہے اور چہرہ نامحرم کے سامنے نہیں کھولتی تو اس میں مضائقہ نہیں، اس سے اس کے شوہر کی امامت میں فرق نہیں آتا (۱)۔ اگر کوئی اور صورت ہے تو اس کو لکھ کر دریافت کر لیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند

= کتاب الأدب، باب الهجرة: ۲/۸۹۷، قدیمی

قال الملا علی القاری تحت هذا الحديث: "قال الخطابي: رُخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليالٍ لقلته، ولا يجوز فوقها، إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجوز فوق ذلك..... فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق". (مراجعة المفاتيح لملا علی القاری، کتاب الأدب، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الأول (رقم الحديث: ۵۰۲۷): ۸/۷۵۸، رشیدیہ)

"(قوله: ولا يحل لمسلم) إلى آخر نية التصريح بحرمه الهجران فوق ثلاثة أيام، وهذا فيمن لم يجن على الدين جنایة، فأما من جنى عليه وعصى ربه، فجاءت الرخصة في عقوبته بالهجران كالثلاثة المتخلفين عن غزوة تبوك، فأمر الشارع بهجرانهم، فبقوا خمسين ليلة حتى نزلت توبتهم الخ". (عمدة القاری، کتاب الأدب، باب ما ينهى من التحاسد الخ: ۲۲/۱۳۷، مطبعة خيریه بیروت)

(۱) قال الله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى﴾ (سورة الاحزاب: ۳۳)

قال العلامة الآلوسی تحتها "وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدین، وعبادة المرضی، وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك، وإنما يجوز بشروط مذکورة فی محلها..... فعلم أن المراد الأمر بالاستقرار الذي يحصل به وقارهن وامتيازهن على سائر النساء بأن يُلزمن البيوت في أغلب أوقاتها، ولا يكن خراجات ولاجات طوافات في الطرق والأسواق وبيوت الناس، وهذا لا ينافي خروجهن للحج أو لما فيه مصلحة دينية مع التستر، وعدم الابتدال". (روح المعاني: ۲۲/۹۶، دار إحياء التراث العربي بیروت)

جس کی اہلیہ استانی ہو اس کی امامت

سوال [۲۶۸۳]: ہماری مسجد کے ایک امام مدرسہ کے استاد ہیں اور ان کی اہلیہ بھی ایک مدرسہ بنات کی استانی ہے، بعض لوگ اسے کراہت و عدم جواز امامت کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ ان کی اہلیہ استانی ہیں۔ ایسے امام صاحب کی امامت میں نماز کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام صاحب اور ان کی اہلیہ صاحبہ اگر احکام شرع کی پابندی کے ساتھ تعلیم دیں تو اس کی وجہ سے امامت میں نقصان نہیں آئے گا، بلاشبہ ان کے پیچھے نماز درست ہوگی۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۸/۱/۸۹ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۸/۱/۸۹ھ۔

جس امام کی لڑکیاں بے پردہ ہوں اس کی امامت

سوال [۲۶۸۴]: جس شخص کے والدین اس سے ناراض ہوں اور جس نے اپنی جوان لڑکیوں کو نامحرم اشخاص کے یہاں رکھ رکھی ہوں اور اس کو سمجھایا جاتا ہے تو گمراہی کے چند الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے۔ ایسے شخص کی امامت کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سوال میں والدین کے ناراض ہونے کی وجہ ذکر نہیں کی گئی، لہذا اس کے متعلق بیان نہیں کیا جاسکتا۔ نامحرم اشخاص سے پردہ فرض ہے اور نامحرم کے ساتھ خلوت حرام ہے (۱)، پس اگر شخص مذکور اپنی جوان لڑکیوں کو نامحرم سے پردہ

(۱) قال الله تعالى: ﴿يَأْيُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ (الأحزاب: ۵۹)

”إن سالماً حدثه أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته. آه“ (أخرجه البخارى، كتاب الجمعة، باب الجمعة فى القرى: ۱/۱۲۲، قديمى)

”وفى الأشباه: الخلوۃ بالأجنبية حرام، إلا للملازمة مديونه هربت ودخلت خربة، أو كانت عجوزاً

شوهاء أو بحائل“ (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل فى النظر واللمس: ۳۶۸/۶، سعيد)

کرانے پر قادر ہے اور پھر پردہ نہیں کراتا تو گنہگار ہے، اس کو اپنے فعل سے بچنا ضروری ہے، اگر وہ باز نہ آئے اور اس سے بہتر امامت کا اہل موجود ہو تو شخص مذکور کو امام نہ بنایا جائے، ایسی حالت میں اس کی امامت مکروہ ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، دوسرے اہل شخص کو امام بنانا چاہئے اور خاص کر جب کہ سمجھانے پر گمراہی کے الفاظ بھی زبان سے نکالتا ہو، ایسی حالت میں اس کی امامت سے زیادہ احتراز چاہئے (۱) گو ان الفاظ پر جب تک اس کا علم نہ ہو کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

جواب صحیح ہے: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۱۸/ربیع الاول/۱۳۵۵ھ۔

جو امام اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرائے اس کے پیچھے نماز کا حکم

سوال [۲۶۸۵]: ایک صاحب امام مسجد ہیں ان کے دو لڑکیاں ہیں، ایک کی عمر ۳۰ سال اور ایک کی ۲۵ سال ہے۔ جب ان کو شادی کے لئے کہا جاتا ہے تو عذر کر دیتے ہیں، شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اس لئے اکثر مقتدیاں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے کراہیت کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا حکم ہے شرع شریف کا؟ مطلع فرمایا جاوے۔

(۱) ”ویکرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى ومبتدع لا یكفر بها، وإن کفر بها لا یصح الاقتداء به أصلاً، وولد الزنا، هذا إن وجد غیرهم، وإفلا، بحربحثاً“.

”وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا یهتم لأمر دینه، وبأن فی تقديمه للإمامة تعظیمه، وقد وجب علیهم إهانته شرعاً..... علی أن كراهة تقديمه كراهة تحريم“.

(الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعید)

(و كذا فی البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، ۶۱۱، رشیدیہ)

(و كذا فی مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(۲) ”وفی جامع الفصولین: روى الطحاوی عن أصحابنا: لا یخرج الرجل من الإیمان إلا جحوداً ما أدخله فیہ، ثم ماتیقن أنه ردة یحکم به، وما یشک أنه ردة لا یحکم بها؛ إذ الإسلام الثابت لا یزول بشک مع أن الإسلام یعلو“۔ (البحر الرائق، كتاب السیر، باب أحكام المرتدین: ۵/۲۱۰، رشیدیہ)

الجواب حامداً ومصلياً:

کیا عذر کر دیتے ہیں وہ معلوم ہونا چاہئے تاکہ اس پر غور کیا جاسکے کہ وہ معقول ہے یا غیر معقول، تاہم نماز اگر شریعت کے مطابق پڑھاتے ہیں تو نماز ان کے پیچھے صحیح ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگو، ہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۲/۵/۱۳۶۶ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۲۳/جمادی الاولیٰ/۱۳۶۶ھ۔

جس امام کے بیٹے گنہگار ہوں اس کی امامت

سوال [۲۶۸۶]: ہمارے علاقہ میں ایک حافظ صاحب ہیں ان کی تین اولاد ہیں، بڑا بیٹا بلیک مارکنگ کرتا ہے، منجھلا بیٹا ڈاکو کے نام پر اپنے اطراف میں مشہور ہے، مذکورہ حافظ صاحب اپنے ان دونوں بیٹوں سے برابر مل جل کر رہتے ہیں۔ اب وہ ایک محلہ اور علاقہ کے امام ہیں، ان کی زبان بہت ہی کڑوی ہے، دنیوی مال و متاع کے بہت حریص بھی ہیں، ادنیٰ شئی کیلئے وہ لوگوں کے دل دکھانے کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ان کے مال اور شخصی قوت کے بہت زور دار ہونے کی وجہ سے طوعاً و کرہاً لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں۔ بہر حال اب ایسے امام کے پیچھے مقتدی کی نماز جائز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام ایسے شخص کو تجویز کیا جائے جو اوروں سے زیادہ علم دین رکھتا ہو، صحیح قرآن شریف پڑھتا ہو، متبع سنت ہو، گناہوں سے بچتا ہو (۱)، اگر نمازیوں میں تو یہ اوصاف موجود ہوں، لیکن امام ان سے خالی ہو، یعنی نہ علم دین زیادہ رکھتا ہو، نہ قرآن شریف صحیح پڑھتا ہو، نہ متبع سنت ہو، نہ گناہوں سے بچتا ہو تو پھر ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے۔ بیٹوں کے گناہوں کا وبال والد پر اس وقت ہے کہ وہ ان کے گناہوں سے ناخوش نہ ہو (۲)۔

(۱) "والأحق بالإمامة الأعلّم بأحكام الصلاة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسنن. آھ۔" (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵، سعید) (و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۶۹، دار الكتب العلمية بيروت)
(۲) "العبرة بأسرها: "ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". (الدر المختار).

"أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب =

”بل مشی فی شرح المنیة علی أن کراهة تقدیمہ کراهة تحریم لما ذکرنا“۔ شامی: ۱/۳۷۶،

نعمانیہ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جس کا بیٹا چوری کرتا ہو اس کی امامت

سوال [۲۶۸۷]: ایک شخص مسجد میں امام ہے اور اس کا بیٹا چوری کا ارتکاب کر چکا ہے تو کیا اس امام کے پیچھے

نماز درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اس نے اپنے بیٹے کو چوری کیلئے خود ترغیب نہ دی ہو اور اس کی حرکت سے خوش نہیں تو اس کی وجہ سے امام کی

امامت میں خلل نہیں آئے گا (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جس کا والد ناجائز کاروبار کرے اس کی امامت

سوال [۲۶۸۸]: ایک لڑکا عالم فارغ دارالعلوم ہے اور اس کا والد نکاح پر نکاح کا کاروبار کرے تو لڑکے کی

امامت درست ہے یا نہیں؟

= علیہم إہانتہ شرعاً بل مشی فی شرح المنیة علی أن کراهة تقدیمہ کراهة تحریم لما ذکرنا“۔

(رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشیدیہ)

(۱) ”عن أبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”من رأى منکم

منکراً، فلیغیرہ بیدہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، فإن لم یستطع فبقلبہ، وذلک أضعف الإیمان“۔ رواہ مسلم“۔

”وعن العرس بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ”إذا عملت

الخطیئة فی الأرض فمن شہدھا فکرها، کان کمن غاب عنها. ومن غاب عنها فرضیھا، کان کمن

شہدھا“۔ رواہ أبو داؤد“۔ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف: ۲/۴۳۶، قدیمی)

(۲) قال اللہ تعالیٰ: ﴿ولاتزر وازرة وزر أخرى﴾ (سورة الفاطر: ۱۸)

الجواب حامداً ومصلياً:

والد کے اس ناجائز کاروبار سے لڑنے کی امامت میں کوئی خرابی نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جس جس کی امامت مکروہ ہے اس کی کراہت کی وجہ کیا ہے؟

سوال [۲۶۸۹]: عبارت: ”والأولى بالإمامة الأعلم بالسنة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسن، فإن

أم عبد أو أعرابي أو فاسق أو أعمى أو مبتدع أو ولد الزنا، كره“۔

اس عبارت میں جن افراد کا ذکر ہے ان میں سے ہر ایک کی وجہ کراہت حدیث کی روشنی میں مدلل بیان

فرمائیں، مذکورہ اشخاص میں سے اگر حافظ اور سب سے عشرہ کے قاری اور عالم ہوں تو کیا کراہت سے نکل کر ”أقرأ، ثم الأقرأ“ میں شامل ہو سکتے ہیں، اگر ہو سکتے ہیں تو کون کون؟ تشریح فرمائیں۔

ضروری دریافت طلب امر یہ ہے کہ بالخصوص ”اعمى“ کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالنے گا کہ اگر وہ حافظ

اور سب سے عشرہ کا قاری اور عالم ہو تو کیا کراہت باقی رہے گی؟ اور ایسی مثال کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیر القرون میں ملتی ہے کہ اعمی ہونے کی باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت کے لئے منتخب فرمایا ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ ”اعمى“ اگر مسائل طہارت میں محتاط ہو اور افضل ہو تو اس کی امامت مکروہ نہیں، حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے وقت مدینہ طیبہ میں امام تجویز فرمایا۔ فاسق اور مبتدع

اگر عالم اور قاری ہو تو اس کی امامت پھر بھی مکروہ ہوگی۔ عبد، اعرابی، ولد الزنا کے متعلق دو قول ہیں: ایک قول میں کراہت ختم

ہو جائے گی، دوسرے قول میں باقی رہے گی، پہلا قول قوی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ علت کراہت غلبہ جہل اور تفسیر جماعت

ہے جو علم و تقویٰ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی:

”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى، إلا أن يكون: أي غير الفاسق أعلم القوم الخ

“الدر المختار.“ (قوله: أي غير الفاسق) تبع في ذلك صاحب البحر حيث قيد كراهة إمامة

(۱) قال الله تعالى: ﴿ولا تنزروا زرة وزراً﴾ (سورة الفاطر: ۱۸)

الأعمى وفي غيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى الخ. ثم ذكر أنه ينبغي جريان هذا القيد في العبد والأعرابي وولد الزنا. ونازعه في النهر وفي الهداية بأنه علل الكراهة بغلبة الجهل فيهم، وبأن في تقديمهم تنفير الجماعة، ومقتضى الثانية ثبوت الكراهة مع انتفاء الجهل، لكن ورد في الأعمى نص خاص هو استخلافه صلى الله تعالى عليه وسلم لابن أم مكتوم وعتبان على المدينة، وكانا أعميين؛ لأنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهما، وهذا هو المناسب لإطلاقهم واقتصارهم على استثناء الأعمى الخ.

وحاصله أن قوله: (إلا أن يكون أعلم القوم) خاص بالأعمى، أما غيره فلا تنتفى الكراهة بعلمه، لكن ما بحثه في البحر صرح به في الاختيار حيث قال: ولو عدمت: أي علة الكراهة بأن كان الأعرابي أفضل من الحضري، والعبد من الحر، وولد الزنا من ولد الرشد، والأعمى من البصير، فالحكم بالضد الخ، ونحوه في شرح المنتقى للبهنسي، وشرح درر البحار. ولعل وجهه أن تنفير الجماعة بتقديمه يزول إذا كان أفضل من غيره، بل التنفير يكون في تقديم غيره. وأما الفاسق فقد عللوا كراهية تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعاً، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره أتزول العلة؟ فإنه لا يؤمن أن يصلى بهم بغير طهارة، فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال، بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا، ولذا لم تجز الصلوة خلفه أصلاً عند مالك، ورواية عن أحمد، الخ. رد المحتار: ۱/ ۳۷۶ (۱) - فقط والله تعالى أعلم -

حرره العبد محمود غفر له دار العلوم ديوبند



(۱) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۶۱۰، رشيديه)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: ۱/ ۶۳، مكتبة غفاريه)

الفصل الثالث في إمامة المبتدع

(بدعتی کی امامت کا بیان)

مبتدع کی امامت

سوال [۲۶۹۰]: ایک چھوٹی اسٹیٹ میں صرف ایک مسجد ہے جس میں نماز ہوتی ہے، مسجد کی امامت شہر قاضی صاحب (جو شافعی مذہب کے ہونے کے علاوہ رسوماتِ محرم الحرام کے حامی، عربی علوم میں بھی کما حقہ عبور نہیں) کے نائب جو حنفی ہیں اور ملازم سرکار، مغرب میں صرف آ کر نماز پڑھاتے ہیں اور گاہ بگاہ عشاء بھی اور نماز جمعہ ہمیشہ، بقیہ اوقات میں جماعت نہ ہونے کے باعث مقتدیان نے دوسرے پیش امام کا تقرر کیا جو حالاتِ حاضرہ کے مطابق خطبہ دیتے ہیں اور قرآن شریف تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، بخلاف سابق امام کے کہ اکثر مقامات پر کچھ غلطیاں بھی ہو جایا کرتی ہیں اب کثرتِ مقتدیان کی امام ثانی کے پیچھے نماز پڑھنے کی ہے چنانچہ ثانی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔

اگر سابق امام صاحب جن کو مقتدی اپنا امام مقرر کرنا نہیں چاہتے نماز جمعہ چند اشخاص کو لیکر۔ جن کی تعداد غالباً چھ سات یا اور کچھ زائد ہو۔ اول ادا کر لیں بنا بر شر و فساد کے (امام اول امام ثانی کی اقتداء کرتے چلے آ رہے ہیں) تو دوسری جماعت جمعہ کی۔ جس میں ساٹھ ستر کے قریب اشخاص ہیں۔ ادا کریں یا ظہر یا فرداً نماز ظہر پڑھیں؟ امام صاحب کے صاحبزادے کی شادی قادیانیوں میں ہوئی اور ان کے ان سے تعلقات ہیں، قاضی صاحب کسی نماز میں بھی نہیں آتے ہیں بجز عیدین کے۔

عین الحق معرفت مولوی عبدالستار پشاوری۔

الجواب حامداً ومصلياً:

سوال میں چند امور غور طلب ہیں: اول یہ کہ ”امام شافعی المذہب ہے“ اس کے متعلق فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر شافعی المذہب امام کے متعلق معلوم ہو کہ وہ مقتدی کے مذہب کی رعایت کرتا ہے تب تو اس کا اقتداء صحیح ہے، اگر معلوم ہو کہ وہ رعایت نہیں کرتا تو اقتداء صحیح نہیں، اگر رعایت و عدم رعایت کا کچھ علم نہ ہو تو اس کی اقتداء مکروہ ہے، اگر بعد میں امام

کے متعلق کسی ایسی چیز کا علم ہو کہ وہ مقتدی کے مذہب کے اعتبار سے مفسدِ صلوٰۃ ہے تو مقتدی کو اعادہ نماز ضروری ہے:

”الحاصل أنه إن علم الاحتياط منه في مذهبننا، فلا كراهة في الاقتداء به، وإن علم عدمه فلا

صحة، وإن لم يعلم شيئاً، كره.“ شامی، ص: ۶۹۸ (۱)۔

دوم: یہ کہ ”امام رسوماتِ محرم کا حامی ہے“ پس اگر ایسی رسوم کرتا ہے جو شرک نہیں فقط گناہ ہیں تو وہ فاسق ہے، فاسق کا اقتداء مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر ایسی رسوم کرتا ہے جو شرک تک پہنچ جاتی ہیں تو اس کی اقتداء کسی حال میں درست نہیں (۲) جب تک توبہ کر کے تجدیدِ ایمان نہ کرے (۳)۔

سوم: یہ کہ ”عربی علوم میں بھی اس کو کما حقہ عبور نہیں“ پس اگر روزمرہ کے مسائلِ ضروریہ سے واقف ہے تو عبور نہ ہونا مفسدِ صلوٰۃ نہیں۔ اور مسائلِ ضروریہ فسادِ صلوٰۃ و صحتِ صلوٰۃ وغیرہ سے بھی واقف نہیں تو اس کی امامت ناجائز ہے کیونکہ صحت و فسادِ صلوٰۃ کا اس کو علم ہی نہ ہوگا (۴)۔

(۱) (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الوتر والنوافل : ۷/۲، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الوتر والنوافل : ۸۱/۲، ۸۲، رشیدیہ)

(۲) ”ویکره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى، إلا أن يكون أعلم القوم، ومبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها لا يصح الاقتداء به أصلاً.“ (الدر المختار). ”فإن أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلا فالأقتداء أولى من الانفراد..... (قوله: وفاسق) من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزانی و آكل الرباء ونحو ذلك..... بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم.“ (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة : ۵۵۹/۱، ۵۶۲، سعید)

(و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلوٰۃ، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، ۵۱۴، سهيل اكيلى لاهور)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة : ۶۱۰/۱، ۶۱۱، رشیدیہ)

(۳) ”ما كان في كونه كفراً اختلافاً، فإن قائله يؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك، وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته، كذا في المحيط.“ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ومنها ما يتعلق بتلقين الكفر والأمر بالارتداد الخ، قبيل الباب العاشر في البغاة : ۲۸۳/۲، رشیدیہ)

(۴) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة الخ.“ (الدر المختار) ”(قوله: بأحكام الصلاة فقط): أي وإن كان غير متبحر في بقية العلوم، وهو أولى من المتبحر، كذا في زاد الفقير عن شرح الإرشاد.“ (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة : ۵۵۷/۱، سعید) =

چہارم: یہ کہ ”اکثر مقامات پر غلطیاں بھی ہو جایا کرتی ہیں“ پس اگر وہ غلطیاں مفسدِ صلوة ہیں تو نماز کا اعادہ ضروری ہے ورنہ نہیں۔

پنجم: یہ کہ ”مقتدی ان کو امام بنانا نہیں چاہتے“ اور بظاہر افعال مذکورہ کی وجہ سے امام بنانا نہیں چاہتے ہوں گے تو اس کو امامت کرنا مکروہ تحریمی ہے (۱)۔

ششم: یہ کہ ”اس کی قادیانیوں سے رشتہ داری وغیرہ کے تعلقات ہیں“ سو یہ بھی بہت مخدوش اور خطرناک حالت ہے، اگر اس کے عقائد بھی قادیانیوں کے ہی ہیں تو وہ مرتد کے حکم میں ہے (۲)۔
ہفتم: یہ کہ ”وہ بجز عیدین کے کسی نماز میں نہیں آتا“ تو تارکِ جماعت ہے (۳)۔

= (و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلوة، الأولى باب الإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيذمي)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۷، رشیدیہ)

(۱) ”عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: ”ثلاثة لا يقبل الله منهم صلوة: من تقدم قوماً وهم له كارهون، ورجل أتى الصلوة دباراً—والدبار أن ياتيها بعد أن تفوته— ورجل اعتد محرره“۔ (سنن أبي داؤد، کتاب الصلوة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون: ۱/۹۵، مکتبه امدادیہ ملتان)

(۲) قال الله تعالى: ﴿فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين﴾. (سورة الأنعام: ۲۸)

”یعنی بعد ما تذکر نہی اللہ تعالیٰ لا تقعد مع الظالمین۔ و ذلك عموم فی النهی عن مجالسة سائر الظالمین من أهل الشرك و أهل الملة لوقوع الاسم عليهم جميعاً۔ و ذلك إذا كان فی تقيه من تغييره بيده أو بلسانه بعد قيام الحججة على الظالمين بقبح ما هم عليه، فغير جائز لأحد مجالستهم مع ترك النكير سواء كانوا مظهرين فی تلك الحال للظلم والقباح أو غير مظهرين له؛ لأن النهی عام عن مجالسة الظالمين؛ لأن فی مجالستهم مختاراً مع ترك النكير دلالة على الرضا بفعالهم، و نظيره قوله تعالى: ﴿لعن الذين كفروا من بنی اسرائیل﴾ (سورة المائدة، ص: ۷۸) وقال الله تعالى: ﴿ولا تتركوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ (سورة هود: ۱۱۳) (أحكام القرآن للجصاص: ۵/۳، قديمی)

”المرتد فی الشرع: الراجع عن دين الإسلام، و ركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان“.

(الدر المختار، كتاب الحدود، باب المرتد: ۲/۲۲۱، سعيد)

(۳) ”وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب، أو سنة مؤكدة في حكم الواجب، كما في البحر، =

غرض امور مذکور کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہرگز ہرگز امام نہ بنایا جاوے، ثانی امام میں اگر منکرات یا دوسرے اس قسم کے منکرات جو امام کے مخالف ہوں موجود نہ ہوں تو ان کو مستقل امام بنالیا جاوے (۱)۔ اور نماز جمعہ کی صورت مسئولہ میں مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ آبادی میں یا آبادی کے بالکل متصل عید گاہ وغیرہ میں پڑھ لی جائے (۲) اور اگر وہ جگہ اتنی چھوٹی ہے کہ جہاں جمعہ جائز نہیں تو پھر سب کو ظہر پڑھنی چاہئے (۳) اور جواز جمعہ کے متعلق وہاں کی آبادی اور بازار وغیرہ کی حالت لکھ کر دریافت کر لیا جاوے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۵/۱/۵۳ھ۔

صحیح: عبد اللطیف، ۲۶/محرم الحرام/۵۳ھ۔

= وصرحوا بفسق تاركها و تعزيرها، و أنه يأتهم. (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۱/۵۷، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۲، ۶۰۳، رشيدية)

(۱) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة و فساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً اهـ". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۷، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۲۹، دار الكتب العلمية بيروت)

(۲) "ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان، ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعدما صلى فيه أهله، يصلون وُحداناً، وهو ظاهر الرواية". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۳، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۵، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى العالمية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة: ۱/۸۳، رشيدية)

(۳) "تقع فرضاً في القصابات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ألا ترى أن في الجواهر: لو صلوا في القرى لزهمهم أداء الظهر". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الجمعة: ۲/۱۳۸، سعيد)

"ومن لم تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي، لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان و

إقامة". (الفتاوى العالمية، كتاب الصلوة، الباب السادس عشر في صلوة الجمعة: ۱/۱۴۵، رشيدية)

بدعتی کی امامت

سوال [۲۶۹۱]: اگر امام بدعتی ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے: ”أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته“. ابن ماجة (۱)، اسی طرح برے گمراہ فرقوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بدعتی امام ایسی بدعت میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے کفر عائد ہو جاتا ہے تو اس کی امامت جائز نہیں اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی (۲) اگر اس کی بدعت ایسی بدعت نہیں اور نماز کے فرائض و واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی: ”صلوا خلف كل بر و فاسق“. أبو داؤد (۳)۔ اور ایسی حالت میں اس کی نماز قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس سے راضی نہیں، اور اس کو قرب خداوندی حاصل نہ ہوگا لیکن ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے: ”كراهة تقديم الفاسق كراهة تحريم“. غنية (۴)، اس عبارت سے ہر فرقہ کی امامت کا حکم معلوم ہو گیا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

- (۱) ”عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته“۔ (سنن ابن ماجة، باب اجتناب البدع والجدل، ص: ۶، میر محمد کتب خانہ کراچی)
- (۲) ”ویکره إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى و مبتدع لا یکفر بها، وإن کفر بها لا یصح الاقتداء به أصلاً“۔ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۹، ۵۶۰، سعید)
- (و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۲، سهیل اکیڈمی لاہور)
- (و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۶۱۱، ۶۱۲، رشیدیہ)
- (۳) رواه أبو داؤد بلفظ: ”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برأ كان أو فاجراً، والصلوة واجبة عليكم خلف كل مسلم برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والصلوة واجبة على كل مسلم برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر“۔ (أبو داؤد، کتاب الجهاد، باب فی الغزو مع أئمة الجور: ۱/ ۳۲۳، مکتبہ امدادیہ ملتان)
- (۴) (الحلبي الكبير، کتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهیل اکیڈمی لاہور)
- (و کذا فی رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۰، سعید)

ایضاً

سوال [۲۶۹۲]: زید ایک عالم ہونے کی حیثیت رکھتا ہے مگر بدعتیوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کی دعوتیں وغیرہ کھاتا ہے۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جو لاعلمی میں نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ہوئیں یا نہیں؟ براہ نوازش احکام شرعیہ سے مطلع فرمائیں۔ والسلام۔

احقر الناس: بندہ محمد احسن۔

الجواب حامداً ومصلياً:

کیا زید خود بھی بدعت کرتا ہے پھر وہ بدعت کیسی ہے، اگر شرک کی حد تک پہنچتی ہے، جیسے قبر کو سجدہ کرنا تو اس کے پیچھے نماز ناجائز ہے۔ اگر معمولی بدعت ہے جو گناہ صغیرہ کے درجہ میں ہے تو نماز جائز ہے، اگر گناہ کبیرہ کے درجہ میں ہے تو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے جب کہ اس سے بہتر امامت کے لائق دوسرا شخص موجود ہو (۱)، تاوقتیکہ بدعت کی تعیین نہ کی جائے کہ وہ کیا بدعت کرتا ہے کوئی قطعی حکم نہیں کیا جاسکتا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۶/۲/۵۶ھ۔

الجواب صحیح سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبد اللطیف، ۲۸/جمادی الثانیہ/۵۶ھ۔

ایضاً

سوال [۲۶۹۳]: جو شخص علم غیب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلاتا ہو اور عقیدہ رکھتا ہو تو اس کی اقتداء کرنی درست ہے یا نہیں؟

(۱) ”ویکره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى، إلا أن يكون أعلم القوم، ومبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها لا يصح الاقتداء به أصلاً“۔ (الدر المختار)۔ ”فإن أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلا فالأقتداء أولى من الانفراد..... (قوله: وفاسق) وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الرباء ونحو ذلك على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم“ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۲، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، ۶۱۲، رشیدیہ)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، ۵۱۴، سهيل اكيڈمی لاہور)

الجواب حامداً ومصلياً:

جس شخص کا عقیدہ کفریہ ہو اس کا امام بنانا اور اس کی اقتداء کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں، اس کے پیچھے نماز درست نہیں۔ ”ویکفرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى، إلا أن يكون أعلم القوم، ومبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها لا يصح الاقتداء به أصلاً“۔ تنوير الأبصار: ۱/۳۹۲ (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

بریلوی کی امامت

سوال [۲۶۹۴]: بریلوی عقیدہ رکھنے والے امام کے پیچھے نماز درست ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بریلوی عقیدہ کیا ہے، تحقیق کر کے بھیجئے، تب غور کیا جائے گا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

ایضاً

سوال [۲۶۹۵]: ایک شخص بریلوی خیال کا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور آپ مختار کل ہیں، نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور یہ شخص ایک مسجد میں امامت بھی کرتا ہے۔ آیا اس شخص کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟ یہ بھی واضح رہے کہ مسجد اس موضع میں ایک ہی ہے، بعض لوگ اسی مسجد میں اپنی نماز الگ جماعت کر کے پڑھتے ہیں یعنی ایک جماعت ہو جاتی ہے تو پھر دوسری جماعت کر کے نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں میں کافی انتشار پیدا ہو جاتا ہے اذان ایک ہی ہوتی ہے اور جماعتیں دو ہوتی ہیں۔

رحیم بخش ہردوئی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اس صفت کو ماننا بے دلیل ہے

(۱) (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۶۱۰، ۶۱۱، رشیدیہ)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۳۳۵، دار الكتب العلمية بیروت)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۲۳۲، مكتبه امدادیہ ملتان)

بلکہ خلاف نص ہے (۱) اس لئے ایسے شخص کو امام بنانا درست نہیں (۲)، تمام نمازیوں کو چاہئے کہ ایسے شخص کو امامت سے ہٹا کر دوسرے صحیح العقیدہ مسائل طہارت و نماز سے واقف، متبع سنت آدمی کو امام تجویز کریں ورنہ سب گنہگار ہوں گے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

نماز عید بدعتی کے پیچھے پڑھنے کا حکم

سوال [۲۶۹۶]: ایک امام نے کئی نکاح حمل والی عورتوں کے پڑھائے ہیں، سجدہ تعظیسی جائز قرار دیتا ہے،

(۱) قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ (سورة الأنعام: ۵۰)

”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: ”من زعم أنه يعلم - یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - ما یكون فی غد، فقد أعظم علی اللہ الفریة؛ لأن اللہ تعالیٰ یقول: ﴿قُلْ لَا یَعْلَمُ مِنْ فِی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (سورة النمل: ۶۵) (تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۷۴؛ سہیل اکیلمی لاہور)

قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كَمَا عَلَيْكُمْ شَهَادًا إِذْ تَفِيضُونَ فِيهِ﴾ (سورة یونس: ۶۱)

”عن أبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطیباً بعد العصر فلم یدع شیئاً..... ”إن الدنیا حلوة خضرة، وإن اللہ مستخلفکم فیہا فناظرٌ کیف تعملون“. إلى آخر الحدیث، رواه الترمذی. (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف: ۲/۴۳۷، قدیمی)

(۲) وتمام العبارة: ”ومبتدع: أي صاحب بدعة، وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة، وكل من كان من قبلتنا لا یکفر بها..... وإن کفر بها لا یصح الاقتداء به أصلاً“. (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۰، ۵۶۲، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۱، رشیدیہ)

(۳) ”والأحق بالإمامة الأعلّم بأحكام الصلاة فقط صحّة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوة للقراءة..... ولو قلموا غیر الأولى، أساءوا بلائهم“. (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، ۵۵۹، سعید)

(و کذا فی حاشیة الشیخ الشلبی علی تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۲۲، دار الکتب العلمیة بیروت)

بدعتیوں کا حامی ہے اور مفتی بھی ہے تو عید گاہ میں ادائے واجب (نماز عید) کے لئے جانا اور ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر عید کی نماز کسی جگہ دوسری بھی ہوتی ہو اور وہاں کا امام متبع سنت ہو، تو صورتِ مسئلہ میں عید گاہ نہ جائے بلکہ دوسری جگہ پڑھ لے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

مزار کی مٹی کھانے والے اور اس پر سجدہ کرنے والے کی امامت

سوال [۲۶۹۷]: جو شخص مزار کی مٹی کھاتا ہے اور مزار پر سجدہ کرتا ہے، اگر وہ شخص مرغی یا خسی یا مٹھائی خادم کو دے تو کیا وہ سب چیزیں حرام ہیں؟ اور اسکے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر یہ چیزیں بزرگ کے نام پر چڑھاوے کی ہیں تو ان کا لینا حرام ہے (۲) ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ

(۱) ”ویکفرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى إلا أن يكون أعلم القوم، ومبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها لا يصح الاقتداء به أصلاً“۔ (الدر المختار)۔

”قولہ: وفاسق)..... قال فی الفتح: وعلیہ فیکفرہ فی الجمعة، إذا تعددت إقامتها فی المصر علی

قول محمد المفتی بہ؛ لأنه بسبیل إلى التحول“۔ (ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۲، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۱۰/۱، ۶۱۱، رشیدیہ)

(و کذا فی حاشیة الشیخ الشلبی علی تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۳۴۷/۱، دار الکتب العلمیة بیروت)

(۲) ”واعلم أن النذر الذي يقع للأمم من أكثر العوام و ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم، فهو بالإجماع باطل وحرام مالم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام، وقد ابتلى الناس بذلك“۔

(الدر المختار، کتاب الصوم، فصل فی العوارض المبیحة لعدم الصوم: ۴۳۹/۲، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصوم، فصل فی النذر: ۵۲۰/۲، رشیدیہ)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی، کتاب الصوم، باب ما یلزم الوفاء به، ص: ۶۹۳، قدیمی)

تحریمی ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۲/۲/۸۹ھ۔

چڑھاوا، اور دیگ چڑھانے والے کی امامت

سوال [۲۶۹۸]: ہم لوگ جماعت دیوبندیہ کے ساتھ ہیں اور ہماری مسجد کے امام صاحب قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور پیروں کے نام کی دیکیں بھی کرتے ہیں اور دیوبندی علماء کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے سب پر ہاتھ پھیر رکھا ہے، وہ تبلیغ کو غلط بات کہتے ہیں، وہ سنت کو ایک ایک رکعت کر کے پڑھتے ہیں۔ کیا ہماری نماز ایسے امام کے پیچھے ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ان کا رکھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

قبروں پر چڑھاوا چڑھانا، پیروں کے نام کی دیکیں کرنا (۲) علمائے حق کو برا کہنا، سنتیں مستقل ترک کرنا، یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ جب تک ان سے توبہ نہ کرے اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرر العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/۶/۹۱ھ۔

مرشد کے نام کا جھنڈا لگانے والے کی امامت

سوال [۲۶۹۹]: ایک مسجد کے پیش امام اپنے مرشد کے نام کا جھنڈا لگاتے ہیں اور نیاز وغیرہ کر کے کھا لیتے ہیں اور مزار کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے نماز درست ہوگی یا نہیں؟

(۱) ”ویکرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى“۔ (الدر المختار)۔ ”قوله: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن

الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزانی و آكل الربا و نحو ذلك..... وإن كراهة

تقديمه كراهة تحريم“۔ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰ سعید)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيڈمی لاہور)

(۲) (تقدم تخريجه تحت عنوان: ”مزار کی مٹی کھانے والے اور اس پر سجدہ کرنے والے کی امامت“۔)

(۳) (تقدم تخريجه تحت المسئلة المتقدمة)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر خدا کے نام پر غریبوں کو دے کر اپنے مرشد کو ثواب پہنچادیں تو درست ہے، اگر مرشد ہی کے نام پر نیاز کرتے ہیں اور خود کھا لیتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے (۱)، پیر کے نام کا جھنڈا لگانا بھی غلط ہے (۲)، مزار کی پرستش (سجدہ کر کے) تو مشرکانہ طریقہ ہے (۳)۔ ایسا شخص امام بنانے کے قابل نہیں جب تک توبہ کر کے اصلاح نہ کرے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۱/۹۳ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

ہندوؤں کا بکرا ذبح کرنے والے کی امامت

سوال [۲۷۰۰]: اہل ہنود کا فر، زید کے مکان پر آئے اور کہا چلو صاحب ہمارے دو بکرے ذبح کر دو، یہ مسلمان اس کے ساتھ دریا پر بلا روک ٹوک چلا گیا، ذبح کرنے سے پہلے اس مسلمان نے ان آدمیوں (کفاروں) سے دریافت کیا کہ بکروں کو کس کے واسطے ذبح کرتے ہو، کہا کہ ہمیں خولجہ کی بھینٹ دینی منظور ہے۔ ان اہل ہنود کے ساتھ سوائے بکروں کے دلیا بھی بھینٹ کے لئے موجود تھا جو مسلمانوں کی نظروں نے بھی دیکھا ہے۔ اب پوچھنا اس امر کا ضروری ہے کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنی کیسی ہے؟

۲..... اب اس مسلمان آدمی سے دو چار گاؤں کے آدمیوں نے جو اس گاؤں میں رہتے ہیں جہاں یہ پڑھا لکھا مسلمان رہتا ہے پوچھا کہ تم نے ان اہل ہنود کے وہ بکرے کیوں ذبح کئے یا ایسا امر کیوں کیا؟ تو اب وہ مسلمان پوچھنے والے کو جواب دیتا ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ تم اس کو رب کے واسطے ذبح کرو اور ثواب اس کا خولجہ کو پہنچاؤ۔ یہ

(۱) (راجع عنوان: "مزار کی مٹی کھانے والے اور اس پر سجدہ کرنے والے کی امامت")۔

(۲) "قتیبہ": کرہ بعض الفقہاء وضع الستور والعمائم والثياب علی قبور الصالحین". (رد المحتار، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس: ۳۶۳/۶، سعید)

(۳) قال الإمام الشاہ ولی اللہ: "فمنہا أنہم كانوا یسجدون للأصنام والنجوم، فجاء النهی عن سجدة غیر اللہ قال اللہ تعالیٰ: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا للہ الذی خلقہن﴾ [سورة فصلت: ۳۷]. (حجة اللہ البالغة،

المبحث الخامس مبحث البر والإثم، السجود لغير اللہ: ۱/۱۸۳، قدیمی)

مسلمان آدمی شاید ان پوچھنے والوں کے رعب داب سے یہ بات کہتا ہے یا شریعت کے ڈر سے ہمیں کافی ثبوت نہیں کہ اس نے ان سے ایسا کہا یا نہیں کہا، کیوں کہ دوسرا سوائے اہل ہنود اور اس ذبح کرنے والے کے اور مسلمان وہاں نہیں تھا، باقی وہ اپنی زبان سے اس بات کو ضرور کہتا ہے۔ اس آدمی کو ان کو ایسا جواب دینا کیسا ہے؟

۳..... یہ مسلمان ہر ایک پوچھنے والے کو جواب دیتا ہے کہ مسئلہ صحیح ہے، اس مسئلے کو وہ مسلمان صحیح اس واسطے کہتا ہے کہ اگر وہ ان بکروں کو گنڈا (۱) سے مارتے تو ان کی جان بری طرح سے نکلتی، چلو شریعت کی تکبیر سے حلال ہی کرو۔ اس خیال سے حلال کرنا کیسا ہے اور اس مسلمان کی سب باتیں شریعت کی رو سے تحریر کرنی ضروری ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ان مسلمان نے ان کفار سے یہ کہا ہے کہ ان بکروں کو خدا کے نام پر ذبح کرو اور ثواب خولجہ کو پہنچاؤ تب تو اس کے ذبح کرنے میں کوئی نقصان نہیں (۲)، اس سے اس کی امامت میں کوئی خرابی نہیں آئی اور جب کہ کوئی اور شخص وہاں موجود نہیں تھا اور وہ مسلمان کہتا ہے کہ میں نے ایسا کہا تو پھر اس کا اعتبار کیوں نہیں کیا جاتا، تردید کی وجہ کیا ہے، اس کا اعتبار کرنا چاہئے، محض اس وجہ سے کہ یہ شاید پوچھنے والوں کے رعب سے یا شریعت کے مسئلہ سے ڈر کر اب بات بناتا ہے اور اس وقت اس نے نہیں کہا ہوگا اس کا اعتبار نہ کرنا اور اس کو جھوٹا سمجھنا جائز نہیں، جب کوئی پکی دلیل نہ ہو مسلمان کے قول

(۱) ”گنڈا سا: چارا کا ٹنے کا ہتھیار، لاشی میں لگا ہوا لوہے کا تیز ہتھیار“۔ (فیروز اللغات، ص: ۱۰۹، فیروز سنز، لاہور)

(۲) قال الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة الأنعام: ۱۱۸)

”هذا إباحة من الله، لعباده المؤمنين، أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، و مفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات، و أكل ما ذبح على النصب وغيرها“۔ (ابن كثير:

۲۲۶/۲، مكتبة الفيحاء دمشق)

”للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوماً أو صدقةً أو غيرها، كذا في الهداية، بل في زكاة التارخانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء، اهـ۔ هو مذهب أهل السنة والجماعة“۔ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنابة:

۲۲۳/۲، سعيد)

(و كذا في كتاب الحج، باب الحج عن الغير: ۵۹۵/۲، سعيد)

کا اعتبار کرنا چاہئے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۶/۵۹ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/جمادی الثانیہ/۵۹ھ۔

میلا داوردسویں میں شریک ہونے والے کی امامت

سوال [۲۷۰۱]: جو شخص صرف اس وجہ سے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ امام صاحب دسویں اور میلا دا

شریف میں شرکت نہیں کرتے، ایسے شخص کے لئے کیا حکم ہے؟ کیا ایسے امام کے پیچھے ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟

ظہور احمد، جامع مسجد کوکرو، ضلع مظفرنگر۔

الجواب حامداً ومصلياً:

میلا و مروجہ، دسویں، وغیرہ ثابت نہیں بدعت ہے (۲) ان چیزوں میں اگر امام شرکت نہ کرے تو امامت میں

(۱) "عن أبي ظبيان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه و هذا حديث ابن أبي شيبة، قال: بعثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلاً، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فوق في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "أقال لا إله إلا الله، وقتلته؟" قال: قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح قال: "أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، اهـ". الحديث. (الصحيح المسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله: ۶۸۱/۱، قديمي)

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "و معناه أنك إنما كُلفَت بالعمل بالظاهر و ما ينطق به اللسان، و أما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه، فأنكر على امتناعه من العمل بما ظهر باللسان، و قال: "أفلا شققت عن قلبه" لتظر هل قالها القلب و اعتقلها و كانت فيه أم لم تكن فيه، بل جرت على اللسان فحسب". يعني و أنت لست بقادر على هذا فاقصر على اللسان و لا تطلب غيره". (الكامل للنووي على صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله: ۶۸۱/۱، قديمي)

(۲) "ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات و إظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد، و قد احتوى على بدع و محرمات جمة، فمن ذلك استعمالهم المغاني و معهم آلات الطرب من الطار المصرصر و الشبابة، و غير ذلك مما جعلوه آلة للسمع، و مضوا في ذلك على العوائد الذميمة، في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي فضلها الله تعالى و عظمها ببدع و محرمات". (المدخل، فصل في المولد: ۳/۲، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

خلل نہیں آتا، جو شخص ان باتوں میں شریک نہ ہونے والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہ غلطی پر ہے، تارک سنت ہے (۱)، جماعت کے ثواب سے محروم ہے، اس کو باز آنا چاہئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۲/۸۹ھ۔

تیجہ چالیسواں کرانے والے کی امامت

سوال [۲۷۰۲]: ایک امام تیجہ، دسواں، چالیسواں بھی حدیث سے ثابت فرماتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

ان امام صاحب سے وہ حدیث پورے مع حوالہ کے لکھوائیے تب اس کے متعلق کچھ لکھا جائے گا۔ فقط واللہ

تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔



= قال الله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة﴾ (سورة الأحزاب: ۲۱)

”عن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا يقبل الله لصاحب بدعة صوماً، ولا صلوة، ولا صدقة، ولا حجاً، ولا عمرة، ولا جهاداً، ولا صرفاً، ولا عدلاً، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين“.(سنن ابن ماجه، باب اجتناب البدع والجدل، ص: ۶، مير محمد كتب خانہ کراچی)

”عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد“.(الصحيح لمسلم، كتاب الأفضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: ۷/۲، قديمي)

”ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة..... و أطال في ذلك في المعراج، و قال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء، فيحترز عنها؛ لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى“.(رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنابة: ۲/۲۳۰، ۲۳۱، سعيد)

(وكذا في الفتاوى البرازية، كتاب الصلوة، الخامس والعشرون في الجنائز الخ على هامش الهندية: ۳/۸۱، رشيدية)

(۱) ”والجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، وعليه العامة“.(الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۳، ۵۵۴، سعيد)

الفصل الرابع في إمامة المحترف والمتهم (حقیر پیشے والے اور متہم کی امامت کا بیان)

میراثی کی امامت

سوال [۲۷۰۳]: ہماری مسجد میں جو امام ہیں، قوم کے میراثی ہیں، گانا، بجانا تو کچھ نہیں کرتے، ان کے یہاں پردہ بھی ہوتا ہے، مگر اس کے پاس چار بیگہ زمین خدمتی دی ہوئی ہے، پہلے اس کے باپ کے پاس رہا کرتی تھی اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا حق اس کے پاس آ گیا، وہ ہماری خدمت کرتا تھا، ویسے حافظ بھی ہے۔ اس کو مسجد میں امام رکھنا چاہئے یا نہیں؟ اس کے پیچھے نماز جائز ہے یا ناجائز؟ فقط۔

وزیر احمد بقلم خود، عبدالقلم خود۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص سب میں افضل ہو علم، قرأت، تقویٰ، نسب وغیرہ کے اعتبار سے، اس کو امام بنانا افضل ہے: "الأعلم أحق بالإمامة، ثم الأقرأ، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً، ثم الأحسن وجهاً، ثم الأشرف نسباً". مراقی الفلاح، ص: ۱۷۴ (۱)۔

البتہ اگر کسی جگہ ان صفات کا آدمی نہ ہو تو ایسے حافظ کو امام بنانے میں بھی مضائقہ نہیں جیسا کہ سوال

(۱) (مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح، کتاب الصلوة، فصل فی بیان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۰، قدیمی)

(و کذا فی تنویر الأبصار مع الدرالمختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، سعید)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلوة، فصل فی بیان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۶۹، دارالکتب

العلمیة بیروت)

میں مذکور ہے بشرطیکہ کوئی اور شرعی قباحت موجود نہ ہو (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۹/۴/۵۲ھ۔

الجواب صحیح: بندہ عبد الرحمن غفرلہ، صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۹/۴/۵۲ھ۔

نائی کی امامت

سوال [۲۷۰۴]: ایک لڑکا حجام کا ہے جو حافظ قرآن ہے جس کی عمر ۱۵، ۱۶ سال کے قریب ہے۔ کیا وہ تراویح میں قرآن پاک سناسکتا ہے یا نہیں؟ اور اس کے پیچھے نماز فرض پڑھی ہوئی جائز ہو سکتی ہے یا نہیں، حال یہ ہے کہ اس کا والد حجامت بنانے پر مامور ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حجامت (سر مونڈنے کا پیشہ) ناجائز نہیں (۲)، اس کی وجہ سے اس کی امامت میں خرابی نہیں آئے گی، اگر وہ مسائل طہارت و نماز سے واقف اور امامت کا اہل ہے تو قرآن کریم اس کے پیچھے تراویح میں سننا بھی درست ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۹/۹۱ھ۔

(۱) "فإن أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلا فالإقتداء أولى من الانفراد، و ينبغي أن يكون محل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم، وإلا فلا كراهة كما لا يخفى". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۱، رشیدیہ)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

(۲) "عن المقدم بن معديكر بن رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه، وأن نبى الله داؤد عليه السلام كان يأكل من عمل يديه". رواه البخارى". (مشکوٰۃ المصابیح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال: ۱/۲۴۱، قدیمی)

(۳) قال العلامة الحصكفى رحمه الله تعالى: "والأحق بالإمامة الأعلّم بأحكام الصلوة فقط صحّة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقراءة، ثم الأورع". (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۲۱، شركت علمیه ملتان) =

نداف (روئی صاف کرنے والے) کی امامت

سوال [۲۷۰۵]: زید نداف ذات سے تعلق رکھتا ہے البتہ اس میں امامت کی صلاحیت بہ نسبت وہاں کے اور لوگوں کے زیادہ ہے، وہ بعض اوقات امامت بھی کرتا ہے لیکن لوگ اسے کم درجہ کا مسلمان تصور کر کے اقتداء سے گریز کرتے ہیں۔ تو کیا گریز کرنا درست ہے، کیا اسلام ذات پات کو کوئی حیثیت دیتا ہے؟ ندافی یا اس قسم کا کوئی پیشہ اختیار کرنے سے مسلمان کی ذات میں اونچائی نیچائی ہو سکتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ندافی کا پیشہ دیانت داری کیساتھ ہو تو ناجائز نہیں ہے، اس کو حقیر و ذلیل سمجھنا غلط اور خلاف شرع ہے (۱)، جس میں امامت کے اوصاف موجود ہوں گے اس کے پیشہ کی وجہ سے ہرگز درست نہیں کہ اس کی اقتداء سے گریز کریں (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

غسال میت کی امامت

سوال [۲۷۰۶]: غسال امامت نماز فریضہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کر سکتا ہے تو کیا انہی کپڑوں

= (و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/ ۱۰، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(۱) "عن المقدم بن معديكرب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه، وأن نبي الله داؤد عليه السلام كان يأكل من عمل يديه". رواه البخارى". (مشكوة المصابيح، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، ۱/ ۲۴۱، قديمي)
(۲) "ولو أم قوماً وهم له كارهون، إن الكراهة لفساد فيه، أولأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تحريماً لحديث أبي داؤد: "لا يقبل الله صلاة من تقدم وهم له كارهون". وإن هو أحق، لا، والكراهة عليهم". (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۹، سعيد)

(و كذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، أما الكلام في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/ ۶۰۳، ۶۰۴،

إدارة القرآن كراتشى)

سے امامت کر سکتا ہے جن کو پہنے ہوئے میت کو غسل دیا تھا، جواب بسند ہو۔

الجواب حامداً ومصلياً:

میت کو غسل دینا مسلمانوں کے ذمہ فرض کفایہ ہے جیسا کہ اس پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے:

”والصلوة عليه فرض كفاية كدفنه وغسله وتجهيزه، فإنها فرض كفاية، اه“۔ درمختار (۱)۔

جس طرح نماز جنازہ پڑھنے والے کی امامت میں اسی فرض کفایہ کی ادائیگی سے کوئی خرابی نہیں آتی،

اسی طرح میت کے غسل دینے والے کی امامت میں اس فرض کفایہ کی ادائیگی کی وجہ سے کچھ نقصان نہیں آتا، یہی

حال تجہیز و تکفین، دفن میں سب شریک ہونے والوں کا ہے کہ سب نے فرض کفایہ ادا کیا ہے، ان سے امامت کرانا

بلا تردد درست ہے۔ یہ عوام کی خام خیالی اور جہالت ہے کہ میت کو غسل دینا عیب سمجھتے ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ

غسل دینے والے غسل میت سے احتیاط کریں کہ وہ نجس ہے، اگر وہ کپڑوں پر گرے گا تو کپڑے نجس ہو جائیں

گے، اور میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا بھی مستحب ہے:

”ويندب الاغتسال لمن أسلم طاهراً، وعند الفراغ من حجامة وغسل ميت، اه“۔

مراقی الفلاح، ص: ۶۲ (۲)۔ ”(قوله: قبل نجاسة خبث)؛ لأن الآدمي حيوان، فينجس بالموت

(۱) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنابة: ۲/۲۰۷، سعید)

(و كذا في سكب الأنهر مع ملتقى الأبحر، كتاب الصلوة، فصل في الصلوة على الميت: ۱/۱۸۲،

دار إحياء التراث بيروت)

(و كذا في المحيط البرهاني في الفقه العماني، كتاب الصلوة، الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز، نوع

آخر من هذا الفصل في الصلاة على الجنابة: ۲/۳۰۶، المكتبة الغفارية كوئته)

(و كذا في مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الصلوة، باب أحكام الجنائز، فصل، ص:

۵۸۰، قديمی)

(۲) (مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الطهارة، فصل سنن الاغتسال أربعة أشياء، ص: ۱۰۸،

قديمی)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الطهارة، مطلب في أبحاث الغسل، سنن الغسل: ۱/۱۷۰، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الطهارة: ۱/۱۲۱، رشیدیہ)

كسائر الحيوانات، وهو قول عامة المشايخ، وهو الأظهر، بدائع، وصححه في الكافي. قلت: و يؤيده إطلاق محمد نجاسة غسلته، وكذا قولهم: لو وقع في بئر قبل غسله نجسها، وكذا حمل ميتاً قبل غسله وصلى به، لم تصح صلاته، وعليه فإنما يظهر بالغسل كرامة للمسلم، وكذا لو كان كافراً، نجس البئر ولو بعد غسله. اهـ. رد المحتار: ۱/۸۹۴ (۱)۔

کوئی وجہ اشکال کی ہو تو اس کو بیان کر کے دریافت کیا جائے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۲/۶/۵۹ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۳/۶/۵۹ھ۔

غاسل میت کی امامت

سوال [۲۷۰۷]: آج کل ائمہ مساجد میں عموماً غسل مردوں کا ان کے ذمہ ہوتا ہے اور ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ غاسل میت کے پیچھے نماز بالکل جائز نہیں، اگر جائز نہیں تو دیہاتی امام محض اسی لئے رکھے جاتے ہیں کہ اگر غسل میت کو نہ دیں تو ان کو امامت سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ مفصل تحریر کریں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

غسل وکفن و نماز جنازہ، دفن میت سب کا حکم یکساں ہے، کذا فی الدر المختار (۲)، لہذا چاہئے کہ ان میں سے کسی ایک کام کرنے والے کے پیچھے بھی نماز جائز نہ ہو اور مردے بلا غسل، کفن، نماز، دفن ہی پڑے رہا کریں، چونکہ جو یہ کام کرے گا اس کے پیچھے نماز درست نہ ہوگی، پھر اس غسل دینے والے نے کیا قصور کیا

(۱) (رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة: ۲/۱۹۴، سعید)

(۲) ”والصلوة عليه فرض كفاية كدفنه وغسله وتجهيزه، فإنها فرض كفاية“، (الدر المختار، کتاب

الصلوة، باب صلوة الجنازة: ۲/۲۰۷، سعید)

(و کذا فی سكب الأنهر شرح ملتقى الأبحر، کتاب الصلوة، فصل فی الصلوة علی الميت:

۱/۱۸۲، دار احیاء التراث العربی بیروت)

(و کذا فی المحيط البرهانی فی الفقہ العمانی، کتاب الصلوة، الفصل الثانی الثلاثون فی الجنازة، نوع

آخر من هذا الفصل فی الصلوة علی الجنازة: ۲/۳۰۶، المكتبة الغفارية کوئٹہ)

ہے، اس سے پوچھیں کہ عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ البتہ اس خدمت کو امام کے حقیر سمجھتے ہوئے سپرد کر دینا بُرا ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ۔

جس پر زنا کی تہمت لگائی گئی ہو اس کی امامت

سوال [۲۷۰۸]: زید حافظ قرآن ہے اور محلہ رسول پور ضلع کٹک کی مسجد میں امام ہے، وہ اس محلہ کے ایک شخص بکر کے یہاں فاضل وقت میں ان کی لڑکی زیتون کو پڑھاتے بھی تھے، لڑکی کی عمر ۱۱ سال ہوگی، نابالغہ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ زیتون پڑھائی کے کمرہ سے روتی ہوئی نکلی اور اس کا اندام نہانی سے خون بہہ رہا تھا، گھر والے دوڑے ہوئے آئے اور امام صاحب سے دریافت کیا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ مارنے کی چھڑی سے جو کہ بانس کی تھی کونچہ لگایا، غصہ میں وہ غلطی سے اندام نہانی میں لگ گئی اور خون نکلنے لگا، بہر حال بچی کو فوراً ہسپتال پہنچایا گیا، وہاں ایک ہندو ڈاکٹر فی اور ایک مسلمان ڈاکٹر علاج کی طرف متوجہ ہوئے، دونوں نے ان کے رشتہ داروں سے کہا کہ خاص جگہ کچھ پھٹ گیا ہے اس کو سی دیا گیا، اب کوئی خطرہ نہیں۔ اور ڈاکٹر اور ڈاکٹر فی کا کہنا ہے کہ زنا سے ہی ایسا زخم ہو سکتا ہے، چھڑی کا یہ زخم نہیں ہے۔ لڑکی نے بھی ڈاکٹروں کے سامنے زنا کا اقرار کیا کہ امام صاحب نے مجھ سے زنا کیا ہے۔

اب اس بات پر محلہ میں دو فریق ہو گئے ہیں: ایک فریق کا کہنا ہے کہ امام صاحب زنا میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لئے ان کی امامت اب صحیح نہیں ہوگی، دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ شریعت کی رو سے عدم شہادت کی وجہ سے زنا ثابت نہیں ہوتا، اس لئے امامت کر سکتے ہیں، بلکہ امامت کر بھی رہے ہیں۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ امام صاحب زنا کے مجرم ہوئے یا نہیں اور اقتداء جائز ہے یا نہیں؟ جب کہ امام صاحب اس فعل کی نفی کرتے ہیں اور

(۱) قال اللہ تعالیٰ: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (سورة البقرة: ۱۲۳)

”وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرناه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الراشدون بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول ومن ألزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلوة ونحوها“، (أحكام القرآن للجصاص: ۱/۹۷، ۹۸، قديمي)

قسم کھانے کو تیار ہیں۔

سیدحاتم مدرسہ محمودیہ کٹک۔

الجواب حامداً ومصلياً:

صورتِ مذکورہ میں امام صاحب مذکور کو زانی قرار دینا اور ان پر زانی کے احکام جاری کرنا تو درست نہیں، جو ثبوتِ زنا کے لئے شرعاً ضروری ہے وہ موجود نہیں (۱) لیکن بیچی کو بانس کی چھڑی سے مارنے کا بھی حق نہیں، ردالمحتار میں اس کی ممانعت موجود ہے (۲)۔ امام صاحب کو اپنے اس جرم کا اقرار ہے، وہ مجرم اور گنہگار ہیں (۳)، جو صورت پیش آئی ہے وہ ان سے بدگمانی کا سبب بن سکتی ہے، لڑکی اور اس کے گھر والے اور دوسرے لوگ اگر ان سے ناراض ہوں تو ان کی ناراضی درست ہے۔ اگر امام صاحب اپنے جرم سے توبہ کر کے اپنی

(۱) ”ویشیت (أى الزنا) بشهادة أربعة رجال فى مجلس واحد..... بلفظ الزنا، لا الوطاء والجماع

..... ویشیت أيضاً بإقراره أربعاً فى مجالسه الأربعة اهـ“ (الدر المختار، كتاب الحدود ۵ : ۴/۷، ۸، سعید)

(و كذا فى الفتاوى العالمكبرية، كتاب الحدود، الباب الثانى فى الزنا : ۲/۱۲۳، رشیدیہ)

(و كذا فى الهداية، كتاب الحدود : ۲/۵۰۷، مكتبه شركة علمية ملتان)

(۲) ”(قوله: بيد): أى لا يجاوز الثلاث، وكذلك المعلم ليس له أن يجاوزها، قال عليه السلام

لمرداس المعلم: ”إياك أن تضرب فوق الثلاث، فإنك إذا ضربت فوق الثلاث، اقتص الله منك اهـ“.

إسماعيل عن أحكام الصغار للأستروشنى. و ظاهره أنه لا يضرب بالعصا فى غير الصلاة أيضاً“، (رد

المختار، كتاب الصلوة، : ۱/۳۵۲، سعید)

(۳) قال الله تعالى: ﴿و لا تقربوا الزنى، إنه كان فاحشةً وساء سبيلاً﴾ (سورة الإسراء : ۳۲)

”ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزيكهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان، و

كملك كذاب، و عائل : أى فقير مستكبر“، رواه مسلم وأحمد والنسائى“.

”ثلاثة لا يدخلون الجنة : الشيخ الزانى، والإمام الكذاب، والعائل المزهو“، رواه البزار

باسناد جيد“، (الزواج عن اقتراف الكبائر، الكبيرة الثامنة والخمسون بعد ثلاث مائة: الزنا - أعادنا الله

منه و من غيره بمنه و كرمه - اهـ : ۲/۲۱۹، دار الفكر بيروت)

اصلاح نہ کریں تو وہ امامت سے علیحدگی کے قابل ہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفر لہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۸/۷/۹۴ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۸/۷/۹۴ھ۔

ایضاً

سوال [۲۷۰۹]: لوگ زید پر الزام لگاتے ہیں اور اتہام باندھتے ہیں کہ زید خالدہ سے بدکاری کراتا ہے اور اس کو دھمکاتے ہیں کہ تیرا وارنٹ نکلوادیں گے، اور زید کو دیوث بتاتے ہیں۔ شرعاً یہ لوگ گنہگار ہیں یا نہیں؟ اور زید کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں؟

سائل میا نجی، عبدالرحمن۔

الجواب حامداً ومصلياً:

بلا دلیل کسی پر بہتان لگانا کبیرہ گناہ ہے، جو لوگ بلا شہادت شرعیہ زید پر الزام لگاتے ہیں وہ سخت گنہگار ہیں (۲)، اور جب تک شرعی شہادت سے ثابت نہ ہو اس سے زید کی امامت میں نقصان نہ آئیگا، بلکہ نماز پنجگانہ

(۱) ”ویکرہ إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى“۔ (الدر المختار). وفي رد المحتار: ”(قوله: وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزانی و آكل الربا ونحو ذلك“۔ (كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۰، ۵۵۹، سعید)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، مكتبة شركة علميه ملتان)

(۲) قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهِمَا مَن يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ﴾ (سور الممتحنة: ۱۲)

”قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وقيل: إنه قد دخل فيه قذف أهل الإحصان، والكذب على الناس، وقذفهم بالباطل، وماليس فيهم، وسائر ضرور الكذب، وظاهره الآية يقتضى جميع ذلك“۔ (أحكام القرآن للجصاص: ۳/۶۵۹، قديمي)

”وأخرج أحمد: ”خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبُهِت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق“۔ (الزواجر عن اقتراف الكبائر، كتاب

النكاح، الكبيرة الرابعة والخمسون بعد المائتين: ۲/۴۱، دار الفكر، بيروت)

(و كذا في فتاوى دارالعلوم ديوبند، باب الإمامة: ۳/۱۷۹، امداديه)

وجمعہ وعیدین سب کچھ زید کے پیچھے حسب سابق درست ہے (۱)، البتہ زید کو بھی چاہئے کہ اپنا طرز عمل بلاوجہ ایسا نہ رکھے جس سے تہمت کا موقع ہاتھ آئے (۲)۔ خالدہ کا انتظام اگر ممکن ہو کر اداے اور ایسی مجبوری کی حالت میں لڑکی کی امداد ضروری ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۱/۲/۵۷ھ۔

الجواب صحیح: عبداللطیف، ۲۳/صفر/۵۷ھ۔

نکاح محرمہ سے پیدا شدہ لڑکے کی امامت

سوال [۲۷۱۰]: محارم کا آپس میں نکاح ہو جائے، اس کے بعد ان کا ایک لڑکا پیدا ہو جائے تو اگر وہ لڑکا بالغ عالم ہونے کے بعد امامت کرے تو اس کے پیچھے دوسروں کی نماز بلا کراہت جائز ہے یا نہیں؟ ہر سوال کے جواب کوادلہ سے زیور پہنا کر تحریر فرمادیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اس میں امامت کی اہلیت ہے تو اس کے پیچھے بلا کراہت نماز درست ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۲۷/۲/۶۲ھ، صحیح: عبداللطیف، ۲۷/۲/۱۳۶۲ھ۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (سورة الحجرات: ۱۲)
 (۲) "اتقوا مواضع التهم" ذكره في الإحياء. وقال العراقي في تخريج أحاديثه: لم أجد له أصلاً، لكنه بمعنى قول عمر: "من سلك مسالك الظن اتهم". ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق مرفوعاً بلفظ: "من أقام نفسه مقام التهم، فلا يلوم من أساء الظن به". وروى الخطيب في المتفق والمفترق عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب ثمانين عشرة كلمة..... "ومن عرض نفسه للتهمة، فلا يلوم من أساء الظن به". (كشف الخفاء: ۱/۴۴، مؤسسة الرسالة بيروت)

(۳) "ويكره إمامة عبدو أعرابي وفاسق وأعمى ومبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها فلا يصح الاقتداء به أصلاً، وولد الزنا، هذا إن وجد غيرهم، وإلا فلا كراهة".

"قوله: إن وجد غيرهم: أي من هو أحق بالإمامة منهم". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب =

امامتِ عمنین

سوال [۲۷۱۱]: کسی وجہ سے کوئی شخص اگر نامرد ہو جائے تو اس کی اقتداء جائز ہے یا نہیں؟

۲..... شروع پیدائش ہی سے کوئی شخص اگر نامرد ہو تو اس کی اقتداء جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... اور کوئی مانع نہ ہو تو جائز ہے (۱)۔

۲..... جائز ہے بشرطیکہ خنثی نہ ہو (۲) اور خنثی کی امامت عورت کیلئے جائز ہے، مرد کے لئے ناجائز

ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، ۱۶/۳/۱۳۵۵ھ۔

= الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعید)

”وولد الزنا إن كان أفضل القوم، فلا كراهة إذا لم يكونا محتقرين بين الناس لعدم العلة

للكراهة“۔ (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشیدیہ)

(و كذا في مجمع الأنهر، شرح ملتقى الأبحر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸،

دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(و كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۲۴۳، دار المعرفة بيروت)

(۱) ”عمنین ہونے سے امامت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ کوئی ظاہری اور نمایاں عیب نہیں ہے جو باعث کراہت ہو“۔ (فتاویٰ دار

العلوم دیوبند: ۳/۱۵۶، مکتبہ امدادیہ، ملتان)

(و كذا في كفاية المفتي: ۳/۱۰۱، دار الاشاعت)

(۲) ”لا يصح اقتداء رجل بامرأة وخنثى“۔ (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلوة، باب

الإمامة: ۱/۵۷۶، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۲۸، رشیدیہ)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۱۱، دار إحياء التراث

العربي بيروت)

(۳) ”والخنثى البالغ تصح إمامته للأنثى مطلقاً فقط، لا للرجل ولا لمثله“۔ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، =

غیر مختون کی امامت

سوال [۲۷۱۲]: بغیر ختنہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ختنہ سنت ہے، جو شخص بلا عذر اس کو چھوڑ دے وہ تارک سنت ہے (۱)، اگر باوجود قدرت و وسعت کے بدن کو غسل و استنجاء میں پاک نہیں رکھتا ہے تب اس کو امام ہرگز نہ بنایا جائے، اگر پاک رکھتا ہے تو اس کی امامت درست ہے، نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی (۲)، اگرچہ اس تارک سنت کے مقابلہ میں عامل سنت کی امامت مقدم ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

= باب الإمامة: ۱/۵۷۷، سعید

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۱۱، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة: ۱/۲۵۱، امداديه ملتان)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۲۸، رشيديه)

(۱) "عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين: الحياء" ويروى: "الختان والتعطر، والسواك، والنكاح". رواه الترمذی. (مشكوة المصابيح، كتاب الطهارات، باب السواك: ۱/۴۴، قديمي)

"والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر، وهو من شعائر الإسلام وخصائمه، فلو اجتمع أهل بلدة

على تركه، حاربهم الإمام، فلا يترك إلا لعذر". (الدر المختار، كتاب الختنی، مسائل شتی: ۲/۷۵۱، سعید)

(۲) (راجع كفاية المفتي: ۳/۸۴، دار الإشاعت كراچی)

(و فتاویٰ دار العلوم دیوبند: ۳/۱۹۶، مکتبه امداديه، ملتان)

(۳) "والأحق بالإمامة الأعم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم

الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب

الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید)

لا ولد کی امامت

سوال [۲۷۱۳]: ایک مولانا مدرسہ کے مدرس اعلیٰ ہیں مگر وہ لا ولد ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس کی اولاد پیدا نہ ہوئی وہ شرعی مجرم اور گنہگار نہیں، اس کی وجہ سے اس کی امامت میں نقصان نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔
الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

برہمن بچہ کو پال کر امام بنانا

سوال [۲۷۱۴]: زید مسلمان ہے اور اس نے بے اولاد ہونے کے سبب ایک ہندو برہمن بچے کو پال پوس کر ایک خاندان کی لڑکی سے شادی کی، اس برہمن کی طرف سے دو اولاد ہوئی وہ بھی تعلیم یافتہ رہی تقریباً ۲۲ سال کی ہوئی، وہ مسجد کے امام ہونے اور نماز پڑھانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ایسے شخص کا امام ہونا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس برہمن بچے کو پرورش کیا، اگر وہ مسلمان ہو گیا تھا پھر مسلمان لڑکی سے اس کی شادی کی، تب تو کوئی اشکال ہی نہیں (۲)، اس سے پیدا شدہ اولاد میں جب اوصافِ امامت موجود ہوں تو ان کی امامت

= (و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۶۹، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۷، دار إحياء التراث العربي بيروت)
(۱) قال الله تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثَاءً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَورَ، أَوْ يَزْوِجَهُمْ ذُرِّيًّا وَإِنثَاءً، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا﴾ (سورة الشورى: ۵۰)

(۲) قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، وَلِعَبْدٌ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (سورة البقرة: ۲۲۱) =

درست ہے (۱)۔ اگر وہ برہمن بچہ۔ خدا نخواستہ۔ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس حالت میں اس کی شادی مسلمان لڑکی سے کر دی گئی تو یہ شادی سخت معصیت ہوئی، یہ شرعی نکاح نہیں بلکہ زنا ہے (۲)، اس سے پیدا شدہ اولاد نے اگر اسلام قبول کر لیا ہے اور لوگوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے نفرت ہے تو ان کو امامت نہیں کرنا چاہیے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۶/۱۳۸۷ھ۔

= ”أى لاتزوّجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، كما قال تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ﴾. (تفسیر ابن کثیر: ۱/۳۲۸، دار الفکر بیروت)

”وینعقد بإيجاب وقبول وضعا للمضى كزوجة وتزوجة، وبما وضع أحدهما له والآخر للاستقبال، كزوجني“. (تنوير الأبصار مع الدرالمختار، كتاب النكاح: ۳/۹، ۱۰، سعید)
(و كذا في الهداية، كتاب النكاح: ۲/۳۰۵، مكتبه شركة علمیه)

(۱) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن. اهـ“. (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، فصل في بيان من يصلح للإمامة: ۱/۶۶۹، دار الكتب العلمية بيروت)
(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۷، دار إحياء التراث العربي بيروت)
(۲) قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (سورة البقرة: ۲۲۱)

”ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة، فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر“. (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة: ۳/۳۶۵، دار الكتب العلمية بيروت)

”و لا يجوز تزوج المسلمة من مشرك و لا كتابی، كذا في السراج الوهاج“. (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، القسم السابع المحرمات بالشرك: ۱/۲۸۲، رشیدیہ)

(۳) ”ویکفره إمامة عبد وأعرابی وفاسق وأعمى و مبتدع لا یکفر بها، وإن کفر بها فلا یصح الاقتداء به أصلاً، وولد الزنا، هذا إن وجد غیرهم، و إلا فلا کراهة (الدرالمختار).“

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”أو لئفرة الناس عنه“. (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشیدیہ)

غیر سید کے پیچھے سید کی نماز

سوال [۲۷۱۵]: اگر کوئی سید گھرانے کا عالم مگر قاری نہیں ہے، قرآن کچھ حسن صوت سے اٹک اٹک کر پڑھے اور قاری کسی نیچے خاندان کا ہے تو سید کا اس قاری کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟
الجواب حامدًا ومصلياً:

اقتداء درست ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے کہ سید کی نماز غیر سید کے پیچھے اس کی اہلیت کے باوجود درست نہ ہو (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حرره العبد محمود غفرلہ۔

کیا چار قوموں کے علاوہ کے پیچھے نماز درست نہیں؟

سوال [۲۷۱۶]: مولانا اشرف علی تھانویؒ نے جو کسی وقت فتویٰ دیا تھا کہ چار قوموں کے علاوہ کسی اور قوم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ فتویٰ ایک شخص کے پاس ہے۔ کیا واقعی نماز نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو تفصیل سے بیان فرمائیں، اور وہی شخص کہتا ہے کہ امامت کے بجائے بھنگی کا پیشہ کرے تو امامت سے اچھا ہے۔ کیا یہ فاسق ہے، تو کس درجہ کا ہوگا؟ تفصیل سے بیان کریں۔ نیز وہی شخص نماز ہوتے وقت آگے یا پیچھے نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے، جماعت کا کوئی احترام نہیں کرتا، تو وہ کس درجہ کا فاسق ہوگا؟
الجواب حامدًا ومصلياً:

جس شخص میں امامت کی صفات موجود ہوں اس کی امامت درست ہے، خواہ وہ کسی قوم سے ہو (۲)۔

(۱) ”من هو أحق بالإمامة..... أعلمهم بالسنة، وأفضلهم ورعاً، وأقرئهم لكتاب الله تعالى“.....
فأعلمهم بالسنة أولى، إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة..... عن النبي صلى الله عليه
وسلم: إنه قال: ”ليؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء، فأعلمهم بالسنة“، (إلى آخر الحديث)
والأصح أن الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة، فهو أولى“: (بدائع الصنائع،
كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/ ۲۶۹، دار الكتب العلمية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۶۰۷، رشيدية)


(و كذا في العناية على هامش فتح القدير، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۳۳۶، مصطفى البابي الحلبي)

(۲) ”عن أبي مسعود البدرى رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”يؤم القوم =

حضرت تھانویؒ کا کوئی فتویٰ ایسا نہیں ہے کہ چار قوموں کے علاوہ کسی اور کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ امامت کی صفات ہوتے ہوئے محض قومیت کی وجہ سے جماعت کو ترک کرنا بہت بڑی محرومی ہے، جو آدمی ہمیشہ ایسا کرتا ہو اس کی شہادت قبول نہیں ہے گنہگار ہے، اس کو توبہ لازم ہے، جماعت ترک نہ کرے (۱)، بعض احادیث میں ترک جماعت کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۵/۲/۹۱ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۵/۲/۹۱ھ۔



= أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فليؤمهم أكبرهم سناً، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكمرته إلا بإذنه“ (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة: ۹۳/۱، إمداديه ملتان)

”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً، ثم الأحسن قراءة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً الخ“ (الدر المختار، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو الأحق بالإمامة: ۶۶۹/۱، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو الأحق بالإمامة: ۶۵۹/۱، دارالكتب العلمية، بيروت) (۱) ”الجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، وعليه العامة. فتسن أو تجب، تظهر ثمرته في الإثم بتركها مرة على الرجال العقلاء البالغين الأحرار الخ“

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ولذا قال في الأجناس: لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافاً ومجانةً..... (قوله: بتركها مرة) بلا عذر وهذا عند العراقيين، وعند الخراسانيين إنما يأتى إذا اعتاده، كما في القنية“ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۵۲، ۵۵۳، سعيد)

(وكذا في النهر الفائق، باب الإمامة: ۳۲۸/۱، إمداديه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة: ۶۰۲، ۶۰۳، رشيديه)

(۲) ”عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشى بين رجلين حتى يأتى الصلوة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلوة في المسجد الذي يؤذن فيه اه“، رواه مسلم“ (مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب الجماعة وفضلها، الفصل الأول: ۹۶/۱، قديمي)

الفصل الخامس في إمامة المعذور

(معذور کی امامت کا بیان)

معذور کی تعریف اور اس کی امامت

سوال [۲۷۱۷]: ۱..... إذا أمّ حافظ معذور (مَن به انفلات الريح أو مثله) يقوم غير حافظين في التراويح عند إمامٍ من الأئمة هل تصح صلواتهم؟ وقال بعض الناس: تصح إن نوينا مسلك زفر أو مالك. هل هذا القول صحيح؟

۲..... هل الفرق في جواز إمامة المعذور أو في عدمه بين الفرائض والنوافل؟

۳..... ما حدّ العذر في الشريعة؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... من كان به عذرٌ شرعيٌّ لا تبقى معه طهارته، لا تجوز خلفه صلوةٌ من ليس كذلك سواء كانت فرضاً أو غيره (۱). والمعذور من مضى عليه وقت صلوة واحدة لا يقدر فيه على أن يصلى مع الطهارة، هذا حدّ المعذور. ثم لا بدّ في كل وقت صلوة تحقق العذر مرةً أو مرتين، حتى إذا خلا وقت صلوة واحدة من العذر لم يبق معذوراً. قال في شرح المنية، ص: ۱۳۳:

”هو من لا يمضي عليه وقت صلوة كامل إلا والحدث الذي ابتلى به يُوجد منه فيه، وهذا الذي ذكره تعريف صاحب العذر في البقاء يعني بعد تقرر كونه صاحب عذر، فما دام لا يمضي

(۱) ”ولا يصح اقتداء طاهر بمعذور إن قارن الوضوء الحدث أو طراً عليه بعده، وصح لو توضع على

الانقطاع وصلى كذلك“ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۷۸/۱، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۶۳۰/۱، رشيدية)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۲۵۱/۱، امداديه، ملتان)

عليه وقت صلوة إلا وعذره يوجد فيه، فهو باق على كونه صاحب عذر، لكن تقرر ه ابتداء إنما يكون بما إذا مضى عليه وقت صلوة، ولم يمكن أن يتوضأ ويصلى خالياً من ذلك الحدث فيه، فيشترط في الثبوت استيعاب الوقت بالحدث على هذه الصفة، كما يشترط في الزوال استيعاب الوقت بالطهارة منه بأن يمضى الوقت ولا يُوجد ذلك الحدث فيه، وفيما بين ذلك يكفي للبقاء وجود الحدث في كل وقت مرة الخ“ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند۔

امامتِ معذور

سوال [۲۷۱۸]: معذور کی امامت کا کیا حکم ہے؟ بہشتی گوہر میں تحریر ہے کہ ”رح، سلس البول وغیرہ جس میں ہوں اس کی اقتداء جائز نہیں، جب کہ مقتدیوں میں طاہر ہو اور اگر کوئی طاہر نہ ہو تو اس کی اقتداء جائز ہے“ (۲)۔ نیز جس شخص کو ایسا مرض ہے کہ جس وقت ان کو محسوس ہوتا ہے تو وہ اعلان کرتے ہیں اور نماز کا اعادہ ہو جاتا ہے اور اگر کسی وقت ان کو محسوس نہ ہو اور حدث ہو جاوے تو کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

معذور کا اقتداء طاہر کو کسی طرح جائز نہیں، ہاں! طاہر کا اقتداء معذور کو جائز ہے (۳)، اور ایک معذور کا اقتداء دوسرے معذور کو جائز ہے، بشرطیکہ دونوں ایک ہی عذر میں مبتلا ہوں، اگر دونوں کا عذر علیحدہ علیحدہ ہے تو

(۱) (الحلبی الكبير، فصل فی نواقض الوضوء، ص: ۱۳۵، سہیل اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الطہارة، باب الحيض: ۱/۳۰۵، سعید)

(۲) (بہشتی گوہر، حصہ گیارہواں، جماعت صحیح ہونے کی شرطیں، ص: ۹۰۳، ۹۰۵، دارالاشاعت، کراچی)

(۳) ”ولا طاهر بمعذور: أي وفسد اقتداء طاهر لصاحب العذر المفوت للطهارة؛ لأن الصحيح أقوى حالاً من المعذور، والشئ لا يتضمن ما فوقه. آه“۔ (البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۳۰، رشیدیہ)

(و کذا فی تنویر الأبصار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۷۸، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلوة، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الثالث فی بیان من يصلح إماماً لغيره: ۱/۸۴، رشیدیہ)

جائز نہیں (۱)۔ بہشتی گوہر کی عبارت یہ ہے:

”طاہر کی اقتداء معذور کے پیچھے مثل اس شخص کے جس کو سلسل بول وغیرہ کی شکایت ہو درست

نہیں اھ“ (۲)۔ ”جب کہ مقتدیوں میں طاہر ہو“۔ بہشتی گوہر میں نہیں۔

اگر امام شرعی طور پر معذور نہیں ہے بلکہ اتفایہ طور پر کبھی ہو جایا کرتا ہے ان کی امامت درست ہے اور

جب اس کو وضو ٹوٹنے کا علم اور احساس نہیں ہو تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ اگر کسی مقتدی کو اس کا علم ہو جائے تو اس کو

چاہئے کہ اپنے امام کو اطلاع کر دے اور نماز لوٹائے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۶/۳/۱۳۵۵ھ۔

جواب صحیح ہے: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۸/۳/۱۳۵۵ھ۔

معذور کی نماز اور امامت

سوال [۲۷۱۹]: (الف) میں ایک مرض میں عرصہ دراز سے مبتلا ہوں اور وہ ہے کثرتِ ریح کا

(۱) ”ویجوز اقتداء المعذور بالمعذور إن اتحد عذرهما، وإن اختلف فلا يجوز، كذا في التبيين“.

(الفتاویٰ العالمکیریة، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الثالث فی بیان من یصلح إماماً

لغیرہ: ۱/۸۴، رشیدیہ)

(و كذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۷۸، سعید)

(و كذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۱۱، دار

إحياء التراث العربی، بیروت)

(۲) (بہشتی گوہر حصہ یازدہم بعنوان ”جماعت کے صحیح ہونے کی شرطیں“، ص: ۷۷، طبع جدید مدلل، دارالاشاعت، کراچی)

(۳) ”وأذا ظهر حدث إمامه وكذا كل مفسد في رأي مقتد بطلت، فيلزم إعادتها لتضمنها صلوة المؤتمر

صحةً وفساداً، كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب أو فاقد شرط أو ركن بالقدر

الممكن بلسانه أو بكتاب أو رسول على الأصح“.(الدر المختار، كتاب الصلوة، باب

الإمامة: ۱/۵۹۱، ۵۹۲، سعید)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۶۶، دار الكتب العلمية، بیروت)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۳۰، رشیدیہ)

خروج، ہر دو تین منٹ پر خروج ریح ہوتا رہتا ہے، تو کیا میں فجر کے وضو سے نماز اشراق اور تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہوں، یعنی ہوا کو روک کر رکھوں اور با وضو ہوں؟

(ب) جس گاؤں میں رہتا ہوں اس میں معمولی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکثر قراءت نماز میں غلط پڑھتے ہیں، اعضائے وضو خشک رہ جاتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے پیچھے میری نماز درست ہوگی یا نہیں؟ اگر نہیں تو پنج گانہ نماز کی امامت کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یعنی جب تک امامت کروں، ہوا کو زبردستی روکے رکھوں۔ اگر نہیں کر سکتا تو گھر میں نماز ادا کروں؟ نیز اس حالت میں نماز تراویح کی امامت صحیح ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

(الف) جو شخص شرعاً معذور ہے اس کو ہر وقت کے نماز کیلئے وضو ضروری ہے، پھر وقت ختم ہونے سے اس کا وضو باقی نہیں رہے گا فجر کا وضو سورج نکلنے سے ختم ہو جائے گا، اشراق کیلئے علیحدہ وضو کی ضرورت ہوگی، پھر اس وضو سے نوافل اور تلاوت کی اجازت ہوگی، حتیٰ کہ ظہر کیلئے بھی جدید وضو کی ضرورت نہیں ہوگی الا یہ کہ اس عذر کے علاوہ کوئی اور حدث پیش آجائے (۱)۔

(ب) اگر امام کی طہارت کامل نہ ہو اعضائے وضو خشک رہ جائیں یا نماز میں قراءت کی غلطی سے فساد آجائے، اور امام اصلاح نہ کرے تو ایسے امام کے پیچھے نماز درست نہیں (۲) اور صاحب عذر بھی امامت نہیں

(۱) "و حکمہ الوضوء لا غسل ثوبہ ونحوہ لكل فرض - اللام للوقت کما فی: ﴿لذلوک الشمس﴾ - ثم یصلی بہ فیہ فرضاً ونفلاً، فدخل الواجب بالأولی، فإذا خرج الوقت، بطل: أي ظهر حدثه السابق، حتی لو توضأ علی الانقطاع ودام إلى خروجه، لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو یسئل كمسألة مسح خفه..... وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعید الأضحی لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر".

(الدر المختار، کتاب الطہارة، مطلب فی أحكام المعذور: ۱/ ۳۰۵، ۳۰۶، سعید)

(و کذا فی الفتاوی العالمگیریة، کتاب الطہارة، الفصل الرابع فی أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، ومما یصل بذلك أحكام المعذور: ۱/ ۳۱، رشیدیہ)

(و کذا فی الهدایة، کتاب الطہارة، فصل فی الاستحاضة: ۱/ ۶۷، ۶۸، شركة علمية ملتان)

(۲) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن. آه". (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۷، سعید) =

کر سکتا، لہذا تنہا نماز پڑھنے میں وہ شرعاً معذور ہے، پھر ترکِ جماعت کی وعید میں وہ نہیں آئے گا ایسی طرح نماز تراویح بھی درست نہیں ہوئی، ایسی حالت میں تراویح بھی تنہا پڑھی جائے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۱۱/۸۹ھ۔

جریان کے مریض کی امامت

سوال [۲۷۲۰]: جس آدمی کو جریان کا مرض ہو یعنی منی کے خارج ہونے کے بعد کچھ دیر تک مذی

نکلتی رہتی ہے تو اس کی امامت کیسی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اس کو اتنا وقت مل جائے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے اور وضو برقرار رہے تو اس کی امامت درست

ہے، ورنہ درست نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

= (و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۶۶۹/۱، دارالكتب العلمية، بيروت)

(و كذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة:

۱/۱۰۷، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۱) "ولا طاهر بمعذور: أي وفسد اقتداء طاهر بصاحب العذر المفوت للطهارة؛ لأن الصحيح أقوى

حالاً من المعذور، والشئ لا يتضمن ما هو فوقه". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب

الإمامة: ۱/۶۳۰، رشيدية)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۷۸، سعيد)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۶، شركت علميه، ملتان)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنتمؤكدة: ۱/۱۱۱، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۲) "وفسد اقتداء طاهر بصاحب العذر المفوت للطهارة؛ لأن الصحيح أقوى حالاً من المعذور.....

إذا توضحاً على الانقطاع و صلى كذلك، فإنه يصح الاقتداء به؛ لأنه في حكم الطاهر". (البحر الرائق،

كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۳۰، رشيدية)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۲۵۱، إمداديه)

جریان والے کی امامت

سوال [۲۷۲۱]: ایک شخص جس کو جریان کا عارضہ ہو، پیشاب کے بعد مسلسل قطرات آتے رہتے ہوں، بغیر پیشاب کے بھی قطرات پانچامہ میں نکل جاتے ہیں تو کیا وہ جماعت کرا سکتا ہے، یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

اگر وہ شرعی معذور ہے تو اس کی امامت درست نہیں، ورنہ درست ہے (۱) بشرطیکہ کپڑے بھی پاک ہوں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/ رجب/ ۱۳۶۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۱۳/ رجب/ ۱۳۶۸ھ۔

صاحب جریان کی نماز و امامت

سوال [۲۷۲۲]: احقر مدت سے مرض جریان میں مبتلا ہے اکثر اوقات بدون دفتق و شہوت کے ندی کی قسم کی کوئی چیز نکل کر، کبھی مخرج کے منہ پر رہتی ہے اور کبھی مخرج سے تعدی کر کے کچھ پھیل جاتا ہے، مگر چمڑے سے الگ ہو کر ساقط نہیں ہوتی، کبھی کپڑے پر بھی لگ جاتی ہے اور اکثر اوقات نماز میں بھی مذکورہ حالت ہو جاتی ہے بعض وقت دو تین دفعہ نماز دھرانے تک یہی حالت رہتی ہے اور بعض وقت نہیں رہتی۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز دھراؤں یا نہیں؟

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی مجبوراً امام بنا پڑتا ہے کہ جماعت میں عوام ہوتے ہیں جن کی قرأت صحیح نہیں

(۱) "ولا طاهر بمعذور"۔ (تنویر الأبصار مع الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة:

۵۷۸/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/ ۶۳۰، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الثالث فی بیان من

یصلح إماماً لغيره: ۱/ ۸۳، رشیدیہ)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلوٰۃ، فصل: الجماعة سنة مؤکدة: ۱/ ۱۱۱، دار إحياء التراث

العربی بیروت)

ہے اور بعض کی قرأت صحیح ہے، مگر مسائل سے اچھی طرح واقف نہیں اور بعض کے طہارت وغیرہ کے مسائل پر عمل نہیں ہے، چال چلن لباس وغیرہ شریعت کے موافق نہیں ہے، اور اگر کبھی جاننے والا آدمی موجود بھی ہے تو وہ امام نہیں ہوتا تو حالت مذکورہ میں احقر کو امام بنا درست ہوگا یا نہیں، بر تقدیر ثانی کیا کروں؟

المستفتی: عزیز الرحمن عفی عنہ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اس چیز کے ناقض وضو ہونے میں شک نہیں (۱) لیکن اس کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شرعاً آپ کو معذور کہا جاسکے تو اس وقت آپ کیلئے حکم یہ ہوگا کہ ہر نماز کیلئے تازہ وضو کرنا آپ کو ضروری ہوگا اور اس وضو سے فرض، نفل سب پڑھ سکتے ہیں، پھر جب نماز کا وقت خارج ہوگا تو یہ خروج وقت آپ کے حق میں ناقض وضو ہوگا، عذر ناقض نہ ہوگا (۲)۔ شرعاً معذور وہ شخص ہے کہ جس پر نماز کا ایک مکمل وقت اسی حالت میں گذر جائے کہ اس میں وہ عذر برابر ملحق رہے اور اتنی دیر کیلئے بھی بند نہ ہو کہ جس میں وہ وضو کر کے اس وقت کی فرض نماز ادا کر سکے، جب ایک نماز کا مکمل وقت اسی حالت میں گذر گیا تو یہ شخص شرعاً معذور ہوگا، اس کے بعد ہر نماز کے مکمل وقت میں اس عذر کا متحقق ہونا ضروری نہیں بلکہ مکمل وقت میں کم از کم ایک مرتبہ اس عذر کا پایا جانا کافی ہے، پھر اگر کسی نماز کا

(۱) ”منہا ما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح الخارجة من الدبر والودي والمذي والمنى والدودة والحصاة“۔ (الفتاوى العالمكيريہ، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في نواقض الوضوء: ۹/۱، رشیدیہ)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الطهارة: ۱/۶۵، سعید)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، فصل في الغسل: ۱/۳۳، مكتبة شركة علمية، ملتان)

(۲) ”و حكمه الوضوء لكل فرض - اللام للوقت كما في ﴿لذلوک الشمس﴾ - ثم يصلى به فيه فرضاً ونفلاً، فدخل الواجب بالأول، فإذا خرج الوقت بطل: أي ظهر حدثه السابق“۔ (الدر المختار، كتاب الطهارة، مطلب في أحكام المعذور: ۱/۳۰۵، ۳۰۶، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيريہ، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، ومما يتصل بذلك أحكام المعذور: ۱/۴۱، رشیدیہ)

(و كذا في الهداية، كتاب الطهارة، فصل في المستحاضة: ۱/۶۷، ۶۸، مكتبة شركة علمية، ملتان)

مکمل وقت اسی حالت میں گذر گیا کہ ایک مرتبہ بھی عذر نہ پایا گیا تو یہ شخص شرعاً معذور نہیں رہے گا (۱) اب آپ اپنی حالت کو خود ملاحظہ کر لیں آپ شرعاً معذور ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو یہ خروجِ ندی آپ کے حق میں ناقض نہیں، لہذا اس کی وجہ سے نماز کا اعادہ بھی درست نہیں (۲)، اگر آپ معذور نہیں تو یہ خروجِ ندی ناقض وضو ہے، اگر نماز میں خروج ہو جائے تو وضو اور نماز ہر دو کا اعادہ لازم ہے۔

معذور کی امامت درست نہیں جب آپ معذور ہوں تو آپ ہرگز امام نہ بنیں، جو امام احسن حالاً ہو، اس کا اقتداء کر لیں اور جب معذور نہ ہو تو پھر امام بننے میں کچھ مضائقہ نہیں، لیکن اگر اسی حالت میں خروجِ ندی ہو گیا تو نماز کا اعادہ لازم ہوگا (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۶/۹/۱۳۶۲ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۷/رمضان/۱۳۶۲ھ۔

(۱) "شرط ثبوت العذر ابتداءً أن يستوعب استمراره وقت الصلوة كاملاً، وهو الأظهر كالانقطاع لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله حتى لو سال دمها في بعض وقت صلاة فتوضأت وصلت، ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه، أعادت تلك الصلوة لعدم الاستيعاب، وإن لم ينقطع في وقت الصلوة الثانية حتى خرج، لا تعيد لوجود استيعاب الوقت. وشرط بقائه أن لا يمضي عليه وقت فرض إلا والحدث الذي ابتلى به يوجد فيه، كذا في التبيين". (الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، ومما يتصل بذلك أحكام المعذور: ۱/۴۰، ۴۱، رشيدية)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الطهارة، مطلب، في أحكام المعذور: ۱/۳۰۵، سعيد)

(و كذا في تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الحيض: ۱/۱۸۳، ۱۸۴، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۲) "ولا ظاهر بمعذور: أي وفسد اقتداء ظاهر صاحب العذر المفوت للطهارة؛ لأن الصحيح أقوى حالاً من المعذور، والشئ لا يتضمن ما هو فوقه آه". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۳۰، رشيدية)

(و كذا في تنوير الأبصار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۷۸، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من

يصلح إماماً لغيره: ۱/۸۳، رشيدية.)

(۳) (راجع، ص ۲۸۹، رقم الحاشية: ۱)

نابینا کی امامت

سوال [۲۷۲۳]: نابینا اور کاننا شخص جو اپنے بدن اور کپڑے کو محفوظ رکھتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، حدیث و قرآن کا حوالہ دیکر تحریر کیجئے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

درست ہے بشرطیکہ عالم محتاط ہو، اور بھی کوئی بات اس میں منصب امامت کے خلاف نہ ہو (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۸/۲/۱۳۵۸ھ۔

ایضاً

سوال [۲۷۲۴]: ایک حافظ جو کہ قاری بھی ہیں، ایک مسجد میں بحیثیت امام مسجد تقرر کیا گیا، یہ صاحب مسائل نماز اور دیگر امور دینی سے واقف ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دینی تعلیم دیتے ہیں۔ حافظ موصوف نابینا شادی شدہ ہیں اور ان کے والد اور چھوٹے بہن بھائی ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو اپنی طہارت و پاکی کا بہت خیال ہے، نیز خطبات جمعہ کافی تعداد میں ان کو یاد ہیں جس کی تصدیق امتحان لے کر دو مستند علماء نے کی ہے، اس کے برعکس اور دو تین اصحاب مسجد کی امامت کیلئے کوشاں ہیں اور وہ مسائل نماز اور مسائل دین سے ناواقف ہیں اور زبان عربی سے تو بالکل بے بہرہ ہیں، قرآن بھی اچھا نہیں پڑھتے، یہ ہر سہ اصحاب کہتے ہیں کہ ہر نابینا کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ ادھر حافظ صاحب نابینا اپنی امامت کے جواز میں اس واقعہ

(۱) ”و کرہ إمامة العبد والأعرابي والفاسق والأعمى؛ لأنه لا يتوقى النجاسة، ولا يهتدى إلى القبلة بنفسه، ولا يقدر على استيعاب الوضوء غالباً. وفي البدائع: إذا كان لا يوازيه غيره في الفضيلة في مسجده فهو أولى.“ (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۳۵، ۳۳۶، دارالكتب العلمية بيروت)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشيدية)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث

العربی، بيروت)

سے استناد کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو جو نابینا تھے امام مقرر فرمایا تھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب طہارت نابینا کے پیچھے نماز مکروہ نہیں۔ براہ کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح فرمایا جائے کہ موجود صورت میں ان نابینا صاحب کی امامت درست ہے یا نہیں؟ اور ان کو اپنے تمام اوصاف کے لحاظ سے ان اشخاص پر فوقیت حاصل ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

”كره إمامة العبد والأعرابي والمبتدع والأعمى؛ لأنه لا يتوقى النجاسة ولا يهتدى إلى القبلة بنفسه ولا يقدر على استيعاب الوضوء غالباً. وفي البدائع: إذا كان لا يوازيه غيره في الفضيلة في مسجده فهو أولى، وكذا في المحيط. وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك على المدينة وكانا أعميين، اهـ.“ زيلعي، ص: ۱۲۴ (۱)۔

عبارت بالا سے معلوم ہوا کہ نابینا کی امامت اس وقت مکروہ ہے کہ وہ نجاست سے نہ بچ سکتا ہو، استقبال قبلہ پر بنفسہ قادر نہ ہو، وضو وغیرہ طہارت کے استیعاب سے قاصر ہو اور جب یہ امور اس میں نہ ہوں تو اس کی امامت مکروہ نہیں، نیز جب کہ دیگر نمازیان مسجد سے اپنے اوصاف معتبرہ میں افضل ہو تو اس کی امامت دوسروں سے اولیٰ و افضل ہوگی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا حکم فرمایا حالانکہ یہ دونوں صحابی نابینا تھے، کیونکہ اس وقت اس جگہ ان سے افضل کوئی شخص موجود نہ تھا: ”لأنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهما.“ اهـ۔
رد المحتار: ۱/۵۸۵ (۲)۔

(۱) (تبیین الحقائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۳۳۵، ۳۳۶، دارالکتب العلمیة، بیروت)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشیدیہ)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۱۰۸، دار احیاء التراث العربی بیروت)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی بیان من يصلح للإمامة: ۱/۶۶۸، دارالکتب العلمیة بیروت)

(۲) (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۶۰، سعید)

پس صورتِ مسئلہ میں حسبِ بیانِ مسائلِ حافظ کی امامت افضل ہوگی ان دو تین آدمیوں کی امامت سے، اگر کوئی شخص ان نابینا سے افضل ہو تو اس کی امامت افضل ہوگی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۹/۵/۱۳۵۹ھ۔

معذور نابینا کی امامت

سوال [۲۷۲۵]: زید جس کو خروجِ ریح کا مرض ہے جس کا وضو نہیں ٹھہرتا، ایک مسجد میں امامت کر رہا ہے اور قرآن کا حافظ ہے، البتہ آنکھوں سے نابینا ہے، امامت کے علاوہ اور کوئی ذریعہ معاش نہیں اس نے اس مرض کا علاج بھی کرایا مگر افاقہ نہیں ہوا، اس کی امامت کے بارے میں کیا حکم ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

اگر یہ شخص معذور ہے تو اس کی امامت ناجائز ہے، اگر معذور نہیں تو امامت جائز ہے بشرطیکہ پاکی کا اہتمام کرتا ہو اور نجاست سے بچتا ہو اور اس سے بہتر امامت کے لائق کوئی آدمی موجود نہ ہو اور نہ اس کی امامت مکروہ ہے:

”وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى؛ لأنه لا يتوقى النجاسة، ولا يهتدى إلى القبلة بنفسه، ولا يقدر على استيعاب الوضوء غالبًا. وفي البدائع: إذا كان لا يوازيه غيره في الفضيلة في مسجده، فهو أولى“۔ زيلعي: ۱/۱۳۴ (۲)۔

= (و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشيدية)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۲۲۳، مكتبة امداديه، ملتان)

(۱) ”ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى. اهـ“. وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”فإن أمكن

الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلا فلاقتداء أولى من الانفراد“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب

الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)

(۲) (تبين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۳۵، ۳۳۶، دار الكتب العلمية، بيروت)

(و كذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشيدية)

(و كذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، فصل الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربي)

اگر وہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کی امداد دوسری طرح کی جائے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۷/۱۱/۱۳۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

نابینا امام کے کچھ اوصاف

سوال [۲۷۲۶]: اس شخص کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ اول: تو نابینا ہے۔ دوسرے: ڈرے کے حرف بتلاتا ہے، اب تو یہ ڈر شاہ آباد سے جاتا ہی رہا پہلے سنا بتلاتا تھا۔ تیسرے: مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر حجرہ ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چوتھے: اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک غیر محرم عورت، غیر وقت رات کے گیارہ بجے تک آتی ہے اور گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ عورت چال چلن کی خراب ہے، کچھ لوگ امام صاحب سے بدظن ہو گئے اور اپنی جماعت اسی مسجد میں علیحدہ پڑھتے ہیں، اور جماعتِ ثانیہ کیلئے تکبیر جائز ہے یا نہیں؟ اور امام صاحب بے وضو اذان کہہ دیتے ہیں، حقہ کثرت سے پیتے ہیں۔

اکرام احمد و فخر الدین از شاہ آباد ضلع کرنال۔

الجواب حامداً ومصلياً:

سوال میں امام مذکور کے متعلق چند امور قابل اعتراض ذکر کئے گئے ہیں:

اول: نابینا ہونا۔ دوم: ڈرے کے حرف بتلانا۔ سوم: جماعت کی پابندی نہ کرنا۔ چہارم: غیر عورت سے باتیں کرنا۔ پنجم: بلا وضو اذان کہنا۔ ششم: حقہ پینا۔

امراول کے متعلق یہ ہے کہ اگر نابینا پاکی اور طہارت کا اچھی طرح خیال رکھتا ہو تو اس کی امامت بالکراہت درست ہے، اگر گلی کوچوں میں پھرتا ہو، پاکی اور طہارت کا خیال نہ کرتا ہو تو اس کی امامت مکروہ ہے (۱)۔

(۱) ”وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى؛ لأنه لا يتوقى النجاسة، ولا يهتدى إلى القبلة بنفسه، ولا يقدر على استيعاب الوضوء غالباً. وفي البدائع: إذا كان لا يوازيه غيره في الفضيلة في مسجده فهو أولى“ (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۲۵، ۳۲۶، بيروت)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشيدية)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربي بيروت)

امر دوم خود ہی سوال میں لکھ دیا گیا ہے، کہ یہ موجود نہیں۔

امر سوم سے متعلق یہ ہے کہ اگر نایبنا مسجد میں جماعت کے وقت بسہولت جاسکتا ہو تب تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اور اگر اس کو وقت ہو مثلاً کوئی لے جانے والا موجود نہ ہو اور وہ خود نہ آسکتا ہو تو اس سے جماعت ساقط ہے (۱) اور صورت مسئلہ میں جبکہ امام مسجد کے حجروں میں موجود ہو تو اسکو بظاہر کوئی وقت نہیں اس لئے اس سے جماعت ساقط نہیں، جماعت کی پابندی نہ کرنے سے اسی حالت میں گنہگار ہوگا (۲)۔

امر چہارم کے متعلق یہ ہے کہ نامحرم عورت کے ساتھ خلوت کرنا ناجائز ہے، اسلئے امام کو اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اگر کوئی ضرورت درپیش ہو تو اس عورت سے بواسطہ یا کسی اور کی موجودگی میں گفتگو کی جائے (۳)

(۱) "الجماعة سنة مؤكدة للرجال فتنس أو تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة من غير حرج، فلا يجب على مريض ومقعد وزمن ومقطوع يد ورجل من خلاف ومفلوج وشيخ كبير عاجز و أعمى) وإن وجد قائداً". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۲-۵۵۵، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، رشيدية)

(و كذا في تبين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۳۳۲/۱، بيروت)

(۲) "عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سمع المنادي فلم يمنع، من اتباعه عذر". - قالوا: وما العذر؟ قال: "خوف أو مرض -، لم تقبل منه الصلوة التي صلى". رواه أبو داؤد والدارقطني". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الجماعة و فضلها، الفصل الثاني: ۹۶/۱، قديمي)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "والذي نفسي بيده! لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلوة فيؤذن لها، ثم أمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال" وفي رواية: "لا يشهدون الصلوة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين شهد العشاء". رواه البخاري". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب الجماعة و فضلها: ۹۵/۱، قديمي)

(۳) "الخلوة بالأجنبية حرام، إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة، أو كانت عجوزاً شوهاء، أو بحائل". (الدر المختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر واللمس: ۳۶۸/۶، سعيد) =

اور اگر وہ واقعی بدچلن ہے تو اس سے نہایت اجتناب ضروری ہے، کیونکہ موضع تہمت سے بچنا بھی واجب ہے (۱) اور پردہ نابینا سے بھی کرنا چاہیے (۲)۔

امر پنجم کے متعلق یہ ہے کہ اذان بلا وضو بھی ہو جاتی ہے، گو وضو سے کہنا بہتر ہے (۳)۔

= (و کذا فی البحر الرائق، کتاب الکراہیة، فصل فی النظر واللمس: ۳۵۶/۸، رشیدیہ)

”ولا یکلم الأجنبيّة إلا عجزاً عطست أو سلّمت، فی شمتها ویرد السلام علیها، وإلا لا، انتهى،

وبه بان أن لفظة ”لا“ فی نقل القهستانی، ویکلمها بما لا یحتاج إلیه زائدة، فننبه“.

”(قوله: زائدة) یبعده قوله فی القنیة رامزاً: ویجوز الکلام المباح مع امرأة أجنبيّة اهـ. و فی

المجتبی رامزاً: و فی الحدیث دلیل علی أنه لا بأس بأن یتکلم مع النساء بما لا یحتاج إلیه، ولیس هذا من

الخوض فیما لا ینبغی إنما ذلک فی کلام فیہ اثم. آه“۔ فالظاهر أنه قول آخر أو محمول علی العجز

تأمل، و تقدّم فی شروط الصلوة أن صوت المرأة عورة علی الراجح، و مر الکلام فیہ فراجعہ“۔ (الدر

المختار، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی النظر واللمس: ۳۶۹/۶، سعید)

(۱) ”اتقوا مواضع التهم“۔ ذکرہ فی الإحیاء۔ و قال العراقی فی تخریج أحادیثہ: لم أجد له أصلاً، لکنہ

بمعنی قول عمر: ”من سلک مسالک الظن اتهم“، و رواہ الخرائطی فی مکارم الأخلاق مرفوعاً بلفظ:

”من أقام نفسه مقام التهم فلا یلوم من أساء الظن به“۔ و روى الخطیب فی المتفق والمفترق عن سعید

بن المسیب: قال: ”وضع عمر بن الخطاب ثمانی عشرة كلمة.....“ ”ومن عرض نفسه للتهمة، فلا

یلوم من أساء به الظن“۔ (کشف الخفاء: ۴۴/۱، مؤسسة الرسالة بیروت)

(۲) قال الله تعالى: ﴿قل للمؤمنات یغضضن من أبصارهن و یحفظن فروجهن و لا ینبذن زینتهن إلا ما

ظہر منها﴾۔ (سورة النور: ۳۱)

”عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدث أن أم سلمة -رضی اللہ تعالیٰ عنہا- حدثته أنها كانت عند

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و میمونة -رضی اللہ تعالیٰ عنہا- قالت: فبینما نحن عنده أقبل ابن

أم مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فدخل علیہ، -وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب- فقال رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم: ”احتجبا منه“ فقلت: یا رسول اللہ! أیس هو أعمى لا یبصرنا و لا یعرفنا؟ فقال رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”أو عمیوان أنتما؟ أستماتا تبصرانه“؟ ثم قال الترمذی: هذا حدیث

حسن صحیح“۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۷۸، دار الفیحاء دمشق)

(۳) ”عن أبی هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: قال لا یؤذن إلا متوضئاً“۔ =

امر ششم کے متعلق یہ ہے کہ بضرورت مرض حقہ پینا درست ہے اور تازہ کر کے پیا جائے اور دوا کے طور پر ضرورت کے موافق لیا جائے تو بلا ضرورت یا ضرورت سے زائد نہیں پینا چاہئے، نیز مسجد میں منہ، مسواک وغیرہ سے صاف کر کے آنا چاہئے، بلا منہ صاف کئے بدبودار منہ سے مسجد میں آنا جائز نہیں (۱)۔

محلہ کی مسجد میں جماعتِ ثانیہ منع ہے (۲)، اگر اس امام سے بہتر امامت کا اہل موجود ہو تو اس کو امام

= (جامع الترمذی، أبواب الصلوة، باب ما جاء فی کراهیة الأذان بغير الوضوء: ۵۰/۱، سعید)
 ”ولایکره أذان المحدث فی ظاهر الروایة، هکذا فی الکافی. وهو الصحیح، کذا فی الجوهرة النيرة“۔ (الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلوة، الباب الثانی فی الأذان، الفصل الأول فی صفتہ وأحوال المؤذن: ۵۳/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی مراقی الفلاح علی حاشیة الطحطاوی، کتاب الصلوة، باب الأذان: ۱۹۷، ۱۹۹، قدیسی)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الأذان: ۳۹۲/۱، سعید)

(۱) ”وفی الأشباه فی قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف قلت: فیفهم منه حکم النبات الذی شاع فی زماننا المسمى بالتتن، فتنبه، وقد کرهه شیخنا العمادی فی هدیته إلحاقاً له بالثوم والبصل بالأولی، فتدبر“۔ (الدر المختار)۔

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية، والمكروه تنزيهاً بجماع الإباحة. اهـ. وقال: ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل، وهو ملحق بهما، والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال لتعظيم كتاب الله تعالى. اهـ.“
 (ردالمحتار، کتاب الأشربة: ۲۶۰/۶، ۲۶۱، سعید)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب الأشربة: ۲۲۷/۴، دار المعرفة بیروت)

(۲) ”ویکره تکرار الجماعة بأذان وإقامة فی مسجد محلة، لافی مسجد الطريق أو مسجد لإمام له ولا مؤذن“۔ وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكرار في مسجد محلة ولو بدون أذان، ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى فيه يصلون وُحداناً، وهو ظاهر الرواية اهـ.“ (الدر المختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۲/۱، ۵۵۳، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۰۵/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلوة، الباب الخامس فی الإمامة: ۸۳/۱، رشیدیہ)

بنالیا جائے (۱)، آپس میں تفریق کر کے دو جماعتیں نہیں کرنی چاہئیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۸/۶/۱۳۵۵ھ۔

بینا و نابینا میں امام کون ہو؟

سوال [۲۷۲۷]: زید نابینا غیر متقی، عمر بینا متقی کی موجودگی میں نماز پڑھاتا ہے، یہ صورت بہتر ہے یا نہیں؟

۲..... نابینا اور بینا دونوں ایک درجہ رکھتے ہیں، نماز پڑھنا کس کے پیچھے افضل ہے؟

۳..... اقتداءً مطلقاً نابینا اور بینا میں کیا فرق ہے؟

دوست محمد، پرانی منڈی سہارنپور۔

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... نابینا اگر گلی کوچے میں پھرتا ہے اور ناپاکی سے احتیاط نہیں کرتا تو اس کی امامت مکروہ ہے، بینا میں اگر وہ خرابی موجود نہیں جو نابینا میں ہے نہ اس کے مثل، نہ اس سے بڑی کوئی خرابی موجود ہے تو ایسی حالت میں نابینا کو امام بنانا ممنوع ہے چاہئے کہ ایسی حالت میں بینا ہی کو امام بنایا جائے۔ البتہ اگر نابینا سب نمازیوں سے افضل ہو علم و عمل و تقویٰ کی حیثیت سے، ناپاکی وغیرہ سے احتیاط کرتا ہو تو پھر ایسے نابینا کی امامت مکروہ نہیں بلکہ افضل ہے:

”ویکره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى، إلا أن يكون: أي غير الفاسق أعلم القوم“

(۱) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه عن الفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقرأة، ثم الأورع، ثم الأسن“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۷/۱، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو الأحق بالإمامة: ۲۶۹/۱، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۲) ”عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”يد الله على الجماعة“۔ (جامع الترمذی، أبواب الفتن، باب في لزوم الجماعة: ۳۹/۲، سعید)

فہو أولى، قید کراہیة إمامة الأعمى فى المحيط وغيره: بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى“۔ درمختار و شامی: ۱/۵۸۲ (۱)۔

اور بصورت کراہت اگر نابینا کی علیحدگی میں فتنہ ہو تو بجزبوری تا انتظام ثانی نابینا ہی کو امام بنا لیا جائے (۲)۔

۲..... تمام اوصاف میں بالکل مساوی ہوں کسی قسم کا کوئی فرق کمی زیادتی کا ادنیٰ سا بھی نہ ہو (اگرچہ یہ دشوار ہے) تو بینا کی امامت افضل ہے (۳)۔

۳..... اوپر کے دونوں جوابوں سے فرق واضح ہو گیا، مستقل فرق کی علیحدہ ضرورت نہیں رہی۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۴/۱۳۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/ربیع الثانی/۱۳۵۸ھ۔

جس کو ایک آنکھ سے نظر آتا ہو اس کی امامت

سوال [۲۷۲۸]: ہماری بستی میں مسجد کے امام صاحب کی ایک آنکھ میں کسی وجہ سے نقص ہو گیا اس لئے اس کو آپریشن کی ضرورت ہوئی اور اسی حالت میں امام صاحب کی آنکھ بے کار ہو گئی، لیکن دوسری آنکھ بالکل

(۱) (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۳۴۵، ۳۴۶، دار الکتب العلمیة، بیروت)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی بیان من یصلح للإمامة: ۱/۶۶۸، دار الکتب العلمیة، بیروت)

(۲) ”إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجب، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلانها، وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمال أدنى المضرتين“۔ (رد المحتار، کتاب الجهاد، باب البغاة: ۲/۲۶۳، سعید)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۴۸، ۵۴۹، سعید)

(۳) ”قال فی شرح المقاصد: ينحل عقد الإمامة بما يزول به مقصود الإمامة..... كالأعمى والصمم والخرس. اهـ“۔ (رد المحتار، کتاب الجهاد، باب البغاة: ۲/۲۶۳، سعید)

صحیح سالم ہے، کتاب وغیرہ اچھی طرح دیکھ سکتا ہے تو اس امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مخض اتنی سی بات کی وجہ سے اس کی امامت ناجائز نہیں کہی جائے گی کہ اس نے آنکھ میں آپریشن کرایا ہے اور ایک ہی آنکھ سے اس کو نظر آتا ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

ایک آنکھ اور ایک ہاتھ والے کی امامت

سوال [۲۷۲۹]: جو ایک ہاتھ اور ایک آنکھ سے معذور ہے، معلوم نہیں کہ استنجا ٹھیک سے کرتا ہے یا نہیں، وضو کا معلوم ہے کہ ایک فریضہ ترک ہو جاتا ہے، یعنی چوتھائی سر کا مسح اور ہاتھ کہنیوں تک نہیں دھلتے، بعض مرتبہ ٹخنوں تک پیر بھی نہیں دھلتے، ایسی حالت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا کہ ان سے بہتر نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو تو جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب وہ مسح نہ کرنے کی وجہ سے وضو کامل نہیں کر سکتے تو ان کو امام بنانا جائز نہیں (۲)، خواہ دوسرا آدمی

(۱) چونکہ دونوں آنکھوں سے اندھا شخص اگر شرائط امامت سے متصف ہو تو اس کو امامت کے لئے بڑھانے دوسروں کی بنسبت افضل ہے، لہذا جس شخص کی صرف ایک آنکھ کی بینائی نہ ہو اور متصف ہو شرائط امامت کے ساتھ تو وہ بطریق اولیٰ الحق بالامامت ہے: ”ویکرہ إمامة عبد..... وأعمى“۔ قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ: ”قید کراهة إمامة الأعمى فی المحيط وغیرہ: بأن لا یكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰۔ رشیدیہ)

”والأعمى: لأنه لا يتوقى النجاسة، ولا يهتدى إلى القبلة بنفسه، ولا يقدر على استيعاب الرضوء

غالباً.“ (تبيين الحقائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۳۴۔ امدادیہ، ملتان)

(و کذا فی الهدایة، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، شرکت علمیہ)

”وتجوز إمامة الأعرابي والأعمى..... کذا فی الخلاصة“۔ (الفتاویٰ العالمکیریة، الفصل

الثالث فی بیان من یصلح إماماً لغيره: ۵/۸۵، رشیدیہ)

(۲) ”وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا تقبل صلوة بغير طهور،“

ان سے بہتر امامت کے لائق موجود ہو یا نہ ہو، اگر دوسرا آدمی موجود نہیں تو اس کا انتظام کیا جائے، انتظام نہ کرنے کی وجہ سے سب ہی محلہ کے لوگ قصور وار ہیں۔ معذور شرعی کی امامت کا ناجائز ہونا کتب فقہ شامی وغیرہ میں موجود ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹/۳/۱۳۹۲ھ۔

اندھے جھوٹے کی امامت

سوال [۲۷۳۰]: کوئی شخص اندھا ہو اور امامت کرتا ہو، یا قراءت غلط پڑھتا ہو، ہدایت کرنے پر عمل نہ کرتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو، ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، اگر بوجہ ثواب جماعت کی نماز پڑھے اور نماز اپنی دہرائے تو کوئی گناہ تو نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک کوئی ایسی چیز معلوم نہ ہو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو نماز ادا ہو جائے گی (۲)، ہاں! اگر

= ولا صدقة من غلول“ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الطہارۃ، باب ما یوجب الوضوء، الفصل الأول: ۴۰/۱، قدیمی)

”فرض الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين، مع الكعبين“ (التاتارخانية، کتاب الطہارۃ، الفصل الأول: ۸۷/۱، إدارة القرآن، کراچی)
(و کذا فی الدر المختار، کتاب الطہارۃ: ۹۵/۱، سعید)

(۱) ”و کذا لا یصح الاقتداء بمجنون ولا ظاہر بمعذور“ (تنویر الأبصار مع الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۵۷۸/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۶۳۰/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱۳۰/۱، امدادیہ)

(۲) ”صلی خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة“ (الدر المختار). قال ابن عابدین رحمہ اللہ نعالیٰ علیہ: ”أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد، لكن لا ينال كما ينال خلف تقی ورع“ (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۶۲/۱، سعید)

”و کرہ إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وإن تقدموا جاز، لقوله عليه السلام: =

کوئی چیز ایسی معلوم ہو مثلاً قرأت میں ایسی غلطی کی جس سے معنی بگڑ گئے یا اس کے جسم یا کپڑے پر نجاست مانعہ موجود تھی تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے (۱)۔ جب کہ دوسرا شخص صحیح پڑھنے والا طہارت و نماز کے مسائل سے واقف، متبع سنت امامت کیلئے موجود ہو تو جھوٹ بولنے والے غلط قرأت کرنے والے نابینا کو امام بنانا مکروہ ہے (۲)۔ جب تک بہتر امام کا انتظام نہ ہو تو ایسی موجودہ صورت میں امام مذکور کے پیچھے نماز ادا کر لی

= صلوا خلف کل بر وفاجر“ (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۳۴، امدادیہ، ملتان)

”ينبغي أن يكون محل الكراهة عند وجود غيرهم، لا ما إذا لم يوجد غيرهم“ (النهر الفائق،

كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۲۴۴، امدادیہ، ملتان)

و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۱۱، رشیدیہ)

(۱) ”ولا يصح الاقتداء غير الأئمة به: أي بالأئمة على الأصح ولا تصح صلاته إذا أمكنه

الاقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده. وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف أو لا

يقدر على إخراج الفاء إلا بتكرار“ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۸۱، سعید)

”و إذا ظهر حدث إمامه و كذا كل مفسد في رأى مقتد، بطلت، فيلزم إعادتها لتضمنها صلاة

المؤتم صحة و فساداً، كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب أو فاقد شرط أو

ركن“ (الدر المختار).

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى عليه: ”فلو قال المصنف كما في النهر: ولو ظهر أن بإمامه ما

يمنع صحة الصلاة، لكان أولى، ليشمل ما لو أخل بشرط أو ركن. وإلى أن العبرة برأى المقتدى حتى لو

علم من إمامه ما يعتقد أنه مانع و الإمام خلافه، أعاد“ (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة:

۱/۵۹۱، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۲۰، رشیدیہ)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۲۵۵، امدادیہ، ملتان)

(*) ”ويكره إمامة عبد و أعرابي و فاسق و أعمى هذا إن وجد غيرهم، و إلا فلا كراهة“ (الدر

المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعید)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۳۴، امدادیہ، ملتان)

جائے تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

مقطوع الید کی امامت

سوال [۲۷۳۱]: مقطوع الید کی امامت کا کیا حکم ہے؟

۲..... اگر عرصہ دراز تک اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بعد میں کچھ خود غرض کسی وجہ سے مقطوع الید ہونے کا الزام دے کر خود بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ اکثر سربراہ اور وہ علماء کے دستخط مثبت ہوں۔

نیاز مند خادم: نور محمد سہارنپوری، ۲۰/ جمادی الثانیہ/ ۱۳۵۵ھ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... اگر وہ شخص طہارت اور پاکی ٹھیک طور پر کر لیتا ہے اور اس کا اہتمام رکھتا ہے تو اس کی امامت شرطاً درست ہے ورنہ مکروہ ہے صحیح اور سالم کی امامت بہر حال اولیٰ ہے:

”و کذا تکره خلف أمره وسفيه ومفلوج وأبرص“، وفي رد المحتار: ”فالاقتداء بغيره أواسی، تانار خانیه. و کذا أجزم ومحبوب وحقن ومن له يد واحدة، فتاوی الصوفیه عن التحفة. والظاهر أن العلة النفرة، ولذا قید الأبرص بالشیوع، لیکون ظاهراً ولعدم إمكان إكمال الطهارة أيضاً فی المفلوج والأقطع، اه“، رد المحتار: ۱/ ۵۸۷ (۲)۔

(۱) ”فإن أمکن الصلوة خلف غیرهم، فهو أفضل، وإلا فالأقتداء أولى من الانفراد..... وینبغی أن یکون محل کراهة الاقتداء بهم عند وجود غیرهم، وإلا فلا کراهة کما لا یخفی“ (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۶۱۱، رشیدیہ)

(و کذا فی النهر الفائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۲۲۲، امدادیہ، ملتان)

(۲) (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۲، سعید)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فی بیان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۳، قدیمی)

(و کذا فی الفقه الإسلامی وأدلته، کتاب الصلاة، الباب العاشر، أنواع الصلاة، المبحث الثانی: الإمامة،

مکروهات الصلاة فی المذاهب: ۲/ ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، رشیدیہ)

۲..... اختلاف سے بچنا چاہیے، اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے کوئی شرعی عذر مانع ہو تو اتفاق کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو امام مقرر کر لیا جائے (۱)، محض خود غرضی کی بناء پر اختلاف پیدا کرنا گناہ ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۱/۶/۱۳۵۵ھ۔

ایک ہاتھ سے معذور کی امامت

سوال [۲۷۳۲]: ایک شخص صالح پابندِ شرع ہے، حافظِ قرآن ہے، مجبوری یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے معذور ہے، صرف بائیں ہاتھ سے سب کام کرتا ہے، کم گو اور صفائی پسند ہے۔ تو ایسے حافظ کی امامت درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو امام داہنے ہاتھ سے معذور ہو، اور طہارت و صفائی پوری طرح کر لیتا ہو اور اس میں امامت کی صلاحیت ہو اس کی امامت شرعاً درست ہے اگرچہ ایسے شخص کی امامت اولیٰ ہے جو معذور نہ ہو، حق تعالیٰ آپ کے امام صاحب کو صحت و تندرستی دے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

لنگڑے کی امامت

سوال [۲۷۳۳]: زید امام مسجد کے پاؤں میں کچھ کچی واقع ہے جس کی وجہ سے تو چلنے میں سالم پاؤں

(۱) (راجع، ص: ۳۰۳، رقم الحاشیة: ۲)

(۲) قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ العلامة القرطبي: "قوله: (ولا تفرقوا) متابعين للهوى والأغراض المختلة اهـ". (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۱۰۲/۲، سورة آل عمران، بيروت)

(۳) "والأعلم أحق بالإمامة، ثم الأقرأ، ثم الأورع الخ". (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة:

۱/۶۰۷، رشیدیہ)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعيد)

(و كذا في النهر، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۲۳۹، امدادیہ)

زمین پر نہیں رکھ سکتا ہے مگر نماز پڑھاتے وقت سالم پاؤں زمین پر رکھتا ہے۔ آیا ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تو کراہت کے ساتھ یا بلا کراہت؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے لیکن اگر سالم پاؤں زمین پر وقت سے رکھا جاتا ہے تو اس کے علاوہ دوسرے شخص کو امام بنانا اولیٰ ہے: ”ولو كان بقدم الإمام عوج، فقام على بعضها، يجوز، وغيره أولى، اهـ“۔ زیلعی: ۱/۴۴ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۵/۶/۱۳۵۷ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۵/۶/۱۳۵۷ھ۔

امامت مرتعش

سوال [۲۷۳۲]: اگر کسی کے ہاتھ میں رعشہ ہو یا پاؤں کے اکثر حصہ میں تو امامت کیسی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر معمولی ہلتا ہو کہ ارکان نماز میں دشواری نہ ہوتی ہو تو امامت منع نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۶/۸۷ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۶/۸۷ھ۔

(۱) (تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۶۵، دارالكتب العلمية، بيروت)

(و كذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعيد)

(و كذا في الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الصلوة، الباب العاشر، أنواع الصلوة، المبحث الثاني: الإمامة،

مكروهات الصلوة في المذاهب: ۲/۱۲۱۱، طبع جديد رشيدية)

(و كذا في الفتاوى العالمية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من

يصلح إماماً لغيره: ۱/۸۵، رشيدية)

(۲) ”الجواب: جس کے ہاتھ پیروں میں رعشہ ہو، اس کے پیچھے نماز بلا کراہت درست ہے۔ فقط“۔ (فتاویٰ دارالعلوم

دیوبند: ۳/۱۰۴، مکتبہ امدادیہ ملتان)

مفلوج کی امامت

سوال [۲۷۳۵]: مندرجہ ذیل مذکورین میں کس کی امامت درست ہے اور کس کی نہیں؟ جواب سے مطلع فرمائیں تو نوازش ہوگی۔

- ۱۔ جس کے کسی ہاتھ پیر پر فالج ہو۔
- ۲۔ یا قدرتی طور پر ہاتھ خشک ہو گیا ہو۔
- ۳۔ جس کے پیر پر فالج ہو۔

الجواب حامداً ومصلياً:

- ۱۔ اگر وہ ہاتھ کام نہ دیتا ہو تو اس شخص کی امامت مکروہ ہے۔
- ۲۔ اس کی امامت مکروہ ہے۔
- ۳۔ اگر پیر کارآمد نہیں یعنی بدن کا وزن برداشت نہیں کرتا تو اس شخص کی امامت مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۹/۹۱ھ۔

ابرص اور جذامی کی امامت

سوال [۲۷۳۶]: مبروص اور جذامی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی (مبروص اور جذامی) کو امام بنانا کیسا ہے؟ جواب کتاب کے حوالہ سے ہو۔

راقم: عبدالقدوس ازبیکن گنج۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جس کو برص ہو اور برص بھی معمولی نہ ہو بلکہ بدن میں شائع ہو اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں تو اس

(۱) ”و كذا تكره خلف مفلوج وأبرص شاع برصه، وكذلك أعرج يقوم ببعض قدمه فالافتداء بغيره أولى ولعدم إمكان إكمال الطهارة أيضاً في المفلوج والأقطع..... الخ“ (الدر المختار مع

رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۳۹، رشیدیہ)

(و كذا في التاتارخانية، كتاب الصلاة، من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۰۲، إدارة القرآن)

کو امام بنانا مکروہ ہے، کذا فی ردالمحتار: ۱/۳۷۸ (۱)۔ جذامی کا درجہ تو اس معاملہ میں ابرص سے بڑھا ہوا ہے کہ جذام اگر شائع ہو اور ہر وقت ٹپکتا ہو تو ایسے شخص کو مسجد میں آنا منع ہے، اس سے جماعت بھی ساقط ہے، وہ امام بھی نہیں بنایا جاسکتا (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

اعمی و ابرص کی امامت

سوال [۲۷۳۷]: وہ فہرست جن کو امامت کرنا مکروہ ہے، اس میں اعرج، ابرص داخل ہیں کہ نہیں، اگر داخل ہیں تو کیا تفصیل ہے؟ نیز یہ کراہت اس کے مقابل میں اگر کوئی اعلم بالسنة موجود ہو تب ہے یا علی الاطلاق؟
الجواب حامداً ومصلياً:

درمختار میں ابرص بھی مذکور ہے، شامی میں ہے: ”قيد الأبرص بالشيوع ليكون ظاهراً“۔ (۳)،

(۱) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، فصل فی بیان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۳، قدیمی)

(و کذا فی الفقہ الإسلامی وأدلته، کتاب الصلوة، الفصل العاشر: أنواع الصلوة، المبحث الثانی: الإمامة، مکروہات الإمامة فی المذاهب: ۲/۱۲۱۰، ۱۲۱۱، رشیدیہ)

(۲) ”و کذا تکره خلف أمرد وسفیه، ومفلوج، وأبرص شاع برصه. آه“۔ وقال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ: ”(قوله: ومفلوج وأبرص شاع برصه)..... و کذا أجذم، بیرجندی“۔ (الدر المختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

”و کذا الک القصاب والسماک، والمجذوم، والأبرص أولى باللاحاق“..... ”(أی بأکل

الثوم ونحوه) وقال سحنون: لأرى الجمعة عليهما“۔ (ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب ما یفسد الصلوة وما یکره فیها، مطلب فی الغرس فی المسجد: ۱/۶۶۱، سعید)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی، کتاب الصلوة، فصل فی بیان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۳، قدیمی)

(و کذا فی الفقہ الإسلامی وأدلته، کتاب الصلوة، الفصل العاشر: ۲/۱۲۱۱، رشیدیہ)

(۳) ”و کذا تکره خلف أمرد وسفیه ومفلوج وأبرص شاع برصه“۔ (الدر المختار). وفي رد المحتار: =

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اعرج کی امامت خلافِ اولیٰ ہے (۱)، اعمیٰ واعرج عامل بالسنة ہوں تو ان کی امامت عالم بالسنة غیر عامل بالسنة کے مقابلہ میں راجح ہے۔ ابن ام مکتوم اور عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی امامت دلیلِ ترجیح ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۶/۹۲ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۶/۹۲ھ۔

بہرہ کی امامت

سوال [۲۷۳۸]: ایک عالم بالکل بہرہ ہے وہ امامت کرتا ہے، تکبیر ہوتے وقت نیت باندھ لیتا ہے،

= ”ولذا قید الأبرص بالشيوع ليكون ظاهراً“۔ (كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

(و كذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۳، قديمي)

(و كذا في الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الصلاة، الباب العاشر: أنواع الصلوة، المبحث الثاني: الإمامة، مكروهات الصلاة في المذاهب: ۲/۱۲۱۰، ۱۲۱۱، رشيديه)

(۱) ”و كذلك أعرج يقوم ببعض قدمه، فالافتداء بغيره أولى، تاتارخانية“۔ (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

(و كذا في تبين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۶۵، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إماماً لغيره: ۱/۸۵، رشيديه)

(۲) ”و كره إمامة العبد والأعرابي والمبتدع والأعمى؛ لأنه لا يتوقى النجاسة، ولا يهتدى إلى القبلة بنفسه، ولا يقدر على استيعاب الوضوء غالباً. وفي البدائع: إذا كان لا يوازيه غيره في الفضيلة في مسجده فهو أولى، وكذا في المحيط. وقد استخلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك -رضي الله تعالى عنهما- على المدينة وكانا أعميين“۔ (تبين الحقائق، كتاب

الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۳۵، ۳۳۶، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشيديه)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنن مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربي بيروت)

بعض اوقات تکبیر ختم ہوگئی اور وہ کھڑا ہے، جب لوگ اشارہ کرتے ہیں تو نیت باندھ لیتا ہے۔ تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اور اسے امام رکھنا مناسب ہوگا جبکہ شہر میں اور بھی عالم ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بہرہ آدمی نماز پڑھا دے تب بھی درست ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کو لقمہ دینے کی ضرورت پیش آئے اور وہ نہ سنے (۱)، اس لئے افضل یہ ہے کہ جو شخص بہرہ نہ ہو اور امام کی صفات اس میں موجود ہوں اس کو امام بنایا جائے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۲/۹۲ھ۔

مصنوعی دانت والے کی امامت

سوال [۲۷۳۹]: اگر امام چوکرہ لگانے والا ہو اور مقتدی دانت رکھنے والے ہو تو کیا ایسی صورت میں امام معذور کی تعریف میں داخل ہوگا، ایسے شخص کی امامت جائز ہے یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا امام معذور نہیں۔ اس کی امامت درست ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، ۱۸/۱۰/۹۲ھ۔

(۱) (راجع فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، باب الإمامة: ۱۸۲/۳، مکتبہ امدادیہ، ملتان)

(۲) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلوة، فصل فی بیان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۶۹، دار الکتب العلمیة بیروت)
(۳) قال المفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ: ”الجواب: درست ہے، فقط، اس لئے کہ دانت لگوانا فقہاء نے درست لکھا ہے، خواہ وہ چاندی کا ہی کیوں نہ ہو، بلکہ امام محمد سونے کا دانت لگوانا بھی درست کہتے ہیں: إذا جدد أنفه أو أذنه أو سقط سنه، فأراد أن يتخذ سنّاً آخر، فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط، وعند محمد من الذهب أيضاً۔ [ردالمحتار، کتاب الحظر والإباحة، فصل فی اللبس: ۳۱۸/۵، ظفیر]۔“ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند،

باب الإمامة: ۲۰۶/۳، مکتبہ امدادیہ، ملتان)

مصنوعی دانت والے امام کے پیچھے نماز


سوال [۲۷۲۰]: زید ایک مسجد کا امام ہے اس کے دانتوں میں درد شدید رہتا ہے، ڈاکٹر کے مشورہ سے تمام دانت نکلوا کر مصنوعی دانت پتھر کے لگائے، دانت لگانے کی وجہ سے حروف صحیح نہیں نکلتے۔ آگاہ فرمایا جائے کہ مصنوعی دانت لگانے سے امام کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں، جب کہ یہ امام بتیس چونتیس سال سے امامت کر رہا ہے؟ کیا مصنوعی دانت لگانے کی وجہ سے اس امام کا عزل جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پتھر کے مصنوعی دانت لگوانے کی وجہ سے امامت میں خرابی نہیں ہوتی (۱)، اس بناء پر اس کا عزل صحیح نہیں ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۱/۹۲ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۲/۹۲ھ۔



(۱) ”عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن السعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق فأتى عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنفاً من ذهب“ (سنن أبي داود، أول كتاب الخاتم، باب ماجاء في ربط الأسنان بالذهب: ۲/۲۳۰، امداديه، ملتان)

”إذا جدد أنفه أو أذنه أو سقط سنه، فأراد أن يتخذ سناً آخر، فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط، وعند محمد رحمة الله عليه من الذهب أيضاً، آه“ (ردالمحتار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس: ۳۶۲/۶، سعيد)

(۲) ”واستفيد من عدم عزل الناظر بلاجنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف بغير جنحة و عدم أهلية“ (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يصح عزل صاحب وظيفة بلاجنحة و عدم أهلية: ۳۸۲/۳، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ۳۸۰/۵، رشيديه)

الفصل السادس في إمامة الصبي (نابالغ کی امامت کا بیان)

امامت صبی

سوال [۲۷۲۱]: رمضان شریف میں نابالغ بچوں کے پیچھے بعض لوگ قرآن پاک سننے کے لئے نفل کی نیت کر لیتے ہیں، کیا ان لوگوں کی نمازیں ہو جاتی ہیں جبکہ بچہ امامت کا اہل نہیں اگر نہیں ہوتی ہے تو کیا پھر اعادہ کرنا ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

صحیح قول یہ ہے کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کو نفل میں بھی اقتدا کرنا صحیح نہیں (۱)، اگر ایسا کر لیا گیا ہے تو نفل کا اعادہ احتیاطاً کر لیا جائے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

بالغ کی نابالغ کے پیچھے نماز کا حکم

سوال [۲۷۲۲]: نابالغ کی اپنی فرض نماز فرض قرار دی جائے گی یا نفل و سنت؟ اگر نفل و سنت ہے تو نابالغ کا امام بننا اور بالغ کا اس کا اقتدا جائز ہے یا نہیں؟

(۱) ”ولا يصح اقتداء البالغ غير البالغ في الفرض وغيره وهو الصحيح؛ لأن صلاة البالغ أقوى

للزومها“۔ (الحلی الكبير، کتاب الصلاة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۶، سہیل اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۷۷، ۵۷۸، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیرية، کتاب الصلاة، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الثالث فی بیان من

یصلح إماماً لغيره: ۱/۸۵، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۲۸، رشیدیہ)

(۲) (انظر رقم الحاشية: ۱)

الجواب حامداً ومصلياً:

نابالغ پر نماز فرض نہیں، لہذا بالغ کو نابالغ کی اقتدا کرنا درست نہیں: ”فلا يصح اقتداءً بالغ بصبي مطلقاً سواء كان في فرض؛ لأن صلوة الصبي ولو نوى الفرض نفلٌ أو في نفل؛ لأن نفله لا يلزمه“. طحطاوی، ص: ۱۵۷ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

نابالغ کی امامت صرف نماز جمعہ مسجد میں ادا کرنا

سوال [۲۷۳]: ایک محلہ میں قدیم زمانہ سے محلہ کے باہر ایک مسجد بنی ہوئی ہے مگر مسجد میں پنجگانہ نماز پابندی سے نہیں پڑھی جاتی، بلکہ صرف جمعہ کے روز کچھ مخلوق خدا جمع ہو جاتی ہے اور نماز جمعہ ادا کر لیتی ہے، مگر ہمیشہ جھگڑا برپا ہوتا رہتا تھا، چونکہ امام صاحب کے بلوغ میں شبہ تھا اور قرأت صحیح نہیں پڑھ سکتے تھے اور مسائل صلوة سے بھی ناواقف تھے۔ بناءً علیہ ایک روز نمازیوں نے متولی سے شکایت کی کہ اس امام موصوف بصفات کذابیہ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی، لہذا ہمارے لئے کوئی دوسرا امام تجویز فرمائیں تو ان کے جواب میں متولی کی طرف سے ایک معتمد علیہ شخص بول اٹھے تھے کہ مسجد تمہارے لئے نہیں بنائی گئی، اگر مرضی ہو تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو، ورنہ تمہاری مرضی کے مطابق دوسرا امام ہرگز نہیں دیا جائیگا، ان کی اس ترش روئی پر متولی بھی خاموش رہ گئے تھے۔

اس اثناء میں اکثر لوگ مسجد مذکور سے انحراف کر گئے تھے اور دوسری مساجد میں نماز جمعہ پڑھنے لگے تھے مگر اپنے مشاغل ذاتیہ اور دیگر اغراض کی وجہ سے اتنے فاصلہ میں جا کر نماز پڑھنے سے از حد تکلیف ہوتی تھی اور ادھر متولی صاحب بھی بُرے الفاظ سے یاد فرمایا کرتے تھے اور پھر حضور مسجد مذکور پر عار دلایا کرتے تھے۔ الغرض مختلف تکالیف جھیلنے کے بعد علمائے کرام کے مشورہ پر محض لوجہ اللہ ایک مسجد جدید تعمیر کرائی گئی، چنانچہ

(۱) (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب الإمامة، ص: ۲۸۸، قدیمی)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة، ۱/۲۲۸، رشیدیہ)

(و کذا فی النهر الفائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۲۵۱، امدادیہ ملتان)

(و کذا فی الہدایة، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، شرکتہ علمیہ ملتان)

بانیان مسجد جدید محض لوجہ اللہ تعمیر کرنے پر اور بغض و عداوت نہ ہونے پر قسمیں کھاتے ہیں اور حلف اٹھاتے ہیں اور امام و مؤذن بھی بدستور متعین ہیں اور پنجگانہ نماز باجماعت پابندی سے ہوتی ہے، نیز مدرسہ اسلامیہ سے ملی ہوئی ہے۔

اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ ان دونوں مساجد کا شرعاً کیا فیصلہ ہے؟ ہر ایک کا حکم الگ الگ مفصلاً مع حوالہ و تعین صفحات بیان فرمایا جائے۔ بینوا تو جروا۔

محمد ابراہیم عفا اللہ عنہ، برما۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں صرف نماز جمعہ پڑھنا اور پنجگانہ نماز اس میں نہ پڑھنا درحقیقت ہفتہ بھر میں ایک روز بلکہ ایک وقت آباد رکھنا اور باقی ایام و اوقات میں اس کو ویران و غیر آباد رکھنا ہے جو کہ سخت مذموم و ممنوع ہے (۱)، اس لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ پنجگانہ نماز بھی اس میں پڑھ کر آباد رکھیں۔ اور نابالغ امام کے پیچھے نماز ناجائز ہے (۲)، اگر درحقیقت وہ امام نابالغ ہے تو اس کو تبدیل کرنا اور دوسرا بالغ و صالح امام مقرر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پر جو شخص قرأت صحیح نہیں کرتا اس کو بھی امام نہیں بنانا چاہئے، کیوں کہ بسا اوقات قرأت میں غلطی سے نماز

(۱) قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ (سورة البقرة: ۱۱۳، الآية)

”﴿وسعى في خرابها﴾: أي هدمها وتعطيلها. وقال الواحدى: إنه عطف تفسير؛ لأن عمار

تھا بالعبادة“۔ (روح المعاني للعلامة الآلوسی: ۱/۳۱۲، دار إحياء التراث العربی بیروت)

”ولیس المراد من عمار تھا زخرفتها وإقامة صورتها فقط. إنما عمارتها بذكر الله فيها، وإقامة

شرعہ فيها، ورفعها عن الدنس والشرك“۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۱۷، دار الفیحاء دمشق)

(۲) ”فلا يصح اقتداء بالغ بالصبي مطلقاً سواء كان في فرض؛ لأن صلوة الصبي ولو نوى الفرض نفل

أوفى نفل؛ لأن نفعه لا يلزمه“۔ (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص:

۲۸۸، قديمی)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۷۶، ۵۷۸، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۲۸، رشيدیه)

فاسد ہو جاتی ہے اور غلط پڑھنا گنہ ہر حال میں ہے۔ نیز امام کا مسائل نماز سے بھی بقدر ضرورت واقف ہونا لازم ہے، اگر فی الواقع امام مذکور ایسا ہی ہے تو اس کو بدل کر دوسرا امام بنانا اور اس کا مطالبہ کرنا بالکل صحیح اور حق ہے، اس پر ترش رو ہونا اور ایسا سخت جواب دینا شریعت اور انسانیت کے خلاف ہے (۱)۔

جب دوسری مسجد باقاعدہ مسجد بن گئی اور وقف ہو گئی تو وہاں کے مسلمانوں کے ذمہ دونوں کو آباد رکھنا لازم ہے، اور جہاں تک ہو سکے سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنا اور متحدہ طریقہ سے احکامِ خداوندی کا عمل کرنا ضروری ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور، ۲۱/۱۲/۵۷۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم، ۲۱/ذی الحجہ/۵۷ھ۔

امامتِ امر

سوال [۲۷۴۲]: لڑکا اگر چہ بالغ ہو گیا مگر امر ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

(۱) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط إجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً الخ“۔ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۶۹، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۷، دار إحياء التراث بيروت)

(۲) ”عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال: ”إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامّة والمسجد“۔ (مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم الحديث: ۲۱۵۲۴): ۶/۳۰۷، دار إحياء التراث العربى بيروت)

(وانظر أيضاً، ص: ۳۱۳، رقم الحاشية: ۱)

الجواب حامداً ومصلياً:

جائز ہے، مگر غیر امر داس سے مقدم ہے، خاص کر جبکہ وہ امر صبیح و یلیح ہو (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ

اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲/۹/۶۳ھ۔

صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ۔



(۱) قال ابن عابدين رحمه الله تعالى عليه: "قوله: وكذا تكره خلف أمرد) الظاهر أنها تنزيهية أيضاً.

والظاهر أيضاً كما قال الرحمتي أن المراد به الصبيح الوجه؛ لأنه محل الفتنة". (رد المحتار على

الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعید)

(و كذا في حاشية الطحطاوي على مراقبي الفلاح، ص: ۳۰۳، قديمي)

الفصل السابع في عزل الإمام وتحقيره

(امام کو برطرف کرنے اور حقیر سمجھنے کا بیان)

امام باصلاحیت ہو تو اسے امامت سے ہٹانا

سوال [۲۷۵]: مسجد کے امام صاحب باصلاحیت دیوبندی عقائد کے ہیں، چند آدمی ان سے ناراض ہیں، اکثر آدمی امام صاحب سے خوش ہیں، ان کی تنخواہ بھی روک لی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام نے نماز فی سبیل اللہ پڑھائی ہے، امام کئی ماہ صبر و تحمل سے گزار چکا ہے۔ کیا ان کی تنخواہ بلا عذر روکی جاسکتی ہے اور ان کو منصب امامت سے ہٹایا جاسکتا ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

جب امام میں کوئی شرعی نقص نہیں اور اس سے اصلاح بھی ہو رہی ہے، نیز اکثر مقتدی خوش ہیں تو امام کو ہرگز الگ نہ کیا جائے (۱)، اس کی ضروریات پوری ہونے کیلئے تنخواہ بھی دی جائے (۲)۔ ایک آدمی کو یہ حق نہیں کہ امام کو الگ کر دے بلکہ بلا قصور کسی کو بھی حق نہیں۔ امام میں کوئی قصور اور کمی ہو تو اس کو لکھ کر دریافت کر لیا جائے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "استفید من عدم صحة عزل الناظر بلا جنحة عدمها لصاحب وظيفه في وقف بغير جنحة وعدم أهلية".

(رد المحتار، کتاب الوقف، مطلب: لا یصح عزل صاحب وظيفه بلا جنحة، أو عدم أهلية: ۳۸۲/۳، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الوقف: ۳۸۰/۵، رشیدیہ)

(۲) "ثم ما هو أقرب إلى العمارة و أعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة، يصر ف إليهم إلى قدر كفايتهم..... وظاهر تقديم الإمام والمدرس على جميع المستحقين بلا شرط". (البحر الرائق، کتاب الوقف: ۳۵۶/۵، رشیدیہ)

"و کذا ینبغی أن تؤخذ الوظيفة أيضاً، لاسیما إذا كان مدرساً، إذ المقصود يقوم به". (البحر

الرائق، کتاب الوقف، ۳۸۰/۵، رشیدیہ)

بلاوجہ شرعیہ دوسرا امام بنانا

سوال [۲۷۶]:۱ سابقہ امام مسجد متولی کے بجائے اپنے برادر کو امام مسجد بنانا چاہتا ہے حالانکہ سابق امام سے کم علم رکھتا ہے۔ آیا جائز ہے یا ناجائز؟

ضد کی وجہ سے امام تبدیل کرنا

سوال [۲۷۷]:۲ کیا سابق امام اور سابق امام کے والد جس کو عرصہ ۶۵ سال اور سابق کے پسر جس کو عرصہ ۲۲ سال سے زائد امامت کراتے ہوئے گذرا ہو اور ان کا کوئی حق امامت اس مسجد میں نہیں رہا کیونکہ اس وقت مسجد کے تعمیر کنندہ کا خیال ہے کہ میں نے مسجد کی تعمیر صرف اس خیال پر کی ہے کہ ان میں سے کوئی شخص امامت نہ کرائے آیا۔ ایسی مسجد جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب حامداً ومصلياً:

.....۱ جب زیادہ علم والا امامت کا اہل موجود ہو تو اس کو امام بنانا افضل اور اولیٰ ہے بہ نسبت کم علم کے، گو نماز دونوں کے پیچھے درست ہے بشرطیکہ کوئی اور مانع شرعی موجود نہ ہو (۱)۔

.....۲ بلاوجہ شرعی امام سابق کو علیحدہ نہیں کرنا چاہئے (۲) اور نیت مذکورہ سے مسجد بنانا ثواب کا کام نہیں

(۱) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن الخ“۔ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۶۹، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۲۱، ۱۲۲، شركة علميه، ملتان)

(۲) ”(تنبيه) قال في البحر: استفيد من عدم صحة عزل الناظر بلا جنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف بغير جنحة وعدم أهلية“۔ (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة، أو عدم أهلية: ۳/۳۸۲، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ۵/۳۸۰، رشيديه)

بلکہ ضد ہے جو کہ گناہ ہے (۱)، تاہم اگر وہ باقاعدہ وقف اور مسجد ہے تو اس میں نماز درست ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۸/۲/۵۷ھ۔

صحیح: عبد اللطیف، مظاہر علوم، ۲۸/صفر/۵۷ھ، الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مظاہر علوم۔

ایک شخص کے ناخوش ہونے پر امام کی علیحدگی

سوال [۲۷۲۸]: کسی مسجد کے امام صاحب کو بلا کسی ظاہری سبب کے ایک آدھ آدمی کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کیا امام کو امامت سے علیحدہ کیا جاسکتا ہے جبکہ وہ شخص وجہ خلاف ہی نہ بتلاتا ہو اور امام عالم بھی ہو، گاہ بگاہ مسائل ضروری و وعظ و نصائح سے قوم کو آگاہ کرتا ہو؟ باطن کا حال اللہ کو معلوم ہے امام صاحب شکل و صورت اور لباس وغیرہ میں پابند شرع بھی ہیں۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

بلا وجہ شرعی کسی متبع سنت، صحیح العقیدہ، صحیح پڑھنے والے امام کے پیچھے اگر کوئی شخص طبعی کراہت و ناگواری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسے امام کو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ مقتدی کو تنہیم کی جائے گی (۳)۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمَهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ (سورہ البقرہ: ۱۱۴)

(۲) ”(ويزول ملكه عن المسجد والمصلى) بالفعل و (بقوله: جعلته مسجداً) عند الثانی (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه) بجماعة“۔ (الدر المختار، كتاب الوقف، قبيل مطلب في أحكام المسجد، ۳۵۵/۳، ۳۵۶، سعید)

(و كذا في مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر، كتاب الوقف، فصل: إذا بنى مسجداً لا يزول ملكه: ۷۴۷/۱، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد: ۶۱۴/۵، رشيدية)

(۳) ”استفيد من عدم صحة عزل الناظر بلا جنحة عدمها لصاحب وظيفه في وقف بغير جنحة وعدم أهلية“۔

(رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يصح عزل صاحب وظيفه بلا جنحة، أو عدم أهلية: ۳۸۲/۳، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ۳۸۰/۵، رشيدية)

وہ نہ مانے تو اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

بلاوجہ امام کی مخالفت

سوال [۲۷۹]: ایک شخص کسی موضع میں بہت مدت سے عید کی نماز پڑھاتا ہوا آرہا ہے، اب اس سال بروز عید نماز کے عین وقت پر ایک شخص باہر آ کر مخالفت ظاہر کرے، یا امام صاحب کو حقیر سمجھ کر چند اشخاص قلیل الافراد کو ساتھ لے کر دوسری جگہ میں منجانب مالک وقف - معروف بالوقف نہیں بلکہ وقف ہی نہیں - نماز پڑھاتا ہے۔ آیا مطابق مذہب امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوازِ جمعہ کے لئے مسجد یا وقف معروف بالوقف شرط نہیں، جس بستی میں جمعہ جائز ہے وہاں بغیر مسجد کے بھی جائز ہوگا، پس اگر وہ بستی بڑی ہے جس کو مصر یا قصبہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی آبادی تین چار ہزار ہے اور اس میں بازار بھی ہے اور دیگر ضروریات، فصلِ خصومات وغیرہ کا بھی بندوبست ہے تو وہاں مسجد کے علاوہ بھی کسی دوسری جگہ مالک کی اجازت سے جمعہ درست ہے:

”وفى الفتاوى الغياثية: لوصلى الجمعة فى قرية بغير مسجد جامع - والقرية كبيرة لها قري وفيها وال وحاكم - جازت الجمعة بنوا المسجد أولم بينوا، وهو قول أبى قاسم الصغار، وهذا أقرب الاقويل إلى الصواب انتهى، وهو ليس ببعيد مما قبله والمسجد الجامع ليس بشرط، ولهذا أجمعوا على جوازها بالمصلى فى فناء المصر وهو ما اتصل بالمصر معه المصالحة من ركض الخيل وجمع العساكر والمناضلة ودفن الموتى وصلوة الجنائز ونحو

(۱) قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا اسْلِمْنَا﴾ (سورة الفرقان: ۶۳)

ذلك؛ لأن له حكم باعتبار حاجة أهله إليه، وقدره محمد رحمه الله تعالى عليه بالغلو، اه“۔
کبیری، ص: ۵۰۰ (۱)۔

اور جس بستی میں ایک جگہ جائز ہے وہاں ایک جگہ سے زیادہ بھی جائز ہے: ”وتؤدی: أي الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب، وعليه الفتوى، اه“۔ در مختار (۲)۔
اور عیدین کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لئے ہیں، پس اگر کسی بستی میں جمعہ جائز ہے تو عیدین بھی جائز ہے اور عید کے لئے وقف معروف بالوقف شرط نہیں، کسی اور جگہ بھی مالک کی اجازت سے درست ہے اور ایک بستی میں دو جگہ بھی درست ہے۔

”فتجب صلوتهما (أي العیدین) فی الأصح علی من تجب الجمعة بشرائطها المتقدمة سوى الخطبة، فإنها سنة بعدها. وفي القنية: صلوة العيد فی القرى تکره تحريماً؛ لأنه اشتغال بما لا يصح؛ لأن المصر شرط الصحة، اه“۔ در مختار، ص: ۸۶۵ (۳)۔

”السنة ان يخرج الإمام إلى الجبانة، ويستخلف غيره يصلى في المصر بالضعفاء بناءً على أن صلوة العيدین فی موضعین جائزة بالاتفاق، اه“۔ شامی، ص: ۸۶۷ (۴)۔

لیکن بلا وجہ شرعی کسی کو حقیر سمجھنا بڑا گناہ ہے (۵) اور بلا ضرورت جماعت میں تفریق ڈال کر دو جگہ عید

(۱) (الحلبی الكبير، فصل فی صلوة الجمعة، ص: ۵۵۱، سهيل اكيڏمی لاهور)

(۲) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الجمعة: ۱۲۳/۲، سعيد)

(۳) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب العيدین: ۱۶۶/۲، سعيد)

(۴) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب العيدین: ۱۶۹/۲، سعيد)

(۵) قال الله تعالى: ﴿يأيتها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم﴾ (الحجرات: ۱۱)

”ينهى تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم كما ثبت في الصحيح عن

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ”الكبر بطن الحق، وغمص الناس“۔ ويروى: ”غمط الناس“۔

والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام“۔ (تفسير ابن كثير: ۲/۳، مكتبة

دار الفحاء، بيروت)

کی نماز پڑھنا بھی بُرا ہے، اس سے احتراز لازم ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۴/۱/۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۱۱/صفر/۵۶ھ۔

امام کو بُرا کہہ کر نکال دینا

سوال [۲۷۵۰]: یہاں پر ایک چھوٹی سی بستی ہے، کل ۲۴ گھر ہیں جس میں سے سات گھر بہت

خلاف ہیں، یہاں پر ایک چھوٹی بستی کے حساب ایک پرانے وقتوں کی مسجد ہے جس کے پندرہ گھر تو خوب دل

وجان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جو بھی پیش امام لا کر رکھتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو برا بھلا کہہ کر نکال

دیتے ہیں، یہ سات گھر نہ تو امام رہنے دیتے ہیں، نہ اس کی تنخواہ دیتے ہیں۔ اب اس وقت امام کی تنخواہ تین ماہ کی

چڑھ رہی ہے اور ملا ان سے کہتا ہے کہ جمعہ کی نماز تو کم از کم پڑھ لیا کرو تو کہتے ہیں کہ کوئی پابندی ہم پر نہیں، ایسا

لکھا نہیں کہ نماز پڑھو، ہماری مرضی ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور شرک و کفر تو ان کے لئے بہت اچھا لگتا ہے۔

بھجن جانا، دیوی ماتا کو پوجنا، ہونی پر ڈھب بجانا، میلے میں جانا، ایسی باتوں کو ملا روکتا ہے تو ملا کی تنخواہ

میں رکاوٹ کر کے آپس میں پھوٹ ڈال کر بہکا کر کے ملا کو پیسے نہیں ملیں گے تو بھاگ جائے گا۔ اس طرح یہاں

سے چار پانچ ملا چلے گئے، ہم پندرہ گھر ہی ان کو پیسے دیکر رکھا کرتے ہیں تاکہ رمضان شریف میں تراویح اور عید

کی نماز ہو جائے، ہم نے دو، چار لوگوں سے ان کے بارے میں بات چیت کی۔ ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ انہوں

نے ہم سے کہا کہ ان لوگوں کا حوالہ اور نام لکھوا کر دیوبند بھیجو، ان کے نام فتویٰ بھیج دیں گے شریعت کے مطابق،

ہم ان کو سنا دیں گے تو شاید ان لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اور خدا کو پہچانیں اور ایمان لے آویں تو اچھا ہے ورنہ

ان لوگوں کا حقہ پانی بند کر دیں گے۔

نہ ان کے یہاں درود و فاتحہ ہوتی ہے، سب کام ہندوؤں کے کرتے ہیں، دو آدمی سب سے زیادہ

خراب ہیں: ایک فہد، ایک سفیرا۔ یہ دو آدمی ایسے ہیں کہ انہوں نے ۹/ ملا بھگا دیئے، یہ دو آدمی پانچ گھرتیلی کے

(۱) "وقال الله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾ (آل عمران: ۱۰۳)

"قوله: ﴿ولا تفرقوا﴾ أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة

بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف". (تفسير ابن كثير: ۱/۵۱۶، دار الفحاء بيروت)

ہیں، ان کو بہکا کر اپنی طرف مائل کر کے ملا کی تنخواہ رکوا کر پھوٹ کرتے ہیں، مسجد کو ویران کر دیتے ہیں، ہم دس آدمیوں کی بس کی بات ہے نہیں جو ملا کو رکھ سکیں، چھوٹی سی بستی ہے۔ ہمارے لئے ایسے آدمیوں کیلئے موافق شرع فتویٰ دیدیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہماری مسجد میں چراغ بتی عمید و تراویح رمضان ہو جاوے گی، یہ اسلام کی بات ہے، آپ کی تعریف سن کر آپ کا سہارا لیا ہے۔

ہم جاہلوں کو راستہ بتانا آدھا کام، عمل کرنا ہمارا کام ہے، یہ سات گھر کے آدمی ہیں: فہد، سفیرا، جھوٹیا، مداری، سبحان، بنور پیا، کڑوے آدمی ہیں، ۵ گھر تیلیوں کے ہیں، ایک لوہار کا، ایک شیخ کا۔ ہم ان پانچوں آدمیوں کے لئے آپ سے فتویٰ چاہتے ہیں، انکی آنکھیں کھول دیں، آپ کے لئے ہم اللہ سے دعاء مانگتے رہیں گے، ہماری مسجد آباد رہے گی تو خدا ہم کو بھی آباد رکھے گا، یہاں پر عید کی نماز ہو جائے گی، یہ سات گھر بہت جاہل ہیں ایک کتاب دیدیں تو مہربانی ہوگی۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

جو لوگ امام کو برا کہتے ہیں تاکہ وہ تنگ آ کر چلا جائے اور مسجد ویران ہو جائے وہ بڑے ظالم گھنکار ہیں ان کو توبہ کرنا امام سے معافی مانگنا ضروری ہے (۱)۔ اور دیوؤں ماتا کے پوجنے سے تو ایمان ہی جاتا رہتا ہے (۲) ان کو کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان کیا جائے اور ان کے نکاح بھی دوبارہ پڑھائے جائیں (۳) ورنہ یہاں

(۱) قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمَهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ (سورة البقرة: ۱۱۴)

(۲) "عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال له أصحابه: يا رسول الله! هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: "لا يصلح لبشر أن يسجد بشر، ولو صلح بشر أن يسجد بشر الأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها". (الحديث) (مسند أحمد، رقم الحديث: ۱۲۲۰۳: ۳/۶۳۳، دار إحياء التراث العربی بیروت)

"فمنها أنهم كانوا يسجدون للأصنام والنجوم، فجاء النهي عن السجدة لغير الله، قال الله تعالى: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن﴾ (سورة فصلت: ۳۷)

(۳) "يؤمر بالتزوية والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرأته كذا في المحيط". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، منها ما يتعلق بتلقين الكفر قبيل الباب العاشر: بالارتداد: ۱/۲۸۳، رشيدية)

بھی وبال ہے اور ان کے لئے آخرت میں بھی جہنم ہے (۱)۔ بہتر یہ ہے کہ کسی عالم دین کے ذریعہ سے ان کو سمجھایا جائے، اگر نہ مانیں اور اپنی ضد پر قائم رہیں تو ان سے ترک تعلق کر دیا جائے، بول چال بند کر دی جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۷/۹/۹۰ھ۔

جو شخص اپنی امامت پر مصر ہو اور مقتدی نہ چاہتے ہوں اس کی امامت

سوال [۲۷۵]: بہت سے مسلمان ایک شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے لیکن وہ شخص نماز

پڑھانے پر مصر ہے، خون خرابہ کی نوبت ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ حکومت کو دفعہ ۴۴/ نافذ کر کے عید گاہ میں نماز ادا کرنے سے روکنا پڑتا ہے، اور اس شخص کی ضد پر قوم دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے، عید کی نماز دو جگہ ادا کی جاتی ہے۔ شریعت کی رو سے امام کا یہ عمل کیسا ہے؟ شرعی نقطہ سے ایسے مواقع پر امام کا کیا فرض ہونا چاہئے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس شخص میں شرعی خرابی ہو جس کی وجہ سے نماز اس کے پیچھے ادا نہ ہوتی ہو، اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی

ہے (۳)، اس بناء پر اس کے پیچھے مسلمان نماز نہ پڑھنا چاہتے ہوں پھر بھی وہ نماز پڑھانے کے لئے ضد کرے تو

(۱) قال الله تعالى: ﴿من يشرک بالله، فقد حرم الله عليه الجنة، وماؤه النار، وما للظلمين من أنصار﴾
(سورة المائدة: ۷۲)

(۲) "قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوقهما، إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجوز ذلك..... فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق." (مرقاة المفاتيح للملا علي القاري، كتاب الآداب، باب ما ينهى عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات، الفصل الأول، (رقم الحديث: ۵۰۲۷): ۵۸/۸، رشيدية)

(و كذا في عمدة القاري، كتاب الأدب باب ما ينهى عنه من التهاجر: ۲۲/۱۳۷، مطبعة خيريه، بيروت)

(۳) "ويكره إمامة فاسق من الفسق، وهو الخروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر الخ..... بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم الخ." (رد المحتار، كتاب

الصلاة، باب الإمامة، ۱/۵۴۰، سعيد)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۲۴۲، امداديه)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۱۰، رشيدية)

شرعاً اس کی اجازت نہیں، حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے اور اس کی وجہ سے جو تفرقہ پیدا ہو، اس کی ذمہ داری اس شخص پر ہے، اس کو لازم ہے کہ فوراً امامت کو ترک کر دے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرے (۱)۔ اگر اس کے اندر شرعی خرابی نہیں لیکن غلط اغراض کی وجہ سے لوگ اس کو امامت سے علیحدہ کرنا اور کسی غلط آدمی کو امام بنانا چاہتے ہوں تو وہ لوگ گنہگار اور سخت مجرم ہیں، ان کو توبہ و استغفار لازم ہے (۲)، وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں

(۱) "عن عبد الله بن عمر و رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلوة: من تقدم قوماً وهم له كارهون الخ". قال الشوكاني في "النيل": وأحاديث الباب يقوى بعضها بعضاً، فينتهضن للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماماً لقوم يكرهونه، ويدل على التحريم نفى قبول الصلاة". (بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون: ۳۳۱/۱، امداديه)

"ولوأم قوماً وهم له كارهون، إن الكراهة لفساد فيه أولاً نهم أحق بالإمامة منه، كره ذلك تحريماً، لحديث أبي داود: "لا يقبل الله صلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، سعيد)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۲۳۲/۱، امداديه)

(و كذا في التاتارخانية، كتاب الصلاة، من هو أحق بالإمامة: ۶۰۳/۱، إدارة القرآن)

(۲) "وقد سبق في كتاب الإيمان أن لها (أى التوبة) ثلاثة أركان: الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على أن لا يعود إليها أبداً. فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق..... واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة الخ". (الكامل للنووي على الصحيح لمسلم، كتاب التوبة: ۳۵۴/۲، قديمي)

"ولوأم قوماً وهم له كارهون..... وإن هو أحق، لا، والكراهة عليهم".

(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، سعيد)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۲۳۲/۱، امداديه)

"وقد قيد ذلك (أى الكراهة) جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية بسبب شرعي، فأما الكراهة لغير الدين، فلا عبرة بها. وقيدوه أيضاً بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين، ولا اعتبار بكراهة الواحد و لا اثنين والثلاثة إذا كان المؤمنون جمعاً كثيراً الخ". (بذل المجهود، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون: ۳۳۱/۱، امداديه)

اور امام سے معافی مانگیں فتنہ و تفرقہ برپا نہ کریں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱/۹۱ھ۔

مقتدیوں میں امام کے بارے میں اختلاف ہو تو کیا کیا جائے؟

سوال [۲۷۵۲]: کسی جگہ ایک مسجد ہے اور ایک امام ہے، لوگ کسی وجہ سے اٹھانوںے فیصدی اس کے خلاف ہیں اور دو فیصدی اس کے موافق، دونوں پارٹیوں میں امام کی وجہ سے زبردست فساد ہونیکا اندیشہ ہے۔ ایسے نازک دور میں امام کا اپنا کیا فرض ہے؟ اس کو اس مسجد میں رہنا چاہیے یا نہیں اور اس فساد کو جو کہ خود اس کی وجہ سے ہونا چاہتا ہے، کس طرح روک سکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اٹھانوںے فیصدی کس وجہ سے اس کے خلاف ہیں، اگر اس میں شرعی قباحت ہے تو اس کا امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، ایسی حالت میں اس کو لازم ہے کہ امامت سے علیحدہ ہو جائے، یا اس شرعی قباحت کو دور کرے۔ اگر اغراض نفسانیہ اور ذاتی کاوشوں کی وجہ سے خلاف ہیں، یا وہ اہل باطل ہیں اور امام اہل حق میں سے ہے تو خود وہ لوگ گہنگار ہیں، ان کو لازم ہے کہ ان حرکات سے باز آئیں اور امام کو راضی کریں۔ بہر حال جس شخص کی غلطی ہو اس کو تائب ہونا اور فتنہ و فساد سے اجتناب کرنا از حد ضروری ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

صحیح: عبداللطیف غفرلہ، الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مظاہر علوم سہارنپور، ۲۳/۷/۶۳ھ

امام پر مقتدی کا حکم اور اس کو ذلیل سمجھنا

سوال [۲۷۵۳]: امام پر مقتدی کو حکم کرنا اور ذلیل سمجھنا جائز ہے یا نہیں؟

(۱) ”ولو أم قوماً وهم له كارهون، إن الكراهة لفساد فيه، اولأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تحريماً لحديث أبي داؤد: ”لا يقبل الله صلوة من تقدم قوماً وهم له كارهون“. وإن هو أحق، لا، والكراهة عليهم“. (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۶۰۹/۱، رشیدیہ)

(و كذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السادس، أما الكلام في بيان من هو أحق بالإمامة:

۱/۶۰۳، ۶۰۴، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراچی)

الجواب حامدًا ومصلياً:

امام پر حکومت کرنا اور ان کو ذلیل سمجھنا ناجائز ہے (۱)، اگر امام میں کوئی بات خلاف شرع ہو تو اس کو تنہائی میں نرمی سے سمجھا دیا جائے تاکہ امام اپنی اصلاح کر لے اور امام کے ذمہ بھی ضروری ہے کہ حد شرع میں رہتے ہوئے مقتدیوں کی رعایت کرے اور جو بات اس میں خلاف شرع ہو اس سے تائب ہو جائے اور اپنی بات پر بلا وجہ ضد اور اصرار نہ کرے اور کسی کو وہ خود بھی ذلیل نہ سمجھے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

جواب صحیح ہے: عبدالرحمن غفرلہ، ۲۹/۶/۵۸ھ۔

امام کو ذلیل سمجھنا

سوال [۲۷۵۲]: امام مسجد فصلانہ پر نماز پڑھاتے ہیں، مگر بعض لوگ امام کو ذلیل غلام سمجھتے ہیں اور فقیر کہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لئے کیا حکم ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

امام کی تنخواہ یا فصلانہ دینے کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ وہ ہمارا غلام ہو گیا ہے، ہم نے اس کو خرید لیا ہے، غلط ہے، یہ خیال تکبر سے پیدا ہوتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ: ”جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا جب تک اسکو دوزخ میں جلا کر نکال نہیں دیا جائیگا، وہ جنت میں نہیں جاسکتا“ (۲)۔ امام صاحب کا احترام و اکرام لازم ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) (سیاتی تخریجہ فی المسئلة الآتیة عنوان: ”امام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا“)

(۲) ”عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا یدخل النار أحد فی قلبہ مثقال حبة من خردل من إیمان، ولا یدخل الجنة من كان فی قلبہ مثقال حبة من خردل من کبر“۔ رواہ مسلم“۔ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب الغضب، والكبر: ۲/۴۳۳، قدیمی)

(و کذا فی سنن الترمذی، ابواب البر والصلوة، باب ماجاء فی الکبر: ۱/۲۰، سعید)

(۳) قال اللہ تعالیٰ: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (سورة البقرة: ۱۲۳) =

امامت کو حقیر و ذلیل سمجھنا

سوال [۲۷۵۵]: امامت کو ذلیل نظر سے دیکھنے اور ذلیل سمجھنے اور اس کی کمائی کو حرام قرار دینے

والے لوگوں کی نماز عند اللہ مقبول ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

کسی چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شرعاً درست نہیں (۱)، یہ تکبر ہے جو کہ حرام ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ”دوزخ میں جب تک جلا کر تکبر کو نہ نکال دیا جائے گا، متکبر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا“ (۲) اور پھر امام کو حقیر سمجھنا اور ذلت کی نظر سے دیکھنا کیسے جائز ہوگا جبکہ وہ واجب الاحترام ہے (۳) اس کے پیچھے نماز کا حکم نمبر میں آچکا ہے (۴)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۲/۸۹ھ۔

= ”وإذ اثبت أن اسم الإمام يتناول ما ذكرنا ه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الراشدون، بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول ومن أوزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلاة ونحوها“۔ (أحكام القرآن للجصاص: ۱/۹۷، ۹۸، قديمی)

(۱) (سیاتی تخریجہ تحت عنوان: ”امام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا“)

(۲) قال الله تعالى: ﴿كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار﴾ (سورة المؤمن: ۳۵)

”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم“ وفي رواية: ”ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر“۔ رواه مسلم“۔ (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الآداب، باب الغضب والكبر: ۲/۴۳۳، قديمی)

”عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر“۔ رواه مسلم“۔ (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الآداب، باب الغضب والكبر: ۲/۴۳۳، قديمی)

(۳) قال الله تعالى: ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾ (سورة البقرة: ۱۲۴)

= ”وإذ اثبت أن اسم الإمام يتناول ما ذكرنا ه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الراشدون، بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول ومن أوزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلاة ونحوها“۔ (أحكام القرآن للجصاص: ۱/۹۷، ۹۸، قديمی)

(۴) تاہم نماز انکی بھی ہو جاتی ہے: ”ولو أم قوماً وهم له كارهون، إن الكراهة لفساد فيه، أولأنهم أحق بالإمامة منه، =

امام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا

سوال [۲۷۵۶]: مقتدی پیش امام کو ہر وقت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور تھوڑی سی بات پر تکرار کرنے بیٹھتے ہیں، باوجودیکہ کچھ مسئلہ سے بھی واقف نہ ہوں اور اپنی طرف سے فتویٰ نکالتے ہیں اور مسجد میں آکر بغیر شر و فساد کے کچھ مطلب نہیں۔ تو ایسے مقتدی کا کیا حکم ہے اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو کس درجہ کی؟

المستفتی: محمد عمر، پٹھان پورہ، سہارن پور، ۷/ربیع الاول/۵۸ھ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ان سب باتوں سے نماز فاسد نہیں ہوتی لیکن امام کو حقارت کی نظر سے دیکھنا (۱) اور بغیر واقفیت کے اپنی طرف سے فتویٰ دینا (۲) اور مسجد میں آکر شر و فساد کرنا کبیرہ گناہ ہے (۳)، ایسے شخص کو توبہ لازم

= کرہ له ذلك تحريماً حديث أبي داود: "لا يقبل الله صلاة من تقدم وهم له كارهون". وإن هو أحق، لا، والكراهة عليهم". (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، سعيد)

(۱) قال الله تعالى: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾. الآية.

"ينهى سبحانه تعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الكبر بطر الحق وغمص الناس". ويروى: "وغمص الناس". المراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند الله تعالى، وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له". (تفسير ابن كثير: ۳/۲۷۰، الحجرات: ۱۱)، دار الفحاء بيروت)

(۲) "وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أفتى بغير علم، كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره، فقد خانته". رواه أبو داود". (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني: ۱/۳۵، قديمي)

(۳) "وعن الحسن مرسلًا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتى على الناس زمان يكون حديثهم فى مساجدهم فى أمر دنياهم، فلا تجالسوهم، فليس لله فىهم حاجة". رواه البيهقى فى شعب الإيمان". (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساجد مواضع الصلاة، الفصل الثالث، ص: ۱۷، قديمي)

ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۳/۲/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۲/ربیع الاول/۵۸ھ۔

ذاتی عداوت کی وجہ سے امام کو گالیاں دینا

سوال [۲۷۵۷]: کسی امام کے اتفاقی مکروہ الفاظ سے اہل جماعت ناراض ہو گئے، اپنی غلطی کا

اقرار اور توبہ الی اللہ کرتے ہوئے خواستگارِ معافی ہونے سے جماعت کی ناراضگی جاتی رہی، مگر ان میں سے

۱/۳، لوگوں نے امام صاحب کو معزول کر دیا تو باقی ۲/۳، لوگ اور خود امام صاحب اس عزل پر معترض نہ ہوئے

تاکہ نامناسب فساد نہ اٹھے، مگر ادائیگی تنخواہ کی غرض سے ایک ماہ سات دن رُکنا اور رکھنا طے پایا۔ مدتِ معینہ

کے لئے دو شخصوں نے جن کی عادت شرکت جماعت الخمس کی پہلے سے نہ تھی امام مذکور کی اقتداء کو مکروہ سمجھ کر

نماز جمعہ چھوڑ دی۔

مہلتِ مذکور جب ختم ہو رہی تھی تو آخری جمعہ کے روز قبل الجمعة امام مذکور نے اہل جماعت سے کہا کہ

میرے اور آپ لوگوں کے مابین جو طے شدہ ایام میں سے صرف تین دن باقی رہ گئے ہیں، لہذا میں آپ صاحبان

کو خبردار کرتا ہوں کہ آخری دن تک میری تنخواہ ادا ہو جائے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اس خبرداری پر کسی نے

کچھ نہ کہا بلکہ خاموشی کے ساتھ سب نے اپنا اپنا راستہ لیا۔ دوسرے دن بعد نماز مغرب یہاں ناشتہ خوری میں

مشغول تھے کہ عابد علی نامی ایک شخص ایس، اے، ایس، آئی کو چند پولیس اور چند جوانوں کے ساتھ حاضر ہوا اور

شارع عام پر کھڑے ہو کر شور مچایا کہ ہمارا امام کہاں ہے؟ کسی عورت کے پیٹی کوٹ کے نیچے چھپ گیا ہوگا، نکل آؤ

کتا کہیں کا، پولیس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے ہم نمٹ لیں گے، امام نہ آسکے۔

مذکورہ بالا عابد علی کے اسلام اور نکاح کی نسبت شریعت کیا حکم دیتی ہے؟

(۱) "ولم یختلف أهل السنة وغيرهم فی وجوب التوبة علی أرباب الكبائر..... واتفقوا علی أن

التوبة من جميع المعاصی واجبة، وأنها واجبة علی الفور." (روح المعانی: ۲۸/۵۹، التحريم: ۸،

مبحث فی «یا ایہا الذین آمنوا توبوا إلى اللہ توبةً نصوحاً»، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

الجواب حامداً ومصلياً:

جب امام صاحب نے اپنی غلطی کا اقرار کر کے معافی مانگ لی تو پھر ان سے ناراض رہنا بے محل ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا ترک کر دینا غلط ہے (۱) اور جس نے امام صاحب کو گالیاں دے کر شارع عام پر شور مچایا اور سخت الفاظ کہے وہ سخت گنہگار ہے (۲)، معمولی مسلم کو بھی گالی دینا فسق ہے چہ جائیکہ امام کو (۳)، اس پر توبہ کرنا اور امام صاحب سے معافی مانگنا واجب ہے۔

یہ گالیاں دینا ذاتی عداوت کی وجہ سے ہے، اسلام یا منصب امامت کو ذلیل کرنے کے لئے نہیں، اس لئے اس کو ارتداد اور فسخ نکاح کا حکم نہیں دیا جائے گا، البتہ فسق اور کبیرہ گناہ کہا جائے گا۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۱/۹۲ھ۔

کیا امام متولی، جماعت یا مسجد کا نوکر ہوتا ہے؟

سوال [۲۷۵۸]: پیش امام یا خطیب مسجد، متولی مسجد کا کیا ملازم ہوتا ہے اور اگر متولی مسجد کا نہیں تو جماعت کا نوکر یا تابع دار کہلایا جاسکتا ہے؟ اس مسئلہ کا میں نے یہ جواب دیا کہ پیش امام نہ تو متولی کا نہ تو جماعت

(۱) قال الله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ﴾ (سورة طه: ۸۲)

”وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”إن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب اللہ علیہ“.

قال القاری تحتہ: ”أی أقرب کونہ مذنباً و عرف ذنبہ (ثم تاب) أتى بأركان التوبة من الندم والخلع والعزم والتدارك..... اهـ“ (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: ۱۶۲/۵، ۱۶۳، كتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبة، رشيدية)

(۲) ”ويخاف عليه الكفر إذا شتم عالماً أو فقيهاً من غير سبب“ (البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ۲۰۷/۵، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين: ۲۷۰/۲، رشيدية)

(۳) ”عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر“ (مشكوة المصابيح، باب حفظ اللسان، الفصل الأول، ص:

کا، نہ تو مسجد کا ملازم ہوتا ہے، بلکہ امام ایک ذمہ دار یا حاکم وقت کے قائم مقام کی حیثیت رکھتا ہے اور جو بھی پیش امام کو نوکریا ملازم سمجھے گا اس کی نماز امام کے پیچھے نہ ہوگی لیکن افسوس متولی مسجد ماننے کے لئے تیار نہیں۔ اور بتلائیں کہ ایسی حالت میں کیا امام اپنی یونین بنا سکتے ہیں؟ ازراہ کرم اس کا جواب مدلل اور تشریح کے ساتھ عنایت فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

منصب امامت ایک جلیل القدر منصب ہے جو گویا کہ نیابت رسالت ہے۔ امام کا اکرام و احترام لازم ہے، اس کو نوکری سمجھنا بہت غلط اور اس کی حق تلفی ہے، متولی حضرات اگر امام کو اپنا ملازم اور خدمتگار تصور کرتے ہیں تو ان کو اپنی اصلاح ضروری ہے اور ہرگز ایسا نہ کرے، متولی اگر بے علم ہے اور امامت کا رتبہ نہیں جانتے تو اس کو بتایا جائے (۱)۔ امام کو بھی لازم ہے کہ وہ امامت کو روٹی کھانے کا ذریعہ نہ بنائے اور اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ سے آراستہ رہے ورنہ اس کی قدر و قیمت کچھ نہیں ہوگی، اور اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔

اماموں کا یونین بنانا جیسے مل مزدوروں کی ہوتی ہے وہ نہایت غلط ہے، اگر ایسا کیا گیا تو انہوں نے اپنا موقف خود ہی تجویز کر لیا۔ امام تنخواہ کی پروا نہ کرے، نمازیوں اور تمام مخلوق سے دینی ہمدردی رکھے یعنی اخلاق سے مقتدیوں کے اصلاح اخلاق کی کوشش کرتا رہے، اگر کوئی شخص نامناسب الفاظ کہدے اس سے متاثر نہ ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ مخلوق کے قلوب میں بھی ان کی وقعت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی بلند درجہ ملے گا مگر مخلوق

(۱) قال الله تعالى: ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾. (سورة البقرة: ۱۲۴)

”فإن الإمام من يؤتم به في أمور الدين من طريق النبوة، وكذلك سائر الأنبياء أئمة - عليهم السلام - لما أئتم الله تعالى الناس من اتباعهم، والائتمام بهم في أمور دينهم، فالخلفاء أئمة؛ لأنهم رتبوا في المحل الذي يلزم الناس اتباعهم وقبول قولهم وأحكامهم، والقضاة والفقهاء أئمة أيضاً، ولهذا المعنى الذي يصلح بالناس يسمى إماماً؛ لأن من دخل في صلاته لزمه الاتباع له والائتمام به“.

وقال المصنف بعد أسطر: ”وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرناه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الراشدون بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول ومن أئتم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلوة ونحوها“ (أحكام القرآن للجصاص: ۱/ ۹۷، ۹۸، قديمي)

سے کسی وقعت و عزت کا خواہش مند نہ رہے۔ واللہ الموفق۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۷/۹۲ھ۔

متولی کا امام کو نو کر سمجھنا اور امام کا برسرِ عام اپنی تکالیف بیان کرنا

سوال [۲۷۵۹]: جدید متولی صاحب، امام صاحب پر اپنی فوقیت جتاتے ہوئے تکلیفیں دے رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ جدید متولی صاحب کا کہنا ہے کہ امام صاحب ہمارے نو کر ہیں، ہم ان پر افسر ہیں، ہماری بات کو ماننا چاہیے۔ امام صاحب نے مجبور ہو کر جمعہ کی نماز کے بعد متولی صاحب نے جو تکلیفیں دی ہیں وہ بیان کیں۔ متولی صاحب، امام صاحب پر غصہ ہوئے کہ تم کو کس نے اجازت دی تھی، بغیر اجازت کے تم نے یہ باتیں کیوں بیان کیں؟ ہم تم پر قانونی کارروائی کریں گے۔ متولی صاحب جو کہتے ہیں کیا وہ حق بات ہے، یا جو امام صاحب نے کہا وہ حق ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام کا منصب بہت بلند ہے، متولی صاحب کا امام صاحب کو اپنا نو کر سمجھنا اور ذلت آمیز معاملہ کرنا غلط ہے، ناجائز ہے (۱)، امام صاحب کو بھی اس طرح جمعہ کی نماز کے بعد مجمع میں متولی کی زیادتیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خود متولی صاحب سے دو چار بااثر آدمی کی موجودگی میں افہام و تفہیم کے طور پر اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا تذکرہ کر لیتے کہ یہ یہ پریشانی ہے، اس کو حل کیجئے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۶/۹۱ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

امام کو ملازم کہنا

سوال [۲۷۶۰]: پیش امام کو ملازم کہنا جائز ہے یا ناجائز؟

(۱) ”وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرنا، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الراشدون بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول ومن أئتم الله الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلوة ونحوها“۔ (أحكام القرآن للإمام الجصاص: ۱/۹۷، ۹۸، (سورة البقرة: ۱۲۲)، قديمی)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ملازم کہہ کر اس کی تحقیر تو بہن مقصود ہے تو یہ ناجائز ہے (۱)، امام کا احترام لازم ہے (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۱۰/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۱۰/۹۰ھ۔

جس کے دل میں امام سے نفرت ہو اس کی نماز

سوال [۲۷۶]: اگر کسی امام کی مونچھیں بڑی ہوں اور داڑھی رکھنے سے منع کرتا ہو اور ان باتوں کی

وجہ سے کسی مقتدی کو نفرت ہو تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس مقتدی کی نماز ہو جائے گی (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۷/۳/۹۲ھ۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿يَأْيِهَآ الدِّينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ (الحجرات: ۱۱)

”وقال القرطبي: ”السخرية الاستحقر والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص بوجه يُضحك منه، وقد تكون بالمحاكاة بالفعل والقول أو الإشارة أو الإيماء أو الضحك على كلام المسحور منه وجوز أن يكون المعنى: لا يحتقر بعض بعضاً، عسى أن يصير المحتقر (بصيغة المجهول) عزيزاً ويصير المحتقر ذليلاً فينتقم منه“. (روح المعاني: ۲۶/۱۵۲، (سورة الحجرات: ۱۱)، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(و كذا في تفسير ابن كثير: ۳/۲۷۰، (سورة الحجرات: ۱۱)، دار الفحاء دمشق)

(۲) تقدم تخريجه تحت عنوان: ”متولى كالملاك كونه كرسى سمحنا اور امام كا برس عام اپنى تكليف كا بيان كرنا“۔

(۳) ”وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برأ كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر“. (سنن أبى داؤد، كتاب الجهاد، باب فى الغزومع ائمة الجور: ۱/۳۵۰، امداديه ملتان) =

جس کو امام کے گناہ کا علم ہو اس کا امام کے پیچھے اقتداء کرنا

سوال [۲۷۶۲]: نعوذ باللہ زید زانی ہے، اس کا علم سوائے عمر کے کسی کو نہیں ہے، زید امام ہے عمر چاہتا ہے کہ اس کی برائی ظاہر نہ ہو اور عمر اگر اس کے اس فعل کے بعد اقتداء نہ کرے تو اس کی برائی ظاہر ہو جائے گی۔ اس بناء پر یہ اقتداء کرتا ہے تو کیا ان کا یہ ارادہ درست ہے یا نہیں؟ اگر صحیح ہے تو یوم القیامۃ میں مستحق شر ہو گا یا خیر؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

اس کو نرمی اور شفقت سے سمجھائے (۱)، نیز یہ کہ منصب امامت جلیل منصب ہے، اس کا بھی لحاظ ضروری ہے (۲)، اگر علم ہو گیا تو مقتدیوں کو بھی نفرت ہو جائے گی، خدائے تعالیٰ کا عذاب مستقل ہے۔ اگر امام توبہ کر لے تو بس کافی ہے (۳) بات آگے نہ بڑھائیں، ورنہ عمر خود نماز دوسری جگہ پڑھ لیا کرے (۴) اور

= ”وإن تقدموا جاز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ”صلوا خلف كل بر وفاجر الخ“ (تبيين

الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۳۲۶، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في بدائع الصنائع، فصل في بيان من يصلح للإمامة: ۱/۲۶۶ دار الكتب العلمية بيروت)

(۱) قال الله تعالى: ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتى هي أحسن﴾ (سورة النحل: ۱۲۵)

(۲) قال الله تعالى: ﴿قال إنى جاعلك للناس إماماً، قال ومن ذرّيتى، قال لا ينال عهدى الظالمين﴾ (سورة البقرة: ۱۲۲)

(۳) وقال تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً، يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهاناً. إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفوراً رحيماً﴾ (سورة الفرقان: ۷۰، ۶۸)

(۴) ”قال الإمام: إذا كان إمامه لحاناً، لا بأس بأن يترك مسجده ويطوف“ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب التاسع فى النوافل، فصل فى التراوىح: ۱/۱۱۶، رشيدية)

(و كذا فى فتاوى قاضى خان، كتاب الصوم، فصل فى مقدار التراوىح: ۱/۲۳۹، رشيدية)

دوسرے لوگوں پر امام کی بات ظاہر نہ کرے (۱)، یہ سب تفصیل اس وقت ہے کہ زید کے متعلق عمر کو صحیح علم ہو ورنہ محض بدگمانی کا اعتبار نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۲/۹۴ھ۔

امام پر غلط الزام لگانا

سوال [۲۷۶۳]: خلاصہ سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب ایک متقی عالم ہیں، ایک بد معاش نے ان سے گھڑی چھین لی، جب معاملہ بڑھا تو یہ الزام لگایا کہ انہوں نے مجھ سے بد فعلی کی اس لئے میں نے گھڑی چھین لی ہے، مگر امام صاحب نے حلفیہ بیان دیا کہ یہ قطعاً جھوٹ ہے، میں اس الزام سے بری ہوں۔ اور لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ شخص مختلف بہانے کر کے لوگوں کو لوٹتا رہتا ہے۔ پھر پنچائت ہوئی مگر پنچائت نے بھی مولوی صاحب کو بری رکھا، اس مردود نے کپڑے پر پانی ڈال لیا اور کہتا تھا کہ دیکھو بد فعلی کی نشانی ہے، لوگوں نے کپڑے پر ہاتھ نہیں لگایا، صرف پانی معلوم ہوتا تھا، نہ کہ مادہ نسبی۔ اس کے متعلق شرعی طور پر مولانا اس الزام سے بری ہیں یا نہیں؟

۲..... عبد الغفار نامی ایک شخص نے حضرت مولانا کو بلا تحقیق فجر کی نماز میں مصلیٰ سے ہٹا دیا۔ یہ فعل کیسا ہے اور ان کا اذان دینا کیسا ہے؟

۳..... مولانا سے بغیر معافی مانگے عبد الغفار حق اللہ اور حق العباد سے سبکدوش ہوگا یا نہیں؟

۴..... عالم کی توہین کرنا شرعاً فسق ہے یا کفر؟ اور اس گناہ کی تلافی کے لئے توبہ ضروری ہے یا نہیں؟

۵..... عالم کی موجودگی میں غیر عالم کو امام بنایا جاسکتا ہے یا نہیں؟

۶..... اسی واقعہ پر عبد الغفار کے متعلق یہ فتویٰ آیا کہ ان کا اذان دینا مکروہ ہے، اور ان پر توبہ واستغفار

(۱) ”وعن ابن شہاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه بها كربة من كرب يوم القيمة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة“، (مسند أحمد بن حنبل، (رقم الحديث: ۵۶۱۴):

فرض ہے اور انہیں مولانا موصوف سے معافی مانگنا چاہیے۔ اور اب پھر واقعہ مذکورہ کو ایک ماہ بعد از سر نو ابھارنا قابلِ سماعت ہوگا یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... اتنا بڑا جرم ثابت کرنے کے لئے اس بے شرم نے یہ بیان دیا، اور اس طرح ہرگز کافی نہیں، کپڑے کا بھیگا ہونا شرعی دلیل نہیں ہے، پھر جب اس حیا سوز بے دلیل دعویٰ کی تردید کیلئے حلفیہ بیان موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس گندے الزام کو ان پر عائد کیا جائے۔

۲..... مذکورہ بنیاد پر مصلیٰ سے ہٹانے کا ہرگز حق نہیں، ان (امام صاحب) کی اذان و امامت درست ہے (۱)، ان کو جس نے ہٹایا ہے وہ مجرم ہے اسکو توبہ کرنا چاہیے ورنہ اسکی اذان مکروہ ہوگی (۲)۔

۳..... معافی مانگنا اور اپنی غلطی کا اقرار کرنا سب کے سامنے ضروری ہے ورنہ یہ بارگردن پر رہے گا (۳)۔
۴..... عالم دین کی جو توہین اس کے علم دین کی وجہ سے کی جائے تو وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے (۴)۔
یہاں اس کی وجہ علم دین نہیں بلکہ بلا ثبوت شرعی ایک غلط فہمی کی وجہ سے کی گئی اور ان کو شرعی مجرم سمجھتے ہوئے کی گئی،

(۱) قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (سورة الحجرات: ۱۲)
(۲) "عن عبد الله بن م. عود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر". متفق عليه". (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم: ۲/۲۱۱، قديمي)

"عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده". إلى آخر الحديث. (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: ۶/۱، قديمي)

(۳) قال الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا﴾ (سورة البقرة: ۱۶)
(۴) "في النصاب: من أبغض عالماً من غير سبب ظاهر، خيف عليه الكفر، كذا في الخلاصة، ويخاف عليه الكفر إذا شتم عالماً أو فقيهاً من غير سبب". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، منها ما يتعلق بالعلم والعلماء: ۲/۳۷۰، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ۲/۲۰۷، رشيدية)

اس لئے کفر نہیں کہا جائے گا، لیکن بلا ثبوت شرعی اتنے بڑے جرم سے مجرم سمجھا ہے، یہ سخت غلطی کی ہے اور اس پر خارجی اقدام بھی کیا ہے، اس لئے یہ فسق ہے جس سے توبہ لازم ہے (۱)۔

۵..... جب عالم متبع سنت، صحیح العقیدہ موجود ہو تو اسی کو امام تجویز کیا جائے، غیر عالم کو امام نہ تجویز کیا جائے، اگرچہ نماز اس کے پیچھے بھی ادا ہو جائیگی (۲)۔

۶..... فیصلہ کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور پھر از سر نو بات کو ابھارنا ضد اور ہٹ دھرمی ہے، ہرگز ایسا نہ کیا جائے، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے بات کو وہیں ختم کر دینا چاہیے، قیامت کا بار سر پر رکھنا ناقبوت اندیشی ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۸/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۸/۸۸ھ۔

امام سے مسائل میں بحث

سوال [۲۷۶۲]: مقتدی کا یہ کہنا ہے ختہ امام اسی طرح نماز پڑھائے جس طرح ہم کہتے ہیں

(۱) قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا﴾ (سورة التَّحْرِيمِ: ۸)

”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لله أشد فرحة بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها“. قال النووي تحت هذا الحديث: ”واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة آه.“ (الصحيح لمسلم مع شرحه الكامل للنووي: ۲/۳۵۴، كتاب التوبة، قديمي)

(و كذا في روح المعاني: ۲۷/۱۵۹، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(۲) ”والأحق بالإمامة الأعلّم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً، ثم الأحسن وجهاً، اهـ.“ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو الأحق بالإمامة: ۱/۲۶۹، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، شركة علميه ملتان)

(۳) قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (سورة الأعراف: ۵۶)

تو کیا امام کے لئے ضروری ہے کہ مقتدی کے قول پر عمل کرے اور اگر امام نے مقتدی کے قول پر عمل کر لیا اور اسی طرح نماز پڑھائی تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟

۲..... اگر کوئی شخص امام کو ذلیل کرنے کے لئے سب کے سامنے اعتراضات کرے اور عقلی دلائل پیش کرے تو ایسا کرنا کیسا ہے اور امام اس کے اعتراض کا جواب دے یا نہ دے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... ایسی باتیں امام کے وقار اور منصب امامت کے منافی ہیں اس سے سب کو پرہیز کرنا چاہئے (۱)۔

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

جو شخص امام کی بات نہ مانے اس کی نماز کا حکم

سوال [۲۷۶۵]: امام صاحب تبلیغی جماعت کے اجتماع میں لوگوں کو ٹھہرنے کے لئے کہتے ہیں، بعض آدمی نہیں ٹھہرتے چلے جاتے ہیں، امام صاحب کا کہنا ہے کہ جو امام کا کہنا نہیں مانتا اس کی نماز ان امام کے پیچھے نہیں ہوتی۔ صحیح کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کی بناء پر چلا جاوے، وہاں نہ ٹھہرے تو وہاں کے فوائد کو نہیں حاصل کر سکے گا، بس اس سے زیادہ نہیں، اس امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، وہاں نہ ٹھہرنے سے اس کی نماز میں خلل نہیں آئے گا، امام صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہئے انکا کہنا غلط ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾ (سورة البقرة: ۱۲۴)

”وإذا ثبت أن إسم الإمامة يتناول ما ذكرناه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الراشدون بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول ومن ألزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلاة ونحوها“ (أحكام القرآن للجصاص: ۱/ ۹۷، ۹۸، قديمي)

متولی و امام میں ترکِ سلام و کلام بڑی محرومی ہے

سوال [۲۷۶]: دو سال سے متولی صاحب اور پیشِ امام میں دعا و سلام بالکل بند ہے، لیکن امام صاحب کے پیچھے برابر نماز ادا کرتے ہیں۔ پیشِ امام کی غیبت کرنے میں، بہتان لگانے میں اور امامت سے علیحدہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ متولی صاحب کو ایسی حرکات کرنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بڑے غضب کی بات ہے کہ دعا، سلام بالکل بند ہے (۱) فوراً دعا سلام شروع کر دی جائے۔ دوسرے لوگ دونوں کو ایک جگہ بٹھا کر کوشش کر کے دعا سلام شروع کرادیں (۲)، جو شخص ابتداء کرے گا وہ قابلِ مبارکباد ہوگا (۳)۔ امام صاحب اگر ابتداء کریں تو یہ ان کی بزرگی کے زیادہ لائق ہے، متولی صاحب اگر ابتداء کریں تو یہ ان کے لئے عین سعادت ہے۔ امام کے پیچھے نماز ادا کر کے اپنے اللہ کا حق ادا کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو درست کرتے ہیں، اس سے ناراض رہنا، سلام نہ کرنا اور اس کو ذلیل کرنا بہت بڑی محرومی اور بد قسمتی ہے (۴)۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

(۱) ”عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، فيلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام“، (صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الهجرة: ۲/ ۸۹۷، قديمي)

(۲) قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، فَأُصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوِيكُمْ﴾. (سورة الحجرات: ۱۰)

(۳) (راجع الحاشية، رقم: ۱)

(۴) قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ الآية. (الحجرات: ۱۱)
قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: ”ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم..... والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحققر أعظم قدراً عند الله تعالى، وأحب إليه من الساخر منه المحققر له“، (تفسير ابن كثير: ۳/ ۲۷۰، سورة الحجرات: ۱۱)، دار الفیحاء دمشق)

(و كذا في روح المعاني: ۲۶/ ۱۵۲، (سورة الحجرات: ۱۱)، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

امام بنانے کا حق کس کو ہے؟

سوال [۲۷۶۷]: ہمارے گاؤں میں ملان نامی ایک آدمی ہے جس کا کام ذبح، کفن و دفن کا ہے اور وہ کبھی ہر روز کی نماز اور عیدین کی نماز اور خطبہ نہیں پڑھی اور نہ پڑھائی، ایسا رہنے پر بھی وہ کہتا ہے کہ عیدین کی نماز میں پڑھانے کا حق میرا ہی ہے اور اس میں جماعت کا کوئی حق نہیں، میرا ہی واٹ ہے کر کے کلکٹر کی طرف سے فریب دیکر اپنا ہی واٹ لے کر آیا ہے، اس لئے ہم جماعت واسلے کورٹ میں کام چلانے والے ہیں کہ پیش امام جماعت کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے یا کہ ملان کی طرف سے۔ اس بات میں حدیث اور دلیلوں سے خلاصہ ثابت کر کے ان کتابوں کے نام اور صفحہ درج کر کے آپ کے دستخط مع مہر کے ذیل میں تحریر کر کے بذریعہ ڈاک ارسال فرماویں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جو ہر روز کی نماز پابندی سے نہ پڑھتا ہو وہ فاسق ہے، اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے:

”وكره إمامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يعظم بتقديمه

للإمامة، اهـ.“ مراقی الفلاح۔ ”كون الكراهة في الفاسق تحريمية، اهـ.“ طحطاوی، ص: ۱۶۵ (۱)۔

امام مقرر کرنے کا حق بانی مسجد کو ہے، پھر اس کے خاندان والوں اولاد وغیرہ کو، پھر اہل محلہ کو، لیکن امام

میں اہلیت ہونا شرط ہے:

”البانی أولى بنصب الإمام والمؤذن، وولد البانی وعشیرته أولى من غیرهم۔ بنی

مسجداً فی محلّة ونصب الإمام والمؤذن، فنازعه بعض أهل المحلة فی العمارة، فالبنی أولى

مطلقاً۔ وإن تنازعوا فی نصب الإمام والمؤذن مع أهل المحلة إن كان ما اختاره أهل المحلة

أولى من الذى اختاره البانی، فما اختاره أهل المحلة أولى، وإن كانا سواءً فمنصب البانی أولى

(۱) (مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی، کتاب الصلوة، فصل فی بیان من هو أحق بالإمامة،

ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قدیمی)

(و کذا فی الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهیل اکیڈمی، لاہور)

اھ۔ (أشباه، ص: ۱۴۱) (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۸/۱۰/۱۳۶۲ھ۔

زبردستی امام مقرر کرنا

سوال [۲۷۶۸]: ایک شخص دوسرے کو زبردستی سے امام مقرر کرتا ہے، کیا شرعاً درست ہے اور اگر

زبردستی سے امام بنایا گیا تو کیا اس کی امامت درست ہوگی اور اس کے پیچھے نماز درست ہوگی یا نہیں؟

السائل: محمد یار، عالم گڈھ، ضلع فیروز پور۔

۱۸/شعبان/۵۸ھ۔ مطابق، ۳/اکتوبر/۱۹۳۹ء۔

الجواب حامداً ومصلياً:

زبردستی امام بنانا درست نہیں، تاہم اگر امام کو کوئی شرعی عذر نہ ہو تو ایسی حالت میں اس کے پیچھے نماز

درست ہو جائے گی (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۸/۸/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۱/شعبان/۵۸ھ۔



(۱) (الأشباه والنظائر، کتاب الوقف (قاعدہ: ۴۴): ۲/۲۳۳، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، کراچی)

(و کذا فی الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الوقف، فصل: یراعی شرط الواقف فی إجارته: ۳/۴۳۰، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الوقف، الموضوع الثالث فی الناظر المولی من القاضی ینصه القاضی فی

مواضع: ۵/۳۸۹، رشیدیہ)

(۲) ”ولو أم قوماً وهم له کارهون، إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه، کره له ذلك

تحريماً لحديث أبي داود: ”لا يقبل الله صلوة من تقدم قوماً وهم له کارهون“. وإن هو أحق، لا،

والكراهة عليهم“. (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۹، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاوی التاتارخانیة، کتاب الصلوة، باب الإمامة، الفصل السادس فی بیان من هو الأحق

بالإمامة: ۱/۶۰۳، ۶۰۴، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية کراچی)

الفصل الثامن فی النيابة عن الإمام (نیابتِ امام کا بیان)

بوقتِ ضرورت بلا اجازت کسی کو امام بنانا

سوال [۲۷۶۹]: صبح یا عصر کی نماز کا وقت قریب الختم ہے اور پیش امام موجود نہیں، مکان میں آواز دینے پر بھی نہیں آئے (نہ معلوم ضرورت کی بناء پر یا سستی کی وجہ سے)۔ تو کسی پڑھے لکھے کو مقتدیوں کے آگے کرنے پر بلا اجازتِ امام امامت کرنا کیسا ہے؟

الجواب حامدًا ومصليًا:

درست ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

امامت میں کسی کو اپنا نائب بنا کر رخصت پر جانا

سوال [۲۷۷۰]: امام صاحب بعض مرتبہ ملازمت کی مجبوری کی وجہ سے باہر چلے جاتے ہیں اور امامت کے لئے دوسرا آدمی مقرر کر جاتے ہیں، تنخواہ رخصت لینا پسند نہیں کرتے۔ کیا امام صاحب اس طرح بغیر اجازت کے جاسکتے ہیں اور کیا ان کے پیچھے نماز درست ہوگی، کیا یہ فریب تو نہیں؟

الجواب حامدًا ومصليًا:

اگر وہ اپنا نائب ایسے شخص کو بنا دیتے ہیں جو امامت کے اوصاف رکھتا ہوں تو امام صاحب کو پوری تنخواہ

(۱) (راجع فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، باب الإمامة، ۲۹۹/۳، مکتبہ امدادیہ ملتان)

(وکفاية المفتی، باب الإمامة، ۸۷/۳، دارالإشاعت کراچی)

لینا درست ہے، یہ فریب نہیں، کذا فی البحر الرائق (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

امام کا بضرورت کسی کو اپنا قائم مقام بنا دینا

سوال [۱۲۷۷]: کوئی شخص کسی مسجد میں امامت کرتا ہو اور ایک ماہ کے لئے کسی وجہ سے گھر جاتا ہو اور اپنی جگہ ایک شخص کو عارضی طور پر رکھ دیا اور باہم یہ معاہدہ ہوا تھا کہ تم جب تک گھر سے نہیں آؤ گے میں تمہاری جگہ پر کام کروں گا، اس شخص کو اپنی جگہ رکھ کر چلا گیا اور کسی اہم معاملہ کے پیش نظر گھر سے تین چار روز کے بعد آئے اور گھر سے سابق امام نے عارضی کو اطلاع کر دیا کہ ”میں سخت پریشان ہوں، انشاء اللہ بہت جلد آ رہا ہوں“۔ جواب میں عارضی امام لکھے کہ ”کوئی نہیں تم اپنی پریشانی کو دیکھتے ہوئے جلد آنے کی کوشش مت کرو، میں آپ کی جگہ پر کام کر رہا ہوں“۔ تین چار روز کی تاخیر کر کے سابق امام آ جائے۔

اس کے بعد وہ عارضی امام اپنے قول سے پھر جائے اور ہٹ دھرمی پر اتر جائے کہ میں آپ کی مسجد اس حالت میں چھوڑ سکتا ہوں جب کہ ہمارے لئے کہیں مسجد کا انتظام کرو، اس کے قول کے مطابق مسجد کا انتظام بھی کر دے اس کے باوجود بھی سابق امام کی جگہ کو جبری طور پر قبضہ کر لے اور ایک دو شخص کسی وجہ سے عارضی امام کی حمایت کرے اور قبضہ جمائے رکھے اور تین چار شخصوں میں ایک دوسرے کا کافی ہمدرد و نمگسار ہو اور عارضی امام ان لوگوں میں دشمنی و انتشار پیدا کر دے حتیٰ کہ اتنا تفرقہ ڈال دے کہ ایک دوسرے کی برائی کرنے پر اتر آئیں۔ اور جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے اور طرح طرح کی برائیاں کر کے اتنا انتشار پیدا کر دے کہ فتنہ کا اندیشہ ہو تو یہ کس کی علامت ہے اور ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اور ایسے امام کا مسجد میں رکھنا کیسا ہے اور جو عارضی امام کی حمایت کرے ان کے لئے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص انگریزی بال رکھتا ہو وہ شخص وقت

(۱) ”استخلف الإمام خلیفۃ فی المسجد لیوم فیہ زمان غیبتہ، لایستحق الخلیفۃ من أوقاف الإمامۃ شیئاً إن کان الإمام أم أكثر السنة. وحاصله أن النائب لایستحق من الوقف؛ لأن الاستحقاق بالتقریر، ولم یوجد، ویستحق الأصل الكل إن عمل أكثر السنة“۔ (البحر الرائق، کتاب الوقف: ۵/۳۸۵، رشیدیہ)

(و کذا فی رد المحتار، کتاب الوقف، مطلب فی الغیبة التي یستحق بها العزل عن الوظیفۃ وما لایستحق.

ضرورت نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

ہم لوگ مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھیں اور امام وقت پر نہ آتا ہو، جب اس شخص سے وقت پر آنے کے لئے کہا جائے تو مندرجہ بالا اشخاص اس کی حمایت میں کہتے ہیں کہ کسی وقت بھی وقت پر نہ آئے تو ان کو کوئی نکال نہیں سکتا اور یہ لوگوں پر زور ڈالتا کہ سینما بین کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے امام خود مجبور کرتا ہو۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

جب قدیم امام آگیا تو عارضی امام کو مسجد چھوڑنا یعنی امامت سے علیحدہ ہونا لازم ہے، زبردستی قبضہ جمانا، چھوڑنے کے لئے کوئی بھی شرط لگانا جائز نہیں، اس کی حمایت کرنا بھی جائز نہیں (۱)۔

غلط حمایت کر کے تفرقہ ڈالنا تو بہت بڑا جرم ہے (۲)، کسی کی بدگوئی بھی گناہ ہے (۳)۔ امام صاحب کو لازم ہے کہ وقت کی پابندی کرے، اگر اتفاقیہ طور پر دیر ہو جائے تو مقتدی لوگ کسی متبع سنت کو امام بنا کر اس کے پیچھے نماز ادا کر لیں (۴)، یا امام صاحب بھی کسی اہل شخص کو اپنا نائب تجویز کر دیں، نا اہل کو امام

(۱) "عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهون الخ". (سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون: ۱/ ۹۵، امداديه ملتان)

(۲) قال الله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾ (سورة آل عمران: ۱۰۳)

وقال الله تعالى: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا﴾ (سورة الانفال: ۳۶)

(۳) "عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذى". رواه الترمذى والبيهقى فى شعب الإيمان. وفى أخرى له: "ولا الفاحش البذى". وقال الترمذى هذا حديث غريب". (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشتيم، ۲/ ۴۱۳، قديمى)

(۴) "والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن". (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص: ۵۵۷، سعيد)

(وكذا فى مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/ ۱۰۷، دار إحياء التراث العربى بيروت)

(وكذا فى الهدايه، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۱۲۱، شركة علميه ملتان)

بنا نادرست نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۶/۳/۹۱ھ۔

امام کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو نماز پڑھانے کا حق

سوال [۲۷۷۲]: امام جو مسجد میں مقرر ہوئے ہیں، کیا ان کو شرعاً پورا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی مصلے

پر کھڑے ہو سکیں اجازت دیں یا نہ دیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو امام مقرر ہو اس کی موجودگی میں کسی دوسرے شخص کو مصلے پر پہنچ کر نماز پڑھانے کی اجازت نہیں، پس

اگر کوئی آدمی کسی ایسی مسجد میں جا پہنچے جہاں روزانہ کا امام ہو اس کو چاہئے کہ روزانہ کے امام کے پیچھے ہی نماز

پڑھے، ہاں! اگر امام خود ہی اس سے امامت کی درخواست کرے تو پڑھا دے:

”ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه“۔ رواہ

مسلم۔ مشکوٰۃ شریف، ص: ۱۰۰ (۲)۔ ”واعلم أن صاحب البيت وكذا إمام المسجد الراتب

أولى بالإمامة من غيره مطلقاً: أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه“۔

كذافي الدر المختار، ص: ۳۷۵ (۳)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۷/۹۳ھ۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۷/۹۳ھ۔

(۱) ”وأما إذا استخلف للصلوة فقط لسبق حدث، فإما أن يكون بعد شروعه فيها أو قبله، فإن كان بعده فكل

من صلح للاقتداء به، يصح استخلافه، وأما إذا كان قبله بعد الخطبة فيشترط كون الخليفة قد شهد الخطبة أو

بعضها مع أهليته (قوله: للاقتداء به الخ) الاستخلاف جائز مطلقاً: أي سواء كان لضرورة أو لا كما

يعلم من عبارة مجمع الأنهر“۔ (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ۱۴۰/۲، ۱۴۲، سعید)

(۲) (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱۰۰/۱، قدیمی)

(۳) (كذافي الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۶۰۷/۱، رشیدیہ)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۲۴۰/۱، مكتبہ امدادیہ ملتان)

مقررہ خطیب امام کی موجودگی میں بلا اجازت کسی عالم کا امامت و خطابت کرنا

سوال [۲۷۷۳]: احقر حضرت مولانا انوار الحسن ہاشمی کاشاگرد اور حضرت حکیم الاسلام رحمہ اللہ

تعالیٰ سے مجاز بیعت بھی ہے، ایک عرصہ سے جامع مسجد کیوڑائی پر خدمت امامت انجام دے رہا ہے، احقر کی عین تمنا ہے کہ خدمات شرعیہ: امامت و خطابت و درسیات تاجد معلومات انجام دوں، حالانکہ احقر ملازم سرکاری دواخانہ ہے۔ تیس سالہ ملازمت میں..... اللہ کے فضل و کرم سے حضرت اقدس پیر و مرشد حکیم الاسلام اور بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے جہاں جہاں رہنا ہوا، مساجد تعمیر کروائی، ۱۲/ مدارس قائم کئے، اور متفرق طور پر بھی دینی خدمات کرتا رہا ہوں۔ اوائل عمر سے احقر حافظ ہی نہیں بلکہ اپنے دونوں بچوں کو بھی اپنے پاس تکمیل حفظ کرایا، دیگر دس بچوں کو شعبہ حفظ میں شریک کر کے چھ کی تکمیل کرائی اور باقی کی تکمیل کے لئے کوشش جاری ہے۔

احقر گورنمنٹ میں اپنی رضا سے وظیفہ پر سبکدوشی کی درخواست دے کر متفقہ رخصت پر مستقر پر کام کرتا رہا، لیکن انہی عالم صاحب کی مخالفت اور ان کے حاشیہ بردار حضرات کی مخالفت کی بنا پر کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کہ تم تبلیغی جماعت کے خلاف ہو، حالانکہ احقر پھر بھی کام چلاتا رہا، اور چلا رہا ہے، لیکن خدا کی مصلحت کہ پھر رخصت پر جانا ہو گیا، خادم زادہ عبدالغنی کے کام امامت اور مدرسہ کا سپرد کر کے جائے ملازمت پر چلا گیا۔ ہفتہ دو ہفتہ میں ایام تعطیلات میں مستقر پر آ کر مدرسہ کی نگرانی کرتا ہوں، شعبہ حفظ بھی چل رہا ہے، پرائمری شعبہ بھی چل رہا ہے۔

جب مستقر پر آتا ہوں، امامت بھی کر لیتا ہوں، لیکن یہ عالم صاحب جمعہ کے دن..... احقر کی اجازت اور خادم زادہ کی اجازت کے بغیر خطابت و امامت کر رہے ہیں دعویٰ عالم ہونے کا ہے، یہ خطابت و امامت عالم صاحب کی کیسی ہے؟ محض نزاع امت کے تحت صبر کر رہا ہوں، تحدیث بالنعمة کے تحت عرض ہے کہ احقر ہی ادارہ اصلاح المسلمین کا فارغ ہے، نظام حیدرآباد کے زمانہ کا امارت اور قضاة کا مستند ہے، نہ تو مجلس و مدرسہ نے مجھے معزول کیا، نہ استحقاق امامت کے تحت کچھ خامی ہے۔ ایسی صورت میں احقر اور خادم زادہ مستحق ہیں یا نہیں؟ یہ عالم صاحب خادم زادہ کی موجودگی میں کسی دوسرے کو امامت کی اجازت دے کر امامت کرواتے ہیں، ان کا یہ فعل کیسا ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

جس شخص کو خطیب و امام مقرر کر دیا جائے بغیر وجہ شرعی کے اس کو الگ کرنا غلط ہے (۱) اور اس کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت کے کسی عالم کا خود بخود امامت و خطابت پر قبضہ کرنا درست نہیں، غلط طریقہ ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

متولی کا امام کے علاوہ جمعہ کیلئے کسی اور کو آگے بڑھانا

سوال [۲۷۷۴]: بہ موجودگی مستقل امام صاحب جن میں تمام خوبیاں موجود ہیں حافظ، قاری، عالم، حاجی وغیرہ ایک خوش الحان آٹھ پاروں کا طالب علم، سولہ سالہ متولی مسجد کی رائے سے امام صاحب کو رسمی اطلاع دی گئی کہ آج فرزند متولی صاحب یعنی خوش الحان آٹھ پاروں کا حافظ نماز پڑھائے گا۔ نماز پڑھائی گئی، امام صاحب نے اجازت نہیں دی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کیا نماز جمعہ ادا ہوگئی کہ نہیں اور اقتداء درست ہوئی یا نہیں؟

(۱) "واستفید من عدم صحة عزل الناظر بلاجنحة عدمها لصاحب وظيفة في وقف بغير صحة وعدم أهلية". (رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب: لا يصح عزل صاحب وظيفة بلاجنحة أو عدم أهلية: ۳۸۲/۳، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الوقف: ۳۸۰/۵، رشیدیہ)

(۲) "عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..... "ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه". (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۲۳۶/۱، قديمی)

(وسنن أبي داود، باب من أحق بالإمامة: ۹۳/۱، امدادیہ ملتان)

(وسنن الترمذی، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ۵۵/۱، سعید)

"واعلم أن صاحب البيت ومثله إمام المسجد أولى بالإمامة من غيره مطلقاً، إلا أن يكون معه

سلطان أوقاضى فيقدم عليه الخ". (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۰۷/۱، رشیدیہ)

الجواب حامدًا ومصلياً:

ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا، امام صاحب خود پیش کش کرتے تو دوسری بات تھی، امامت اس حالت میں مستقل امام مذکور ہی کی مقدم تھی، تاہم اقتداء صحیح ہو کر صورتِ مسئلہ میں نماز درست ہوگئی، اب اس قضیے کو ختم کیا جائے، آئندہ احتیاط کی جائے بات کو زیادہ نہ بڑھایا جائے، ورنہ اس سے خلفشار پیدا ہوگا (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۷/۹/۸۷ھ۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عثی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۷/۹/۸۷ھ۔

نائب امام کی موجودگی میں کسی اور کی امامت

سوال [۲۷۷۵]: محلہ کے امام صاحب موجود نہیں لیکن وہ اپنا نائب کسی مقتدی کو بنا گئے، اس نائب کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو امامت کرانی کیسی ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

نائب امام کے ہوتے ہوئے دوسرے شخص کو خود امامت کیلئے آگے نہیں بڑھنا چاہئے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔

(۱) ”واعلم أن صاحب البيت ومثله إمام المسجد الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقاً، إلا أن يكون معه سلطان أوقاض، فيقدم عليه لعموم ولايتهما“. وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى عليه: ”قوله: مطلقاً: أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه، وفي التاتارخانية: جماعة أضياف في دار زيد أن يتقدم أحدهم ينبغي أن يتقدم المالك، فإن قدم واحد منهم لعلمه وكبره فهو أفضل، وإذا تقدم أحدهم جاز؛ لأن الظاهر أن المالك يأذن لضيفه إكراماً له“. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكبرية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۸۳، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۰۹، رشيدية)

(۲) (تقدم تخريجه تحت عنوان: ”متولى كإمام كعلاوه جمعه كلى كسى أوركو آگے بڑھانا“)

خادم مسجد اور مؤذن کی امامت

سوال [۲۷۷۶]: ایک پیش امام مستقل ہیں، وہ ہی صفائی کی خدمت اور مؤذن کی خدمت بھی انجام دیتا ہے، مسجد کی صفائی غسل خانہ وغیرہ کی صفائی کی اجرت الگ لیتے ہیں تو کیا ایسے امام کے پیچھے جو مؤذن بھی ہو نماز درست ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جائز ہے: "الأفضل كون الإمام هو المؤذن، الخ". درمختار: ۱/۲۶۸ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ

تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

استاد کی موجودگی میں امامت

سوال [۲۷۷۷]: ایک شخص امام، حافظ، قاری، مشروع وضع قطع میں نہایت نیک صالح، استاذ و والد

و جملہ نمازی بہت خوش، ایک دن باصرار امام صاحب نے اپنے استاذ بزرگ بعمر ۷۰ سال سے نماز مغرب پڑھوادی، دو تین مقتدیوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی (بسبب باطنی)، کہیں اور جا کر مغرب کی نماز ادا کی، بعد میں امام صاحب سے کہا کہ اپنے استاذ سے نماز نہ پڑھوایا کریں، اس کے بعد امام صاحب نے استعفاء دے دیا اور کہا کہ میری غیرت تقاضہ نہیں کرتی کہ استاذ محترم شہر کی کسی بھی مسجد میں ہوتے ہیں، ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ نماز یہی پڑھائیں، تمام شہر عزت کرتا ہے اور میں ان سے نماز کے لئے نہ کہوں، میں برابر کہوں گا، اگر یہ شرط منظور ہو تو نماز پڑھاؤں گا ورنہ نہیں۔

امام صاحب نہیں چاہتے تھے کہ بغیر میری شرط منظور کئے نماز پڑھاؤں، برادری کے لوگوں نے امام کے

(۱) (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الأذان: ۱/۴۰۱، سعید)

"إن الأفضل كون الإمام هو المؤذن، وهذا مذہبنا، وعليه كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى

عليه". (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الأذان: ۱/۴۲۳، رشیدیہ)

(و کذا فی الحلبي الكبير، فصل فی السنن، ص: ۳۸۱، سهیل اکیڈمی لاہور)

والد پر دباؤ ڈالا اور والد نے اپنی برادری کی لاج رکھتے ہوئے نہ بیٹے کی شرط کی پرواہ کی، نہ استاذ کی بے عزتی کی، اور بیٹے کو مسجد میں لے جا کر خود مصلیٰ پر کھڑا کر کے نماز پڑھوادی اور بعد میں والد نے نمازیوں سے معافی مانگی کہ بھائیو! امام صاحب سے جو کچھ غلطی ہوئی ہے اس کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، امام صاحب والد کے آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ ایسی حالت میں جب کہ استاذ کی بے عزتی کی گئی اور والد نے بھی برداشت کر لی تو ایسی حالت میں امام کو والد کی اطاعت واجب ہے یا استاذ کی بے عزتی گوارا کرے اور استاذ کا ادب و احترام ختم کر دے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

یہ تصور ہی غلط ہے کہ استاذ کی موجودگی میں شاگرد نماز پڑھا دے تو استاذ کی بے عزتی ہوگئی، خاص کر جب کہ شاگرد کی درخواست پر بھی استاذ امام ہونا پسند نہ کرے، البتہ بلا وجہ شرعی دل میں رنجش رکھنا بہت بُرا ہے (۱) امام صاحب اگر فتنہ کو ختم کرنے کے لئے والد صاحب کا کہنا مانیں اور نماز پڑھا دیا کریں تو اس میں نہ استاذ کی بے عزتی ہے اور نہ اور کوئی گناہ ہے، جو لوگ استاذ سے رنجش رکھتے ہیں ان کو دل صاف کرنا ضروری ہے۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔



(۱) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار". رواه أحمد وأبو داود".

"عن أبي خراش السلمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من هجر أخاه سنة، فهو كسفك دمه". رواه أبو داود". (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الأداب، باب ما ينهی عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات: ۲/۴۲۷، قدیمی)

الفصل التاسع في إمامة اللّحّان

(غلط خواں کی امامت کا بیان)

غلط خواں کی امامت

سوال [۲۷۷۸]: اگر کوئی پیش امام قرآن شریف غلط پڑھے تو اس کے پیچھے انجان لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی عالم کہے یہ شخص قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتا، اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو پتہ لگ گیا، اب ان لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً ومسلماً:

اگر قرآن شریف ایسا غلط پڑھتا ہے کہ جس سے معنی بگڑ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے بالکل ان پڑھ لوگوں کی جن کو تین آیتیں بھی صحیح یاد نہیں نماز درست ہے اور جس کو تین آیتیں صحیح یاد ہیں اس کی نماز درست نہیں، کسی صحیح پڑھنے والے کو امام بنانا چاہیے کہ جس سے سب کی نماز درست ہو جائے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۹/۶/۱۳۵۶ھ۔

ایضاً

سوال [۲۷۷۹]: ایک امام ہے وہ کبھی تو حروف کو صحیح ادا کرتا ہے اور کبھی غلطی کرتا ہے تو جہری نماز

(۱) ”ولا يجوز إمامة الأئمة الذي لا يقدر على التكلم ببعض الحروف إلا لئلا يفسد في القوم من يقدر على التكلم بتلك الحروف، فأما إذا كان في القوم من يقدر على التكلم بها، فسدت صلواته وصلاح القوم“۔ (الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إماماً لغيره: ۸۶/۱، رشيدية)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱ / ۵۸۱، ۵۸۲، سعيد)

(و كذا في مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوى، كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ۲۸۹، قديمي)

میں تو پتہ لگ جاتا ہے، لہذا غلطی کے موقعہ پر مقتدی اعادہ کر لیتا ہے مگر سرّی نماز میں پتہ نہیں لگتا تو اس کی اقتداء کرے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

اگر اس کو اس طرح غلط پڑھنے کی عادت ہے تو اس کے علاوہ دوسرے کو امام بنایا جائے جو بالیقین صحیح پڑھنے کا عادی ہو (۱) اور اس کے پیچھے جو نماز سرّی یا جہری پڑھی ہو تو جب تک اس میں ایسی غلطی کا علم نہ ہو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اس کی نماز کو صحیح کہا جائے گا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۲/۹/۱۳۶۲ھ۔

ایضاً

سوال [۲۷۸۰]: ہمارے یہاں ایک لڑکا پندرہ سال کا حافظ ہو گیا ہے، لیکن دینیات و مسائل سے بالکل واقفیت نہیں، نہ تو قرآن صحیح پڑھنے کی کسی مولوی حافظ قاری نے اس کی تصدیق کی ہے، ایسے لڑکے کے پیچھے تراویح پڑھنا کیسا ہے؟

(۱) ”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع الخ“ (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷، سعید)

”عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضميج يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَائَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيُؤْمَهُمْ أَقْدَمُهُمْ هَجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤْمَهُمْ أَكْبَرَهُمْ سَنًا، وَلَا تُؤْمَنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ“ أو ”بِأَذْنِهِ“ (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۱/۲۳۶، قديمي)

(وسنن الترمذی، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ۱/۵۵، سعید)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۶۹، دار الكتب

العلمية بيروت)

الجواب حامداً ومصلياً:

ابھی وقت کافی ہے، طہارت و نماز کے ضروری مسائل تعلیم الاسلام وغیرہ معتبر کتابوں کے ذریعہ اس کو پڑھادیئے جائیں اور کسی حافظ صاحب سے دریافت کر لیں کہ وہ صحیح پڑھتا ہے، یا پھر اس کے پیچھے تراویح میں قرآن کریم سن لیا جائے، صحیح نہ پڑھتا ہو تو اس کو امام نہ بنایا جائے اور ایسے شخص کے پیچھے تراویح پڑھیں جو صحیح پڑھتا ہو:

”قال الإمام: إذا كان إمامه لحاناً، لا بأس بأن يترك مسجده ويطوف، لا ينبغي للقوم أن يقدموا في التراويح الخوشخوان، ولكن يقدموا الدرست خوان“. فتاویٰ عالمگیری، ص: ۶۰ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۵/۹۲ھ۔

ایضاً

سوال [۲۷۸۱]: نماز کے اندر امام سے اگر قرأت کی اس قسم کی غلطیاں واقع ہوں کہ بجائے زیر کے زبر پڑھ جائے، یا جہاں الف ہے الف کو نہ پڑھے، یا بیچ میں لفظ کے سانس توڑ دے کہ لفظ کٹ جائے جیسے میت کی ”یاء“ کے زیر کو زبر پڑھے، یا ”فی دین اللہ“ میں الف نہ پڑھے، ”آبائنا“ میں الف نہ پڑھے بلکہ ”ابائنا“ پڑھے۔ اس قسم کی غلطیاں ہونے سے نماز صحیح ہو جائیگی یا نہیں؟ اگر صحیح ہوگی تو بلا کراہت یا با کراہت، اس شخص کو امامت کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ان مواقع میں یہ غلطیاں کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ کراہت آگئی، لیکن ہر جگہ کی غلطی کا یہ حکم

(۱) (الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراويح:

۱۱۶/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی الحلبي الكبير، کتاب الصلوٰۃ، بحث التراويح، ص: ۴۰۷، سهيل اكيڈمی، لاہور)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتارخانیہ، کتاب الصلوٰۃ، الفصل الثالث عشر فی التراويح، فی بیان القراءة فی

التراويح: ۱/۶۶۰، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیہ، کراچی)

نہیں بلکہ بعض جگہ ایسی غلطی سے نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ فساد نماز کا مدار معنی کی خرابی پر ہے (۱)۔ اگر صحیح طور پر قرأت کرنے والا امام تہج شریعت اور مسائل سے واقف میسر آ جائے تو اس کو امام بنا لیا جائے (۲) یا کم از کم اتنی مدت کیلئے دوسرا امام رکھ لیا جائے کہ موجودہ امام قرأت کی مشق کر کے صحیح پڑھنے لگے اور قواعد قرأت سے واقفیت حاصل کر لے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۳/۲/۱۳۶۴ھ۔

(۱) "فاتفقوا علی أن الخطأ فی الإعراب لا یفسد مطلقاً ولو اعتقاده کفراً؛ لأن أكثر الناس لا یمیزون بین وجوه الإعراب قال الحصکفی رحمة الله علیه: "ولو زاد کلمة أو نقص کلمة أو نقص حرفاً، أو قدمه أو بدله بأحر لم تفسد ما لم یتغیر المعنی، إلا ما یثیق تمييزه. الخ". (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۳۱، ۶۳۳، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیرية، الباب الرابع فی صفة الصلوة، الفصل الخامس فی زلة القاری: ۱/۷۹، ۸۱، رشیدیہ)

(۲) "عن إسماعیل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضمعج یقول: سمعت أبامسعود رضی الله تعالیٰ عنہ یقول لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم: "یؤم القوم أقرأهم لکتاب الله وأقدمهم قرأة، فإن كانت قرأتهم سواء، فلیؤمهم أقدمهم هجرة، اهـ". (الصحيح لمسلم، کتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۱/۲۳۶، قدیمی)

(وسنن الترمذی، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ۱/۵۵، سعید)

"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوةً وتحويلاً للقرأة، ثم الأورع. آهـ".

(تنوير الأبصار مع الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵، سعید)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلوة، فصل فی بیان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۶۹، دارالکتب العلمیة بیروت)

(۳) "وحرر الحلبي وابن الشحنة أنه بذل جهده دائماً حتماً كالأمي". وقال ابن عابدين رحمه الله تعالیٰ

عليه: "قولہ: حتماً الخ: أي بذلاً حتماً فهو مفروض عليه". (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب

الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۸۲، سعید)

ایضاً

سوال [۲۷۸۲]: ایک مسجد میں ایسا امام ہے جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے حتیٰ کہ تلفظ میں غلطی کرتا ہے، تجوید تو درکنار ہے، ایسے امام کے پیچھے ایک تجوید جاننے والے اور صحیح تلفظ ادا کرنے والے کی نماز جائز ہوگی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص ”مايجوز به الصلوة“ قرأه پر قادر نہ ہو، اس کے پیچھے اس کی نماز درست نہیں (۱)، جو ”مايجوز به الصلوة“ پر قادر ہو اس امام کو چاہئے کہ سورۃ الحمد اور کم از کم ایک سورۃ کو اتنا صحیح طور پر مشق کر لے کہ تلفظ صحیح ہو جائے جس سے نماز درست ہو سکے، جب تک ایسی مشق نہ کرے امامت نہ کرے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حرره العبد محمود غفرلہ۔

(۱) ”ولا حافظ آية من القرآن بغير حافظ لها وهو الأُمى“۔ وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى عليه: ”(قوله: بغير حافظ لها) شمل من يحفظها أو أكثر منها، لكن بلحن مفسد للمعنى لما فى البحر: الأُمى عندنا: من لا يحسن القراءة المفروضة، وعند الشافعى: من لا يحسن الفاتحة“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۷۹، سعيد)

(و كذا فى الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الصلاة، الباب الخامس فى الإمامة، الفصل الثالث فى بيان من يصلح اماماً لغيره: ۱/ ۸۶، رشيديه)

(و كذا فى حاشية الشيخ الشلبى على تبين الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۳۵۹، دار الكتب العلمية، بيروت)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۶۳۰، ۶۳۱، رشيديه)

(۲) ”(و حفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب على كل مسلم)، ويكره نقص شيئى من الواجب“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة، فصل فى بيان تأليف الصلوة إلى انتهائهم: ۱/ ۵۳۸، سعيد)

وقال العلامة الرافعى: ”(قول الشارح: ويكره نقص شيئى من الواجب): أى من حفظه أو فى

الصلاة“۔ (تقريرات الرافعى على رد المحتار، فصل فى بيان تأليف الصلوة إلى انتهائهم: ۱/ ۶۶، سعيد) =

بے علم غلط پڑھنے والے کی امامت اور مسجد میں پیشہ خیاطت

سوال [۲۷۸۳]: ہمارے گاؤں کے امام صاحب عید الفطر کی نماز پڑھا کر بخوشی اپنے گھر چلے گئے، ان کے جانے بعد امام کی ضرورت ہوئی، گاؤں میں ایک شخص کے یہاں ایک ملاعرصہ تین ماہ سے مقیم تھا جو درزی کا پیشہ کرتا ہے، نام کمالا ہے، قرآن شریف و عربی غلط پڑھتا ہے یعنی کم علم ہے، اس شخص کے اور قرہبی رشتہ دار ہیں جنہوں نے آپس میں اتفاق کر کے بغیر گاؤں والوں کے مشورہ کے اس ملا کو کہا کہ تم مسجد میں بیٹھ جاؤ اور وہیں کپڑے سیا کرو۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم ایسے نا علم آدمی کو نہیں رکھتے کسی عالم کو رکھنا چاہیے تاکہ دین کی تلقین کرے، ایسے آدمی کو نہیں رکھنا چاہیے کہ جو خود بھی واقفیت نہ رکھتا ہو۔

دوسرے جمعہ کی نماز ان کے پیچھے پڑھی گئی جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسے آدمی کو نہیں رکھتے کہ جو خود غلط پڑھتا ہے ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دوسرے آدمی کا انتظام رکھنا چاہیے، مگر جن لوگوں نے ان کو رکھا تھا اس بات کو برا سمجھا اور اس ضد پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم اسی آدمی کو امام رکھیں گے، چاہے تم ان کے پیچھے نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ اس بات سے گاؤں میں بہت زیادہ مخالفت ہو گئی ہے، مگر ملانے آج تک کسی سے نہیں کہا کہ تم سلوک کر کے رکھتے ہو تو رکھو ورنہ میں نہیں رہتا، متواتر رہ رہا ہے۔ گاؤں میں آدھے سے زیادہ آدمی مخالف ہیں مگر یہ لوگ کمزور ہیں غریب ہیں اور جن آدمیوں نے رکھ رکھا ہے اچھی حالت میں ہیں اور پوری ضد پر تلے ہوئے ہیں، دوسرے یہ آدمی ایک ذات کے ہیں اس واسطے انہیں زعم ہے۔

مخالفوں نے کہا اگر ہم ملا کے ساتھ ضد کرتے ہیں تو تم کسی عالم کو بلا کر امتحان کر لو، اگر وہ یہ کہے کہ یہ صحیح پڑھتا ہے تو رکھنا ورنہ نکال دینا، صحیح پڑھنے والے کے پیچھے ہم بخوشی نماز پڑھیں گے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں بلاتے اور تمہارے لئے غلط پڑھتا ہوگا ہمارے واسطے تو یہی قاری ہے، کیونکہ وہ سب آدمی جاہل، علم دین سے بالکل ناواقف ہیں، کوئی بچہ آج تک بھی واقف نہیں ہے۔ دوسرے فریق میں چند آدمی دین کی باتوں سے کچھ واقف ہیں اور نمازی بھی زیادہ ہیں دوسرے فریق کے مقابلہ میں۔ شریعت ایسے امام کو مسجد میں رہنے کی اجازت دیتی ہے یا

= (و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ: ۱/۵۹۲، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ: ۱/۲۳۱، امدادیہ ملتان)

نہیں؟ اگر امام صاحب الگ ہو جائیں تو گاؤں کی مخالفت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، صرف انہیں کا یہ مبارک اثر ہو رہا ہے۔

المرقوم نور محمد، عبدالغنی مقام، ڈاکخانہ سہنسیپور، ضلع دہرہ دون۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص قرآن غلط پڑھتا ہے جس سے معنی خراب ہو جاتے ہیں اور صحیح نہیں پڑھ سکتا اس کی امامت ناجائز ہے، اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو ملا مذکور کو امامت سے علیحدہ کر کے دوسرے صحیح پڑھنے والے امامت کے اہل کو امام مقرر کرنا ضروری ہے (۱)، جو لوگ غلط پڑھنے والے کی امامت پر باوجود مسئلہ معلوم ہونے کے اصرار کرتے ہیں اور صحیح پڑھنے والے امامت کے اہل کے موجود ہوتے ہوئے اس کو امام نہیں بناتے وہ گنہگار ہیں، ان کو اپنے اصرار سے رکنا اور توبہ کرنا ضروری ہے (۲)۔ اگر ملا مذکور کو علیحدہ کرنا دشوار ہو اور اس میں فتنہ اور تفرقہ ہوتا ہو تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس ملا کو چند سورتیں صحیح یاد کرا دیں اور ضروری روزمرہ کے پیش آنے والے نماز کی صحت و فساد کے مسائل بھی سکھا دیں (۳) اور آپس میں جھگڑا اور تفرقہ نہ ڈالیں کہ یہ بہت خرابی کی چیز ہے (۴)۔

(۱) "عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضمعة يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَائَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيُؤْمَهُمْ أَقْدَمَهُمْ هَجْرَةً. اهـ". (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۲۳۶/۱، قديمي)

"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، اهـ". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۷/۱، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع للكاساني، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۶۶۹/۱، دار الكتب العلمية بيروت)

(۲) "ولو قدموا غير الأولى، أسأوا بلا إثم". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۰۹/۱، رشيديه)

(۳) "إن للامة خلع الإمام وعزله بسبب يوجب مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها، وإن أدى خلعه إلى فتنه، احتمال أدنى المضرتين". (رد المحتار، كتاب الجهاد، باب المرتد: ۲۶۳/۳، سعيد)

"عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". رواه ابن ماجه". (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني: ۳۴/۱، قديمي)

(۴) قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (سورة آل عمران: ۱۰۳) =

اگر ملا بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں واقعی قرآن شریف غلط پڑھتا ہوں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اس کو امامت کرانا سخت گناہ ہے (۱)، تمام نمازیوں کا بار اس کے ذمہ رہے گا، اس لئے خود چاہیے کہ امام نہ بنے۔ اگر دوسرے لوگ جبراً وقہراً امام بنائیں اور اسے انکار ممکن نہ ہو تو اسے چاہیے کہ سب مقتدیوں سے کہہ دے کہ میں قرآن شریف غلط پڑھتا ہوں جس سے سب کی نماز فاسد ہو جاتی ہے تم سب بھی گناہ گار ہوتے ہو اور میں بھی گنہگار ہوتا ہوں، یا تو مجھے بالکل امام مت بناؤ، یا میں پہلے چند سورتیں صحیح کر لوں تا کہ نماز صحیح ہو سکے اس کے بعد امام بنانا۔

مسجد میں بیٹھ کر اجرت پر سینا بھی ناجائز ہے، مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ بیٹھ کر سینا چاہیے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

اگر اس کے غلط پڑھنے کی چند مثالیں بیان کر دی جائیں تو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ ایسی غلطی سے نماز صحیح ہوتی ہے یا فاسد۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ذی الحجہ/۱۳۵۶ھ۔

الفاظ کو درست نہ پڑھنے والے کی امامت

سوال [۲۷۸۲]: جو شخص قرأت صاف صحت کے ساتھ نہ پڑھا سکے یعنی ”ا“ اور ”ع“، ”ت“ اور ”ط“، ”ث“، ”س“ اور ”ح“ اور ”ہ“ اور ”ض“، ”ذ“، ”ز“، ”ظ“ میں فرق نہ کرے تو ایسے امام کی اقتدا کرنی درست ہے یا نہیں؟ اور اگر بعض لوگ بستی والے ایسے امام کو رکھیں تو ان کا گناہ امام پر یا بستی والوں پر ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اس سے بہتر مسائل سے واقف، قرآن صحیح پڑھنے والا، متبع سنت ہے تو اس کو امام بنانا چاہیے اور

= وقال اللہ تعالیٰ: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فِيهِ لِيَكُونَ لِلرَّعِيَّةِ مَثَلًا لِّبِئْسَ الْأُمَّةَ الْكَافِرِينَ﴾ (سورة الأنفال: ۴۶)

(۱) ”ولا تصح صلاته إذا أمكنه الاقتداء بمن يحسنه أو ترك جهده أو وجد قدر الفرض مما لا يثغ فيه“.

(الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۸۲، سعید)

امام مذکور کو امامت سے علیحدہ کر دیا جائے (۱) بشرطیکہ اس میں فتنہ نہ ہو (۲)۔ اگر اس سے بہتر امامت کے لائق دوسرا شخص موجود نہ ہو بلکہ سب اسی طرح پڑھنے والے ہیں تو پھر اس کی امامت میں بھی مضائقہ نہیں (۳) لیکن تصحیح حروف کی کوشش بہر حال لازم ہے، جس کا تارک گنہگار ہے (۴)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔

(۱) ”عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضممعج يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُ هُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سِوَاءً، فَلْيُؤْمَهُمْ أَقْدَمُهُمْ هَجْرَةَ الْخ“. (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۲۳۶/۱، قديمی)

(وسنن الترمذی، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ۵۵/۱، سعید)

”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع“. (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۵۷/۱، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۶۶۹/۱، دار الكتب العلمية بيروت)

(۲) ”إن للأمة خلع الإمام وعزله بسببٍ يُوجبُه، مثل أن يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وعلائها، وإن أدى خلعه إلى فتنةٍ احتمل أدنى المضرتين. اهـ“. (رد المحتار، كتاب الجهاد، باب البغاة: ۲۶۳/۳، سعید)

(۳) ”هذا إن وجد غيرهم، وإلا فلا كراهة“. (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۲/۱، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۱۱/۱، رشيدية)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۲۳۴/۱، امداديه ملتان)

(۴) ”وحرر الحلبي وابن الشحنة أنه بذل جهده دائماً حتماً كالأمي“. وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى عليه: ”(قوله: حتماً الخ): أي بذلاً حتماً فهو مفروض عليه“. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۸۲/۱، سعید)

غیر پابندِ شرع، غلط خواں اور سزا یافتہ کی امامت

سوال [۲۷۸۵]: ہماری مسجد کے امام صاحب قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتے ہیں جبکہ قاری قرآن کیلئے قواعدِ تجوید سے واقفیت ضروری ہے، وہ بالکل خلاف تجوید پڑھتے ہیں، اکثر مجہول پڑھتے ہیں اور تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، حرف بدل دیتے ہیں جیسے ﴿عین الیقین﴾ کی جگہ ”این الیقین“۔ کیا ایسے حروف کے بدلنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ چند حضرات ان کے پیچھے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں جو کہ فتنہ بازی و پارٹی قائم ہونے کا سبب ہے۔ امام صاحب میں پابندیِ شرع نہیں ہے، وہ جب امامت سے الگ ہوتے ہیں تو پابندیِ جماعت تو بڑی چیز ہے پابندیِ نماز بھی نہیں کرتے، گھر میں پردہ نہیں ہے، بیوی رفع حاجت کے لئے جنگل جاتی ہیں۔ امام صاحب ناظرہ خواں ہے، مسائل نماز سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں۔ جو شخص قانون کی خلاف ورزی کر کے ایک مدت جیل میں رہا ہو اس کی امامت کا شرعاً کیا حکم ہے؟ اگر اس شخص کے مقابلہ میں کوئی فنِ تجوید سے واقف ہو، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور سے سند یافتہ ہو اور حافظ بھی ہو تو پھر کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام ایسے شخص کو مقرر کرنا چاہیے جو صحیح العقیدہ ہو، قرآن کریم صحیح پڑھتا ہو، مسائل طہارت اور نماز سے واقف ہو، پابندِ شریعت و متبعِ سنت ہو، اخلاقِ فاضلہ سے متصف ہو (۱)۔ موجودہ امام کی جو غلطیاں سوال میں لکھی ہیں ان میں سے بعض ایسی بھی ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جیسے سورة القارعة میں ﴿ثقلت موازينه﴾ پر

(۱) ”عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضميج يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَةٌ تَهُمُّ سِوَاءَ فَلِيَوْمِهِمْ أَقْدَمَهُمْ هَجْرَةً، آه“ (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۲۳۶/۱، قديمي)

(وسنن الترمذی، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ۵۵/۱، سعید)

”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً، ثم الأحسن وجهًا“ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۵۷/۱، سعید)

﴿فأمة هاوية﴾ کا مرتب کرنا (۱)۔ فن تجوید اور قواعد عربیہ سے متعلق جو غلطیاں لکھی ہیں عموماً فقہاء ان کی وجہ سے نماز فاسد قرار نہیں دیتے (۲)، لیکن جب دوسرا آدمی اوصاف امامت سے متعلق موجود ہو تو اس کو ہی امامت کیلئے کیوں نہ تجویز کر لیا جائے (۳)، مگر اس کا خیال رہے جو کچھ کیا جائے للہیت سے کیا جائے، کسی دوسرے جذبہ سے نہ ہو اور باہمی مشورہ سے کیا جائے تاکہ فتنہ برپا نہ ہو (۴)۔

(۱) ”أما إذا غيّر المعنى بأن قرأ: ”إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب خالدین فیہا أولئک ہم خیر البریة“ تفسد عند عامة علمائنا، وهو الصحيح، وكذا في الخلاصة“۔ (الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلوة، الباب الرابع فی صفة الصلوة، الفصل الخامس فی زلة القاری، و منها ذکر آية مکان آية: ۸۰/۱، رشیدیہ کوئٹہ)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتارخانیة، کتاب الصلوة، الفصل الثانی فی فرائض الصلوة و واجباتها، الفصل الرابع فی ذکر آية مکان آية: ۲۸۵/۱، إدارة القرآن کراچی)

(و کذا فی المحيط البرہانی فی الفقه النعمانی، کتاب الصلوة، الفصل الرابع فی کیفیتها، فرع فی ذکر آية مکان آية: ۳۷۲/۱، غفاریہ کوئٹہ)

(۲) ”فاتفقوا علی أن الخطأ فی الإعراب لا یفسد مطلقاً ولو اعتقاده کفراً؛ لأن أكثر الناس لا یتمیزون بین وجوه الإعراب“۔ (ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة، مسائل زلة القاری: ۶۳۱/۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلوة، الباب الرابع فی صفة الصلوة، الفصل الخامس فی زلة القاری، و منها ذکر آية مکان آية: ۸۱/۱، رشیدیہ)

(۳) ”والأحق بالإمامة الأعلّم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوةً وتجویداً للقرآنة، ثم الأورع، ثم الأسن. آه“۔ قال ابن عابدين رحمه الله تعالى عليه: ”ومعنى الحسن فى التلاوة أن يكون عالمًا بكيفية الحروف

والوقف وما يتعلق به، فهستانى“۔ (الدرالمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۷/۱، سعید)

(۴) قال الله تعالى: ﴿وَأمرهم شورى بينهم﴾ (سورة الشورى: ۳۸) ”عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”أتدرون أى الأعمال أحب إلى الله تعالى“؟ قال

قائل: الصلوة والزكوة، وقال قائل: الجهاد. قال النبى صلى الله عليه وسلم: ”إن أحب الأعمال إلى الله الحُبّ فى الله والبغض فى الله“۔ رواه أحمد. وروى أبو داود الفصل الأخير“۔ (مشكوة المصابيح،

کتاب الآداب، باب الحب فى الله ومن الله: ۲/۲۲۷، قديمی)

قلوب کا حال اللہ پاک کو خوب معلوم ہے (۱)، مجرم اگر سزا پا کر اپنی اصلاح کر لے تو اس کو ہمیشہ کیلئے مجرم قرار دینا اور اس کے ساتھ مجرم جیسا معاملہ کرنا اور اس کو عار دلانا درست نہیں، اس پر حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے وہ یہ کہ ”جو شخص ایسے آدمی کو عار دلانے کا مرنے سے پہلے خود اس کو بھی اس جرم میں مبتلا ہونا پڑے گا“ (۲)۔ نستغفر اللہ۔

بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ امام صاحب سے درخواست کی جائے کہ آپ کا یہ منصب امامت (جلیل القدر) منصب ہے، آپ قرآن کریم صحیح کر لیں تاکہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو، سارے مقتدیوں کا بوجھ امام کے سر ہوتا ہے اور جو بھی باتیں قابل اصلاح ہوں ان کی بھی اصلاح کریں، اس مقصد کیلئے آپ چھٹی لے لیں، پھر بعد اصلاح اپنی جگہ واپس آ جائیں، اگر امام صاحب تسلیم کر لیں تو بہتر ہے ورنہ آداب و احترام کے ساتھ ان کو سبک دوش کر کے دوسرے آدمی کو جس میں اوصاف امامت موجود ہوں امام تجویز کر لیا جائے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۹/۹۵ھ۔

لحن خفی کرنے والے کی امامت

سوال [۲۷۸۶]: زید جامع مسجد شریف میں امام اور خطیب ہے نیز طرہ باز ہے، صافہ کے بالائی طرہ

(۱) قال اللہ تعالیٰ: ﴿واللہ علیہم بذات الصدور﴾. (سورة آل عمران: ۱۵۴)

(۲) ”وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما..... فقال: ”یامعشر من أسلم بلسانہ ولم یفرض الایمان إلی قلبہ! لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عورتہم، فإنہ من یتبع عورة أخیه المسلم، یتبع اللہ عورتہ، ومن یتبع اللہ عورتہ فافضحہ ولو فی حوف رحلہ“. (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب: ۷/۷۷۵، رشیدیہ)

(۳) ”لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة“. ”والأصل أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله، يثبت له حق الفسخ“. (شرح المجلة للشيخ سليم رستم الباز، الكتاب الثاني في الإجارة، الفصل الأول في مسائل ركن الإجارة، (المادة: ۴۴۳): ۲۲۹/۱، مكتبة حنفيه كوئٹہ)

کو نکال کر رکھتا ہے (۱) قرأت میں بعض آیات کو غیر معمولی طور پر بہت طول دیکر پڑھتا ہے اور اس کو وہ اپنی خوش الحانی پر محمول کرتا ہے جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ کے الف کو بہت لمبا کرتا ہے الگ کی صورت میں لے جاتا ہے اور ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ کے ”علیہ“ کو بہت لمبا کرتا ہے اور ﴿وَالضَّالِّينَ﴾ امین کو مختصر کر دیتا ہے۔ غرض قرأت میں اکثر حروف کو بلا ضرورت طول دیکر راگ کی صورت میں کرتا ہے ایسی صورت میں امام کی اقتداء میں نماز جائز ہے؟ اگر علمائے کرام اس کی کراہت کا فتویٰ صادر فرمائیں تو کراہت کی تشریح ضرور فرمائی جائے۔ بواب سے جلد سرفراز فرمایا جائے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امام تمام نمازیوں میں ایسا ہونا چاہئے کہ جو سب سے زیادہ مسائل نماز سے واقف، قرآن کریم صحیح پڑھنے والا ہو، متبع سنت ہو (۲)، اگر مسائل نماز سے واقف نہ ہو، قرآن کریم غلط پڑھتا ہو، پابند سنت و شریعت نہ ہو تو ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے (۳)۔

صورت مسئلہ میں امام کی جو غلطیاں تحریر کی ہیں وہ لحن خفی کے درجہ میں ہیں جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی، خفیف کراہت پیدا ہوتی ہے، بہتر یہ ہے کہ امام صاحب کسی صحیح پڑھنے والے قاری صاحب سے کچھ مشق کر لیں۔ قرآن کریم کو گا کر راگ کے ساتھ گانے کے قواعد کے موافق پڑھنا جائز نہیں، خوش الحانی کے ساتھ تمام حروف کو مخارج سے ادا کرنا اور اخفاء، اظہار، ادغام، مد وغیرہ کی رعایت کرتے ہوئے قواعد تجوید کے موافق

(۱) ”طرہ: زلف کا کل، سر کے بالوں کی لٹ..... پگڑی کے اوپر کا سہرا جو اٹھا رہتا ہے..... طرہ باز: اکڑنے والا، وہ شخص جو پگڑی پر طرہ لگائے۔“ (فیروز اللغات، ص: ۸۷۷، فیروز سنز، لاہور)

(۲) ”والأحق بالإمامة الأعلّم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوةً للقرآءة، ثم الأورع..... ثم الأسن الخ.“ (تنویر الأبصار مع الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۷)

(وایضاً سیاتی تخریجہ تحت عنوان: ”جوق اورک صحیح ادا نہ کرے اس کی امامت“۔)

(۳) ”ویکره إمامة عبد و أعرابي و فاسق..... ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر و الزانی و أكل الربوا الخ.“ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، سعید)

(وایضاً بعض تخریجہ تحت عنوان: ”غیر مجود کی امامت“)

پڑھنا مطلوب و ثواب ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

اگر معمولی اشباع ہوتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، جیسا کہ مفتی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اور اگر الف یا واو میں ایسا کے علاوہ بھی اشباع کرتے ہیں جیسے نعبد، الحمد وغیرہ میں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے (۲)۔

سعید احمد غفرلہ، ۱۹/صفر/۱۳۶۶ھ۔

جو شخص ”ق“ اور ”ک“ صحیح ادا نہ کرے اس کی امامت

سوال [۲۷۸۷]: اگر ایک شخص حافظ ہے مگر وہ مخارج اچھی طرح ادا نہیں کر سکتا مثلاً: ”ق“، کی جگہ، ”ک“، اور ”ك“، کی جگہ ”ق“، پڑھ جاتا ہے اور بعض جگہ ”ق“، کی جگہ ”قسی“، بھی پڑھ دیتا ہے اور وہ اپنے مخارج درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ جب کہ وہ ”مقابر“ کی جگہ ”مکابر“ اور ”يقدر الليل“ کی جگہ ”یکدر الليل“ پڑھ جاتا ہے، ”مستقیم“ کی جگہ ”مستکیم“، علیٰ ہذا القیاس جن سے معنی بدلنے کا خوف ہوتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

اگر اس سے بہتر شخص امامت کے لائق، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والا موجود ہو تو اس غلط پڑھنے والے کو

(۱) (راجع الحاشیة الآتیة)

(۲) ”وإن كان الإلحان لا یغیر الكلمة عن وضعها، ولا یؤدی التغنی بہا إلى تطویل الحروف التي حصل التغنی بہا، حتی لا یصیر الحرف حرفین، وذلك مستحب عندنا فی الصلوة و خارج الصلوة، وإن كان یغیر الكلمة عن وضعها، یوجب فساد الصلوة؛ لأن ذلك منہی عنہ، وإنما یجوز إدخال المد فی حروف المد واللين، وهي الهوائية والمعتلة نحو الألف والواو والياء..... وفي الخانية: والإلحان فی حروف المد واللين لا یغیر إلا إذا فحش.“ (الفتاوی التاتارخانية، کتاب الصلوة، الفصل الثالث فی فرائض الصلوة اہ، الفصل السادس عشر فی التغنی بالقرآن والالحان: ۱/۵۰۰، إدارة القرآن کراچی)

(و کذا فی المحيط البرہانی فی الفقہ النعمانی، کتاب الصلوة، الفصل السادس عشر فی التغنی والإلحان: ۱/۳۸۵، المكتبة الغفاریہ کوئٹہ)

امام بنانا درست نہیں، اس کو علیحدہ کر کے دوسرے کو امام بنایا جائے (۱) کہ مخارج صحیح نہ ہونے کی بناء پر معنی بگڑ کر نماز فاسد ہونے کا قوی اندیشہ ہے اور اس کے ذمہ واجب ہے کہ مخارج کی تصحیح میں کوشش کرے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

امام کی قرأت اگر سمجھ میں نہ آئے، اس کی امامت

سوال [۲۷۸۸]: جس شخص کا قرآن پاک مقتدیوں کی سمجھ میں نہ آتا ہو کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، نیز آیات صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط؟ تو کیا ایسا شخص بھی اس بارِ عظیم کے اٹھانے کا مستحق سمجھا جائے گا یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مقتدی کم فہم ہیں یا امام نااہل ہے، پہلی صورت میں نماز ٹھیک ادا ہو جائے گی (۳) دوسری صورت میں

(۱) "عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضمعج يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيُؤْمَرْهُمْ أَقْدَمَهُمْ هَجْرَةً، آهـ". (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۱/ ۲۳۶، قديمي)

(وسنن الترمذی، باب من أحق بالإمامة: ۱/ ۵۵، ایچ، ایم، سعید)

"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، اهـ". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۷، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع للکاسانی، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۱/ ۲۶۹، دار الكتب العلمية بيروت)

(۲) "وحرر الحلبي وابن الشحنة أنه بذل جهده دائماً حتماً كالأمي". وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: "قولہ: حتماً: أي بذل حتماً، فهو مفروض عليه". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۸۲، سعید)

(۳) اسلئے کہ امام میں امامت کی اہلیت موجود ہے۔

کراہت کے ساتھ ہوگی، بشرطیکہ کوئی مفسدِ صلوة پیش نہ آئے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔

غیر مجبوری کی امامت

سوال [۲۷۸۹]: تجوید کے ساتھ نماز نہ پڑھانے والے اور ڈاڑھی کتروانے والے کے پیچھے
باشرع اور مکمل و معمولی تجوید کے ساتھ قرآن ادا کرنے والے کا نماز ادا کرنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسے شخص کو امام بنانا مکروہ ہے (۲)، لیکن نماز اس کے پیچھے بھی ہو جائے گی جب تک اس سے کوئی چیز
مفسدِ صلوة صادر نہ ہو (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود وغفرلہ۔

(۱) ”والأحق بالإمامة تقديماً بل نصباً..... الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه
للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع“.

” (قوله ثم: الأحسن تلاوةً وتجويداً) أفاد بذلك أن معنى قولهم: اقرأ: أي أجود لا أكثرهم حفظاً
وإن جعله في البحر متبادراً، ومعنى الحسن في التلاوة أن يكون عالماً بكيفية الحروف والوقف وما يتعلق
بها، قهستاني“ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۷، ۶۰۸، رشیدیہ)
(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۷، دار إحياء التراث
العربی بیروت)

(۲) ”وكره إمامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين، فتجب إهانتة شرعاً فلا يعظم بتقديمه للإمامة“.
..... اهـ“ (مراقی الفلاح، كتاب الصلاة، فصل في بيان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۲، ۳۰۳، قديمی)

(و كذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، مكتبه شركة علمیه، ملتان)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربی،
بیروت)

(۳) ”وإن تقدموا، جاز لقوله صلى الله عليه وسلم: ”صلوا خلف كل بر وفاجر“ (تبيين الحقائق، كتاب =

امام کے لئے قواعد تجوید کی رعایت

سوال [۲۷۹۰]: اگر کسی کی ادائیگی مع جمیع صفات کے نہیں ہوتی حالانکہ وہ حتی الامکان کوشش کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے اور یقین بھی ہے کہ باقاعدہ تجوید ادا کر رہے ہیں مگر مقتدیوں کو ٹھیک سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اس سے بہتر امامت کے لائق قواعد تجوید کی رعایت کرنے والا دوسرا شخص موجود ہو تو اس کی امامت اولیٰ ہے اور نماز شخص مذکور کے پیچھے بھی درست ہے جب تک نماز میں کوئی مفسدِ صلوة غلطی نہ کرے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۹/۳/۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۲۹/۳/۵۶ھ۔

صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۹/۳/۱۳۵۶ھ۔

= الصلوة، باب الإمامة: ۳۴۶/۱، دار الکتب العلمیة بیروت

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلاة، فصل فی بیان من یصلح للإمامة: ۲۶۶/۱، دار الکتب العلمیة بیروت)

(و کذا فی مجمع الأنهر، کتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤکدة: ۱۰۸/۱، دار إحياء التراث العربی، بیروت) (۱) "عن إسماعیل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضمیع يقول: سمعت أبا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقول لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمَهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَائَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيُؤْمَمَهُمْ أَقْدَمَهُمْ هَجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيُؤْمَمَهُمْ أَكْبَرَهُمْ سَنَاءً، وَلَا تُؤْمَمَنَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ" أَوْ "يَأْذَنُ". (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۲۳۶/۱، قديمي)

(وسنن الترمذی، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ۵۵/۱، سعید)

"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة ثم الأحسن تلاوةً وتجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم

الأسن اهـ". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۷/۱، سعید)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلاة، فصل فی بیان من هو أحق بالإمامة: ۲۶۹/۱، دار الکتب العلمیة بیروت)

سورہ فاتحہ میں سات جگہ سکتہ کرنے والے کی امامت

سوال [۲۷۹۱]: ایک شخص صف اول میں بیٹھنے کے باوجود تکبیر اولیٰ کی پرواہ نہیں کرتا، تسبیحات میں لگا رہتا ہے اور سورہ فاتحہ میں سات جگہ سکتہ کرتا ہے، نیز امام قاعدہ اخیرہ کتنا ہی طویل کرے امام کے بائیں جانب سلام پھیرنے کے بعد دائیں جانب سلام پھیرتا ہے۔ ایسے شخص کو امامت کیلئے متعین کرنا جائز ہے یا نہیں، باکراہت جائز ہے یا بلاکراہت؟

الجواب حامدًا ومصليًا:

جب وہ امام بنے گا تو کیا پھر بھی تکبیر اولیٰ کی پرواہ نہیں کرے گا اور اس کی صورت کیا ہوگی، سورہ فاتحہ میں سکتہ ثابت نہیں، ہاں! سات جگہ آیت ہے (۱)، سلام میں بھی امام کا اتباع کیا جائے (۲)۔ تاہم یہ امور ایسے نہیں کہ ان کی وجہ سے امامت مکروہ ہو اور جب امام بنے گا تو کیا پھر بھی سلام میں اتنی تاخیر کرے گا اور اس کی صورت کیا ہوگی یعنی پہلا اور تیسرا حال اس کا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند، ۲۴/۴/۸۹ھ۔



(۱) قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ (سورة الحجر: ۸۷)

”والقول الثاني: إنها الفاتحة، وهي سبع آيات: وروى ذلك عن علي وعمر وابن مسعود وابن

عباس رضي الله عنهم“. (تفسير ابن كثير: ۲/۷۳۵، دار الفحاء دمشق)

(وكذا في تفسير روح المعاني: ۱۴/۷۸، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۲) ”ولو سلم والمؤتم في أدعية التشهد تابعه؛ لأنها سنة، والناس عنه غافلون“. (الدر المختار، كتاب

الصلوة، فصل في بيان تأليف الصلوة: ۱/۴۹۶، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمية، كتاب الصلوة، الفصل السادس فيما يتابع الإمام وفيما لا يتابعه: ۱/۹۰، رشيدية)

(وكذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۱/۲۹۹، دارالكتب العلمية، بيروت)

الفصل العاشر فی اقتداء الحنفی بالشافعی وغیره (غیر حنفی کی اقتداء کا بیان)

احناف کی نماز عیدین شوافع کے پیچھے

سوال [۲۷۹۲]: در نماز عیدین اگر امام شافعی المذهب باشد، مقتدیانِ احناف کہ فردایشان نماز عیدین واجب است و نزد شافعی سنت است، نماز عیدین احناف درست و روا باشد یا نہ؟ اگر اقتدائے احناف بہ شافعی درست و روا نباشد، پس برائے درست و روا شدن چه صورت دارد؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر امام مذهب احناف را رعایت می دارد، یعنی فرائض و واجبات را رومی نماید فرو نمی گذارد، پس نماز احناف در اقتدائے چنین امام بلا تردد ادا شود (۱). فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "إن تيقن المراعاة لم يكره، أو عدمها لم يصح، وإن شك كره".

"والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراعاة في الفرائض؛ لأن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم".
(رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۳، ۵۶۴، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق مع منحة الخالق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۲/ ۷۹، ۸۲، رشيدية)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۱/ ۲۹۳، ۲۹۴، مكتبة امداديه، ملتان)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۱/ ۴۲۷، دار الكتب العلمية، بيروت)

شافعی امام کا مسائل اختلافیہ میں اتباع

سوال [۲۷۹۳]: امام شافعی المذہب کے پیچھے حنفی مقتدی کو سورہ حج کے سجدہ ثانیہ کے وقت سجدہ تلاوت کرنا چاہیے یا نہیں؟ نیز سورہ ص میں شافعی امام تو سجدہ نہ کرے گا، مقتدی اس وقت کرے یا بعد میں یا ساقط ہو گیا؟

۲..... نیز حنفی امام کے ساتھ فجر میں قنوت پڑھے یا نہیں، اگر پڑھ لیا تو نماز فاسد تو نہ ہوگی؟

۳..... نیز عید میں تکبیرات زائدہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھ کہیں یا بوجہ متابعت نو، اگر نو پڑھی تو نماز ہوئی یا نہیں؟

۴..... اگر عصر کا وقت عند الحنفیہ نہ ہوا ہو اور شافعی ابتدائے وقت میں عصر پڑھے تو حنفی اقتداء کر سکتا ہے، اگر کر لی تو اعادہ واجب ہوگا یا نہیں؟

محمد شعیب، بارہ بنکوی، متعلم مدرسہ مظاہر علوم، سہارنپور۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

۱..... امام کی متابعت میں سورہ حج کا سجدہ ثانیہ مقتدی کو کر لینا چاہیے: ”وظاہرہ أنه (أی الموتم) يتبعه (أی الإمام) فیہا (أی فی ثانیۃ الحج) ولو کان فی الصلوۃ لکونہ تابعاً تحقیقاً“. أفادہ الشامی: ۱/۱۸۰ (۱)۔ اور سورہ ص کا سجدہ اگر امام نہ کرے تو مقتدی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سجدہ ص مختلف فیہ ہے (۲) اور وجوب اتباع امام متفق علیہ، کذا فی الشامی: ۱/۴۹۰ (۳)، اور جب نماز میں سجدہ نہیں کیا تو

(۱) (ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب سجود التلاوة: ۲/۱۰۵، سعید)

(و کذا فی حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب الصلوۃ، باب سجود التلاوة: ۱/۳۲۲، دار المعرفۃ بیروت)

(۲) ”منہا أولی الحج وص خلافاً للشافعی وأحمد رحمۃ اللہ علیہ“. (الدر المختار، کتاب الصلوۃ، باب سجود التلاوة: ۲/۱۰۴، سعید)

(و کذا فی تبیین الحقائق، باب سجود التلاوة: ۱/۴۹۸، ۴۹۹، دارالکتب العلمیۃ بیروت)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوۃ، باب سجود التلاوة: ۲/۲۱۲، رشیدیہ)

(۳) ”ومتابعة الإمام یعنی فی المجتہد فیہ لافی المقطوع بنسخہ أو بعدم سنیتہ کقنوت فجر آہ“۔ =

بعد میں بھی نہ کرے گا (۱)۔

۲..... مقتدی کو ایسی حالت میں خاموش کھڑا رہنا چاہیے: ”ویأتی المأموم بقنوت الوتر ولو بشافعی، ویقنت بعد الركوع؛ لأنه مجتهد فيه، لا الفجر؛ لأنه منسوخ، بل يقف ساکتاً علی الأظهر مرسلًا یدیه“. درمختار: ۱/ ۷۰۰ (۲) اگر قنوت پڑھے گا تو مکروہ کا مرتکب ہوگا۔

۳..... نوتکبیریں امام کی متابعت میں کہنے سے نماز میں کوئی خرابی نہ آئے گی:

”قال الشيخ ابن عابدين رحمة الله عليه تحت قول الحصكفي رحمة الله عليه: (متابعة الإمام في المجتهد فيه لافي المقطوع بنسخه أو بعدم سنّيته، كقنوت فجر) ومثال ماتجب فيه المتابعة مما يسوغ فيه الاجتهاد وما ذكره القهستاني في شرح الكيدانية عن الجلابي بقوله: كتكبيرات العيد وسجدتي السهو قبل السلام والقنوت بعد الركوع في الوتر اهـ. والمراد بتكبيرات العيد ما زاد على الثلاث في كل ركعة مما لم يخرج عن أقوال الصحابة، كما لو اقتدى بمن يراها خمسا مثلاً كشافعي. ومثل لما لا يسوغ الاجتهاد فيه في شرح

= (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۱/ ۴۷۲، سعيد)

(۱) ”ولوتلاها في الصلوة، سجدها فيها لا خارجها لما مر، وفي البدائع: وإذا لم يسجد، أثم فتلزمه التوبة..... قال في شرح المنية: وكل سجدة وجبت في الصلوة، لم تؤد فيها، سقطت: أي لم يبق السجود

لهامشروعاً لفوات محله“.(ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب سجود التلاوة: ۲/ ۱۱۰، سعيد)

(و كذا في فتح القدير، كتاب الصلوة، باب سجود التلاوة: ۲/ ۱۸، مصطفى البابی الحلبي، بمصر)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب سجود التلاوة: ۱/ ۵۰۳، دارالكتب العلمية بیروت).

(۲) (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۲/ ۹، ۱۰، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۲/ ۷۸، ۷۹، رشیدیہ)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۱/ ۴۲۶، ۴۲۷، دارالكتب

العلمية، بیروت)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۱/ ۱۲۹، دار إحياء التراث

العربی بیروت)

6 الكيدانية عن الجلابي أيضا بقوله: كالقنوت في الفجر، الخ“ ۱/۴۹۲ (۱)۔
 ۴..... بہتر اور احوط یہ ہے کہ عصر کی نماز مثلین سے قبل نہ پڑھی جائے، تاہم اگر کسی نے پڑھی تو صحیح ہو جائے گی، ”قال المشايخ: ينبغي أن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين، ولا يؤخر الظهر إلى أن يبلغ المثل ليخرج من الخلاف فيها“۔ کبیری، ص: ۲۲۵ (۲)۔

امام شافعی المذہب کے متعلق اگر وثوق ہے کہ وہ حنفیہ کے مذہب کی رعایت کرتا ہے تو حنفی کو اس کا اقتداء جائز ہے، اگر وثوق سے معلوم ہے کہ وہ حنفیہ کے مذہب کی رعایت نہیں کرتا تو اس کا اقتداء درست نہیں اور اگر رعایت و عدم رعایت کچھ معلوم نہیں تو اقتداء مکروہ ہے اور ہر حال میں اگر معلوم ہو جائے کہ مقتدی کے مذہب کے موافق امام کی نماز درست نہیں ہوئی، مقتدی کو اپنی نماز کا اعادہ ضروری ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
 حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، ۳/۱۲/۵۳ھ۔

حنفی کے پیچھے شافعی کی نماز

سوال [۲۷۹۲]: یہاں پر مساجد میں مصلیان شوافع امام حنفی کے پیچھے اکثر جگہ نماز پڑھتے ہیں، تو جب فجر کی نماز مصلیان شوافع امام حنفی کے پیچھے پڑھتے ہیں تو جن کو پوری نماز امام کے ساتھ مل جاتی ہے تو جب امام حنفی دائیں طرف پہلا سلام پھیرتا ہے تو مصلیان شوافع جن کو پوری نماز ملی ہے وہ بھی امام کے ساتھ دائیں

(۱) (الدر المختار علی رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ: ۱/۴۷۰، ۴۷۲، سعید)

(و کذا فی رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الوتر والنوافل: ۸/۲، ۹، سعید)

(۲) (الحلی الکبیر، کتاب الصلوٰۃ، بحث فروع فی شرح الطحاوی، ص: ۲۲۷، سہیل اکیڈمی،

لاہور)

(و کذا فی رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ: ۱/۳۵۹، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ: ۱/۴۲۵، ۴۲۶، رشیدیہ)

(و کذا فی حاشیة الطحاوی علی الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ: ۱/۴۳، دار المعرفۃ بیروت)

(۳) ”ان الحاصل أنه إن علم الاحتياط منه في مذهبا فلا كراهة في الاقتداء به، وإن علم عدمه فلا صحة،

وإن لم يعلم شيئا، كره“ (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الوتر والنوافل: ۷/۲، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق مع منحة الخالق، کتاب الصلوٰۃ، باب الوتر والنوافل: ۲/۸۱، ۸۲، رشیدیہ)

طرف سلام پھیرتے ہیں اور جب امام بائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو مصلیان شوائع بجائے بائیں طرف سلام پھیرنے کے امام کے سلام کے ساتھ دو سجدے کرتے ہیں اور دو سجدے کر کے فوراً بیٹھتے ہی پھر دونوں طرف سلام پھیر دیتے ہیں اور یہ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کی قنوت نازلہ چھوٹ جاتی ہے، بظاہر امام کی مخالفت لازم آتی ہے، آیا اس صورت میں حضرات شوائع مصلیان کی نماز پوری ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

حضرات شوائع اپنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تابع ہیں، ان پر اعتراض کی ضرورت نہیں، ان کو جو کچھ تحقیق کرنا ہو وہ شافعی مفتی سے تحقیق کریں گے (۱)۔ احناف کے نزدیک نماز فجر میں قنوت نازلہ واجب نہیں کہ اس کے ترک سے سجدہ سہو واجب ہو، نیز عمدًا ترک واجب سے حنفیہ کے نزدیک سجدہ سہو لازم نہیں آتا (۲)، کما فی کتب الفقہ من الدر المختار (۳)، والبحر الرائق (۴)، وفتح القدير (۵)، وغیرہا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/۷/۹۲ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/۷/۹۲ھ۔

(۱) "على أن الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وإن لم يظهر دليله، كما أفاده في رسم المفتي". (الدر المختار، كتاب النكاح باب الرضاع: ۳/۲۱۰، سعيد)

(۲) "يجب سجدتان بعد سلام واحد عن يمينه فقط بترك واجب سهواً فلا سجود في العمدة". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۲/۷۷-۸۰، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۲/۱۶۱، رشيدية)

(و كذا في مراقي الفلاح، كتاب الصلاة باب سجود السهو ص: ۳۶۱، قديمي)

(۳) "ويأتى المأموم بقنوت الوتر لا الفجر؛ لأنه منسوخ، بل يقف ساكتاً على الأظهر مرسلًا يديه". (الدر المختار كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۲/۸، ۹، سعيد)

(۴) "قوله: لا يقنت في غيره): أي في غير الوتر لما رواه الإمام أبو حنيفة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط إلا شهراً واحداً، ولم ير قبل ذلك ولا بعده (قوله: لا الفجر): أي

لا يتبع المؤتم الإمام القانت في صلاة الفجر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وقال أبو يوسف رحمة الله عليه: يتابعه؛ لأنه تبع للإمام، والقنوت مجتهد فيه. ولهما أنه منسوخ، فصار كمالو كبر خمساً في الجنازة حيث لا يتابعه في الخامسة". (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۲/۷۸، ۷۹، رشيدية)

(۵) "وبما قدمناه إلى هنا انقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة، إذ لو كان راتبةً يفعلها صلى الله عليه وسلم =

حنفی کیلئے شیعہ مرزائی کی امامت

سوال [۲۷۹۵]: ایک گاؤں میں تین مذاہب کے لوگ آباد ہیں: شیعہ، مرزائی، اہل سنت والجماعت، مگر امام حنفی عقیدہ رکھتا ہے یعنی اہل سنت والجماعت ہے۔ کیا وہ امام ہر سہ مذاہب کے لوگوں کی امامت کر سکتا ہے اور ان کی شادی، غمی و دیگر مواقع پر شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواب بسند ہو۔ مرزائی و شیعہ کا ذبح کیا ہو جانور کھانے میں استعمال کرنا امام کیلئے جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شیعہ اور مرزائی اپنے مذاہب والوں سے خود دریافت کریں گے کہ حنفی امام کے پیچھے ان کی نماز درست ہے یا نہیں، آپ کو ان کی کیا فکر پڑی۔ اور وہ آپ کے مذہبی مسائل کو تسلیم ہی کب کریں گے۔ علمائے اہل سنت والجماعت کے فتویٰ کے مطابق مرزائی عقیدہ والے کافر ہیں، ان کی شادی غمی میں شرکت ان کی میت پر نماز جنازہ ان کے امام کا اقتداء کرنا وغیرہ جملہ امور ناجائز و ممنوع ہیں (۱)۔ ان کا ذبیحہ بھی ناجائز ہے۔ شیعہ کا جو فرقہ نصوص قطعیہ کا منکر ہے اس کا بھی یہی حکم ہے اور جو فرقہ نصوص قطعیہ کا منکر نہیں وہ کافر نہیں، اس کا ذبیحہ درست ہے لیکن حتی الوسع اختلاط اس سے بھی نہیں چاہئے کہ فساد عقائد کا قوی اندیشہ ہے:

”نعم لاشك في تكفير من قذف السيِّدة عائشة رضي الله عنها، أو أنكر صحبة الصديق رضي الله عنه، أو اعتقد الألوهية في علي رضي الله عنه، أو أن جبريل عليه السلام

= كل صبح يجهر به ويؤمن من خلفه أو يسرَّ به“ (فتح القدير، كتاب الصلوة، باب صلوة الوتر: ۱/۲۳۲، مصطفى البابی الحلبي بمصر)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۱/۲۲۶، دار الكتب العلمية، بيروت)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۱/۲۹۳، مكتبة امداديه، ملتان)

(۱) قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (سورة الأحزاب: ۴۰)

وقال الله تعالى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة الأنعام: ۲۸)

وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (سورة التوبة: ۸۴)

غلط فی الوحي، أو نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن، اهـ۔ شامی: ۳/۴۵۳ (۱)۔
 ”ومنها: - أي من شرائط - الذکوة أن يكون مسلماً أو كتابياً، فلا تؤكل ذبيحة أهل الشرك
 والمرتد، اهـ۔ ہندیہ: ۵/۲۸۵ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۲/۶/۱۳۵۹ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مفتی مدرسہ مظاہر علوم، ۲۲/۶/۱۳۵۹ھ۔

صحیح: عبد اللطیف مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۲/۶/۱۳۵۹ھ۔

حنفی کی نماز غیر مقلد کے پیچھے

سوال [۲۷۹۶]: غیر مقلدین اہل حدیث کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں، اگر درست نہیں تو کس

اصول کی بناء پر؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص تقلید ائمہ مجتہدین کو شرک نہیں کہتا اور ان ائمہ کرام (حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک
 رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ) کو بُرا نہیں کہتا، مسائل طہارت و صلوٰۃ میں حنفی
 مذہب کی رعایت کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ اگرچہ کسی متعین امام کی تقلید نہیں کرتا، اور حدیث شریف میں جو کچھ
 ثابت ہے، دیانت داری سے اس پر عمل کرتا ہے، ایسے شخص کے پیچھے حنفی کی نماز درست ہے:

(۱) (رد المحتار، کتاب الحدود، باب المرتد: ۲/۲۳۷، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب السیر، الباب التاسع فی أحكام المرتدین، منها ما يتعلق بالأنبياء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام: ۲/۲۶۳، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب السیر، باب أحكام المرتدین: ۵/۲۰۴، رشیدیہ)

(۲) (الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الذبائح، الباب الأول فی رکنه و شرائطه و حکمه و أنواعه:
 ۵/۲۸۵، رشیدیہ)

(و کذا فی تنویر الأبصار مع الدر المختار، کتاب الذبائح: ۶/۲۹۶، ۲۹۸، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الذبائح: ۸/۳۰۶، رشیدیہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الذبائح: ۶/۴۵۰، دار الکتب العلمیہ بیروت)

”وإن علم أنه راعى فى الفروض والواجبات والسنن، فلا كراهة وإن علم تركها فى الثلاثة، لم يصح، وإن لم يدر شيئاً كره؛ لأن بعض ما يجب تركه عندنا يسن فعله عنده، فالظاهر أنه يفعل، وإن علم تركها فى الأخيرين فقط، ينبغى أن يكره؛ لأنه إذا كره عند احتمال ترك الواجب فعند تحققه بالأولى، وإن علم تركها فى الثالث فقط، ينبغى أن يقتدى به؛ لأن الجماعة واجبة فتقدم على ترك كراهة التنزيه، الخ“۔ شامى : ۱/ ۳۷۸ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

اہل حدیث کی امامت

سوال [۲۷۹۷]: اہل حدیث کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں اور یہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں

یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اہل حدیث اگر ائمہ مجتہدین پر سب و شتم نہ کریں اور فرائض و واجبات میں حنفی مسلک کی رعایت کر کے نماز پڑھائیں تو ان کے پیچھے نماز درست ہو جائیگی (۲)، ایسے اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت سے الگ نہیں جو کہ دیانت داری سے حدیث پر عمل کرتے ہیں اور فقہاء سے بغض نہیں رکھتے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

(۱) (ردالمحتار، کتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب فى الاقتداء بشافعى ونحوه هل يكره أم لا؟:

۱/ ۵۶۳، سعید)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/ ۶۱۳، رشیدیہ)

(و كذا فى التاتارخانية، كتاب الصلاة، الفصل السادس فى بيان من هو أحق بالإمامة : ۱/ ۶۰۲، إدارة القرآن)

(۲) ”والذى يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء بالمخالف ما لم يكن غير مراعى فى الفرائض؛ لأن

كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين، وهم يصلون خلف إمام واحد مع تباين

مذاهبهم“۔ (ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/ ۵۶۳، سعید)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/ ۶۱۳، رشیدیہ)

و كذا فى تبیین الحقائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل : ۱/ ۴۲۷، دارالكتب العلمية، بيروت)

غیر مقلد کی امامت

سوال [۲۷۹۸]: زید حافظ قرآن ہے، غیر مقلد ہے، علماء، بزرگان و غیرہ کو بھی نہیں مانتا، اس کو امام بنانا کیسا ہے؟ اس نے ایک خواب دیکھا ہے وہ یہ ہے (خواب) زید کہتا ہے کہ عرصہ ہوا میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بڑے میدان میں جانب پورب غیر مسلم (۱)، جانب مغرب عام مسلمان اور جانب اتر (۲) کچھ لوگ عمامہ وغیرہ باندھے ہوئے موٹی موٹی کتابیں ہاتھ میں تھیں، کھڑے ہیں اور باقی جمع بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسا مجمع ہے؟ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آنے والی ہے، میں جانب پورب اتر کونے میں کھڑا ہو گیا، دیر کے بعد معلوم ہوا کہ جانب مغرب آ کر کھڑا ہو گیا اور عام مسلمان ملنے لگے اور وہ کتابیں والے آدمی یعنی علماء ویسے ہی کھڑے رہے، ان کی طرف اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھگاؤ، یہ مجھے بدنام کرنے والے ہیں۔

آج مزید زید نے بتایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چاک کے بٹن کھلے تھے اور ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آ کر کچھ کہا اور عالموں کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو بھگاؤ کہ جب مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے تو مجھے کسی امام وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ زید برابر گلا کھلا رکھتا ہے، جمعہ کے دن بٹن وغیرہ لگائے بغیر نماز جمعہ پڑھاتا ہے، زید کا کچھ طریقہ اہل سنت کا بھی ہے، رفع یدین نہیں کرتا۔ زید نے بوجہ بارش کم ہونے کے نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھنا شروع کیا ہے، یہاں پر ہم لوگ سب مقلد ہیں، یہ غیر مقلد اپنی تبلیغ کر کے سب کو غیر مقلد بنانے کی فکر میں ہے، اس کو امام بنانا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا تو کیا کیا جائے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جملہ سوالات اور خواب زید دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ زید مبتدع بدعتی ہے اور امامت مبتدع مکروہ تحریمی ہے، زید کا خواب میں دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو بھگا رہے ہیں اس سے مراد علمائے سوء ہیں، اس لئے کہ جو علماء اہل حق ہیں ان کے تو فضائل بحالت بیداری بیان فرماتے ہیں ان کو کیسے بھگاتے:

(۱) "پورب: مشرق"۔ (فیروز اللغات، ص: ۳۰۸، فیروز سنز، لاہور)

(۲) "اتر: شمال"۔ (فیروز اللغات، ص: ۶۳، فیروز سنز، لاہور)

”عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”بلغوا عني ولو آية“. الحديث رواه البخارى“. (۱)، مشكوة شريف، كتاب العلم، ص: ۳۲ (۲)۔

”وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً: أحدهما - يابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم“. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة فى جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس خيراً“. رواه الترمذى“ (۳)، مشكوة المصابيح، كتاب العلم، ص: ۳۴ (۴)۔

زید کی بدعت پر کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے استسقاء پڑھی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں موجود ہے (۵) وہ قنوت نازلہ پڑھتا ہے، زید کے نزدیک صحیح وہ ہے جس کو اس کا نفس چاہے، یہ اہل ہوئی کا طریقہ ہے: ”ویکره إمامة العبد، الخ..... والفاسق الخ..... والمبتدع الخ“. ردالمحتار باب الإمامة: ۱/۵۲۳ (۶)۔

- (۱) ”والحدیث بأسره: ”عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ”بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.“ (أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بنى إسرائيل: ۱/۴۹۱، قديمى)
- (۲) (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الأول: ۱/۳۲، قديمى)
- (۳) (سنن الترمذى، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ماجاء فضل الفقه على العبادة: ۲/۹۸، سعيد)
- (۴) (مشكوة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثانى: ۱/۳۲، قديمى)
- (۵) ”عن عباد بن تميم عن عمه رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، فصلى ركعتين، وقلب رداءه“. (صحيح البخارى، كتاب أبواب الاستسقاء، باب صلوة الاستسقاء ركعتين: ۱/۱۴۰، قديمى)
- (۶) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعيد)
- (و كذا فى الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، شركت علميه، ملتان)
- (و كذا فى مجمع الأنهر، شرح ملتقى الأبحر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربى بيروت)

حافظ قرآن کریم کی موجودگی میں کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا، یہ لغو ہے، البتہ اگر حافظ قرآن کریم، قرآن کریم صحیح پڑھتا ہے اور نماز کے مسائل سے بھی واقف ہے کہ کس فعل سے نماز فاسد ہوتی ہے اور کیا کرنے سے سجدہ سہولاً لازم ہوتا ہے تو بہ نسبت دوسرے لوگوں کے جو غیر حافظ اور غیر عالم ہیں حافظ کا امام بنانا افضل ہے، لیکن عالم متبع شریعت ہر صورت میں حافظ سے افضل ہے (۱)۔ پھر یہ کہ فلاں کی امامت افضل ہے فلاں سے، یہ امام مقرر کرتے وقت دیکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص شرعاً امامت کا اہل تھا، اس کو امام مقرر کر دیا گیا پھر وقتی طور پر کوئی بڑا عالم آ گیا اس مسجد میں جہاں امام مقرر ہو گیا ہے تو اس وقت امامت اس امام کی افضل ہے، جو مقرر ہو چکا ہے۔ مگر یہ سعادت کی بات ہے کہ اصل امام بڑے عالم سے یہ عرض کرے کہ آپ پڑھادیں (۲)۔ ائمہ اربعہ

(۱) "عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضميج يقول: سمعت أبا مسعود رضي الله تعالى عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيُؤْمَمِهِمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤْمَمِهِمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا، وَلَا تُؤْمَمَنَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَيَّ تَكْرِمَتَهُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ يَأْذَنَهُ." (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة: ۲۳۶/۱، قديمي)

(وسنن الترمذی، أبواب الصلوة، باب من أحق بالإمامة: ۵۵/۱، سعید)

(وسنن النسائی، كتاب الإمامة والجماعة، باب من أحق بالإمامة: ۱۲۶/۱، قديمي)

"والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحةً وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة، ثم الأحسن تلاوةً للقرأة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً، ثم الأحسن وجهاً، ثم الأشرف نسباً، ثم الأنظف ثوباً." (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۷/۱، ۵۵۸، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة: ۶۶۹/۱، دار الكتب العلمية بيروت)

(۲) (راجع الحاشية السابقة)

وأيضاً قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: "واعلم أن صاحب البيت وكذا إمام المسجد

الراتب أولى بالإمامة من غيره مطلقاً إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه." (الدر المختار)

"(قوله: مطلقاً): أي وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه. وفي التاتارخانية:

جماعة أضياف في دار يريد أن يتقدم أحدهم ينبغى أن يتقدم المالك، فإن قدم واحد منهم لعلمه وكبره =

میں سے کسی کی تقلید کے بغیر اس دور میں چارہ کار نہیں، ان سب سے اپنے کو بے نیاز سمجھ کر تقلید سے آزاد ہونا گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند، ۵/۸/۸۸ھ۔

غیر مقلد کی اقتداء

سوال [۲۷۹۹]: غیر مقلد کے پیچھے نماز فرض ہوگی یا نہیں، نیز غیر مقلد کا عقیدہ کیسا ہے؟ جو ابات مع

اقوال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سند و نص صریح، عبارات پوری معزز بروزیر علمی عنایت فرمادیں۔ بینواتو جروا۔
المستفتی: بندہ ابوذر گوری بہاری، مظفر پوری بہاری۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

بعض غیر مقلدین منصف مزاج ہوتے ہیں جن میں تشدد و تعصب نہیں ہوتا، اگر وہ امامت کے اہل ہوں اور حنفی مذہب کی رعایت کر کے نماز پڑھاتے ہوں تو ان کے پیچھے حنفی کی نماز درست ہے، اگر وہ حنفی مذہب کی رعایت نہ کریں تو درست نہیں، اگر ان کے متعلق رعایت و عدم رعایت کا حال کچھ معلوم نہ ہو تو مکروہ ہے:

”الحاصل أنه إن علم الاحتياط منه في مذهبننا، فلا كراهية في الاقتداء به، وإن علم عدمه فلا صحة، وإن لم يعلم شيئاً كره“۔ درمختار، ص: ۶۹۸ (۲)۔

= فهو أفضل. وإذا تقدم أحدهم جاز؛ لأن الظاهر أن المالك يأذن لضيغه إكراماً له، اهـ“۔ (ردالمحتار،

كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۰۷/۱، رشيدية)

(۱) قال الله تعالى: ﴿فَسئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة النحل: ۴۳)

وقال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (سورة الملک: ۱۰)

وقال الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾

(سورة النساء: ۸۳)

(۲) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۷/۲، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۸۱/۲، رشيدية)

(و كذا في منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۸۲/۲، رشيدية) =

اور بعض غیر مقلد متعصب و متشدد ہوتے ہیں، جو امام اعظم و دیگر ائمہ و مقلدین اکابر اہل اللہ کو لعن و طعن سب و شتم کرتے ہیں، تقلید کو شرک کہتے ہیں (۱) ان کو امام بنانا حرام ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۲/۱۲/۱۳۵۴ھ۔

صحیح: عبداللطیف عفا اللہ عنہ، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۵/ذی الحجہ/۱۳۵۴ھ، سعید احمد غفرلہ۔

ایضاً

سوال [۲۸۰۰]: الہدایت کے پیچھے حنفیہ مسلک کی تقلید کرنے والے حضرات کی نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو ثابت کرنے والوں کا کیا جواب ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

جو اہل حدیث تقلید کو شرک نہیں کہتا اور ائمہ مجتہدین و سلف صالحین کو سب و شتم نہیں کرتا اور حنفیہ کے مذہب کی رعایت کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے حنفیہ کی نماز درست ہے، جو حنفیہ کے مذہب کی رعایت نہیں کرتا اس کے پیچھے درست نہیں، جس کے متعلق رعایت و عدم رعایت کا علم نہیں اس کے پیچھے مکروہ ہے مگر نماز درست ہو جائے گی جب تک امام کے متعلق کسی وصف مفسد صلوٰۃ کا علم نہ ہو، اگر علم ہو جائے مثلاً امام کے

= (و كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۱/۲۸۱، دار المعرفة بيروت)

(۱) "حدثنا شعبة عن زبير قال: سألت أبا وائل عن المرحمة فقال: حدثني عبد الله بن فضال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر". (صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر: ۱/۱۲، قديمي)

"ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى". قال ابن عابدين رحمه الله تعالى عليه: "قوله وفاسق وهو الخروج عن الاستقامة؛ ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربا ونحو ذلك..... و كراهية تقديمه كراهة تحريم. (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۰، سعید)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، الأولى بالإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيڊمي، لاهور)

بدن سے خون نکلا جو اس کے مذہب کے موافق ناقض وضو نہیں اور حنفی مذہب کے موافق ناقض وضو ہے تو نماز نہیں ہوئی، حنفی کو اپنی نماز کا اعادہ لازم ہے۔ اور جو اہل حدیث تقلید کو شرک کہتا ہے اور ائمہ مجتہدین و سلف صالحین پر سب و شتم کرتا ہے اس کے پیچھے نماز درست نہیں اس کو امام بنانا ہی جائز نہیں، اس میں نفی و اثبات دونوں پہلو ہیں:

”والرابع عشر من شروط صحة الاقتداء أن لا يعلم المقتدى من حال إمامه المخالف لمذهبه مفسداً في زعم المأموم يعني في مذهب المأموم كخروج دم سائل أو قى يملأ الفم، وتيقن أنه لم يعد بعده وضوؤه حتى لو غاب بعد ما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء ولم يعلم حاله، فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة كما لو جهل حاله بالمرأة أما إذا علم منه أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف، فلا يصح الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدى به فيه أولاً، وإن علم أنه يحتاط في مواضع الخلاف، يصح الاقتداء به على الأصح، ويكره كما في المجتبي، وقال الديري في شرحه: لا يكره إذا علم منه الاحتياط في مذهب الحنفى، اهـ“۔ مراقى الفلاح (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۵/۱/۱۳۶۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۷/۱/۱۳۶۸ھ۔

ریوبندی کی بریلوی مسجد میں امامت

سوال [۲۸۰۱]: میں دیوبندی عقائد کا حامل ہو کر بریلوی عقیدہ والوں کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، یہ جائز ہے یا نہیں؟

(۱) (مراقى الفلاح شرح نور الايضاح، كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ۲۹۳، قديمى)

(و كذا فى رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۷/۲، سعيد)

(و كذا فى البحر الرائق مع منحة الحائق، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۸۱/۲، ۸۳، رشيدية)

(و كذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۲۸۱/۱، دار

المعرفة، بيروت)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ان کی خاطر غلط کام نہیں کرتے تو جائز ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اپنے کو چھپانا خطرناک ہے، جب مقتدیوں کو معلوم ہوگا کہ یہ دیوبندی عقیدہ کا آدمی ہے جس کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی تو پھر کیا حال ہوگا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱۰/۹۵ھ۔

بریلوی کی نماز دیوبندی کے پیچھے

سوال [۲۸۰۲]: جب چاروں امام درست ہیں تو دیوبندی کے پیچھے بریلوی کی نماز کیوں نہیں

ہوتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ اختلاف ایسا نہیں ہے جیسا شافعیہ حنفیہ کا اختلاف ہوتا ہے بلکہ بریلوی لوگ حضرات علمائے دیوبند کو بلکہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ”جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ خود کافر ہے“ پھر وہ کسی کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں گے، اس وجہ سے وہ علمائے حرمین کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس سے اس کی جماعت باز پرس اور مطالبہ کرتی ہے۔ اس سال مولانا حبیب الرحمن کٹکی (بریلوی) نے مدینہ طیبہ میں اپنی جماعت الگ کی اور امام مسجد نبوی کو مسلمان نہیں قرار دیا جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی اور انکو بغیر حج کئے واپس ہندوستان بھیج دیا گیا، یہاں پہنچ کر انہوں نے بہت پوسٹر شائع کئے اور حکومت سعودیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند۔



الفصل الحادی عشر فی المتفرقات

کیا حق امامت اور نکاح خوانی وراثت میں منتقل ہوتا ہے؟

سوال [۲۸۰۳]: ہمارے یہاں ایک شخص ہے جو کہ صوم و صلوة کا پابند نہیں، اس شخص کے دادا مرحوم صوم و صلوة کے پابند تھے اور گورنمنٹ سے منظور شدہ قاضی تھے، اپنے یہاں وہی عیدین کی نماز اور نکاح خوانی کے فرائض انجام دیتے تھے، ان کے اندر ان کاموں کو انجام دینے کی لیاقت تھی۔ اب قاضی صاحب تو مرحوم ہو چکے بہت مدت ہوئی، بلکہ ان کے لڑکے کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب ان مرحوم کے پوتے دعویٰ کرتے ہیں کہ عیدین وغیرہ کی نماز پڑھانا یہ ہمارا خاندانی کام ہے، لہذا کسی کو اس کا حق نہیں کہ وہ عیدین کی نماز عید گاہ میں اور نکاح میری غیر موجودگی میں پڑھائے، یہ دعویٰ انہوں نے کورٹ کے اندر کیا ہے۔ چونکہ ہمارے یہاں اس قابل نہیں کہ یہ سب کام انجام دے، اس لئے گاؤں کے لوگوں نے ملکر ایک حافظ عالم کو بلا لیا، لہذا لوگوں نے انہیں سے یہ کام بھی لینا چاہا تو اس پر قاضی صاحب کے پوتے نے دعویٰ کر دیا، حالانکہ وہ صلوة و صوم کا پابند نہیں۔ تو کیا امامت اور اس جیسی چیزوں میں بھی وراثت چلتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امامت کا مستحق وہ ہے جو طہارت اور نماز کے مسائل سے واقف ہو، صحیح العقیدہ ہو، قرآن کریم صحیح پڑھتا ہو، تبع سنت پابند شریعت ہو، اگر مرحوم امام صاحب کے پوتے میں یہ چیزیں موجود ہیں تو بہتر ہے ان کو ہی امام رکھا جائے، ایسے شخص کے پیچھے عالم حافظ سب کی نماز درست ہو جاتی ہے، کوئی نزاع نہ کیا جائے۔ اگر یہ صفات موجود نہ ہوں تو محض سابق امام کے پوتے ہونے کی وجہ سے اپنا حق قائم نہ کیا جائے، کیونکہ امامت وراثت میں نہیں ملا کرتی بلکہ اہلیت سے ملتی ہے (۱)، ایسی حالت میں ان کے لئے زیبا ہے کہ وہ مصلیٰ چھوڑ کر

(۱) "عن أبي مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم: "یوم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا فی القراءة سواء فلیؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا فی =

دوسرے اہل شخص کی امامت کیلئے تجویز پیش کریں۔ نزاع اور مقدمہ بازی قبیح چیز ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہئے (۱)۔

نکاح مرد عورت خود بھی کر سکتے ہیں، کسی اور سے بھی پڑھوا سکتے ہیں، کسی متعین قاضی کا ہونا ضروری نہیں (۲) لیکن جو شخص گورنمنٹ کی طرف سے منظور شدہ قاضی ہو، اس کے پاس رجسٹر ہو جس میں وہ اندراج کرتا ہو اور وقت ضرورت عدالت میں جا کر گواہی دیتا ہو، اس کو بلاوجہ معزول نہ کیا جائے۔ مفاہمت کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نکاح تو جس سے دل چاہے پڑھوا لیا جائے اور قاضی صاحب رجسٹر میں درج کرنے کی فیس مقرر کر لیں کہ جو شخص قانونی تحفظ و پیش بندی کے لئے درج کرانا چاہے وہ اتنی فیس قاضی صاحب کو دیدے، اس سے ان کا حق بھی قائم رہے گا اور سب کو سہولت بھی ہوگی۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند۔

احتیاط النظر پڑھنے والے کی امامت

سوال [۲۸۰۳]: ما قولکم أيہا العلماء فی هذه المسئلة، کہ جو امام احتیاط النظر کا قائل ہے

= الہجرة سواء، فلیؤمہم أكبر ہم سنأ، ولا یؤم الرجل فی بیتہ، ولا فی سلطانہ، ولا یجلس علی تکرمتہ إلا باذنه. (سنن أبی داود، کتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة: ۱/ ۹۳، امدادیہ ملتان)

”والأحق بالإمامة الأعلّم بأحكام الصلوة فقط صحّة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة

ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقراءة ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً الخ.“

(الدرالمختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۷، سعید)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلاة، فصل فی بیان من هو الأحق بالإمامة: ۱/ ۶۶۹، دارالکتب

العلمیة بیروت)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۱۲۱، ۱۲۲، مکتبہ شرکتہ علمیہ ملتان)

(۱) قال الله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾. (سورة آل عمران: ۱۰۳)

(۲) ”وینعقد متلبساً یا یجاب من أحدهما وقبول من الآخر، اه.“ (الدرالمختار، کتاب النکاح: ۳/ ۹، سعید)

(و کذا فی الہدایة، کتاب النکاح: ۲/ ۳۰۵، شرکت علمیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب النکاح: ۳/ ۱۲۲، رشیدیہ)

اور علانیہ طور پر کہتا ہے کہ ہمارا جمعہ نہیں ہوتا، لہذا احتیاط الظہر کا بعد جمعہ پڑھنا واجب ہے اور مسجد بھی شہر یا قصبہ میں واقع ہو تو ایسے امام کے پیچھے ایسے شخص کو جو احتیاط الظہر کا قائل نہ ہو کیا کرنا چاہئے، کیونکہ اس کے پیچھے نماز ادا کرنے میں جمعہ تو ادا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ امام خود قائل نہیں ہے، ہمیشہ کے لئے جمعہ کا ترک کرنا شرعاً نامناسب ہے جیسا کہ اکثر روایات سے ظاہر اور بین طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اگر نماز کا اعادہ کر لے گا تو پھر بھی جمعہ کا ترک لازم آئے گا۔ برائے کرم تفصیل سے تحریر فرمائے۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

امام کا کہنا قول مفتی بہ کے خلاف ہے، تاہم اس کے پیچھے ایسے شخص کا جمعہ پڑھنا درست ہے جو وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ شرط متحقق ہونے پر جمعہ درست ہو جاتا ہے اور احتیاط الظہر واجب نہیں، اس میں اعتقاد مقتدی کا اعتبار ہے، جیسے کہ جو شخص ترک و واجب اعتقاد کرتا ہے اور جیسے کہ ایک شخص کے اعتقاد میں ایک چیز ناقض وضو یا مبطل صلوٰۃ ہے وہ امام ہے اور مقتدی کے حق میں وہ چیز ناقض وضو اور مبطل صلوٰۃ نہیں تو ایسے مقتدی کی نماز اصح قول کی بناء پر صحیح و درست ہو جاتی ہے، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی شخص مذکور کے پیچھے جمعہ درست ہے۔

”وأما إذا علم المقتدى من الإمام ما يفسد الصلوة على زعم الإمام دون المقتدى كمنس المرأة أو الذكور أو حمل نجاسة قدر الدرهم والإمام لا يدري بذلك، فإنه يجوز اقتدائه به على قول الأكثر، وقال بعضهم: لا يجوز، منهم الهندواني؛ لأن الإمام يرى بطلان هذه الصلوة، فتبطل صلوة المقتدى تبعاً له، وجه الأول وهو الأصح أن المقتدى يرى جواز صلوة إمامه والمعتبر في حقه رأى نفسه، فوجب القول بجوازها ما في التبيين وفتح القدير، اه“۔ طحطاوى على مراقى الفلاح ص: ۱۶۱ (۱)۔ ”لو اقتدى من يرى وجوب الوتر بمن يرى سنيته، فإن ذلك صحيح

(۱) (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص: ۲۹۴، ۲۹۵، قديمي)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱، ۲۵۵، امداديه ملتان)

(و كذا في الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الصلوة، باب الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إماماً

للاتحاد، ولا يختلف باختلاف الاعتقاد“۔ طحطاوی، ص: ۱۵۸ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، مظاہر علوم سہارنپور۔

جو امام تبلیغی نصاب پڑھنے کو روک دے اس کی امامت

سوال [۲۸۰۵]: مسجد میں بعد نماز فجر تبلیغی نصاب کی تعلیم ہوا کرتی تھی، اس کو اس امام نے روک دیا، کیا ایسا امام امامت کر سکتا ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

کیوں روک دیا، کیا اس میں کوئی خلاف شرع بات تھی؟ دین کی اشاعت کی تو امام پر بھی بڑی ذمہ داری ہے (۲)۔ جو امام نہ خود دین حق کی اشاعت کرے اور نہ دوسروں کو اشاعت کرنے دے وہ امام بنانے کے لائق کہاں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جو لوگ درس قرآن کو لازمی نہ سمجھے اس کی امامت

سوال [۲۸۰۶]: ایک امام مسجد نے ایک گروہ کے سامنے یہ الفاظ طرز یہ انداز میں کہے جب کہ ان سے درس قرآن پڑھنے کے لئے کہا گیا کہ درس قرآن پڑھنا کوئی سنت فرض ہے، از روئے شریعت ایسے شخص کے متعلق کیا حکم ہے؟ اور کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ نیز امام صاحب پر تو بہ لازم ہے یا نہیں؟

(۱) (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة، ص: ۲۹۱، قدیمی)

(و کذا فی رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۹۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۳۰، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۲۵۵، امدادیہ ملتان)

(۲) ”لابد للإمام من عشرة أشياء..... العاشر: إدارأى من أهل مسجده منكرأ یغیر علیہم نھیہ۔ ولا یرخی عنہم، ویأمرہم بالمعروف“۔ (السباعیات فی الفقہ الحنفی، باب ما یسعی للامام، ص

الجواب حامداً ومصلياً:

محض اس کہنے کی وجہ سے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے بلکہ جائز ہے، رسالہ ”تفسیر درس قرآن“ مفید مضامین پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کا مخصوص طور پر پڑھنا فرض یا سنت نہیں، ضروری مضامین دیگر کتب و رسائل میں بھی موجود ہیں جس کو جس کتاب سے مناسبت ہو وہ کتاب پڑھ سکتا ہے، بس اتنی بات ضروری ہے کہ وہ صحیح ہو، غلط نہ ہو (۱) اور فہم سے اونچی نہ ہو (۲)۔ نیز ایسی طرح نہ پڑھیں کہ نمازیوں کی نماز میں خلل آئے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جو امام مقتدی سے صلح نہ کرے اس کی امامت

سوال [۲۸۰۷]: ایک امام اور مقتدی میں کچھ جھگڑا ہوا بروز جمعہ، یہ معاملہ پیش ہو کر یہ بات طے ہوئی کہ خطا کسی کی نہیں بلکہ دونوں صاحب کی بھول ہے، اس لئے صلح کر لو کیونکہ مرتبہ میں تو امام صاحب بڑے اور عمر میں مقتدی صاحب بڑے ہیں، لہذا دونوں مصافحہ ملاو، مگر سارے گاؤں کے کہنے پر بھی پیش امام صاحب نے مصافحہ نہیں کیا۔ اس مقتدی کی نماز اس پیش امام کے پیچھے ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس طرح سے بہت سے مقتدیوں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے۔ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے جو اپنے مقتدیوں سے بغض و کینہ رکھے اور صلح

(۱) ”عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من أفتى بغير علم،

كان إثمه على من أفتاه الخ“ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب العلم، الفصل الثانی: ۱/۳۵، قدیمی)

(۲) ”وقال صلى الله عليه وسلم: ”كلموا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتر يدون أن يكذب على

الله ورسوله“ وهذا فيما يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع، فكيف فيما لا يفهمه قائله، فإن كان يفهمه

القائل دون المسموع فلا يحل ذكره“، (إحياء علوم الدين، کتاب العلم، الباب الثالث فيما يعده العامة

من العلوم المحمودة رليس منها: ۱/۵۹، المكتبة الحقانية بشاور)

(۳) ”وفى حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على استحباب ذكر الجماعة

فى المساجد وغيرها؛ إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ الخ“، (رد المحتار، کتاب

الصلوة، باب ما يفسد الصلوة، وما يكره فيها، مطلب فى رفع الصوت بالذکر: ۱/۶۶۰، سعید)

پر رضامند نہ ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز تو اس مقتدی کی بلکہ سب مقتدیوں کی ان کے پیچھے بھی درست ہوگئی (۱)۔ لیکن امام صاحب کے لیے یہ طریقہ اچھا نہیں بہت غلط اور سخت ناپسند ہے، جو شخص مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہو اور صلح کرنا چاہتا ہے اور بستی کے لوگ بھی سب خواہش مند ہیں تو امام صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ وہ مصافحہ نہ کریں اور دل میں کینہ رکھیں، ان کی بھی اپنی اصلاح ضروری ہے (۲)۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۱/۹۲ھ۔

الجواب صحیح: العبد نظام الدین عفی عنہ، ۱/۲/۹۲ھ۔

امامت نہ کرنے کا عہد کر کے پھر امامت کرنا

سوال [۲۸۰۸]: ایک شخص نے منبر پر وعدہ کیا (خطبہ ہاتھ میں لیکر) کہ اب میں امامت نہیں کروں گا

(۱) "عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "الجهاد واجب علیکم مع کل امیر برأ کان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والصلوة واجبة علیکم خلف کل مسلم برأ کان أو فاجراً وإن عمل الكبائر، والصلوة واجبة علی مسلم برأ کان أو فاجراً وإن عمل الكبائر" رواہ أبو داؤد۔ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱۰۰/۱، قدیمی)

(۲) قال اللہ تعالیٰ: ﴿والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، واللہ یحب المحسنین﴾ (سورۃ آل عمران: ۱۳۳) "فقوله تعالیٰ: ﴿والکاظمین الغیظ﴾: ای لا یعملون غضبهم فی الناس بل یکفون عنهم شرهم ویحتسبون ذلك عند اللہ عزوجل، ثم قال تعالیٰ: ﴿والعافین عن الناس﴾: ای مع کف الشر، یعفون عن من ظلمهم فی أنفسهم، فلا یبقی فی أنفسهم موجدة علی أحد، وهذا أكمل الأحوال"۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱/۵۳۹، دار الفیحاء دمشق)

"وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "یفتح أبواب الجنة یوم الإثنين ویوم الخمیس، فیغفر لكل عبد لا یشرك بالله شیئاً إلا رجل کالت بینہ وبين أخیه شحناء، فیقال: انظروا هذین حتی یصطلحا"۔ رواہ مسلم"۔ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الآداب، باب ما ینهی عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات: ۲/۴۲۷، قدیمی)

لیکن اب کچھ لوگ پھر اس کو امام مقرر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے پیچھے ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ وعدہ کے بعد اس کا امامت کرنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس نے منبر پر خطبہ ہاتھ میں لیکر وعدہ کیا کہ میں امامت نہیں کروں گا اس کو چاہیے کہ اپنا وعدہ پورا کرے، امامت نہ کرے (۱) لیکن اگر لوگ اس کو امام بنا دیں تو اس کی اور سب کی نماز ہو جائے گی۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۱/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عنفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۱/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: سید احمد علی سعید، دارالعلوم دیوبند، ۲/۱/۹۰ھ۔

امام کے دروازہ پر جا کر اس کو نیند سے جگانا

سوال [۲۸۰۹]:۱۔ امام صاحب کا گھر یا کل مسجد سے متصل ہے اور امام صاحب گھر پر سو رہے ہوں تو امام صاحب کو مقتدی پکار کر یا گھر جا کر بلا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر بلا سکتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ امام صاحب سو رہے ہوں تو ان کو جگانا

سوال [۲۸۱۰]:۲۔ اگر امام صاحب مسجد کے وقت سے پہلے ہی بیٹھے بیٹھے سو رہے ہوں تو ان کو مقتدی جگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں جگا سکتے تو کیوں؟ جگا سکتے ہوں تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

.....۱۔ اگر اتفاقاً ایسی نوبت آجائے تو دروازے سے جا کر جگا دیا جائے، اس کی عادت نہ

(۱) قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُوا بِالْعُقُودِ﴾ (سورة المائدة: ۱)

”وقد اشتمل قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُوا بِالْعُقُودِ﴾ على إلزام الوفاء بالعهود وإلزامهم التي نعقد لها لأهل الحرب وأهل الذمة وغيرهم من سائر الناس، وعلى إلزام الوفاء بالندور والأيمان.“

(أحكام القرآن للجصاص: ۲/۴۱۸، قديمي)

ڈالی جائے (۱)۔

۲..... جماعت سے اتنے پہلے جگادیں کہ اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو کر لیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ

تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۶۱/۷/۹۵ھ۔

امام کے بجائے ٹیپ ریکارڈ سے نماز پڑھانا

سوال [۲۸۱۱]: جرمنی میں تمام مسلمہ ممالک کے سفارتخانوں کے مسلمان عملے میں کوئی بھی عید کی

نماز پڑھانے کے قابل نہ نکلا، آخر میں مصر کے سفارتخانے نے عید کی نماز کے لئے سب کو بلایا اور نماز اس طرح

پڑھائی گئی کہ وہ ٹیپ کی ہوئی، اور امام کی جگہ پر ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا تھا، کیا اس طرح نماز درست ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ٹیپ ریکارڈ مصلے پر رکھ دیا جائے اور اس کو امام کا قائم مقام قرار دیکر اس کی اقتداء میں نماز ادا کی

جائے تو نماز صحیح نہیں ہوئی، مسلمانوں کے لئے نہایت افسوس ناک بات ہے کہ سارے عملے میں کوئی بھی نماز

پڑھانے کا اہل نہ ہو (۳)۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۷/۵/۹۰ھ۔

(۱) "ويثوب بين الأذان والإقامة في الكل للكل بما تعارفوه". (الدر المختار). قال ابن عابدين رحمه الله

تعالیٰ علیہ: "في العناية: أحدث المتأخرون التثويب بين الأذان والإقامة على حسب ماتعارفوه في جميع

الصلوات سوى المغرب مع البقاء الأول يعني الأصل وهو تثويب الفجر، ومارأه المسلمون حسناً فهو

عند الله حسن". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ۳۸۹/۱، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الأذان: ۴۵۳/۱، رشيدية)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الأذان: ۲۳۵/۱، دارالكتب العلمية، بيروت)

(۲) "(فرع) لا يجب انتباه النائم في أول الوقت، ويجب إذا ضاق الوقت، نقله البيروني في شرح الأشباه عن البدا

ئع من كتب الأصول، وقال: ولم نره في كتب الفروع، فاغتمه". (رد المحتار، كتاب الصلاة، ۳۵۸/۱، سعيد)

(۳) "(وشرط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والسلامة

من الأعذار كالرعاف وانفلات الريح والفأفة والتمتمة والثغ، ومن فقد شرط كظهارة وستر عورة". =

مسجد میں جھاڑو دینا اور حمام میں پانی بھرنا کیا امام کے ذمہ ضروری ہے؟

سوال [۲۸۱۲]: مقتدیوں کا اس بارے میں اصرار کہ جھاڑو لگا دیا حمام میں پانی بھرنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر امام مقرر کرتے وقت سب نے امام کے ذمہ جھاڑو دینا اور حمام میں پانی بھرنے کی شرط قرار دی ہے تو امامت کی طرح یہ بھی امام کے ذمہ ضروری ہوگا، اگر تقرر صرف امامت پر ہوا ہے، تو یہ امام کے ذمہ ضروری نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۷/۱۱/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۱/ذی قعدہ/۵۸ھ۔

امام کی خدمات

سوال [۲۸۱۳]: ایک شخص پیش امام مسجد ہے اور وہی روٹیاں بھی محلہ میں سے لاتا ہے، مسجد کا

پانی بھی گرم کرتا ہے، اگر کوئی مر جائے تو تجہیز و تکفین غسل وغیرہ کرتا ہے، کیا ایسے شخص کو امام بنانا اور نماز پڑھنا اس کے پیچھے درست ہے؟

..... ۲ اگر شخص مذکور کی جگہ کوئی دیگر شخص جبراً نماز پڑھانے لگ جائے اور قدیم پیش امام کو روک دیا

جائے، آدھا محلہ ادھر اور آدھا محلہ ادھر اور پہلا پیش امام بھی ناراض ہے کہ مجھ کو کس واسطے ہٹا دیا گیا ہے دونوں

= (نور الإيضاح مع مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ۲۸۷-۲۸۹، قدیمی)

(و کذا فی منحة الخالق، باب الإمامة: ۶۰۲/۱، رشیدیہ)

(۱) "و شرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهما لتهما تفضي إلى المنازعة". (الدر المختار،

کتاب الإجارة: ۵/۶، سعید)

(و کذا فی شرح المجلة، کتاب فی الإجارة، الفصل الثالث فی شروط صحة الإجارة، رقم

المادة: ۳۵۲) ۱/۲۵۵، مکتبہ حنفیہ کوئٹہ)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الإجارة، الباب الأول فی تفسیر الإجارة و رکنتها و الفاظها

و شرائطها الخ: ۳/۴۱، رشیدیہ)

میں سے کس کے پیچھے نماز افضل ہے؟ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... اگر امامت اور پانی گرم کرنے پر وہ ملازم ہے اور اس کی اجرت میں محلہ سے روٹیاں لاتا بھی ہے تو اس سے اس کی امامت میں نقصان لازم نہیں آتا، اگر محلہ سے روٹیاں لانا اجرت میں نہیں بلکہ ویسے ہی از خود مانگ کر لاتا ہے اور باوجود کسی مشروع طریق پر کمانے کی قدرت کے اس مانگنے کو پیشہ بنا رکھا ہے تو یہ پیشہ ناجائز ہے (۱)، ایسے شخص کو پیش امام بنانا مکروہ تحریمی ہے جب کہ کوئی دوسرا آدمی امامت کا اہل موجود ہو (۲)۔

۲..... مردہ کو غسل دینے اور تجہیز و تکفین کرنے سے امامت میں خرابی نہیں آتی لیکن اہل محلہ کے لئے نہایت بڑی اور شرم کی بات ہے کہ وہ اپنے امام سے ایسے کام لیتے ہیں جن کو خود کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ ذلت کا

(۱) "عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يُغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو كدوحاً في وجهه". قالوا: يا رسول الله! وما غناه؟ قال: خمسون درهماً أو حسابها من الذهب". (تفسير ابن كثير تحت هذه الآية المباركة: (لا يسألون الناس إلحافاً): ۱/۴۳۵، دار الفیحاء دمشق)

"عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: "يا حكيم! إن هذا المال خَصْرَةٌ حُلْوَةٌ، فمن أخذه بسخاوة نفس بُورِكَ له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى". إلى آخر الحديث. (صحيح البخارى، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسئلة: ۱/۱۹۹، قديمي)

(۲) "ويكره إمامة عبدو أعرابي وفاسق وأعمى ومبتدع لا يكفر بها، وإن كفر بها فلا يصح الاقتداء به، وولد الزنا، هذا إن وجد غيرهم، وإلا فلا كراهة". (تنوير الأبصار، كتاب الصلوة، باب الامامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

(و كذا في البداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۱۲۲، شركة علمیه ملتان)

کام سمجھتے ہیں، ان کو چاہئے کہ امام کو روٹیاں خود لا کر دیا کریں (۱)۔ اسی طرح غسل میت وغیرہ میں خود بھی حصہ لیں، اگر نہ جانتے ہوں تو امام سے سیکھ لیں اور اس کو ذلت کا کام نہ سمجھیں، کیونکہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے اور ثواب کا کام ہے (۲)۔ پہلے امام کو کیوں علیحدہ کیا گیا ہے، اگر اس کا کچھ قصور ہے تو اس کو ظاہر کیا جاوے اور امور مذکورہ کی بناء پر علیحدہ کیا گیا ہے اس کا حکم اوپر بیان ہو چکا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم، ۷/۷/۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۸/رجب/۵۶ھ۔

امام کا مقتدی کو کتا کہنا

سوال [۲۸۱۲]: کیا امام کے لئے جائز ہے کہ مقتدی کو کتا کہے اور یہ بھی کہے کہ دفع ہو جا، اور کہیں جا کر نماز پڑھو اور یوں کہے کہ اگر مجھے ہٹا دیا گیا، میرا قائم مقام لایا گیا تو مسجد میں خون کی ندیاں بہا دوں گا اور میں اپنے مخالف کو ہلاک کر دوں گا، میرے پاس ایسے بہت لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

امام صاحب سے ہرگز توقع نہیں کہ وہ اپنے مقتدی کو بلا وجہ کتا کہیں اور مسجد سے نکالیں امام صاحب کے لئے تو لازم ہے کہ وہ مقتدیوں کے لئے بھی دعائے خیر کیا کریں اور مسجد کو اور زیادہ آباد کرنے کی کوشش کریں

(۱) قال الله تعالى: ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾ (سورة البقرة: ۱۲۳)

”وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرناه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الرشيدون بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول ومن أئرم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلوة ونحوها“ (أحكام القرآن للجصاص: ۱/۹۷، ۹۸، قديمي)

(۲) ”والصلوة عليه فرض كفاية، كدفنه وغسله وتجهيزه، فإنها فرض كفاية“ (الدر المختار، كتاب

الصلوة، باب صلوة الجنابة: ۲/۲۰۷، سعید)

(و كذا في سكب الأنهر مع ملتقى الأبحر، كتاب الصلوة، فصل في الصلوة على الميت: ۱/۱۸۲،

دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(و كذا في المحيط البرهاني في الفقه النعماني، كتاب الصلوة، الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز، نوع

آخر من هذا الفصل في الصلوة على الجنابة: ۲/۳۰۶، المكتبة الغفارية، كوثه)

اور اگر مقتدی نے کچھ نالائق کی ہو اور اس پر ڈانٹ دیا ہو تو یہ ممکن ہے۔ تاہم مقتدیوں کے ذمہ امام کا ادب و احترام واجب ہے (۱) اور امام صاحب کو بھی چاہئے کہ سب سے اخلاق و مروت کا معاملہ کریں، سخت الفاظ خصوصاً خلاف شرع الفاظ بولنے سے پوری احتیاط برتیں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۴/۱۴۰۱ھ۔



(۱) قال اللہ تعالیٰ: ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾. (سورة البقرة: ۱۲۴) ”وإذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرناه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم الخلفاء الراشدون بعد ذلك، ثم العلماء والقضاة العدول و من ألزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة في الصلوة ونحوها“. (أحكام القرآن للجصاص: ۱/۹۷، ۹۸، قديمي)

”وتعظيم أولى الأمر واجب، كذا في الفتح“. (رد المحتار، باب الإمامة: ۲/۲۲۰، سعيد)

(۲) ”وفي رواية له قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: ”عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه“..... ”عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً“. رواه البخاري“. (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الآداب، باب الرفق والحياء و حسن الخلق: ۴/۲۳۱، قديمي)

باب الجماعة

الفصل الأول في اهتمام الجماعة

(جماعت کے اہتمام کا بیان)

جماعت کا اہتمام

سوال [۲۸۱۵]: اگر مسجد میں کوئی امام نہ ہو تو ہر آدمی اکیلے اکیلے تکبیر پڑھ کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پڑھ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لئے امام بنانا اور جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے (۱) اس لئے کوشش کرے کہ کوئی اچھا امام مقرر کرے، اگر اچھا امام نہ ملے تو سب نمازیوں میں سے جو بھی اچھا ہو، اسے امام بنا لیا جائے، اگر سب یکساں ہی سے ہوں تو جو امام بن جائے گا، نماز ہو جائے گی (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۹/۶/۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۶/رجب/۵۶ھ۔

(۱) "الجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، وعليه العامة، فتسن أو تجب - ثم رتبه تظهر في الإثم بتركها مرة - على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة". (الدر المختار).
"قوله: بتركها مرة: أي بلا عذر، وهذا عند العراقيين، وعند الخراسانيين: إنما يأتهم إذا اعتاد، كما في القنية". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، ۵۵۳، سعيد)

(و كذا في منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۲، ۶۰۳، رشيدية)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۲۳۸، امداديه ملتان)

(۲) "والأحق بالإمامة الأعلم بإحكام الصلوة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة
..... ثم الأحسن تلاوة و تجويداً للقراءة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن خلقاً اهـ" =

امام تنہا اذان و اقامت کے بعد نماز پڑھے تو جماعت کا ثواب ملے گا

سوال [۲۸۱۶]: اذان کے بعد مسجد میں کوئی دوسرا نمازی نہ ہو تو امام تنہا ہی جماعت کر سکتا ہے

یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسی حالت میں امام صاحب تنہا ہی تکبیر کہہ کر نماز ادا کر لیں، اس سے جماعت کا ثواب ملے گا، انشاء اللہ تعالیٰ (۱) اور محلہ میں تبلیغ کر کے لوگوں میں نماز کا شوق و اہتمام پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۱۲/۸۹ھ۔

اپنی نماز کے بعد جماعت کی شرکت میں فرض کی نیت ہو یا نفل کی؟

سوال [۲۸۱۷]: جس شخص نے اپنی نماز ظہر یا عشاء پڑھ لی ہو، پھر جماعت میں شرکت کس نیت

= (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۵۵۷، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو الأحق بالإمامة : ۱/۶۶۹، دار الكتب العلمية بيروت)

و كذا في الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۱۲۱، ۱۲۲، مكتبه شركة علمية ملتان)

(۱). "عن أبي عثمان عن سلمان قال : لا يكون رجل بأرض قِيّ فيتوضأ، فإن لم يجد الماء يتيمم، ثم ينادى بالصلوة، ثم يقيمها إلا أم من جنود الله ما لا يرى طرفاه". (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الأذان والإقامة، في الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم : ۱/۱۹۸، ۱۹۹، دار الكتب العلمية، بيروت)

"قلت : لكن في الخانية: وإن لم يكن لمسجد منزله مؤذن، فإنه يذهب إليه و يؤذن فيه ويصلي وإن كان واحداً؛ لأن لمسجد منزله حقاً عليه فيؤدى حقه. مؤذن مسجد لا يحضر مسجده أحد، قالوا: هو يؤذن و يقيم و يصلي وحده، و ذاك أحب من أن يصلي في مسجد آخر اهـ". (رد المحتار، كتاب

الصلوة، باب الإمامة : ۱/۵۵۵، سعید)

(و كذا في الفتاوى الخانية كتاب الطهارة : فصل في المسجد : ۱/۶۷، رشيديه)

سے کرے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نفل کی نیت سے: ”ثم اقتدى متنظلاً الخ“. در مختار على رد المحتار (۱)۔ فقط واللہ

تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۹/۸۷ھ۔

شوہر بیوی کی جماعت کا طریقہ

سوال [۲۸۱۸]: کیا خاوند اپنی بیگم کو نماز پڑھوا سکتا ہے کہ نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پڑھوا سکتا ہے لیکن اگر جماعت کریں تو بیگم پیچھے کھڑی ہو، برابر میں شاہر سے مل کر نہ کھڑی ہو (۲)۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

املاء العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۷/۱۴۰۶ھ۔

(۱) (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب إدراك الفريضة: ۱۱/۵۳، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب إدراك الفريضة: ۲/۱۲۷، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب العاشر في إدراك الفريضة: ۱/۱۱۹، رشيدية)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب إدراك الفريضة: ۱/۳۰۹، امداديه ملتان)

(۲) ”قال: المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج، لا تجوز صلاتهما

بالجماعة، وإن كان قدمها خلف قدم الزوج، إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس

الزوج، جازت صلاتهما؛ لأن العبرة للقدم“. (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۷۲،

سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۲۱، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلوة، الفصل السابع في بيان مقام الإمام والمأموم: ۱/۶۲۲،

إدلة القرآن كراچی)

دھوپ یا بارش کی وجہ سے برآمدہ میں جماعت

سوال [۲۸۱۹]: دھوپ یا بارش کی وجہ سے مسجد کے برآمدہ میں جو خارج مسجد ہے ایک دو صف بنا لیں تو کیا ان کی اقتداء صحیح ہو جائے گی؟ اور ان کی نماز میں کوئی خرابی آئے گی یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

اگر خارج مسجد میں اتنا فاصلہ نہیں جس میں ایک اونٹ گاڑی گزر سکے تو درست ہے (۱)۔ فقط واللہ
تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۶/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

صحن مسجد میں جماعت کرنا

سوال [۲۸۲۰]: صحن مسجد میں جماعت کرنا خصوصاً گرمی کے ایام میں اطمینان کے لئے کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

صحن مسجد یعنی مسجد کے حصہ غیر مسقف میں نماز و جماعت بلا تردد صحیح و درست ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ
تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۶/۵/۹۲ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۷/۵/۹۲ھ۔

(۱) ”ويمنع من الاقتداء طريق تجرى فيه عجلة، أو نهر تجرى فيه السفن، أو خلاء في الصحراء يسع صفيين فأكثر، إلا إذا اتصلت الصفوف، فيصح مطلقاً“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۸۳، ۵۸۶، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة: ۱/۸۷، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۳۲، ۶۳۵، رشيدية)

(۲) ”وفى المحتبى: و فناء المسجد له حكم المسجد، يجوز الاقتداء فيه و إن لم تكن الصفوف متصلة“۔ (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۳۵، رشيدية) =

بلند مقام سے کمزور آدمی کو ضعف کی وجہ سے وہیں نماز پڑھنے سے حرم شریف کا ثواب

سوال [۲۸۲۱]: مکہ شریف میں بعض مکان بہت اونچائی پر ہیں، کمزور آدمی کو اترنا اور چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس کا دل حرم شریف میں نماز ادا کرنے کے لئے بے چین ہے مگر کمزوری مانع ہے، لہذا اگر مجبوری وہ مکان میں نماز ادا کر لیتا ہے تو کیا اس کو حرم شریف میں نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا؟
الجواب حامداً ومصلياً:

اس بے چینی اور کمزوری کے تحت کیا بعید ہے کہ اس کو حرم شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۸/۹۵ھ۔

ضعف اور بیماری کی وجہ سے سچھے سے کچھ دور نماز پڑھنا یا جماعت چھوڑ جانا

سوال [۲۸۲۲]: میری عمر تقریباً سینتالیس سال ہے، ضعف دماغ کافی بڑھ گیا، چند سال پیشتر مانجھو لیا ہو گیا تھا، اکثر سردی و زکام کی شکایت رہتی ہے، اس حالت میں مسجد میں جماعت کے وقت بجلی کے سچھے کے پیچھے کھڑے ہونے سے زکام وغیرہ کی اور بھی شکایت ہو جاتی ہے جس کے باعث ضعف دماغ میں اور بھی

= (و كذا في الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الصلوة، الباب السابع فيما يفسد الصلوة و ما يكره فيها، فصل كره غلق باب المسجد: ۱/۱۰۹، رشيدية)

(و كذا في الحلبي الكبير، مسائل متفرقة، ص: ۶۱۴، سهيل اكيذمي لاهور)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۸۳، ۵۸۶، رشيدية)

(۱) "إنما الأعمال بالنيات" (صحیح البخاری، کتاب الإيمان، باب كيف بدء الوحي اھ: ۲/۱، قدیمی)

"لكن في نور الإيضاح: وإذا انقطع من الجماعة لعذر من أعذارها و كانت نيته حضورها لو لا

العذر، يحصل له ثوابها" (رد المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، ۵۵۴، رشيدية)

(و كذا في نور الإيضاح مع شرحه مراقي الفلاح، كتاب الصلاة، فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئاً، ص: ۲۹۹، قدیمی)

اضافہ ہو جاتا ہے اور سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے محلے کے اطراف میں مساجد کے اندر کافی بجلی کے پنکھے لگے ہوئے ہیں، بعض مسجدوں میں تو ہلکی ہلکی سردی کے دنوں میں بھی پنکھے چلتے رہتے ہیں، ان حالات کے پیش نظر میں کبھی کبھی صف سے الگ ہو کر، یا ایک صف درمیان میں چھوڑ کر بجلی کے پنکھے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہوں، جس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو مجبوراً اسی حالت میں جماعت چھوڑ کر گھر پر تنہا نماز ادا کرنی پڑتی ہے۔ براہ کرم تحریر فرمائیں کہ ان حالات کے ہوتے ہوئے میرے لئے کونسی صورت بہتر ہے؟ اور معترض حضرات حق بجانب ہیں یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

آپ کی وجہ سے پنکھے بند نہیں کئے جاسکتے کیونکہ سب نمازیوں کو تکلیف ہوگی اور پنکھے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے لہذا آپ معذور ہیں (۱)، اپنے مکان پر ایک دو آدمی کو لیکر جماعت کر سکتے ہیں (۲)۔ ایک دو آدمی آپ کے ساتھ ہوں تو پنکھے سے دور بھی گنجائش ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳۰/۸/۹۱ھ۔

(۱) "الجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، وعليه العامة..... على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة من غير حرج، فلا تجب على مريض و مقعد و زمن و مقطوع يد و رجل من خلاف و مفلوج و شيخ كبير عاجز و أعمى." (رد المحتار على الدر المختار، باب الإمامة: ۱/۵۵۲-۵۵۵، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة: ۱/۸۲، ۸۳ رشيدية)
(۲) "عن مالك بن الحويرث رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا حضرت الصلوة فأذنا و أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما". (الصحيح للبخارى، كتاب الأذان، باب اثنان فما فوقهما جماعة: ۹/۱، قديمي)

"ولنا أنه عليه الصلاة والسلام كان خرج ليصلح بين قود. فعاد إلى المسجد و قد صلى أهل المسجد، فرجع إلى منزله فجمع أهله و صلى." (رد المحتار، باب الإمامة: ۱/۵۵۳، سعيد)

(۳) "و لو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد و الإمام في السحراب، فبانه يجوز، كذا في شرح الطحاوى." (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع في بيان ما =

معذور آدمی کا اپنے گھر پر جماعت کرنا

سوال [۲۸۲۳]: میں اپنے مکان پر قرآن شریف سنارہا ہوں اور عشاء کی فرض نماز باجماعت مکان پر پڑھتا ہوں، بوجہ سو سالہ ضعیفی کے کہ رات کے وقت سب کے ساتھ مسجد میں فرض نماز ادا نہیں کر سکتا اس لئے ہم اپنے مکان پر ہی جماعت سے عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

معذوری کی وجہ سے آپ مسجد نہیں جاسکتے اور مکان پر ایک دو آدمی کو ساتھ لے کر جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے اس کی گنجائش ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۷/۹/۹۱ھ۔

مشق کے لئے بچوں کی جماعت کرانا

سوال [۲۸۲۴]: اگر بچوں کو نماز کی مشق کرائی جائے تو تکبیر پڑھیں یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بچوں کو اگر بطور تعلیم نماز کی مشق کرائی جائے اور وہ جماعت کر رہے ہیں تو ان کی جماعت مصلیٰ سے علیحدہ کرائی جائے اور وہ تکبیر بھی کہیں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۷/۸۹ھ۔

= يمنع صحة الإقتداء وما لا يمنع : ۸۸/ رشیدیہ

(و كذا في رد المحتار ، باب الإمامة : ۵۸۵/۱ ، سعيد)

(۱) "الجماعة سنة مؤكدة للرجال وقيل: واجبة، وعليه العامة على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة من غير حرج، فلا تجب على مريض و مقعد و زمن و مقطوع يد و رجل من خلاف و مفلوج و شيخ كبير عاجز و أعمى." (رد المحتار على الدر المختار ، باب الإمامة : ۵۵۲/۱-۵۵۵ ، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكبرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة : ۸۲/۱، ۸۳ رشیدیہ)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۶۰۵/۱ ، رشیدیہ)

(۲) "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه قال. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : =

کوڑھی کا مسجد میں جانا

سوال [۲۸۲۵]: زید کوڑھ کے مرض میں مبتلا ہے، دیکھنے میں تندرست معلوم ہوتا ہے مگر زیر علاج ہے، بائیں ہاتھ کی دو انگلیوں میں کچی آگئی، ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس وقت تمہارے خون میں کوئی خرابی نہیں، ایسی حالت میں زید مسجد میں جا کر نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مرض متعدی ہوتا ہے، لہذا زید کو مسجد میں نہیں آنا چاہئے۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

اگر کوڑھ کا اثر خون میں نہیں، بدن سے رطوبت نہیں نکلتی، بدبو نہیں آتی تو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اور جماعت میں شریک ہونا درست ہے، محض دو انگلیوں میں کچی آجانے کی وجہ سے مسجد کی جماعت سے اس شخص کو محروم نہ کیا جائے (۱)۔ مرض متعدی کے عقیدہ کو شریعت نے غلط قرار دیا ہے، کوئی بھی مرض ذاتی طور پر متعدی

= "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ". رواه أبو داؤد، وكذا رواه في شرح السنة عنه. قال الملا علي القاري قوله: "(وهم أبناء سبع سنين): ليعتادوا ويستأنسوا بها". (مرقاة المفاتيح، كتاب الصلوة، الفصل الثاني: ۲/۲۷۵، رشیدیہ)

وقال العلامة الكشميري: "يؤمر الصبي بالصلوة قبل البلوغ للاعتياد كما هو نص حديث الباب، إلا أنها غير واجبة عليه". (العرف الشذی علی هامش جامع الترمذی، أبواب الصلوة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلوة: ۱/۹۵، سعید)

(۱) "وَأَكْلَ نَحْوِ ثَوْمٍ، وَيَمْنَعُ مِنْهُ، وَكَذَا كُلُّ مَوْذٍ وَ لَوْ بِلِسَانٍ". (الدر المختار). وفي رد المحتار: "وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة، وكذلك القصاب، والسماك والمجدوم والأبرص أولى بالإلحاق، وقال سحنون: لا أرى الجمعة عليهما، واحتج بالحديث، وألحق بالحديث كل من أذى الناس بلسانه، وبه أفتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أصل في نفي كل من يتأذى به". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها، مطلب في الغرس في المسجد: ۱/۲۶۱، سعید)

نہیں ہوتا ہے (۱)۔ ہاں! اگر نمازیوں میں وحشت پیدا ہو اور اس کی وجہ سے لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیں اور مسجد کے غیر آباد ہونے کا اندیشہ ہو، یا اس کے جانے کی وجہ سے نزاع کا اور فتنہ کا اندیشہ ہو تو اس کو خود ہی اس کا لحاظ رکھتے ہوئے مکان پر نماز ادا کر لینی چاہئے۔

مشکوٰۃ المصابیح شریف میں کوڑھی سے الگ رہنے کی بھی تاکید ہے اور اس کے ساتھ کھانا کھانے کی بھی تصریح ہے (۲)، دونوں کا محمل یہی ہے کہ ذاتی طور پر ہر مرض کو متعدی سمجھنا غلط ہے اور احتیاط کے درجہ میں پرہیز کرنا درست ہے، مگر جب معالج کے قول کے ماتحت مرض موجود نہیں پھر اس سے یہ پرہیز بھی نہیں (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۶/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عنفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) ”فقد قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”فرّ من المجدوم فرارک من الأسد“.

وقال: ”لا یوردن ذو عاہة علی مصح“ و إنما أراد بذلك نفی ما کان یعتقد أصحاب الطبیعة، فإنہم کانوا یرون العلل المعدیة مؤثرۃ لا محالۃ، فأعلمہم بقولہ هذا أن لیس الأمر علی ما یتوہمون، بل هو متعلق بالمشیئة إن شاء کان، وإن لم یثأ لم یکن، و یشیر إلی هذا المعنی قولہ: ”فمن أعدی الأول“: أي إن کنتم ترون أن السبب فی ذلك العدوی لا غیر، فمن أعدی الأول؟ و بین بقولہ: ”فر من المجدوم“ و بقولہ: ”لا یوردن ذو عاہة علی مصح“ أن مدانۃ ذلك یسبب العلة، فیلتقہ اتقاء ہ من الجدار المائل والسفینة المعیوبۃ“ (مرقاۃ المفاتیح، للملا علی القاری، کتاب الطب والرقی، باب الفأل والطیرۃ، الفصل الأول، (رقم الحدیث: ۴۵۷۷): ۸/۳۴۳، رشیدیہ)

”و عن أبی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ”لا عدوی ولا

طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر، وفرّ من المجدوم کما تفرّ من الأسد“۔ رواہ البخاری“.

(۲) ”و عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أخذ بید مجدوم فوضعہا معہ فی القصعة، وقال: ”کل ثقة باللہ وتوکلأ علیہ“۔ رواہ ابن ماجہ“۔ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الطب والرقی،

باب الفأل والطیرۃ، ص: ۳۹۱، ۳۹۲، قدیمی)

(۳) (راجع رقم الحاشیة: ۱)

جس شخص کے منہ میں تعفن ہو اس سے جماعت ساقط ہے

سوال [۲۸۲۶]: زید کے منہ سے اس قدر تعفن نکل رہا ہے کہ اس کے پاس کھڑا ہونا مشکل ہے تو ایسا شخص مسجد میں جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہو سکتا تو گھر پر اس کو مسجد کا ثواب ملے گا یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

درمختار میں لکھا ہے کہ جس شخص کے منہ سے ایسا تعفن ہو کہ دوسروں کو اذیت ہوتی ہے اور نمازی پاس کھڑے ہونے سے پریشان ہوتے ہیں تو ایسے شخص سے جماعت ساقط ہے، اس کو چاہئے کہ مسجد میں نہ جائے مکان پر نماز پڑھے (۱)۔ چونکہ وہ شرعی حکم کی بنا پر مسجد جانے سے روک دیا گیا اس لئے وہ اجر سے محروم نہیں رہے گا (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹/۵/۸۷ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

جس نے فعل بد کیا ہو اس کو مسجد میں آنے سے روکنا

سوال [۲۸۲۷]: ایک شخص خوب تہجد گزار تھا اور مسجد میں روزانہ نماز میں ۱۵/منٹ پہلے آتا اور آدھے گھنٹہ بعد مسجد سے جاتا تھا، ایک دن اس کو ایک لڑکے کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا، اس نے معافی

(۱) ”وأكل ثوم، ويمنع منه، وكذا كل مؤذ ولو بلسانه.“ (الدر المختار). ”و كذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة.“ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره: مطلب في أحكام المساجد: ۱/۶۶۱، ۶۶۲، سعيد)

(و كذا في مرقاة المفاتيح، كتاب الصلوة، باب المساجد و مواضع الصلوة، الفصل الأول: ۲/۴۱۲، رشيدية)

(۲) ”لكن في نور الإيضاح: وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أذارها، وكانت نيته حضورها لولا العذر، يحصل له ثوابها، اهـ.“ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، ۵۵۳، رشيدية)

(و كذا في نور الإيضاح مع شرحه مراقى الفلاح، كتاب الصلاة، فصل: يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئاً، ص: ۲۹۹، قديمي)

مانگی، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کے باوجود پھر اس نے وہی حرکت کی اور اس کو پکڑ لیا گیا اس نے خود بھی اقرار کر لیا، لیکن معافی نہیں مانگی۔ زنا مسجد کے قریب کمرہ میں کیا گیا، لوگوں نے اس کو مسجد میں آنے سے روک دیا، اب وہ مسجد میں نہیں آتا ہے، گھر میں نماز پڑھتا ہے۔ لوگوں نے اس کو مسجد میں آنے سے روکا، شریعت کی حیثیت سے اچھا کیا یا بُرا، کیا اس کے لئے کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

مسجد میں آنے سے اور نماز پڑھنے سے اس کو نہ روکا جائے، البتہ اس کا انتظام کیا جائے کہ پھر وہ یہ خبیث حرکت نہ کرنے پاوے، وہ صرف فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کرے اس لئے عین جماعت کے وقت آوے اور فرض پڑھ کر فوراً چلا جائے، سنن و نوافل مکان پر جا کر پڑھا کرے۔ خدا تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اس فعل سے باز آجائے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

مسجد بیت میں جماعت کی حیثیت

سوال [۲۸۲۸]: کیا گھر مذکورہ بالا کی مسجد میں (جبکہ اتفاقیہ) جماعت نماز کی ضرورت پڑ جائے،

مکان کی طرح اتصال امام اور اتصال صفوف اقتداء کے لئے شرط ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

جو چیز مسجد میں مانع اقتداء ہے وہ مکان پر بھی مانع ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۶/۷/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غنی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۶/۷/۸۸ھ۔

(۱) "ويمنع من الاقتداء طريق تجرى فيه عجلة أو نهر تجرى فيه السفن، أو خلاء في الصحراء يسع صفين فاكثر، والحائل لا يمنع الاقتداء إن لم يشته حال إمامه، ولم يختلف المكان حقيقة كمسجد وبيت في الأصح، قنية". (الدرالمختار) قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ: "قوله: كمسجد وبيت)..... وكذا البيت حكمه حكم المسجد في ذلك، لاحكم الصحراء". (الدرالمختار مع

الفصل الثانی فی ترک الجماعة (ترک جماعت کا بیان)

ترک جماعت کا حکم

سوال [۲۸۲۹]: ایک گھر کے چند آدمی بلا جماعت گھر میں ہی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، فرداً فرداً نماز ادا کرتے ہیں، ترک جماعت کی وجہ سے ان کی فرض ادا ہو جائے گی یا نہیں؟
العبد محمد عثمان چاٹگامی، مقیم حجرہ نمبر: ۱۳۷، ۲۵/رجب/۵۶ھ۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

حنفیہ کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے، بلا عذر ترک اس کا جائز نہیں اور تارک پر شرعاً تعزیر ہے: ”والجماعة سنة مؤكدة للرجال، قال الزاهدی: أرادوا بالتاكيد الوجوب، وقيل: واجبة وعليه العامة“ (۱)۔ ”قال فی شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر و ترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه، اه“۔ شامی: ۱/۵۷۶ (۲)۔
لیکن صلوٰۃ خمہ کے لئے شرط نہیں، پس فرائض کی ادائیگی بلا جماعت بھی ہو جاتی ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۶/۷/۵۶ھ۔
الجواب صحیح: سعید تمغفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۶/رجب/۵۶ھ۔

(۱) (الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، ۵۵۳، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس فی الإمامة: ۱/۸۲، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۶۰۲، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتاریخانیہ، کتاب الصلوٰۃ، الفصل الثامن فی الحث علی الجماعة: ۱/۶۲۷، إدارة القرآن کراچی)

(۲) (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، رشیدیہ) =

ترکِ جماعت

سوال [۲۸۳۰]: پڑوس کی مسجد میں نماز نہ پڑھ کر گھر پر ہی پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بلا عذر شرعی مسجد کی نماز چھوڑ کر گھر پر ہی پڑھنا بہت بڑی محرومی ہے اور اسلام کے بڑے شعار کو ترک کرنا ہے، حدیث شریف میں اس پر سخت وعید ہے (۱)، ایک حدیث میں اس کی نماز کو ناقابلِ اعتبار قرار دیا گیا ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

ایضاً

سوال [۲۸۳۱]: ہمارے یہاں زیادہ تر دیہاتی کسان لوگ ہیں جو کہ کاشتکاری کا کام کرتے ہیں، ان کی سہولت کے لئے صبح کی نماز اول وقت میں بہت تڑکے (۳) پڑھی جاتی ہے، پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ

= (و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة : ۶۰۳/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی منحة الخالق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة : ۶۰۳/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی الحلبي الكبير، فصل فی الإمامة، ص: ۵۰۹، سهيل اكيڈمی لاہور)

(۱) ”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”لقد هممت أن

أمر بالصلوٰۃ، فتقام، ثم أمر رجلاً، فيصلی بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم

لا يشهدون الصلوٰۃ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار“۔ (سنن أبي داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب فی التشديد فی

ترک الجماعة : ۸۸/۱، امدادیہ ملتان)

(و أخرجه مسلم فی کتاب المساجد، باب فضل صلوٰۃ الجماعة ھ: ۲۳۲/۱، قديمی)

(۲) ”عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”من

سمع المنادي، فلم يمنع من اتباعه عذر“۔ قالوا: وما العذر؟ قال: ”خوف أو مرض -، لم تقبل

منه الصلوٰۃ التي صلى“۔ (سنن أبي داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب فی التشديد فی ترک الجماعة :

۸۸/۱، امدادیہ ملتان)

(۳) ”ترکاً صبح، فجر، سویرا“۔ (فیروز اللغات، ص: ۳۵۸، فیروز سنز، لاہور)

جماعت سے نماز نہیں پڑھتے اور جماعت ترک کر کے کھیت چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ تارک جماعت ہیں، کیا ان پر کفارہ لازم ہے؟

شمشاد علی، باندہ بہمنی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص جماعت سے نماز نہ پڑھے وہ تارک جماعت ہے، لیکن سخت ضرورت کی وجہ سے اگر کسی کی جماعت فوت ہو جائے اس پر کوئی گرفت نہیں، محض معمولی سہولت کے لئے ترک جماعت کی عادت ڈالنا سخت مذموم ہے (۱) توبہ واستغفار کر کے آئندہ پابندی کر لینا بھی کفارہ ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

تارک جماعت کا حکم

سوال [۲۸۳۲]: زید ایک مالدار آدمی ہیں اور حاجی بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن محلہ کی مسجد میں صرف ایک مہینہ رمضان شریف میں آتے ہیں، بقیہ گیارہ مہینے مسجد میں نہیں آتے، ایسے شخص کا شرعی حکم کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص بلا عذر اس طرح جماعت کو دائماً ترک کرتا ہے وہ گنہگار ہے اس کی شہادت قبول نہیں: "قال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر، و ترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه، اهـ". شامی: ۱/۳۷۱ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حرره العبد محمود غفر له۔

(۱) "الجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، وعليه العامة. فتسن أو تجب - ثمرته تظهر في الإثم

بتركها مرة - على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة". (الدر المختار مع

رد المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، ۵۵۳، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۲، رشيدية)

(و أيضاً راجع للتخريج المسئلة المتقدمة آنفاً)

(۲) (رد المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۳، رشيدية)

(و كذا في الحلبي الكبير، فصل في الإمامة، ص: ۵۰۹، سهيل اكيڈمی لاہور)

مجاہدہ کے لئے ترکِ جماعت

سوال [۲۸۳۳]: کسی ذی ہوش تندرست بزرگ فقیر اور ولی کارِ رمضان المبارک میں مسجد میں باجماعت نماز نہ پڑھنا اور قرآن پاک تراویح میں نہ سننا بلکہ جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کرنا یعنی چلہ کرنا کیسا ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

جماعت کی احادیث میں بہت تاکید آئی ہے (۱)، بلاعذر شرعی ترکِ جماعت کا عادی شخص فاسق اور مردود الشہادۃ ہے حتیٰ کہ ایسا شخص منافقین کے مشابہ ہے (۲)۔ خدائے پاک کی بارگاہ میں موجبِ قرب صرف

(۱) "عن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدولاً تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية". رواه أحمد و ابو داؤد والنسائي".

"عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من سمع المنادى فلم يمنع من اتباعه عذر". - قالوا: "وما العذر قال خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي صلى". رواه أبو داؤد والدارقطني". (مشکوٰۃ المصابيح، کتاب الصلوٰۃ، باب الجماعة و فضلها: ۹۶/۱، قدیمی)

"عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلاً فيصلى بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". (سنن أبي داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب في التشديد في ترك الجماعة: ۸۸/۱، امدادیہ ملتان)

(۲) "عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض، إن كان المريض ليمشى بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه..... اهـ". رواه مسلم". (مشکوٰۃ المصابيح، کتاب الصلوٰۃ، باب الجماعة و فضلها: ۹۶/۱، قدیمی)

"ولذا قال في الأجناس: لا نقبل شهادته إذا تركها استخفافاً و مجاناً، أما سهواً أو بتأويل ككون الإمام من أهل الهواء أو لا يراعى مذهب المقتدى، فتقبل، اهـ". (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، =

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اس کے علاوہ جو مجاہدات ہیں وہ موجب قرب نہیں (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۶/۱/۹۱ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۶/۱/۹۱ھ۔

مسجد میں امام سے قبل تنہا نماز پڑھنا

سوال [۲۸۳۲]: میں نے ایک روز فجر کی نماز میں امام صاحب کا انتظار کرتے ہوئے تنہا نماز پڑھ

لی، اس سے پہلے بھی کبھی کبھی تنہا نماز پڑھ لیتا تھا، کیوں کہ فرض نماز کے بعد کچھ وظیفہ وغیرہ پڑھتا ہوں، مجھے امام صاحب برابر معاف کرتے رہے، مگر اس دن معاف نہیں کیا، دل میں شک ہوا، اس دن عصر کی نماز بھی تنہا پڑھی کہ امام صاحب کچھ کہتے ہیں یا نہیں، مگر کچھ نہیں کہا۔ ایک مقتدی نے امام صاحب سے میرے بارے میں پوچھا کہ انہوں نے تنہا نماز کیوں پڑھی؟ تو امام صاحب نے کہا کہ ان کی نماز تو من چاہی ہے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے۔ میں نے ان کے پیچھے اور بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ امام صاحب شرع سے کم داڑھی رکھتے ہیں، جن کے بارے میں آپ صاحبان سے مسئلہ معلوم کر کے علیحدہ نماز پڑھتا تھا۔

کیا ایسی حالت میں اور مقتدیوں کی نماز ہو رہی ہے یا نہیں، کیونکہ امام صاحب تکبر و گھمنڈ والے آدمی ہیں؟ کیا امام کا میری نماز کے متعلق ایسا کہنا صحیح ہے؟ نیز امام صاحب حافظ کہلاتے ہیں، مگر چند سورتیں ہیں جن کو وہ روزانہ پڑھتے ہیں، اگر امام صاحب سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جیسے مجھے آتی ہے ویسے ہی پڑھاتا ہوں،

= باب الإمامة: ۱/۵۵۴، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۳، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۲۳۸، امدادیہ ملتان)

(۱) قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

وقال الله تعالى ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فَإِنْ تَوَلَّوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾. (سورة آل

عمران: ۳۱، ۳۲)

جب کہ ان کے مقابلہ میں ایک ناظرہ خواں بھی اچھی طرح سے نماز پڑھا لیتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

اپنا وظیفہ پڑھنے کی خاطر جماعت سے پہلے ہی تنہا نماز پڑھ لینا بڑی غلطی اور محرومی ہے (۱) نیز بلا عذر کے محض اس وجہ سے تنہا پڑھنا کہ امام صاحب پوچھیں گے یا نہیں، یہ بھی غلطی ہے، ایسا ہرگز نہ کرے، اپنے عمل سے آپ نے ظاہر کر ہی دیا کہ جب آپ کا دل چاہا آپ نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لی، نہیں دل چاہا تو نہیں پڑھی، یہی بات امام صاحب نے بھی کہہ دی تو آپ کیوں ناخوش ہیں؟ اگر یہ وجہ ہے کہ ان کی داڑھی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ کٹا کر کم کرا لیتے ہیں تو یہ وجہ سب نمازوں میں مشترک ہے، پھر کسی روز ان کے پیچھے نماز پڑھنا کسی روز نہ پڑھنا کس لئے ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۱/۹۳ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۱/۹۳ھ۔

(۱) "عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "صلوة الجماعة تفضل علی صلوة الرجل وحده بسبع و عشرين درجة". (سنن الترمذی، أبواب الصلوة، باب ما جاء فی فضل الجماعة: ۵۲/۱، سعید)

"عن أبی ہریرة - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "صلوة الرجل فی جماعة تزيد علی صلواته فی بیته و صلواته فی سوقه بضعا و عشرين درجة". (الصحيح للإمام مسلم، کتاب المساجد، باب فضل الصلوة المكتوبة فی جماعة اھ: ۲۳۴/۱، قدیمی)

"عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "من سمع المنادی فلم یمنعه من اتباعه عذر". - قالوا: "وما العذر؟ قال: "خوف و مرض -، لم تقبل منه الصلوة التي صلی". (سنن أبی داؤد، کتاب الصلوة، باب فی التشدید فی ترک الجماعة: ۸۸/۱، امدادیہ ملتان)

"والجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، وعليه العامة، فتسن أو تجب، - ثمرته تظهر فی الإثم بتركها مرة - علی الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين علی الصلوة بالجماعة". (الدرالمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۲/۱، ۵۵۴، سعید)

(و کذا فی الحلبي الكبير، فصل فی الإمامة، ص: ۵۰۸، سهیل اکیڈمی لاہور)

امام صاحب نہ آئیں تو کیا نماز الگ الگ پڑھیں؟

سوال [۲۸۳۵]: وقتی نماز کیلئے ہم تقریباً پچاس مسلمان مسجد شریف میں ہوتے ہیں، اگر بد قسمتی سے امام صاحب حاضر نہیں ہوتے تو ہم سب علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اس جماعت میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، مگر یہاں کے مسلمان ایک دوسرے پر الزامات سچ کا جھوٹ کا لگاتے ہیں اور ان پڑھے لکھے مسلمانوں کو قابلِ امامت نہیں سمجھتے۔ کیا یہ مسلمان کا طریقہ جائز ہے اور ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب امام صاحب کو کوئی ضرورت پیش آجائے جس کی وجہ سے وہ جماعت کے وقت مسجد شریف نہ لاسکیں تو ان کو چاہئے کہ کسی مناسب آدمی کو ہدایت کر دیں کہ وہ نماز پڑھا دے (۱)، سب کا بلا جماعت نماز پڑھنا بڑی کوتاہی ہے (۲)، اگر امام صاحب کسی کو تجویز نہ کریں تو نمازی خود ہی اپنے میں سے جو زیادہ اہل ہو اس کو امام

(۱) ”عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ألا تحذثنيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى! ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ”أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله! والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس الخ“ (مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب ما عني المأموم من المتابعة وحكم المسبوق: ۱/۱۰۲، اقدیمی)

”الاستخلاف جائز مطلقاً: أي سواء كان لضرورة أو لا، كما يعلم من عبارة مجمع الأنهر“

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ۲/۱۳۲، سعید)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، باب الجمعة: ۱/۱۶۶، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(۲) ”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”والذي نفسي بيده! لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلوة فيؤذن لها، ثم أمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال“، وفي رواية: ”لا يشهدون الصلوة، فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده! لو يعلم أحدكم أنه يجد عرقاً سميماً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء“، رواه البخاري ولمسلم نحوه“ (مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب الجماعة وفضلها: ۱/۹۵، قديمی)

بنا کر جماعت سے پڑھا کر دیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۹/۹۵ھ۔

ملازمت کی وجہ سے ترک جماعت

سوال [۲۸۳۶]: زید جماعت سے قبل نماز پڑھنا چاہتا ہے، اگر جماعت سے قبل نماز نہ پڑھے تو

زید ملازم پیشہ ہے، ملازمت چھوٹنے کا خطرہ ہے اور اس کے گھر میں کوئی جگہ اس قابل نہیں جہاں وہ نماز ادا کر سکے

اس حالت میں وہ مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یا مسجد کے کسی ایسے حصہ میں جو مسجد کی حدود سے خارج ہو؟

بندہ محمد نبیہ اللہ لکھنوی۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

زید کو ایسی ملازمت کرنا جس میں کبھی ترک جماعت بغیر کام نہ چلے منع ہے، اس کو چاہئے کہ کوئی دوسری

ملازمت یا گزران کی دوسری صورت اختیار کرے جو ادائے فرض و سنن میں خارج نہ ہو اور جب مل جائے تو ملازمت

موجودہ کو ترک کر دے (۲)، بحالت مجبوری مسجد میں بھی تنہا نماز درست ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۷/۷/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۸/رجب/۵۸ھ۔

= "فإذا تركها الكل مرة بلا عذر، أثموا، فتأمل". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۲/۱، سعيد)

(۱) "والأحق بالإمامة تقديماً بل نصباً - مجمع الأنهر - الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحة وفساداً

بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقراءة اهـ".

(الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۷/۱، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من هو الأحق بالإمامة: ۶۶۹/۱، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۲) "الجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، وعليه العامة. فتسن أو تجب - ثمرته تظهر في الإثم

بتركها مرة - على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة". (الدر المختار مع

رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۲/۱، ۵۵۳، رشيدية)

(و كذا في الحلبي الكبير، فصل في الإمامة، ص: ۵۰۸، سهيل اكيڈمي لاهور)

(۳) "الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة". (الأشباه والنظائر، القاعدة الخامسة: =

مسجد کی جماعت میں شریک نہ ہونا اپنی نماز تنہا پڑھنا

سوال [۲۸۳]: نماز پڑھنے کے لئے جماعت کھڑی ہوگئی، کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے احتراز کرتا ہے اور جماعت سے الگ وہ شخص اپنی نماز فرض ادا کرنے کے لئے علیحدہ کھڑا ہو گیا اور اس کو منع کیا گیا کہ آپ جماعت سے بعد میں یا پہلے اپنی فرض نماز ادا کریں تو اس نے جواب دیا کہ میری نماز میں کوئی فرق یا کمی نہیں آئی اور مسئلہ یہ کہتا ہے کہ کوئی فرق میری نماز میں نہیں آتا اور دوسرے نمازی، امام صاحب سے لڑتے ہیں۔ براہ کرم جواب سے مطلع فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب فرض نماز جماعت سے صحیح طریقہ پر ہو رہی ہو تو اپنی نماز علیحدہ پڑھنا شرعاً نہایت ممنوع اور ناپسند ہے، جماعت کی مخالفت کی اجازت نہیں، کتب فقہ میں اس کی تصریح موجود ہے، اس شخص کو اپنے اس فعل سے باز آنا لازم ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود وغفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

= ۱/۲۹۳، إدارة القرآن کراچی

(و کذا فی شرح المجلة لسليم رستم باز، (رقم القاعدة: ۳۲) : ۱/۳۳، رشیدیہ)

(۱) ”عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”ما من ثلاثة في قرية ولا بدوٍ لا تقام فيهم الصلاة، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية“. قال السائب: يعني بالجماعة الجماعة في الصلاة“.

”قلت: دلالتہ علی وجوب الجماعة ظاهرة و مثل هذا الوعيد لا يكون إلا لترك الواجب“، (إعلاء السنن، أبواب الإمامة، باب وجوب إتيان الجماعة في المسجد عند عدم العلة: ۱/۲۶۷، إدارة القرآن کراچی)

”والجماعة سنة مؤكدة للرجال، قال الزاهدی: أرادوا بالتأكيد الوجوب. قال فی شرح المنية: و الأحكام تدل علی الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر، و ترد شهادته، و يأثم الجيران بالسكوت عنه“، (تنوير الأبصار والدر المختار مع ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۰۲، رشیدیہ) =

مسجد میں جماعت سے پہلے اپنی نماز پڑھنا

سوال [۲۸۳۸]: ایک شخص اذان ہونے کے بعد مسجد میں جماعت ہونے سے پہلے انفراداً نماز پڑھ

کر نکل جاتے ہیں، وہ عالم ہونے کے باوجود امام سے حسد، کینہ رکھتا ہے، بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

اگر امام میں شرعی خرابی نہیں بلکہ ذاتی عداوت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت مذموم طریقہ ہے،

اس سے باز آنا چاہئے (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جھگڑے سے بچنے کے لئے گھر پر نماز پڑھنا

سوال [۲۸۳۹]: زید کے مسجد میں جانے اور جماعت سے نماز ادا کرنے سے جھگڑے کا اندیشہ

ہے، ایسی حالت میں زید کی نماز گھر پر بغیر جماعت کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جھگڑے کا منشاء اور سبب کیا ہے، کیا زید خود جھگڑا کرتا ہے یا کسی خاص طرز پر نماز

پڑھتا ہے جس سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، یا زید کو اپنی زبان پر قابو نہیں اور جھگڑے سے بچنے کی کوئی صورت نہیں

= (و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلاة، الباب الخامس فی الإمامة : ۸۲/۱، رشیدیہ)

(۱) قال اللہ تعالیٰ: ﴿واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا﴾ (آل عمران: ۱۰۳)

وقال اللہ تعالیٰ: ﴿ولا تنازعوا، فتفشلوا وتذهب ربکم، واصبروا، إن اللہ مع الصابین﴾

(الانفال: ۴۷)

”عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: ”إن الشیطان

ذئب الإنسان کذئب الغنم يأخذ الشاة القاصیة والناحیة، فیاکم والشعاب، وعلیکم بالجماعة والعامه

والمسجد“۔ (مسند الإمام أحمد، (رقم الحدیث: ۲۱۵۲۳): ۳۰۷/۶، دار إحياء التراث العربی

(بیروت)

اور دوسری مسجد بھی نہیں، یاد ہاں بھی جھگڑے کا اندیشہ ہے تو جھگڑے سے بچنے کے لئے اپنے مکان پر نماز ادا کر لی جائے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

گھر میں جماعت کرنا

سوال [۲۸۴۰]: مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی کسی تصنیف میں جو کہ یاد نہیں ہے اور ایضاً البخاری کے کسی جزی میں مولانا سید فخر الدین صاحب مدظلہ، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے کہیں تحریر فرمایا ہے کہ ”بغیر عذر کے فرض نماز غیر مسجد میں پڑھنا جائز نہیں“ اور یہ حکم خفیوں کے لئے تحریر فرمایا ہے اور یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ”اگر گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جماعت کرے تو جائز ہے، وہ بھی جب کہ مسجد میں جماعت ہوگئی ہو“ تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

مسجد قریب موجود ہو اور پھر وہاں کی جماعت بلا عذر ترک کر کے مکان پر کوئی شخص اپنی نماز پڑھ لے تو اگرچہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے مگر یہ بہت بڑی محرومی ہے، حدیث پاک میں ہے: ”لا صلوة لجار المسجد إلا فی المسجد“ (۱)۔

اگر مسجد میں جا کر معلوم ہوا کہ جماعت ہو چکی ہے تو اپنے مکان پر اہل و عیال کو لے کر جماعت کر لی جائے، مسجد کی جماعت کا مستقلاً ترک کرنا گناہ ہے:

”والجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة وعليه العامة“۔ تنویر (۲)۔ ”قال شارح

(۱) و الرواية بتمامها: ”وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ”لا صلوة لجار المسجد إلا في المسجد“۔ وهذا الخبر عند أهل العلم أنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم يرو عنه مسنداً ولا صحيحاً ولا فاسداً، وإنما هو موقوف على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه“۔ (الحاوی الکبیر، کتاب الصلاة، باب فضل الجماعة والعذر بتركها: ۳۷۹/۲، ۳۸۰، دار الفکر)

(۲) (تنویر الأبصار مع الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۲/۱، ۵۵۴، سعید)

(و کذا فی الفتاوی العالمگیریة، کتاب الصلوة، الباب الخامس فی الإمامة: ۸۲/۱، رشیدیہ) =

المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر، وترد شهادته". شامی، ص: ۲۷۱ (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۱۲/۸۹ھ۔
الجواب صحیح، بندہ نظام الدین غفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

گھریا حجرہ میں جماعت کرنا

سوال [۲۸۴۱]: حجرہ یا گھر میں ۲۰، ۲۰/ طالب علم وقتی نماز ادا کرتے ہیں، قریب آس پاس میں جامع مسجد بھی موجود ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو کیا گھر میں جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر جمعہ کی نماز ہوگی تو آس پاس کے محلہ میں جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں پارٹی بازی یا جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کیا حکم ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

ہر نماز کو مسجد میں ادا کیا جائے، مسجد کو چھوڑ کر بلا عذر شرعی گھر میں نماز کا اہتمام کرنا مسجد کے حق کو تلف کرنا ہے، خاص کر نماز جمعہ، اس کے لئے جامع مسجد کا اہتمام کیا جائے، اپنے ذاتی گھر میں ہرگز جمعہ نہ پڑھا جائے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
الملاہ العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند۔

= (و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱ / ۶۰۲، رشيدية)

(و كذا في فتح القدير، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱ / ۳۴۴، ۳۴۵، مصطفى الحلبي بمصر)

(۱) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱ / ۵۵۲، سعيد)

(و كذا في الحلبي الكبير : فصل في الإمامة، ص : ۵۰۹، سهيل اكيدي لاهور)

(و كذا في منحة الخالق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱ / ۶۰۳، رشيدية)

(۲) قال الله تعالى: ﴿و من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه و سعى في خرابها﴾. (سورة

البقرة : ۱۱۴). "أى هدمها و تعطيلها، وقال الواحدى : إنه عطف تفسير؛ لأن عمارتها بالعبادة فيها".

(روح المعاني : ۱ / ۳۹۴، دار إحياء التراث العربى بيروت)

"عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : "إن الشيطان =

گھر میں اذان و اقامت سے تنہا نماز پڑھنا

سوال [۲۸۴۲]: ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اور نیت جماعت کی کر لیتا ہے اور جہری نماز میں قرأت بالجہر و تکبیرات انتقالات بالجہر کرتا ہے۔ تو کیا اس شخص کو جماعت کا ثواب ہو جائے گا؟ یا جنگل میں تنہا اذان و اقامت کہہ کر نماز شروع کرے اور آغاز میں تکبیر تحریمہ بھی بالجہر کہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جماعت کو چھوڑ کر بلا عذر گھر میں یا جنگل میں تنہا اذان و اقامت کہہ کر قرأت و تکبیرات انتقالات بالجہر کر کے نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب نہیں ہوگا (۱)، البتہ جو شخص جماعت کا عادی ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے

= ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية، والناصية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعمامة والمسجد“. (مسند أحمد (رقم الحديث: ۱۲۵۲۴): ۳۰۷/۲، دار احياء التراث العربی بیروت)

”عن طارق بن شهاب رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض“. رواه أبو داؤد.

”عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: ”لقد هممت أن أمر رجلاً يصلى بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم“. رواه مسلم.“

”وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”من ترك الجمعة من غير ضرورة، كتب منافقاً في كتاب لا يمحي ولا يُبدل“. وفي بعض الروايات: ”ثلاثاً“. رواه الشافعى“. (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب وجوبها، الفصل الأول والثانى: ۱/۱۲۱، قديمى) (۱) ”ولو أذن وأقام فى الصحراء وهو منفرد، فحكمه حكم المنفرد فى أنه يجمع بين التسميع والتحميد، وكذا فى الجهر والمخافة“. (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلوة، باب الأذان، نوع آخر فى المتفرقات من هذا الفصل: ۱/۵۲۵، إدارة القرآن كراچى)

(و كذا فى رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ۱/۳۹۴، سعيد) =

جماعت میں شریک نہ ہو سکے، تو اس کو اپنی نماز بصورتِ جماعت ادا کرنا افضل ہے (۱)۔

”تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك“ میں حدیث نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنگل میں تنہا اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو جنات اور ملائکہ اس کی اقتداء کرتے ہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۳/۲/۶۲ھ۔

صحیح: عبداللطیف، ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۶/۲/۶۲ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۳/۲/۶۲ھ۔

= ”عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”صلوة الرجل في بيته بصلوة، و صلوته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلوة، و صلوته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلوة، و صلوة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلوة، و صلوة في مسجدي بخمسين ألف صلوة، و صلوته في المسجد الحرام بمائة ألف صلوة“..... رواه ابن ماجة“ (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساجد ومواضع الصلوة: ۱/۷۲، قديمي)

(۱) ”عن أبي عثمان عن سلمان، قال: لا يكون رجل بأرض قى فيتوضأ، فإن لم يجد الماء يتيمم، ثم ينادى بالصلوة، ثم يقيمها إلا أم من جنود الله مالا يرى طرفاه“ (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة، كتاب الأذان والإقامة في الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم: ۱/۱۹۸، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(۲) ”وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في ”المصنف“ والبيهقي في سننه، عن سلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه، قال: إذا كان الرجل في أرض، فأقام الصلوة صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام، صلى خلفه من الملائكة مالا يرى طرفاه يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه“

”وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال: إذا أقام الرجل الصلوة وهو في فلاة من الأرض، صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام، صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال“ (تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك من مجموعة رسائل اللكنوى، الفصل الثاني في حصول الجماعة بالملائكة، ص: ۱۰، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراچی)

ذاتی رنجش کی بنا پر جماعت سے گریز

سوال [۲۸۴۳]: بعض لوگ ذاتی رنجش کی بنا پر اپنے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور دوسرے مصلیان کو بھی بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہمارا دل صاف نہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی، کیا ان کا یہ فعل درست ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

غلط ہے (۱) امام سے دل صاف نہ رکھنا اگرچہ بُرا ہے، لیکن نماز پھر بھی ہو جاتی ہے فاسد نہیں ہوتی (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

= "وأخرج البزار عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من صلى منكم بالليل ، فليجهر بقراءته ، فإن الملائكة يصلون بصلاته ، وإن مؤمناً الجنى الذين يكونون في الهوى وجيرانه معه في مسكنه يصلون بصلاته ، ويستمعون بقراءته ، وإنه ليطرد بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فساق الجن ومردة الشياطين". (تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك من مجموعة رسائل اللكنوى، الفصل الأول في حصول الجماعة بالجن، ص: ۵، إدارة القرآن كراچی)

(۱) "والجماعة سنة مؤكدة للرجال، قال الزاهدي: أرادوا بال تأكيد الوجوب، وقيل: واجبة، وعليه العامة. قال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر، وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۲/۱، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۰۳/۱، رشيدية)

(۲) "ولو أم قوماً وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تحريماً لحديث أبي داؤد. "لا يقبل الله صلاة من تقدم قوماً وهم له كارهون". وإن هو أحق، لا، والكراهة عليهم". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۰۹/۱، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلوة، الفصل السادس في بيان من هو الأحق بالإمامة: ۶۰۳/۱، ۶۰۴، إدارة القرآن كراچی)

تعصب کی بنیاد پر امام کے پیچھے عید نہ پڑھنا

سوال [۲۸۴۲]: عید الاضحیٰ کی نماز کے موقع پر جب امام مصلیٰ پر چڑھا تو آدھے آدمیوں نے کہا ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرے آدھے آدمیوں نے کہا کہ ہم تمہارے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، غرضیکہ دو جماعت ہو گئیں اور دو جگہ نماز ہوئی تو بتلائیے اس طرح سے نماز ہوگی یا نہیں، یا ایسے موقع پر کون سی صورت اختیار کی جائے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز تو دونوں قسم کے آدمیوں کی ہوگئی (۱) لیکن ایسا طریقہ اختیار کرنا بلاوجہ شرعی محض تعصب کی بنا پر کسی شخص کی امامت پر اعتراض کر کے علیحدہ علیحدہ جماعت کرنا شرعاً و اخلاقاً ہر طرح مذموم اور قابل نفرت حرکت ہے اس سے پورا پرہیز ضروری ہے، مسلمانوں کو لازم ہے کہ آپس کے ذاتی اختلافات کو ختم کر کے ایک ایسے شخص کو امام تجویز کر لیں جو صحیح العقیدہ، مسائل امامت و نماز سے واقف، متبع سنت، قرآن کریم صحیح پڑھنے والا ہو اور سب متفق ہو کر اس کے پیچھے نماز پڑھا کریں تاکہ شیرازہ منتشر نہ ہو (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی غفرلہ۔

(۱) ”و لو أم قوماً و هم له كارهون، إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه، كره له ذلك تحريماً لحديث أبي داود ”لا يقبل الله صلاة من تقدم قوماً و هم له كارهون“، و إن هو أحق، لا، و الكراهة عليهم“، (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱ / ۵۵۹، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱ / ۶۰۹، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلوة، الفصل السادس في بيان من هو الأحق بالإمامة: ۱ / ۶۰۳، ۶۰۳، إدارة القرآن كراچی)

(۲) قال الله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تفرقوا﴾. (سورة آل عمران : ۱۰۳)

وقال تعالى: ﴿و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ربحكم، و اصبروا، إن الله مع

الصابرين﴾. (سورة الأنفال : ۴۷)

”عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”إن الشيطان

ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية و الناصية، فإياكم و الشعاب، و عليكم بالجماعة =

مسجد میں جماعت ہو چکی تو کیا گھر میں جماعت کرنے سے جماعت کا ثواب ملے گا؟

سوال [۲۸۴۵]: زید سور ہاتھ یا کوئی کام کر رہا تھا اور مسجد میں جماعت ہو گئی، اب اگر وہ کسی کمرہ میں باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملے گا اور اس جماعت کو جماعتِ ثانیہ سے موسوم کریں گے یا نہیں، جب کہ مسجد کی جماعت اولیٰ فوت ہو چکی ہے؟ بکر جماعتِ اولیٰ ہونے کا داعی ہے۔ حضرت سے ابھی قریب ہی جماعتِ ثانیہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تھا کہ مسجد کے علاوہ جو لوگ جماعت کرتے ہیں تو انہیں ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو بندہ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس شخص کے بارے میں کہ جس کی جماعتِ اولیٰ فوت ہو گئی ہے، علماء کے تین قول ہیں:

۱- مسجد میں تنہا نماز پڑھے۔ ۲- کسی دوسری مسجد میں تلاش کرے۔

۳- گھر میں مع اہل کے جماعت سے نماز پڑھے۔

تو یہ تینوں قول زجراً و تنبیہاً ہیں، سزا کے طور پر ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تو پھر ان کو جماعت کا بھی ثواب نہیں ملے گا تو حضرت نے فرمایا کہ سزا میں جزا نہیں ہوا کرتی۔ امر طلب یہ ہے کہ اس بات میں کتب فقہ کی عبارتوں سے ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، کتابوں میں ہے کہ فضیلت جماعت اس کو حاصل ہوگی اگرچہ مسجد کی نہیں۔ تطبیق کی کیا صورت ہے؟ نیز سو جانا عذر ہے یا نہیں؟ تشفی بخش جواب سے نوازیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

گھر میں جماعت کرنے سے فضیلت جماعت تو حاصل ہو جائے گی مگر مسجد کی فضیلت اس سے زیادہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگی: ”ولو صلى في بيته بزوجته أو جاريتيه أو ولده، فقد أتى بفضيلة الجماعة، ولكن فضيلة المسجد أتم“. طحطاوی علی مراقی الفلاح (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔
حرره العبد محمود غفر له۔

= والعمامة والمسجد“. (مسند أحمد، (رقم الحديث: ۲۱۵۲۴): ۳۰۷/۶، دار إحياء التراث العربی بیروت)

(۱) (حاشية الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ۲۸۷، قدیمی)

”وإن صلى بجماعة في البيت اختلف فيه المشايخ، والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة،

وللجماعة في المسجد فضيلة أخرى، فإذا صلى في البيت بجماعة، فقد حاز فضيلة أدائها بالجماعة =

ایک مسجد کی جماعت چھوڑ کر دوسری مسجد میں جانا

سوال [۲۸۴۶]: کسی مسجد میں زید وضو کر رہا تھا کہ ادھر جماعت کی رکعتیں ہو گئیں، یا صرف قعدہ اخیرہ ہی ملنے کی امید ہے، تو زید نے سمجھا کہ اچھا ہے چلو کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیں جہاں پوری جماعت ملنے کی امید ہے تو ایسی صورت میں ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف انتقال جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

زید کو ایسا نہیں کرنا چاہئے اس مسجد کا حق قائم ہو گیا وہیں جماعت میں شریک ہو جائے (۱)۔ فقط واللہ

تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹/۴/۹۳ھ۔

= وترك الفضيلة الأخرى، وكذا قاله القاضي الإمام أبو علي النسفي، والصحيح أن أداءها بالجماعة في المسجد أفضل، وكذلك في المكتوبات“ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح : ۱/۱۱۶، رشيدية)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلاة. تراويح، ص: ۲۰۲، سهيل اكيذمي لاهور)

(۱) ”عن أبي الشعثاء رحمه الله تعالى قال: خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم“ (سنن الترمذی،

أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان : ۱/۵۰، سعيد)

(وسنن أبي داؤد، كتاب الصلوة، باب الخروج عن المسجد بعد الأذان : ۱/۷۹، سعيد)

”و كره تحريماً لنهي خروج من لم يصل من مسجد أذن فيه جرى على الغالب والمراد دخول

الوقت أذن فيه أو لا“ (الدر المختار). ”(قوله: من مسجد أذن فيه) أطلقه، فشمّل ما إذا أذن وهو فيه أو

دخل بعد الأذان، كما في البحر والنهر“ (رد المختار، كتاب الصلوة، باب إدراك الفريضة:

۲/۵۴، سعيد)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب إدراك الفريضة : ۱/۳۰۹، امداديه ملتان)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب إدراك الفريضة : ۲/۱۲۷، ۱۲۸، رشيدية)

امام کی خرابی کی وجہ سے نماز گھر پر پڑھنا

سوال [۲۸۲۷]: ایک شخص دیکھتا ہے کہ مسجد کی عمارت میں روپیہ سود کھانے والوں کا لگا ہے اور چندہ وغیرہ کا روپیہ بھی زیادہ لگا ہے اور دوسرے یہ کہ وہ شخص امام کی حالت باطنی کو دیکھتا ہے تو اس کو حالت خراب معلوم ہوتی ہے تو اس سے اس کی طبیعت نفرت کرتی ہے۔ کیا وہ بوجہ اس اعذار نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے یا اس کے لئے ضروری ہے کہ مسجد میں جاوے اور باجماعت نماز پڑھے؟ اور یہی حالت اس کی اردگرد والی مسجدوں کی ہے۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

جب کہ کسی دوسری مسجد میں جانے سے معذوری ہے اور اس مسجد میں زیادہ روپیہ چندہ کا ہے (جو کہ بظاہر جائز ہے) تو ایسی حالت میں نماز مسجد میں پڑھنی چاہئے گھر میں نہیں پڑھنی چاہئے، کیونکہ جماعت کی بہت تاکید کی گئی ہے، تارک جماعت (یعنی جو کہ ترک جماعت کا عادی ہو) کو فاسق لکھا ہے (۱) اور جماعت کا ثواب بھی تنہا سے زیادہ ہے (۲)۔ امام میں اگر کوئی ایسی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فاسق ہو جاتا ہے تب تو اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے بشرطیکہ اس سے بہتر موجود ہو (۳) اور اگر امام مذکور توبہ کر لے تو پھر اس کو امام بنانا بھی مکروہ تحریمی نہیں (۴)۔

(۱) "الجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، و عليه العامة. فتنس أو تجب - ثمرة تظهر في الإثم بتركها مرة - على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة". (الدر المختار).
"قال في الأجناس: لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافاً و مجاناً". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۵۲، ۵۵۴، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۶۰۲، ۶۰۳، رشيدية)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۲۳۸، امداديه ملتان)

(۲) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "صلوة الرجل في الجماعة تضعف على صلواته في بيته و في سوقه خمسا و عشرين ضعفاً". إلى آخر الحديث.
(مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب المساجد و مواضع الصلوة: ۱/ ۶۸، قديمي)

(۳) (راجع، ص: ۴۲۶، رقم الحاشية: ۲)

(۴) "عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "النائب =

اور اگر امام مذکور میں کوئی باطنی خرابی ایسی ہے کہ جس سے اس کو فاسق نہیں کہا جاسکتا یعنی محرمات شرعیہ کا وہ مرتکب نہیں تو اس کی امامت مکروہ نہیں: ”الجماعة سنة مؤكدة للرجال، قال الزاهدی: أرادوا بالتاكيد الوجوب“۔ درمختار (۱)۔ ”ویکره إمامة عبد وأعرابي و فاسق“ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۱/۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۶/محرم/۵۶ھ۔

امام کی غلط کاریوں کی وجہ سے گھر میں جماعت

سوال [۲۸۴۸]: اگر محلہ کے اکثر نمازی امام کے خلاف ہوں اور وہ امام کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں اور فتنہ کی وجہ سے مسجد میں نہ جا کر کسی گھر میں جماعت کر لیتے ہوں تو کیا انکی نماز باجماعت ہو جائے گی یا نہیں؟
الجواب حامدًا ومصليًا:

نماز انکی بھی ہو جائیگی لیکن مسجد کا ثواب نہیں ملے گا (۳)۔ جہاں تک ہو سکے اختلاف کو ختم کیا جائے،

= من الذنب كمن لا ذنب له“۔ رواه ابن ماجة“۔ (مشکوٰۃ المصابیح، كتاب الدعوات، باب الاستغفار والتوبة: ۲۰۶/۱، قدیمی)

(۱) (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، ۵۵۳، سعید)

(۲) والعبرة بتمامها: ”ویکره إمامة عميد و أعرابي و فاسق و أعمى و مبتدع هذا إن وُجد غيرهم، وإلا فلا كراهة“۔ (الدرالمختار)۔

”قولہ: و فاسق) وهو الخروج عن الاستقامة: أى لعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزنا و آكل الربا و نحو ذلك بل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم“۔ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۹، ۵۶۲، سعید)

(و كذا فى مجمع الأنهر، كتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۸، دار إحياء التراث العربی)

(و كذا فى الحلبي الكبير، فصل فى الإمامة، ص: ۵۱۳، سهيل اكيڈمی لاہور)

(۳) ”وإن صلى أحد في بيته بالجماعة، لم ينالوا فضل الجماعة التي تكون في المسجد لزيادة فضيلة المسجد وتكثير جماعته وإظهار شعائر الإسلام، وهكذا في المكتوبات: أى الفرائض لو صلى جماعة=

صبر و سکون سے مسجد کو آباد کیا جائے (۱)، امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ وہ ان امور کی اصلاح کر لیں غلط طریقہ چھوڑ دیں، وہ اگر نہ مانیں تو وہ امامت سے علیحدہ کئے جانے کے مستحق ہوں گے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۷/۴/۹۲ھ۔

تیمارداری کی وجہ سے ترکِ جماعت

سوال [۲۸۴۹]: مریض کے دائمی تیمارداری کے لئے جماعت کی رخصت ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا کیسا ہے؟ مثلاً ظہر و عصر اکٹھا پڑھنا اور مغرب و عشاء اکٹھا پڑھنا، خصوصاً ہسپتال وغیرہ میں کہ جہاں اسبابِ آسانی مہیا نہ ہوں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مریض کے پاس رہنا ضروری ہو، اور کوئی دوسرا تیمار دار نہ ہو تو ترکِ جماعت کی گنجائش ہے (۳)۔

= في البيت على هيئة الجماعة في المسجد نالوا فضيلة الجماعة وهي المضاعفة بسبع وعشرين درجة، لكن لم ينالوا فضيلة الجماعة الكائنة في المسجد. فالحاصل أن كل ما شرع فيه الجماعة فالمسجد فيه أفضل لما اشتمل عليه من شرف المكان وإظهار الشعائر وتكثير سواد المسلمين وانتلاف قلوبهم“۔ (الحلبی الكبير، كتاب الصلاة، تراویح، ص: ۴۰۲، سهیل اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریة، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی التراویح: ۱/۱۱۶، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ التارخانیة، کتاب الصلاة، الفصل الثالث عشر فی التراویح، نوع آخر فی أن الجماعة هل هي سنة التراویح: ۱/۶۵، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیہ کراچی)

(۱) قال الله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾ (سورة آل عمران: ۱۰۳)

(۲) ”إن للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجب، مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلانها، وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمال أدنى المضرتين الخ“۔ (رد المحتار، كتاب الجهاد، باب البغاة: ۳/۶۲، سعید)

(۳) ”الجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، وعليه العامة على الرجال العقلاء البالغين =

اس کی بھی اجازت ہے کہ ظہر آخر وقت میں پڑھے اور عصر اول وقت میں مغرب آخر وقت میں پڑھے اور عشاء اول وقت میں، لیکن ہر نماز کو اس کے ہی وقت میں پڑھے، نہ فوت کر کے قضاء کرے نہ وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۱۲/۹۵ھ۔

دو شریک تجارت کا یکے بعد دیگرے مسجد میں جا کر نماز مغرب ادا کرنا

سوال [۲۸۵۰]: دو شخص شریک تجارت ہیں جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو ایک، شریک نماز پڑھنے مسجد میں چلا جاتا ہے اور دوسرا شریک دوکان پر رہتا ہے، جب پہلا شریک جماعت سے نماز پڑھ کر آتا ہے اور دوکان پر رہتا ہے، تو دوسرا شریک نماز پڑھنے جاتا ہے، اس کو نماز پڑھتے وقت نماز کا آخری وقت ہو جاتا ہے، ہر روز عادتاً ایسا ہی کیا کرتا ہے۔ اس کی نماز کا کیا حال ہے؟ اس کی نماز درست ہو جاتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اعلیٰ بات یہ ہے کہ ہر نماز باجماعت مسجد میں جا کر تکبیر اولیٰ سے شریک ہو کر ادا کی جائے (۲)، مغرب

= الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة من غير حرج، فلا تجب على مريض و مقعد و زمن و مقطوع يد و رجل من خلاف و مفلوج و شيخ كبير عاجز و أعمى. (الدر المختار). ”(قوله: من غير حرج) قيد لكونها سنة مؤكدة أو واجبة، فبالحرج يرتفع الإثم، و يرخص في تركها، و لكنه يفوته الأفضل.“ (ردالمحتار، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، ۵۵۵، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة: ۱/۸۲، ۸۳ رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۵، رشيدية)

(۱) ”و لا جمع بين فرضين في وقت بعد سفر و مطر خلافاً للشافعي، و ما رواه محمود على الجمع فعلاً، لا وقتاً.“ (الدر المختار). ”(قوله: محمود الخ): أي ما رواه مما يدل على التأخير محمود على الجمع فعلاً لا وقتاً: أي فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها.“ (ردالمحتار، كتاب الصلوة: ۱/۳۸۱، ۳۸۲، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۴۴۱، رشيدية)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة: ۱/۲۳۵، ۲۳۶، دار الكتب العلمية بيروت)

(۲) ”عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”صلوة =

کی نماز اتنی تاخیر سے مسجد میں جا کر پڑھنا کہ ستاروں کا هجوم ہو کر آخر وقت ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ کسی کو ساتھ ملا کر دوکان پر وقت مستحب میں ہی جماعت کر لی جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۲/۷/۹۴ھ۔

جماعت فجر سے پہلے تجارتی دھندوں میں لگ جانا

سوال [۲۸۵]: الحمد للہ میں ظہر، عصر، مغرب، عشا کی نماز جماعت سے پڑھتا ہوں، لیکن میں پھیری کرتا ہوں (۲) اور میرا معمول یہ ہے کہ میں جہاں پھیری کرتا ہوں وہ پوناٹی سے پانچ میل باہر ہے، وہاں صبح صادق سے پہلے پہنچ جاتا ہوں اور اذان کے بعد جماعت سے پہلے سنت، فرض پڑھ کر اپنی پھیری کو چلاتا ہوں کیونکہ اگر میں جماعت کا انتظار کروں تو جو میرے ڈیوٹی والے گاہک ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے پھیری والے میرے سے پہلے دھندا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا میں اس وعید میں داخل ہوں کہ جو اذان سن کر مسجد سے نکل جائے کیا میرے لئے یہ بہتر ہے کہ وقت ہونے کے بعد اذان سے پہلے نماز پڑھ کر نکل جاؤں تو میرے لئے

= الجماعة تفضل على صلوة الرجل وحده بسبع و عشرين درجة“ (سنن الترمذی، أبواب الصلوة،

باب ما جاء في فضل الجماعة : ۵۲/۱، سعید)

”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”صلوة الرجل في جماعة تزيد على صلوته في بيته و صلوته في سوقه بضعا و عشرين درجة“ (الحديث الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب فضل الصلوة المكتوبة في جماعة اهـ : ۲۳۴/۱، قدیمی)

(۱) ”والمستحب تعجيل مغرب، مطلقاً و تأخيره قدر ركعتين يكره تنزيهاً“ (الدر المختار) .
 ”(قوله: يكره تنزيهاً) أفاد أن المراد بالتعجيل أن لا يفصل بين الأذان والإقامة بغير جلسة أو سكتة على الخلاف، و أن ما في القنية من استثناء التأخير القليل محمول على ما دون الركعتين، و أن الزائد على القليل إلى اشتباك النجوم مكره تنزيهاً، وما بعده تحريماً“ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، : ۳۶۹/۱، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، : ۴۳۱/۱، سعید)

(۲) ”پھیری: گشت، چکر“۔ خردہ فروش کا گشت، پھیری والا: وہ شخص جو گولہ کوچوں میں پتھر گر سودا بیچے۔ (فیروز اللغات،

ص: ۳۳۱، فیروز سنز، لاہور)

کیا حکم ہے؟ اور کیا میں اس وعید میں داخل ہوں کہ جو صبح بازار کی طرف جائے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ میں چار بجے رات سے ہی اپنی پھیری کے مقام کو چل دیتا ہوں لیکن میں پہلے مسجد ہی میں پہنچ جاتا ہوں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

صبح صادق سے پہلے اپنی بیوپار کی جگہ پہنچ جانے میں حرج نہیں، پھر اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ جس کا حق آپ مسجد میں ادا کریں گے وہ آپ کے بیوپار کو اس کی وجہ سے فیل نہیں ہونے دے گا، جس قدر آمدنی آپ کو اس بیوپار سے ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ نماز باجماعت کا اجر ہے (۱)، جو پیسہ آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، انتظار جماعت کی وجہ سے وہ ہرگز ضائع نہیں ہوگا، آپ کے گاہک ڈیوٹی پر جائیں یا نہ جائیں مقدر کو کوئی بدل نہیں سکتا (۲)، تاہم اگر اتنی گنجائش نہیں تو مسجد سے علیحدہ کسی اور کو ساتھ لے کر جماعت کر لیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۷/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۷/۸۸ھ۔

(۱) "وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة". (صحيح البخارى، كتاب الأذان، باب فضل صلوة الجماعة الخ: ۸۹/۱، قديمي)

"(والجماعة مائة مؤكدة للرجال، وقيل: واحبة، وعليه عامة على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، ۵۵۳، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكبرى، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الأول في الجماعة: ۱/۸۲، رشيدية)

(و كذا في تبیین الحقائق، باب الإمامة والحديث في الصلاة: ۱/۳۳۲، دار الكتب العلمية بيروت)

(۲) "حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، - وهو الصادق المصدوق - : "إن أحدكم سجع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقته مثل ذلك، ثم يكون مضغته مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً ياربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيداً الخ". (صحيح البخارى، كتاب الأذان، باب حرج من غير حرج: ۱/۴۶۹، قديمي)

جماعت ہو چکی تو نماز کہاں پڑھے؟

سوال [۲۸۵۲]: مسجد جاتے ہوئے راستے میں معلوم ہوا جماعت ہو گئی اور مسجد اور مکان کی مسافت برابر ہے تو گھر میں جا کر نماز ادا کرنا افضل ہے یا مسجد میں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

اگر تنہا ہی پڑھنا ہے تو مسجد میں افضل ہے اگرچہ مسافت مسجد کی زیادہ ہو (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
جماعت چھوٹنے پر طلباء پر طعن کرنا

سوال [۲۸۵۳]: مدرسہ میں مدرسین و طلباء اور کچھ چھوٹے بچے جو آبِ بالغ بھی نہیں ہوئے، اگر کسی بھی وجہ سے نماز جماعت سے رہ جائیں تو ان کی جماعت چھوٹ جانے پر ان کو طعن کرنا ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ ”نائب رسول ہیں، یہ مہمان رسول ہیں، یہی مہمان رسول ہیں“۔ ایسے جملے استعمال کرنا کیسا ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

طعن و طعن نہ کیا جائے نہ مدرسین پر، نہ طلباء پر، نہ کسی اور پر، یہ بہت بُری بات ہے اس کا ثمرہ بھگتنا پڑتا ہے، البتہ نصیحت و خیر و خواہی کے طور پر ترغیب دی جائے (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۱۲/۹۵ھ۔

تنہا اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا

سوال [۲۸۵۴]: ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اور نیت جماعت کی کر لیتا ہے اور جہری

(۱) ”قولہ: ولو فاتته، ندب طلبها الخ)..... وإن صلى في مسجد حية منفرداً، فحسن“.

(ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۵، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۶، رشیدیہ)

(و كذا في تبیین الحقائق، باب الإمامة: ۱/۳۴۲، دارالکتب العلمیة بیروت)

(۲) ”وينبغي للأمر والنهي أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي: من

وعظ أخاه سراً، فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه“۔ (المرقاة شرح المشكوة،

كتاب الآداب، باب الأمر بالمعروف: ۸/۸۶۳، تحت رقم الحديث: ۵۱۳۷، رشیدیہ)

نماز میں قرأت بالجہر و تکبیرات انتقالات بالجہر کرتا ہے تو کیا اس شخص کو جماعت کا ثواب ہو جائے گا، یا جنگل میں تنہا اذان و اقامت کہہ کر نماز شروع کرے اور آغاز میں تکبیر تحریمہ بھی بالجہر کہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

جماعت کو چھوڑ کر بلا عذر گھر میں یا جنگل میں تنہا اذان و اقامت کہہ کر قرأت و تکبیرات انتقالات بالجہر کر کے نماز پڑھنے سے جماعت کا ثواب نہیں ہوگا، البتہ جو شخص جماعت کا عادی ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت میں شریک نہ ہو سکے، تو اس کو اپنی نماز بصورت جماعت ادا کرنا افضل ہے۔ ”تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك“ میں حدیث نقل کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنگل میں تنہا اذان و اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو جنات اور ملائکہ اس کی اقتداء کرتے ہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۳/۲/۶۴ھ۔

صحیح: عبد اللطیف، ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۶/۲/۶۴ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۴/۲/۶۴ھ۔



(۱) ”وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في ”المصنف“ والبيهقي في ”سننه“ عن سلمان الفارسي، قال: ”إذا كان الرجل في أرض فأقام الصلاة، صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام، صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه، يركعون بركعة ويسجدون بسجودده، ويؤمنون على دعائه“. وأخرجه البيهقي بطريق آخر عن سليمان مرفوعاً الخ“. (رسائل اللكنوي، تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك : ۳۷۸/۱، إدارة القرآن)

الفصل الثالث في الجماعة الثانية

(جماعتِ ثانیہ کا بیان)

جماعتِ ثانیہ

سوال [۲۸۵۵]: جس مسجد میں اذان و جماعت ہو چکی ہو، پھر اس مسجد میں دوبارہ اذان

و جماعت کرنا جائز ہے یا نہیں؟

۲..... اگر امام کی اجازت کے بغیر کوئی شخص اذان و جماعت کر لے تو پھر امام دوبارہ اذان و جماعت کر

سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... اگر ہر روز کے مقررہ امام اور مقتدیوں نے اذان و جماعت وقت مقرر پر کی ہے تو اب اس مسجد

میں دوبارہ جماعت کرنا مکروہ ہے (۱)۔

۲..... اگر دوسرے محلہ کے لوگوں نے کی ہے تو اس محلہ والوں کو دوبارہ جماعت کرنا درست ہے (۲)۔

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲/۸/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۷/شعبان المعظم/۵۸ھ۔

(۱) ”ویکرہ تکرار الجماعة بأذان و إقامة في مسجد محلة، لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له و لا

مؤذن“۔ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، سعید)

(و کذا في الفتاوى العالمکیرية، کتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة: ۱/۸۳، رشیدیہ)

(و کذا في الفقه الإسلامی وأدلته، الفصل العاشر أنواع الصلوة، تاسعاً: تکرار الجماعة في المسجد: ۲/۱۸۲، رشیدیہ)

(۲) ”فإن صلى فيه قوم من الغرباء بالجماعة، فلاهل المسجد أن يصلوا بعدهم بجماعة بأذان و إقامة؛ =

ایضاً

سوال [۲۸۵۶]: جماعتِ ثانیہ کرنی ایسی مسجد میں جہاں پنج وقتی نمازیں ہوتی ہوں، نیز جمعہ بھی منعقد ہوتا ہو کیسا ہے؟ جہاں امام و مؤذن بھی مقرر ہوں، کبھی کبھی لوگوں کی کسل و سستی کی بنا پر جماعت و اذان نہ دی جاتی ہو؟ یا لوگ اپنی سستی کی بنا پر جماعتِ اولیٰ میں شریک نہ ہوں اور باتیں کرتے رہیں اور بعد میں جا کر جماعت کریں۔ دیہات کی وجہ سے اوقاتِ مقررہ میں تغیر ضرور ہو جاتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجدِ محلّہ میں جب کہ امام و مؤذن پنج وقتہ نمازی مقرر ہوں بیتِ اولیٰ کے مطابق تکرارِ جماعت مکروہ ہے لیکن غیر اہل محلّہ نے آ کر جماعت کر لی ہے تو پھر اہل محلّہ کو جماعتِ ثانیہ اپنے وقتِ معمول پر کر لینا درست ہے: ”ویکرہ تکرار الجماعة بأذان و إقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن“۔ در مختار (۱)۔ ”إلا إذا صلى بهما فيه أولاً غير أهله أو أهله لكن بمخافة الأذان، اهـ“۔ شامی (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، ۶/۶/۶۰ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

= لأن إقامة الجماعة في هذا المسجد حقهم اهـ“۔ (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۰۵/۱، رشیدیہ)

(و كذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۳/۱، سعید)

(و كذا في الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل العاشر، أنواع الصلوة، تاسعاً: تکرار الجماعة في المسجد: ۱۱۸۲/۲، رشیدیہ)

(۱) (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۲/۱، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة: ۸۳/۱، رشیدیہ)

(و كذا في الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل العاشر أنواع الصلوة، تاسعاً: تکرار الجماعة في المسجد: ۱۱۸۲/۲، رشیدیہ)

(۲) (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۵۳/۱، سعید) =

ایضاً

سوال [۲۸۵۷]: جماعتِ ثانیہ اگر ہیئتِ اولیٰ پر نہ ہو تو مسجد میں جائز ہوگی یا نہیں؟

عبدالرحمن، پیش امام محلہ بیوپاریان، قصبہ اول، ضلع متھرا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک روایت میں مکروہ نہ ہوگی (۱) مگر ظاہر الروایۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً مکروہ ہے، البتہ تبدیل ہیئت اور بلا تبدیل ہیئت میں تنزیہی و تحریمی کا فرق ہو جائے گا (۲)۔

”و لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلى فيه أهله، يصلون وحداً، وهو ظاهر الرواية.

والبسط في شرح شمس الأئمة“۔ شامی: ۱/۲۷۱، نعمانیہ (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی، عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۵/۲/۵۳ھ۔

الجواب صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۶/صفر/۵۳ھ۔

= (و كذا في منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۲۰۲، ۲۰۳، رشيدية)
(و كذا في الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل العاشر أنواع الصلوة، تاسعاً: تكرار الجماعة في المسجد :
۲/۱۱۸۲، رشيدية)

(۱) ”و عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : لا بأس به مطلقاً إذا صلى في غير مقام الإمام“۔ (البحر الرائق،
كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۲۰۵، رشيدية)

(۲) ”عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى، لا تكره، وإلا تكره، و
هو الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازية، انتهى. وفي التاتارخانية عن
الولوالجبية: و به نأخذ“۔ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۵۵۳، سعيد)

(و كذا في الفتاوى البزازية، كتاب الصلوة، الخامس عشر في الإمامة والافتداء. نوع فيما يكره وما لا
يكره : ۳/۵۶، رشيدية)

(و كذا في الحلبي الكبير، كتاب الصلوة، مسائل متفرقة، ص: ۲۱۵، سهيل اكيڈمی لاہور)

(۳) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۵۵۳، سعيد)

((و كذا في منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۲۰۵، رشيدية))

ایضاً

سوال [۲۸۵۸]: مسجد محلہ میں امام اور مؤذن متعین ہیں نماز کے وقت پر دو چار آدمی کی جماعت کر لی، بعد میں ۲۰، ۱۰/ آدمی آگئے، اب وہ کیا کریں؟ دوبارہ جماعت مسجد میں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یا سب الگ الگ پڑھیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

محلہ کے روزانہ کے نمازی جب وقت معین پر جماعت کر لیں تو بعد میں آنے والوں کو ایسی مسجد میں دوسری جماعت کرنا مکروہ ہے (۱) اس مسئلہ میں مستقل رسالہ ”القطوف الدانية“ ہے، اس میں دلائل مذکور ہیں (۲)۔ علامہ شامی نے ردالمحتار میں واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جماعت ثانیہ نہیں کی بلکہ مکان پر تشریف لا کر جماعت کی (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۱۱/۸۹ھ۔

(۱) ”ویکرہ تکرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة، لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۵۵۲/۱، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة : ۸۳/۱، رشيدية)

(و كذا في الفقه الإسلامى وأدلته، الفصل العاشر أنواع الصلوة، تاسعاً: تکرار الجماعة في المسجد : ۱۱۸۲/۲، رشيدية)

(۲) (القطوف الدانية في تحقيق الجماعة الثانية من تالیفات رشيدية لمولانا رشيد احمد الكنگوهي رحمه الله تعالى، إدارة اسلاميات لاہور)

(۳) ”ولنا انه عليه السلام كان خرج ليصلح بين قوم، فعاد إلى المسجد، وقد صلى أهل المسجد، فجمع إلى منزله فجمع أهله و صلي“۔ (رد المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۵۵۳/۱، سعید)

رواه البيهقي في مجمع الزوائد، باب فيمن جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا : ۲/۴۵، دار الفكر

وضو خانے میں نماز کے بعد جماعتِ ثانیہ

سوال [۲۸۵۹]: جس مسجد میں نماز ہو چکی اسی مسجد کے وضو خانہ میں کچھ لوگ دوبارہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ مسجد کے فرش پر بھی آجاتے ہیں تو ان کی نماز مکروہ ہوگی یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلیاً:

التفقیہ اگر ایسی نوبت آجائے تو مضائقہ نہیں مگر اس کی عادت نہ ڈالی جائے، ایسی جماعت میں جو نمازی فرش مسجد پر ہوں گے ان کے حق میں کراہت ہوگی (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۷/۱۰/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غنی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۷/۱۰/۸۸ھ۔

بریلوی امام ہونے کی وجہ سے جماعتِ ثانیہ کرنا

سوال [۲۸۶۰]: ہمارے یہاں دو عقیدے کے لوگ ہیں: (دیوبند، بریلوی)۔ بریلوی والے جہلاء لوگ ہیں اور مسجد پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، امامت کرتے ہیں، دیوبندی علماء کو کافر اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، علاوہ ازیں دیوبندی علماء تنازع اور تصادم کی وجہ سے جماعت میں شریک ہونے سے گریز کرتے ہیں۔ اس حالت میں ہم چند عوام جو جماعت سے محروم رہ جاتے ہیں، حالانکہ دیوبندی علماء بھی موجود ہیں، اس لئے ہم جماعتِ اولیٰ ترک کر کے جماعتِ ثانیہ سے نماز ادا کرتے ہیں، ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلیاً:

بریلوی لوگوں کے اس تشدد کے باوجود یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ وہ لوگ وہاں جماعت سے نماز پڑھیں اور آپ لوگ بیٹھے رہیں، پھر ان کے بعد اپنے امام کے پیچھے جماعتِ ثانیہ کریں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے (۲)۔ یا تو ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا دوسری مسجد میں پڑھیں (۳) اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ ان کے

(۱) (تقدم تخریجہ تحت العنوان السابق آنفاً)

(۲) "لأنه لا یخلو الحنفی حالة صلاة الشافعی، إما أن یشغل بالرواتب لینتظر الحنفی، و ذلك منہی عنہ، لقوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". و إما أن یجلس، وهو مکروه أيضاً لإعراضه عن الجماعة من غیر کراهة فی جماعتهم علی المختار". (رد المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۳، سعید)

(۳) "ویکره امامة عبد و أعرابی و فاسق و أعمی و مبتدع اھ". (الدر المختار). "فإن أمکن الصلوة =

امام کی اصلاح کریں کہ وہ فتنہ کی بات نہ کہے اور عقیدہ صحیح کرے اور اس کو جو غلط فہمی ہو اس کو اہل علم سے حل کرے۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

دو مسجدیں برابر برابر، نئی مسجد میں جماعتِ ثانیہ

سوال [۲۸۶۱]: قدیم مسجد میں عذر سے تنگی کے باعث بازو میں مسجدِ ثانیہ موسوم کر کے جدید مسجد تعمیر کی ہے، یہ تعمیر قدیم ہی مسجد کی ہے، چونکہ بعض لوگوں کی جماعت چوک جاتی ہے تو اس لئے اس نئی مسجد میں لوگ جماعتِ ثانیہ کر لیتے ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر جدید و قدیم دونوں مسجدوں میں مستقل اذان، نماز، جماعت کا اہتمام ہوتا ہے اور پابندی سے ہوتی ہے تو دوسری جماعت کسی میں نہ کی جائے، اگر دونوں کا امام و مؤذن ایک ہی ہے اور ایک ہی جماعت ہوتی ہے تو محض بعد کے اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسری مسجد مستقل مسجد نہیں ہے بلکہ دونوں مل کر ایک ہی مسجد ہے وہاں جماعتِ ثانیہ نہ کی جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۷/۸۸ھ

الجواب صحیح، بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۷/۸۸ھ۔

= خلف غیرہم فهو افضل، و إلا فالافتداء أولى من الانفراۃ“۔ (الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۵۵۹/۱، ۵۶۰ سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۶۱۰/۱، ۶۱۱ رشیدیہ)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی بیان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۳، قدیمی)

(۱) ”ویکرہ تکرار الجماعة بأذان و إقامة فی مسجد محلة، لا فی مسجد طریق أو مسجد لا إمام له و لا

مؤذن“۔ (الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۵۵۲/۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس فی الإمامة: ۸۳/۱، رشیدیہ)

(والفقه الإسلامی، الفصل العاشر أنواع الصلوٰۃ، تاسعاً: تکرار الجماعة فی المسجد: ۱۱۸۲/۲، رشیدیہ)

(و کذا فی الحلبي الكبير، فی مسائل متفرقة، ص: ۶۱۴، سهیل اکیڈمی لاہور)

ظہر وعشاء پڑھ کر پھر اسی جماعت میں شرکت

سوال [۲۸۶۲]: ایک بار ظہر یا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد دوبارہ اسی نماز کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ شریک ہو سکتا ہے جماعت کے ساتھ پڑھی یا تنہا اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

”کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم إذا صلی بالناس ودخل شخص بعد ما صلی الناس يقول: ”من يتصدق على هذا؟“ فیصلی معہ فیقوم الناس یصلی جماعةً ثانية“ (۱)۔
عمر و کہتا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ پڑھی تو شریک نہیں ہو سکتا، اگر تنہا پڑھی تو شرکت دوبارہ روا ہے اور یہ حدیث بیان کرتا ہے:

”و جاء ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوماً لمسجد، فصلی الناس ولم یصل معہم، فقال رجل: ما منعك أن تصلی مع الناس؟ فقال: إني سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يقول: ”لا تصلوا صلوة فی یوم مرتین“ (۲)۔ کس کا قول صحیح ہے؟
الجواب و بیده أزمة الحق و الصواب حامداً و مصلياً:

اگر بہ نیت فرض شریک ہوتا ہے تو دونوں کا قول غلط ہے: ”لا یصلی بعد صلوة مثلها“ (۳) اگر بہ نیت نفل شریک ہوتا ہے تو زید کا قول صحیح ہے، عمر و کی بیان کردہ تفصیل غلط ہے:

(۱) (مجمع الزوائد للہیثمی: باب فیمن تحصل بہم فضیلة الجماعة: ۲/۴۵، دار الفکر)

(و کذا فی سنن أبی داؤد، کتاب الصلوة، باب فی الجمع فی المسجد مرتین: ۱/۹۲، امدادیہ ملتان)

(۲) (سنن أبی داؤد، کتاب الصلوة، باب إذا صلی فی جماعة ثم أدرك جماعة یعيد: ۱/۹۳، امدادیہ ملتان)

(۳) (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل: ۲/۳۷، سعید)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۱/۴۳۷، دار الکتب العلمیة بیروت)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۲/۱۰۸، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل: ۱/۳۰۳، امدادیہ ملتان)

”رجل دخل مسجداً قد أذن فيه، كره له أن يخرج حتى يصلي، فإن كان قد صلى وكانت الظهر والعشاء، فلا بأس بأن يخرج ما لم يأخذ في الإقامة، فإن أخذ فيها لم يخرج حتى يصليهما تطوعاً، اهـ“ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۸/ ذی الحجہ/ ۱۴۱۶ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفر۔ ۲۹/ ذی الحجہ/ ۱۴۱۶ھ۔

باہمی نزاع کی وجہ سے تکرار جماعت

سوال ۱۲۸۱۳: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں:

زید اور عمر، ہر کے مابین ایک عرصہ سے معاملاتی نزاع چل رہی ہے جس کی بنا پر عمر و بکر وغیرہ بجائے ایک جمعہ و جماعت کے علیحدہ طور پر ایک ہی مسجد میں دو جمعہ و جماعت زید مذکورہ بالا امام سے علیحدہ قائم کریں کہ جس پر ایک غیر مسلم شخص نے دونوں فریقوں کو بلا کر یہ کہا کہ تم لوگ آپس میں جھگڑانہ کرو، ایک ہی مسجد میں علیحدہ علیحدہ طور پر نماز پڑھ لیا کرو تو اس کے جواب میں زید مذکورہ امام نے یہ کہا کہ ہمارے مذہب میں اللہ و رسول کی طرف سے قرآن و حدیث مسئلہ و مسائل سے ایک ہی مسجد میں دو جمعہ و جماعت جائز نہیں ہے۔ اب اس کے جواب میں فریق ثانی عمر و بکر وغیرہ نے زید مذکورہ بالا امام سے یہ کہا ہے ہم لوگوں کو اللہ و رسول قرآن و حدیث مسئلہ و مسائل اور نماز کا درست و نادرست سے کوئی سروکار نہیں۔

مستفتی: حکیم مولوی محمد سلیمان صاحب، رام گڑھ، ڈاک خانہ محواں، ضلع گیا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ایک مسجد جماعت میں تکرار جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔

(۱) (الفتاویٰ العالمکیریۃ، کتاب الصلوٰۃ، الباب العاشر فی إدراک الفریضة: ۱/ ۱۲۰، رشیدیہ)

(و کذا فی الہدایۃ، کتاب الصلاۃ، الباب العاشر فی إدراک الفریضة: ۱/ ۱۵۲، مکتبہ شرکتہ علمیۃ ملتان)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب إدراک الفریضة: ۲/ ۵۴، ۵۵، سعید)

(و کذا فی مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، کتاب الصلوٰۃ، باب إدراک الفریضة: ۱/ ۱۴۱، دار إحياء

التراث العربی بیروت)

”ویکره تکرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلّة“۔ در مختار۔ قال الشامي:
 ”(قوله: ويكره): أي تحريماً لِقَوْلِ الكافي: لا يجوز، والمجمع: لا يباح، وشرح الجامع
 الصغير: إنه بدعة كما في رسالة السندی. والمراد بمسجد المحلة: ماله إمام وجماعة
 معلومون كما في الدر وغيرها، ومثله في البدائع وغيره. ومقتضى هذا الاستدلال كراهة
 التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان، ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعد
 ما صلى فيه أهله، يصلون وحداناً، وهو ظاهر الرواية، اهـ“۔ شامي: ۱/۵۷۷(۱)۔

عمر و بکر وغیرہ کے کہے ہوئے جو الفاظ سوال میں نقل کئے گئے ہیں وہ بہت سخت ہیں، اگر واقعی انہوں
 نے یہ الفاظ کہے ہیں تو ان کو فوراً توبہ کرنی چاہئے اور احتیاطاً تجدید ایمان و تجدید نکاح بھی کر لینا چاہئے (۲)۔ فقط

(۱) (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۵۲، ۵۵۴، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۰۵، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلوة، الباب الخامس فی الإمامة: ۱/۸۳، رشیدیہ)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلوة، فصل فی بیان من هو أحق بالإمامة: ۱/۶۵۵، دار الکتب
 العلمیة بیروت)

(۲) ”عن أبی هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لله أشد فرحة بتوبة
 أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجد“۔

قال الإمام النووي تحت هذا الحديث: ”واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على
 الفور، لا يحوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة، اهـ“۔ (الصحيح لمسلم مع شرحه
 الكامل للنووي، كتاب التوبة: ۲/۳۵۴، قديمي)

(و کذا فی روح المعانی: ۲/۱۵۹، دار إحياء التراث العربی بیروت)

”ما كان في كونه كفراً اختلافاً فإن قائله ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتحديد
 النكاح بينه وبين امرأته كذا في المحيط“۔ (الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب السير، باب أحكام المرتدين،
 قبیل الباب العاشر فی البغاة: ۲/۲۸۳، رشیدیہ)

واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

جواب درست ہے: نض ذاتی نزاع کی بنا پر جمعہ و جماعت میں تفریق کرنا اور دو جماعتیں کرنا بہت برا فعل ہے اس سے بچنا چاہئے (۱)۔

سعید احمد غفرلہ۔

صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۹/ جمادی الاولیٰ/ ۱۴۵۴ھ۔

جماعتِ ثانیہ میں نئے آدمی کی شرکت

سوال [۲۸۶۴]: فرض نماز جماعت سے ہو رہی تھی، کوئی واجب چھوٹ گیا اور سجدہ سہو بھی رہ گیا، نماز فاسد ہو گئی جیسا کہ اردو کی تمام کتابوں میں مذکور ہے، نماز دہرائی گئی، دہراتے وقت اسی امام نے امامت کی جس نے پہلے پڑھائی تھی لیکن اس بار کچھ اور لوگ بھی آ کر شریک ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ بعد میں شریک ہونے والوں کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ بعد میں شریک ہونے والوں کے لئے جو بھی ہو وہ صرف سہو ترک واجب اور ترک سجدہ سہو سے فاسد ہونے والی نماز کا ہے یا جملہ فاسد نمازوں کا، جیسے سہو ترک فرض یا قصد ترک واجب یا قصد ترک سجدہ سہو وغیرہ؟

الجواب حامداً ومصلباً:

بعد کی نماز نفل ہے لہذا جو لوگ صرف بعد والی نماز میں شریک ہوئے ہیں ان کی نماز صحیح نہ ہوئی:

”والمختار أن المعادة لترك الواجب نفل جابر، والفرض سقط بالأولى؛ لأن الفرض لا

(۱) قال الله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾. (آل عمران: ۱۰۳)

وقال الله تعالى: ﴿ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، إن الله مع الصابرين﴾.

(سورة الأنفال: ۴۷)

”عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية، والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعمامة والمسجد“ (مسند أحمد، (رقم الحديث: ۲۱۵۲۴): ۳۰۷/۶، دار إحياء التراث العربى بيروت)

یتکرر کما فی الدر وغیره، اھ۔ الطحطاوی علی مراقی الفلاح (۱) ترک فرض سے نماز ہوئی ہی نہیں۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

اعادہ والی نماز میں شرکت

سوال [۲۸۶۵]: اگر امام کو نماز میں سہو ہوا مگر سجدہ نہیں کیا، جب نماز دوہرانے لگا تو مسبوقین نے نماز توڑ دی اور جماعتِ ثانیہ میں شامل ہو گئے، ایک مسبوق نے اپنی نماز پوری کر کے شرکت کی مگر سجدہ سہو نہیں کیا جو کہ امام پر واجب تھا، ایک مسبوق نے نماز بمعہ سجدہ سہو ادا کی پھر جماعتِ ثانیہ میں شریک ہوا تو ان مسبوقین کی نمازیں صحیح ہوئیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو ان کو کیا کرنا چاہئے۔

محمد داؤد شاہ جی سرائے۔

الجواب حامداً و مصلياً:

اگر امام کو نماز میں ایسا سہو ہوا جس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور پھر امام نے سجدہ سہو نہ کیا بلکہ اعادہ کیا تو ان مسبوقین کی نماز صحیح ہو گئی جو اپنی نماز پوری کر کے بلا سجدہ سہو کئے ہوئے امام کے ساتھ شریک ہو گئے اور ان کی نماز مع الکرہت صحیح ہوئی جنہوں نے نماز پوری کی اور سجدہ سہو کیا پھر امام کے ساتھ شریک ہو گئے، کیونکہ اگر امام سجدہ سہو نہ کرے تو مقتدی کو بھی نہ کرنا چاہئے: ”فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤمن“ (۲)۔ اور جن مسبوقین نے نماز توڑ کر امام کے ساتھ شرکت کی ہے ان کی نماز صحیح نہیں ہوئی، ان

(۱) (حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی بیان واجبات الصلوٰۃ، ص: ۲۴۸، قدیمی)

(و کذا فی الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، مطلب: کل صلوٰۃ أدیت مع کراهة التحريم تجب إعادتها: ۱/ ۴۵۷، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ: ۱/ ۵۲۳، رشیدیہ)

(و کذا فی حاشیۃ الشیخ الشلبی علی تبیین الحقائق، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ: ۱/ ۲۸۷، دارالکتب العلمیۃ بیروت)

(۲) (الهدایۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود السهو: ۱/ ۱۵۸، مکتبہ شرکتہ علمیہ ملتان)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثانی عشر فی سجود السهو، فصل: سهو الإمام یوجب علیه و علی من خلفه السجود: ۱/ ۱۲۸، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود السهو: ۲/ ۱۷۶، رشیدیہ)

کو نماز لوٹانی چاہئے، کیونکہ امام کے ذمہ سے فرض پہلی نماز کی وجہ سے ساقط ہو گیا اور اعادہ جبر نقصان کی وجہ سے واجب ہے لہذا ابتداءً فرض پڑھنے والے کو اس کا اقتداء صحیح نہیں۔

”فی المراقی، ص: ۲۶۸: ”ووجب علیہ إعادة الصلوة بجبر نقصها، فتكون مکملة وسقط الفرض بالأولی“ (۱)۔ اگر امام سے ایسا سہو ہوا ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو پہلی نماز کسی کی صحیح نہیں ہوئی، دوسری سب کی صحیح ہو گئی۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۵/۷/۵۲ھ۔

صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۶/رجب/۵۲ھ۔

ایضاً

سوال [۲۸۶۶]: اگر جماعت میں شبہ ہو جائے اور اس شبہ کی وجہ سے پھر اعادہ کیا جاوے تو جو نمازی پہلی جماعت میں شریک نہیں تھے ابھی آتے ہوں تو وہ اس نماز میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ مفصل تحریر فرمائیں کہ کس صورت میں شرکت جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

اگر فرض ترک ہونے کی بنا پر اعادہ ہوا ہے تو اس میں شریک ہونائے آدمی کا درست ہے، کیونکہ پہلی نماز باطل ہو گئی اور اگر ترک واجب کی وجہ سے اعادہ ہوا ہے تو نئے آدمی کی شرکت درست نہیں، کیونکہ فرض پہلی نماز۔ ادا ہو چکا ہے اور یہ صرف تکمیل ہے: ”المعاداة لترك واجب نفل، والفرض سقط بالأولی اھ“۔

طحطاوی، ص: ۱۳۴ (۲)۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۷/۷/۶۱ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف۔

(۱) (مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح، کتاب الصلوة، باب سجود السہو، ص: ۴۶۲، قدیمی) (وہکذا فی الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطلب: کل صلاة أدیت مع کراهة التحريم تجب إعادتها: ۱/۵۷، سعید)

(وہکذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۱/۵۲۳، رشیدیہ)

(۲) (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، فصل فی بیان واجبات الصلوة، ص: ۲۴۸، قدیمی) =

اعادہ والی نماز میں نئے آدمی کی شرکت

سوال [۲۸۶۷]: امام صاحب سے کوئی واجب ترک ہو گیا جس کی وجہ سے دوبارہ نماز لوٹائی گئی جس کے اندر کوئی نیا نمازی آ کر شامل ہو گیا تو اس شخص کی نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟ جواب بحوالہ کتب بقید صفحہ و جلد و مطبع کے مع عربی عبارت کے جواب عنایت فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

”ولها واجبات لا تفسد بتركها، وتعاد وجوباً في العمدة والسهو إن لم يسجد، وإن لم يعد يكون فاسقاً آثماً، وكذا كل صلوة أدت مع كراهة التحريم تجب إعادتها، والمختار أنه جابر للأول؛ لأن الفرض لا يتكرر، اهـ.“ درمختار۔ ”قوله: والمختار أنه: أي الفصل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو، والأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح، اهـ.“ شامی مکتبہ نعمانیہ دیوبند (۱)۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ صورتِ مسئلہ میں فریضہ تو پہلی نماز سے ساقط ہو گیا اور اعادہ والی نماز جابر ہے اور طحاوی شرح مراقی الفلاح میں تصریح ہے کہ یہ دوسری نماز نفل ہے (۲)، اس کا تقاضا یہ ہے کہ

= (و كذا في الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطلب: كل صلوة أدت مع كراهة التحريم تجب إعادتها: ۴۵۷/۱، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۵۲۳/۱، رشيدية)

(و كذا في فتح القدير، باب صفة الصلوة: ۳۰۱/۱، مصطفى الحلبي بمصر)

(۱) (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطلب: كل صلوة أدت مع كراهة التحريم تجب إعادتها: ۴۵۷/۱، سعيد)

(۲) ”والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر، والفرض سقط بالأولى؛ لأن الفرض لا يتكرر كما في الدر وغيره، ويندب إعادتها لترك السنة.“ (حاشية الطحاوی، مراقی الفلاح، كتاب الصلوة،

فصل في بيان واجبات الصلوة، ص: ۲۴۸، قديمی)

نئے آدمی کو اس میں شرکت کرنے کی اجازت نہ ہو، شیخ ابن ہمام نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود نفیرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

ترک واجب کی بنا پر اعادہ والی نماز میں نو وارد شخص کی شرکت کا مفصل حکم

سوال [۲۸۶۸]: ترک واجب کی بنا پر نماز کا اعادہ کیا گیا، نو وارد شخص اس دوسری جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں فتاویٰ مختلف ہیں۔ تفصیل کے ساتھ مسئلہ کی تحقیق فرمائیں۔
مولوی محمد عرفان صاحب، امام مسجد عمر خان والی، کھالہ پار، مظفرنگر (یو پی)۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مجتہدین کے کلام میں باوجود تتبع کے نو وارد کی شرکت یا عدم شرکت کی تصریح تو نہیں ملی، غالباً اس پر یہ مسئلہ متفرع ہے کہ معادہ بالفعل الثانی نفل ہے یا فرض، اس کا فیصلہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی نے بایں الفاظ فرمایا:

”يؤخذ من لفظ الإعادة و من تعريفها بما مر أنه ينوي بالثانية الفرض؛ لأن ما فعل أولاً هو الفرض فإعادته فعله ثانياً، أما على القول بأن الفرض يسقط بالثانية، فظاهر. وأما على القول الآخر، فلأن المقصود من تكريرها ثانياً جبر نقصان الأولى. فالأولى فرض ناقص، والثانية فرض كامل مثل الأولى ذاتاً مع زيادة وصف الكمال. ولو كانت الثانية نفلاً، لزم أن يجب القراءة في

(۱) ”ولا إشكال في وجوب الإعادة؛ إذ هو الحكم في كل صلوة أدت مع كراهة التحريم، ويكون جابراً للأول؛ لأن الفرض لا يتكرر“ (فتح القدير، باب صفة الصلوة: ۳۰۱/۱، مصطفى البابي الحلبي بمصر)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۵۲۳/۱، رشيدية)

(و كذا في حاشية الشيخ الشلبى على تبين الحقائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۲۸۷/۱، دار

الكتب العلمية بيروت)

رکعاتها الأربع“۔ رد المحتار، باب قضاء الفوات : ۱/ ۴۸۷ (۱)۔

فقہاء کی تعبیر میں ضرور اختلاف ہے، بعض نے: ”ان الفرض يسقط بالأولى“ اور بعض نے ”ان الفرض يسقط الثانية“ کے ساتھ تعبیر فرمایا، مگر علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق یہ اختلاف تعبیرات کا ہے، حقیقی نہیں، کیونکہ سقوط الفرض بالثانیۃ کا یہ مطلب نہیں کہ اولیٰ سے سقوط فرض بالکل نہیں ہو اور ثانیہ پر اس طرح موقوف ہے کہ اگر بالفرض ثانیاً اس فعل کو نہ کیا جائے تو مصلیٰ خارج عن العہدہ نہیں ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ سقوط فرض موقوف ہے عدم اعادہ پر (نظار مندرجہ بالا عبارت کے بعد شامی میں مذکور ہے) (۲) اور جب اعادہ ہو گیا تو یہ فرض متحول الی النفل ہو گئے جیسا کہ اگر کوئی شخص ظہر پڑھ کر صلوٰۃ جمعہ میں شریک ہو جائے تو فرضیت کا بطلان ہو کر عند الامام و ابی یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ نفلیت باقی رہ جاتی ہے۔

چنانچہ اگر صلوٰۃ جمعہ میں اس سے ترک رکن ہو جائے تو ظہر کا اعادہ لازم ہوگا (۳)۔ اور سقوط الفرض بالاولیٰ والثانی جابر للاول کا قول بھی ثانیہ کے فرض ہونے کو مستلزم نہیں، کیونکہ اس کے معنی بحسب تحقیق علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ فرض کا سقوط ثانیہ کے شروع کرنے پر موقوف نہیں، بلکہ سقوط فرض ہو چکا، اب اس

(۱) (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب قضاء الفوات : ۲/ ۶۵، سعید)

(۲) ”وأن لا تشرع الجماعة فيها و لم يذكروہ، و لا يلزم من كونها فرضاً عدم سقوط الفرض بالأولى؛ لأن المراد أنها تكون فرضاً بعد الوقوع، أما قبله فالفرض هو الأولى. وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على عدم الإعادة، و له نظائر: كسلام من عليه سجود السهو يخرج خروجاً موقوفاً، و كفساد الوقتية مع تذكر الفائتة، كما سيأتي..... و بهذا ظهر التوفيق بين القولين، و أن الخلاف بينهما لفظي؛ لأن القائل أيضاً بأن الفرض هو الثانية أراد به بعد الوقوع، و لا يلزم الحكم ببطلان الأولى بترك ما ليس بركن و لا شرط، كما مر عن الفتح“۔ (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب قضاء الفوات : ۲/ ۶۵، سعید)

(۳) ”فإن فعل ثم ندم و سعى إليها بأن انفصل عن دار، بطل ظهره، لا أصل الصلاة، و لا ظهر من اقتدى به، و لم يسع أدركها أولاً“۔ (الدر المختار)۔ ”(قوله: بطل ظهره): أي وصف الفرضية، و صار نفلاً بناءً على أن بطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل عندهما، خلافاً لمحمد“۔ (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ،

باب الجمعة: ۲/ ۱۵۵، ۱۵۶، سعید)

نقصان کو پورا کرنے کی خاطر ذات اول کا کمال کے ساتھ اعادہ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے قعدہ اخیرہ پر ارکان پورے ہو جاتے ہیں، مستقوٰط فرض اور کسی چیز پر موقوف نہیں، مگر سلام بسجدتی السہو کے بعد سے آخر تک جو حصہ ہے فرض ہی واقع ہوتا ہے، چنانچہ اس حالت میں جو اقتداء کرے گا اس کی اقتداء صحیح ہو جائے گی بالاتفاق، تو یہ ثانیہ مثل سجود سہو ہے، کما فی رد المحتار: ”جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو“ (۱)۔

چونکہ سجود سہو کی صورت میں منافی صلوة کوئی عمل نہیں ہوا، اس لئے شارع علیہ السلام اس سجود سہو کی زیادتی کو مربوط محل السہو قرار دیکر لجزب النقصان کا بھی اعتبار کیا اور اعادہ کی صورت میں منافی صلوة عمل ہو چکا، لہذا اس زیادتی کی بنا اصل صلوة پر ممکن نہیں رہی اس لئے جدید تحریم کے ساتھ مستقل نماز کو جابر قبول کیا، چار رکعت والی نماز کے لئے چار رکعت اور تین والی کے لئے تین رکعت کو جابر قرار دینا دلیل ہے کہ معادہ بالفعل الاول و بالفعل الثانی میں اتحاد ذات ہے، محض صورت تغایر و تعدد ہے، اگر محض لجزب النقصان محض زیادتی مقصود ہوتی تو نماز کی دو رکعت مشروع ہے، ہر نماز کے لئے دو رکعت جابر ہو سکتی تھی مگر ایسا نہیں تو معلوم ہوا کہ محض زیادتی مطلوب نہیں بلکہ زیادتی مع آحاد ذات در مجبور منہ و جابر مطلوب ہے اور جب اتحاد فی الذات بھی مطلوب ہے تو مثلاً ذات صلوة ظہر کا وجود چار رکعت سے ہوتا ہے لہذا لجزب النقصان چار رکعت مطلوب ہوئی، علی ہذا القیاس معادہ صلوة بالفعل الثانی متروک واجب کے قائم مقام ہے اور واجبات سب نمازوں کے مساوی ہوں اس لئے ایک ہی مقدار لجزب النقصان قرین فی اس تھی۔

الغرض معادہ بالفعل الثانی کا مماثل بالفعل الاول فی سائر الاجزاء مطلوب ہونا دلیل ہے کہ ثانیہ مثل اولیٰ کے عقب الوقوع فرض ہے۔ ذات کی ذاتیات و اوصاف ذاتیہ میں سے اگر کوئی معدوم ہو جائے تو ذات ہی باقی نہیں رہتی اور اگر اوصاف عارضیہ میں خلل واقع ہو جائے تو ذات باقی رہتی ہے مگر اس وقوع خلل فی الاوصاف کا نقص ذات ہی کی طرف راجع ہوتا، پھر اگر اس نقصان کو پورا کیا جائے تو یہ جبر نقصان بلا واسطہ ذات ممکن نہیں، یہ بھی تصریح سامنے نہیں کہ ثانیہ سے نفل کی نیت کافی ہو جائے گی۔

(۱) (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلوة، مطلب: کل صلوة أدیت مع کراهة التحريم تجب

طحاوی علی مراقی الفلاح میں نفل جابر لاول مذکور ہے (۱) اس کے معنی بصورت تطبیق یہ ہے کہ جب ارکان و شروطِ صلوٰۃ مکمل ہو چکے تو اب ثانیاً شروع فی الفعل فرض نہیں بلکہ غیر فرض ہے۔ چونکہ اعادہ عند البعض واجب ہے اور عند البعض مستحب ہے اور بعض نے فی الوقت اور بعد الوقت کی تفصیل فرمائی اس لئے لفظ ”ونفل“ ذکر فرمایا جو دونوں کو شامل ہے، اول کے نقصان کو پورا کرنا ہے، لہذا یہ ابتداء فعل کے معاقب فرض واقع ہونے کی منافی نہیں۔ مسافر پر صلوٰۃ جمعہ فرض نہیں، مگر جب پڑھے گا تو واقع فرض ہوگی، چنانچہ مسافر کی اقتداء صلوٰۃ جمعہ میں بالاتفاق صحیح ہے۔

الحاصل: بعض نے قبل الاعادہ کے اعتبار سے اولیٰ کو اور بعض نے بعد الاعادہ کے اعتبار سے ثانیہ کو ”سقطه الفریضه“ سے تعبیر فرمایا، مآل سب کا واحد ہے، جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”و بهذا ظهر التوفيق بين القولين وأن الخلاف بينهما لفظي“ (۲)۔ اس وضاحت کے بعد نو وارد کی عدم شرکت کے قول کو مختار تسلیم کرنے میں تامل ہے، بندہ سے یہ جرأت ممکن نہیں کہ عدم شرکت کے قول کو غلط کہہ دے، عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کا فتویٰ عدم شرکت پر ہے (۳) اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کا فتویٰ شرکت پر ہے (۴)۔ اور یہ ممکن ہے بلکہ ظن ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے سامنے عدم شرکت کی بہت زیادہ قوی دلیل ہو جس کے سامنے خاکسار کی یہ تحریر ہیچ کس ہو، دونوں حضرات ہمارے مقتدی ہیں، مگر چونکہ حضرت مفتی صاحب کی دلیل مستور ہے اور حضرت حکیم الامت کے فتوے کی دلیل اور ماخذ ظاہر ہے اس لئے قول شرکت کو مختار تسلیم کرنا قریب الفہم ہے اور یہ ایسر ہے۔ جو کچھ

(۱) ”و كذا الحكم في كل صلاة أدت مع كراهة التحريم، والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر، والفرض سقط بالأولى؛ لأن الفرض لا يتكرر، كما في الدر وغيره“۔ (حاشیة الطحاوی علی مراقی الفلاح، كتاب الصلوة، فصل فی بیان واجبات الصلوة، ص: ۲۴۸، قدیمی)

(۲) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت: ۲/۶۵، سعید)

(۳) ”اگر پہلی دفعہ نماز بالکل نہیں ہوئی تھی مثلاً باطل ہوئی تھی تو نئے نمازیوں کی نماز بوقت اعادہ کرنے نماز کے ادا ہوگی اور اگر کسی واجب کے ترک ہو جانے سے امام نماز کا واجب تھا تو نئے نمازیوں کی نماز نہ ہوگی، فقط۔“ (فتاویٰ دار العلوم دیوبند،

كتاب الصلوة، الباب الخامس فی الإمامة، فصل اول بہائم اور اس کی اہمیت: ۳/۵۰، ۵۱، امدادیہ ملتان)

(۴) ”لم أحده بعد تسع فی امداد الفتاویٰ و لافی بیہشی زیور“

فہم ناقص میں آیا عرض کر دیا، تاہم اعتماد کے لئے حضرت مفتی صاحب بالخصوص دارالعلوم دیوبند کی توثیق ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔

کتبہ محمد عرفان عفا اللہ عنہ، مسجد عمر خان والی کھالا پار مظفرنگر (یوپی)

الجواب: منجانب دارالعلوم دیوبند

الجواب حامداً ومصلياً:

ماشاء اللہ! بہت کنج و کاؤ اور محنت سے جواب مرتب کیا گیا ہے، لیکن اخیر میں اس اختلاف کو اختلاف لفظی قرار دیکر معاملہ بالکل ہلکا کر دیا گیا۔ حضرت مفتی نظام الدین صاحب مدظلہ، حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ کے فتوے کو اختیار فرماتے ہیں، یہ ناکارہ احتیاطاً حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحب قدس سرہ کے فتوے کا اتباع کرتا ہے اور حضرت مفتی نظام الدین صاحب بھی دستخط فرمادیتے ہیں، اپنی رائے پر ان کو اصرار نہیں۔

اختلافی اقوال میں نظائر سے کام اس وقت لیا جائے جب کسی قول کی ترجیح منقول نہ ہو، جب قول مختار صراحتاً موجود ہو تو پھر نظائر پر نظر کرنے کی کیا ضرورت ہے:

”والمختار أن المعادة لترك واجب نفل جابر، والفرض سقط بالأولى؛ لأن الفرض لا يتكرر كما في الدر المختار وغيره“۔ طحطاوی، ص: ۱۳۴ (۱)۔ ”وأن لا يكون الإمام أدنى حالاً من المأموم كافتراضه وتنفل الإمام، اه“۔ مراقی الفلاح، ص: ۱۵۸ (۲)۔

علامہ شامی نے ”والمختار أنه جابر للأول“ کے تحت اس کا اصح ہونا نقل کیا ہے۔ شیخ المحققین ابن الہمام کا مختار ہی اس کو لکھا ہے: ”(قوله: والمختار أنه): أي الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو، وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح، كذا في شرح الأکمل على أصول الہزدوی. و مقابله ما نقلوه عن أبي البسر من أن الفرض هو الثاني،

(۱) حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فی بیان واجبات الصلوة،

ص: ۲۳۸، قدیمی

(۲) (مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح، کتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ۲۹۰، ۲۹۱، قدیمی)

وأختار ابن الهمام الأول قال: لأن الفرض لا يتكرر، اهـ. شامی: ۱/۳۰۷ (۱)۔
 حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے فتوے کا ماخذ یہ منقولہ عبارات ہو سکتی ہیں، اس کے مقابل قول
 کے لئے بھی اگر مختار یا اصح وغیرہ کوئی لفظ مل جاتا تو زیادہ موجب تشفی ہوتا اور تحریر کردہ نظائر سے زیادہ مؤثر ہوتا۔
 فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۱۲/۹۵ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۱۲/۹۵ھ۔



(۱) (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، مطلب: كل صلوٰۃ أدیت مع كراهة التحريم يجب

إعادتها: ۱/۳۵۷، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ: ۱/۵۲۳، رشیدیہ كوئٹہ)

(و كذا في حاشية الشيخ الشلبی على تبیین الحقائق، كتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ: ۱/۲۷۷،

دارالكتب العلمية بيروت)

الفصل الرابع في تعيين الوقت للجماعة

(جماعت کے لئے وقت مقرر کرنے کا بیان)

نماز کے اوقات کی تعیین

سوال [۲۸۱۹]: پابندی وقت کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً :

نمازوں کے لئے جو اوقات مقرر کئے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ سب کو جماعت مل جائے کسی کو شکایت کا موقع نہ ہو، تاہم ضرورتِ عذر کی وجہ سے کچھ تقدیم و تاخیر کر دی جائے تو مضائقہ نہیں جب تک کہ حدِ کراہت میں نہ آئے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

متولی کا بغیر اجازتِ امام اوقاتِ نماز تبدیل کرنا

سوال [۲۸۷۰]: متولی صاحب کو نماز کے اوقات کا حقہ معلوم نہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میری

بغیر اجازت کے امام صاحب نماز کے اوقات نہیں بدل سکتے ہیں۔ کیا متولی صاحب کا کہنا صحیح ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بات کو طول دینے اور بگاڑنے کے بجائے اگر اس طرح کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ امام صاحب اوقات

(۱) "و لا يفرط في التأخير حتى لا تقع صلاة في وقت مكروه". (رد المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم: ۲۳۹/۱، سعيد)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الطهارة، باب التيمم: ۱۰۸/۱، امداديه ملتان)

(و كذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الطهارة، نوع آخر في بيان وقت التيمم: ۲۳۸/۱، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراچی)

کی رعایت کرتے ہوئے جب وقت تبدیل کریں تو متولی صاحب کو اطلاع کر دیا کریں کہ آپ فلاں وقت کو اس طرح تبدیل کر دیں اور اس کا اعلان کر دیں تاکہ متولی بھی خوش رہیں اور کام میں رکاوٹ بھی پیدا نہ ہو، نماز بھی صحیح اوقات پر ہو جایا کرے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

جماعت کا وقت کون متعین کرے؟

سوال [۲۸۷۱]: نماز کے اوقات متعین کرنا، آیا مصلیٰ کرے یا مؤذن یا گھڑی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

متولی، امام، مؤذن، مقتدی سب کے مصالح کی رعایت چاہئے، سب لوگ امام کے سپرد کر دیں کہ وہ مصالح کی رعایت کرتے ہوئے جماعت کا وقت مقرر کر دیں، جس سے نماز وقت مستحب پر ادا ہو اور سب کو شریک ہونے میں سہولت رہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳۰/۱/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۳۰/۱/۸۸ھ۔

(۱) ”عن جابر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال! ”إذا أذنت فترسل في أذانك، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى ترونى“۔ (جامع الترمذی، أبواب الصلوة، باب ماجاء فى الترسل فى الأذان : ۴۸/۱، سعید)

”ويجلس بينهما بقدر ما يحضر الملازمون مراعيًا لوقت الندب إلا فى المغرب“۔

(الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الأذان : ۳۸۹/۱، سعید)

(و كذا فى الفتاوى العالمكبرى، كتاب الصلاة، الباب الثانى فى الأذان، الفصل الثانى فى كلمات الأذان

والإقامة الخ : ۱/۵۷، رشيدية)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الأذان : ۴۵۴/۱، ۴۵۵، رشيدية)

نماز کے اوقات امام مقرر کرے یا مقتدی؟

سوال [۲۸۷۲]: امام مقتدیوں کے تابع ہے یا مقتدی امام کے، یعنی نماز کے لئے خود وقت دیکھ

کر کھڑا ہو جائے یا مقتدی کے حکم کے مطابق؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بہتر یہ ہے کہ امام مقتدی سب کی متفقہ رائے سے شریعت کے مطابق وقت مقرر کیا جائے، اگر مقتدی

ناواقف ہوں اور شرعی وقت کی شناخت نہ رکھتے ہوں تو امام مقرر کر کے اعلان کر دے اسکی پابندی سب

کریں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۷/۱۱/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۱/ذی قعدہ/۵۷ھ۔

تبدیلی اوقات کا اختیار کس کو ہے؟

سوال [۲۸۷۳]: اوقات نماز و جماعت کا تعین کرنے کا مجاز متولی مسجد ہے یا نہیں؟ قدیم روایت

کے مطابق امام صاحب ہی وقت کا تعین کرتے آئے ہیں۔

ایضاً

سوال [۲۸۷۴]: اگر متولی مسجد ہی کو تبدیلی اوقات کا اختیار ہے تو وہ کس کس سے مشورہ کرے؟ اہل

(۱) ”عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”لبلال إذا أذنت فترسل في

أذانك، وإذا أقيمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من

شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني“ (سنن الترمذی، أبو اب الصلوة، باب

ما جاء في الترسل في الأذان: ۱/۳۸، سعید)

”ويجلس بينهما بقدر ما يحضر الملازمون مراعيًا لوقت الندب إلا في المغرب“.

(الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الأذان، ۱/۳۸۹، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني في كلمات الأذان

والإقامة الخ، ۱/۵۷، رشيدية)

محلہ سے یا نمازیوں سے یا متولیانِ مسجد سے جہاں کہ جمعہ ہوتا ہے، یا مصلیانِ جمعہ سے یا امام و خطیب سے؟ بد قسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی پارٹی بندی ہو گئی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... امام صاحب ہی کو حق ہے مگر وہ بھی نمازیوں کا خیال رکھیں (۱)۔

۲..... نمبر: ۱ کے بعد اسکے جواب کی حاجت نہیں، اپنی اپنی ذاتی مصالح کے پیش نظر یا محض مخالفت کی

خاطر نزاع و خلفشار بہت ہی منحوس چیز ہے، اس سے پورا پرہیز لازم ہے، جو طرز مدت سے چلا آ رہا ہے جس پر رضامند رہتے ہیں اس میں اب کیا اشکال ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۶/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

وقت مقررہ کے بعد نمازیوں کا انتظار

سوال [۲۸۷۵]: مسجد میں اوقاتِ اذان و جماعت مقرر کر دیئے گئے ہیں اور مابین اذان و جماعت

نصف گھنٹہ کا وقت فاصل متعین ہے تاکہ لوگ آسانی سے حاضر ہو کر شرکت کر سکیں، مگر باوجود اس کے بعض حضرات تاخیر سے تشریف لاتے ہیں اور اقامتِ جماعت کے وقت وضو ہی کرتے رہتے ہیں تو اس حالت میں کیا امام پر فرض ہے کہ ان لوگوں کا منتظر ہو؟

نبی احمد، رسول پور، ضلع سہارنپور، ۲۹/جمادی الثانیہ/۵۲ھ۔

(۱) ”عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ”يا بلال! إذا أذنت، فترسل في أذانك، وإذا أقيمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني“ (سنن الترمذی، أبواب الصلوة، باب ماجاء في الترسل في الاذان: ۳۸/۱، سعید)

”ويجلس بينهما بقدر ما يحضر الملازمون مراعيًا لوقت الندب إلا في مغرب“ (الدر المختار،

كتاب الصلاة، باب الأذان: ۳۸۹/۱، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني في كلمات الأذان

والإقامة: ۵۷/۱، رشيدية)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر وقت مقررہ پر اکثر نمازی آگئے اور ایک دو شخص ہی نہیں آئے تو امام کو انتظار فرض نہیں بلکہ مکروہ ہے، لیکن اگر وہ شریر اور فتنہ پرور ہوں تو دفع فتنہ کے واسطے انتظار کرنے میں مضائقہ نہیں بشرطیکہ وقت میں بھی گنجائش ہو:

”رئيس المحلة لا ينتظر ما لم يكن شريراً والوقت متسع“. باب الأذان (۱). ”فلو انتظر قبل الصلوة، ففي أذان البزازية: لو انتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز، ولو أحد بعد الاجتماع، لا، إلا إذا كان داعراً شريراً“. شامی: ۱/۵۱۶ (۲)۔

نیز اگر وقت میں تنگی ہو اور قوم پرگراں نہ گزرے تب بھی انتظار جائز ہے (اگرچہ خوف فتنہ نہ ہو): ”أما الانتظار قبل الشروع في غير ما يكره تأخيره كمغرب، و عند ضيق وقت، فالظاهر عدم الكراهة ولو لمعين، إلا إذا ثقل على القوم“. طحطاوی: ۱/۲۲۰ (۳)۔ فقط۔

صحیح: عبد اللطیف، ناظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۵/رجب/۵۲ھ۔

نماز مغرب میں امام کا انتظار

سوال [۲۸۷۶]: کیا مغرب کی نماز کے وقت اذان ہوتے ہی نماز جماعت پڑھ لیجاوے

(۱) (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الأذان: ۱/۴۰۰، سعید)

(۲) (رد المحتار، کتاب الصلوة، فصل فی بیان تألیف الصلوة إلى انتهائها: ۱/۴۹۵، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ البزازیة، کتاب الصلوة، الفصل الأول فی الأذان: ۳/۲۵، رشیدیہ)

(۳) (حاشیة الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب الصلوة، فصل: الشروع فی الصلوة: ۱/۲۲۰،

دار المعرفۃ بیروت)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتارخانیة، کتاب الصلوة: نوع آخر فی فصل بین الأذان والإقامة: ۱/۵۲۱، إدارة

القرآن کراچی)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب الأذان: ۱/۲۴۵، ۲۴۶، دار الکتب العلمیة بیروت)

اور اتنا انتظار نہ کیا جاوے کہ امام مقرر شدہ وضو کر سکے اور اس کا وضو بغیر کئے دوسرے شخص کو نماز کے لئے کھڑا کر دیا جاوے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس میں بلا وجہ دیر کرنا کہ دو رکعت پڑھی جاسکے مکروہ ہے، اس سے کم دیر کرنا مکروہ نہیں، پس اگر امام وضو کر رہا ہے تو اس کے انتظار میں مضائقہ نہیں بلکہ مناسب ہے کہ اس کا انتظار کر لیا جائے:

”قال في النهر: وفي الأذان من الفتح قوله: بكرهته الر كعتين قبل المغرب يشير إلى أن تأخير المغرب قدرهما مكروه، و قد منا عن القنية استثناء القليل، فيجب حملة على ما هو أقل من قدرهما مكروه توسط فيهما ليتفق كلام الأصحاب، وهذا هو الحق، اهـ“۔ منحة الخالق: ۱/۲۴۸ (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔

نماز شروع کرنے میں امام متولی کا پابند نہیں

سوال [۲۸۷۷]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک مسجد کا متولی فجر کی جماعت اپنے حکم سے کھڑی کرتا ہے، مثلاً جیسا اس کو جماعت کرنی منظور ہوتی ہے تو سب سے پہلے زور سے بسم الرحمن الرحیم کہتا ہے اس سے امام مسجد جو کہ مستقل ہے سمجھ جاتا ہے کہ اب میں مصلے پر چلوں، امام کو بذات خود کوئی اختیار نہیں ہے کہ وقت پر خود جا کر مصلے پر کھڑا ہو جائے۔ ایسی حالت میں متولی کا یہ طریق مطابق شریعت ہے یا نہیں، یا خلاف شریعت؟ امام مقتدی کا تابع ہے یا مقتدی امام کا؟ عند اللہ اس امر کا صحیح شرعی

(۱) (منحة الخالق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۴۳۲، رشیدیہ)

(و کذا فی الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة: ۱/۳۶۹، سعید)

(و کذا فی حاشیة الشیخ الشلبی علی تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۱/۲۲۷،

دار الکتب العلمیة بیروت)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۳، امدادیہ ملتان)

امر صادر فرمادیں تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ فقط والسلام۔

بندہ عبد اللہ سہارنپوری ۹/مئی/۱۴۱۱ھ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز کے اوقات شریعت کی جانب سے مقرر ہیں مگر ان میں وسعت ہے (۱) اس لئے ایسے وقت شروع کی جائے کہ شرع کے نزدیک وہ وقت مستحب ہو اور پابند جماعت نمازی اکثر اس وقت آجاتے ہوں (۲)۔ اگر متولی جماعت کے شروع کرانے میں اس کی رعایت رکھتا ہے تب تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، اگر اس کی رعایت نہیں رکھتا بلکہ صرف اپنی آمد پر موقوف رکھتا ہے، خواہ وہ وقت مستحب ہو یا غیر مستحب، خواہ اکثر جماعت پابند نمازی آگئے ہوں خواہ نہ آئے ہوں بلکہ جب خود آ گیا تو نماز فوراً شروع کرادے اور جب تک خود نہ آیا تو امام کو انتظار کا حکم دیا، اگرچہ وقت مستحب نکل کر وقت مکروہ میں داخل ہو گیا، یا ابھی وقت مستحب شروع ہی نہ ہوا تو ایسی حالت میں اس کا یہ خیال شرعاً پسندیدہ نہیں اور امام کو اس میں اس کی اتباع بھی نہیں کرنی چاہئے اور نماز شروع کرنے میں امام مستقل ہے، متولی یا اور کسی کے تابع نہیں بلکہ سب لوگ امام کے تابع ہیں (۳)، تاہم امام کو ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہئے جس سے تمام مقتدیوں کو تکلیف ہو۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۴/۴/۶۰ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/ربیع الثانی/۶۰ھ۔

(۱) قال اللہ تعالیٰ: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (سورة النساء: ۱۰۳)

(۲) "و يجلس بينهما بقدر ما يحضر الملازمون مراعيًا لوقت الندب إلا في المغرب". (الدر المختار،

كتاب الصلوة، باب الأذان: ۳۸۹/۱، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني في كلمات الأذان

والإقامة: ۵۷/۱، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الأذان: ۴۵۴، ۴۵۵، رشيدية)

(۳) قال اللہ تعالیٰ: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (سورة البقرة: ۱۲۴)

"و إذا ثبت أن اسم الإمامة يتناول ما ذكرناه، فالأنبياء عليهم السلام في أعلى رتبة الإمامة، ثم

الخلفاء الراشدون بعد ذلك ثم العلماء والقضاة العدول و من ألزم الله تعالى الاقتداء بهم، ثم الإمامة

في الصلوة و نحوها". (أحكام القرآن للجصاص: ۹۷، ۹۸، قديمي)

انتظار صلوة

سوال [۲۸۷۸]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و شرع متین اس مسئلہ میں: زید کا اعتراض ہے کہ جب یہ مسئلہ ہے کہ مؤذن اذان اور اقامت کے درمیان موافق چار رکعت کے بیٹھے اور مغرب میں تھوڑی دیر، تو اکثر مسجدوں میں مؤذن اذان اور اقامت کے درمیان آدھ گھنٹہ کا وقفہ دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ اس آدھ گھنٹہ کی پابندی سخت کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ اس کو مفصل فرمادیں اور کتب حدیث کا بھی حوالہ دیں۔ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

احادیث میں آدھ گھنٹہ کی تحدید نہیں بلکہ یہ حکم ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فصل ہونا چاہئے کہ جو شخص کھانا کھا رہا ہو وہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائے اور جس کو ضرورت ہو وہ قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جائے، اب اہل مسجد کے اتفاق رائے پر موقوف ہے، بعض جگہ آدھ گھنٹہ وقفہ مقرر کر لیتے ہیں اور بعض جگہ کم اور کسی نماز کے لئے آدھ گھنٹہ سے بھی زائد، جیسے صبح کی نماز میں، اور یہ فرق تفاوت احادیث سے بھی ثابت ہے:

”عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لبلال: ”اجعل ما بین أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل القضاء حاجته، اهـ“۔ مشکوة المصابيح مختصراً، ص: ۶۳ (۱)۔ ”وقال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت اجتماع المصلين، اهـ“۔ فتح الباری: ۲/۸۸ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۶۱ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

(۱) (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان، الفصل الثانی: ۱/۶۳، ۶۴، قدیمی)

(وجامع الترمذی، أبواب الصلوٰۃ، باب ما جاء فی الترسل فی الأذان: ۱/۳۸، سعید)

(۲) (فتح الباری، کتاب الأذان، باب کم بین الأذنین والإقامة، و من ينتظر الإقامة: ۲/۱۳۶، قدیمی) =

جماعت کے لئے نمازیوں کا انتظار

سوال [۲۸۷۹]: کسی مسجد میں اگر کوئی مصلیٰ ہی نہیں آیا فجر یا مغرب کی نماز میں اور توقع ہے کہ تھوڑی دیر میں کوئی آئے۔ ایسی صورت میں امام صاحب خیر وقت تک مصلیوں کا انتظار کر سکتے ہیں یا نہیں؟

ایضاً

سوال [۲۸۸۰]: ۲۔ اگر انتظار کئے بغیر امام صاحب نے مقررہ وقت پر اکیلے نماز پڑھ لی تو امام صاحب کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت مقررہ پر امام صاحب کو پڑھ لینا چاہئے، کوئی آئے یا نہ آئے فرشتے اور جنات امام صاحب کی اقتداء کرتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

..... وقت مکروہ آنے سے پہلے تک انتظار کرے (۱)، جہاں آس پاس مسلمان موجود ہوں وہاں سب کو مل کر اس کا انتظام کرنا چاہئے کہ سب لوگ نماز کے لئے آیا کریں، اس مقصد کے لئے گشت بھی کیا جائے، اجتماع بھی کیا جائے، فضائل نماز وغیرہ پڑھنے اور سنانے کا بھی انتظام کیا جائے، جگہ جگہ تبلیغی جماعتیں کام کر رہی

= ”و یجلس بینہما بقدر ما یحضر الملازمون مراعیاً لوقت الندب إلا فی المغرب“۔ (الدر

المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان : ۱/ ۳۸۹، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان : ۱/ ۳۵۳، ۳۵۵، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثانی فی الأذان، الفصل الثانی فی کلمات الأذان

والإقامة : ۱/ ۵۷، رشیدیہ)

(۱) ”و یجلس بینہما بقدر ما یحضر الملازمون مراعیاً لوقت الندب إلا فی المغرب“ (الدر المختار،

کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان : ۱/ ۳۸۹، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثانی فی الأذان، الفصل الثانی فی کلمات

الأذان والإقامة : ۱/ ۵۷، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتاریخانیہ، کتاب الصلوٰۃ، الأذان : نوع آخر فی بیان ما یفعل فیہ : ۱/ ۵۱۵، ادارة

القرآن والعلوم الإسلامیة کراچی)

ہیں، اپنے محلہ میں بلا کر تشکیل کر لی جائے اور ان کے ساتھ دوسرے محلوں میں بھی جا کر کام کریں۔ اس سے نماز کی اہمیت بھی دلوں میں پیدا ہوگی اور مسجد بھی آباد ہوگی۔

۲..... امام صاحب اگر تنہا اذان و اقامت کہہ کر امام کی طرح نماز پڑھ لیں گے تو ملائکہ اور جنات ان کا اقتداء کریں گے مگر انتظار کرنا پھر بھی مناسب ہے (۱) بلکہ مکان سے بلا کر لائیں گے تو زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۷/۹۵ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

وقت مقررہ سے کچھ پہلے نماز

سوال [۲۸۸۱]: امام اپنی خوشی کے مطابق نماز پڑھاوے وقت کے خلاف یہ عمل کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بالتفصیل جواب مرحمت فرمایا جائے۔

فقط والسلام المستفتی محمد عمر۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر نماز کا وقت ہی نہ ہوا ہو تو نماز پڑھنا پڑھانا ناجائز ہے (۲) اگر وقت تو ہو گیا لیکن کسی عارض کی وجہ

(۱) "عن أبي عثمان عن سلمان قال : لا يكون رجل بأرض قبي فيتوضأ، فإن لم يجد الماء يتيمم، ثم ينادي بالصلوة، ثم يقيمها إلا أم من جنود الله ما لا يرى طرفاه". (المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الأذان والإقامة، في الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم : ۱/۱۹۸، ۱۹۹، دار إحياء التراث العربي بيروت) (و كذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۵۵۴، سعيد)

راجع تفصیل الکلام "تدوير الفلك في حصول الجماعة بالجن والملك" في "مجموعه رسائل اللكنوى" : ۱/۳۷۱، إدارة القرآن والعلوم الإسلاميه، كراتشى.

(۲) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾. (سورة النساء : ۱۰۳)

"روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إن للصلوة وقتاً كوقت الحج قال أبو بكر : قد انتظم ذلك إيجاب الفرض و موافقته؛ لأن قوله تعالى: ﴿كِتَابًا﴾ معناه فرضاً، وقوله: ﴿مَوْقُوتًا﴾ معناه أنه =

سے وقت مقررہ سے دو چار منٹ پہلے امام نے نماز پڑھادی اور پابند جماعت نمازی بھی آچکے تھے تو اس میں مضائقہ نہیں اگر پابند جماعت نمازی نہیں آئے تھے تو وقت مقررہ تک ان کا انتظام کرنا چاہئے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔

معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۶/۶/۵۷ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف مدرسہ مظاہر علوم، ۶/۶/۵۷ھ۔

کسی مصلحت سے نماز میں ۵/منٹ کی تاخیر کرنا

سوال [۲۸۸۲]: فرض نماز کا وقت جو مقرر ہے، امام کسی مصلحت سے پانچ یا چھ منٹ دیر کر سکتا ہے

اور امام پر تقاضہ کرنا کیسا ہے؟

= مفروض في أوقات معلومة معينة . (أحكام القرآن للجصاص : ۳۷۴/۲، قدیمی)

”لأن الوقت كما هو سبب لوجوب الصلوة فهو شرط لأدائها قال الله تعالى: ﴿إن الصلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً﴾: أي فرضاً مؤقتاً؛ حتى لا يجوز إذا الفرض قبل وقته إلا صلاة العصر يوم عرفة على ما يذكر“. (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان شرائط الأركان : ۵۵۸/۱، دارالكتب العلمية بيروت)

(و كذا في رد المحتار : ۳۷۰/۱، كتاب الصلوة، سعيد)

(۱) ”و ينتظر المؤذن الناس و يقيم للضعيف المستعجل و لا ينتظر رئيس المحلة و كبيرها، كذا في معراج الدراية“. ينبغي أن يؤذن في أول الوقت و يقيم في وسطه حتى يفرغ المتوضىء من وضوئه و المصلى من صلاته و المعتصر من قضاء حاجته“. (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، باب الأذان، الفصل الثاني في كلمات الأذان و الإقامة الخ: ۵۷/۱، رشيدية)

”رئيس المحلة لا ينتظر ما لم يكن شريراً و الوقت متسع“. (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب

الأذان : ۳۰۰/۱، سعيد)

”و يجلس بينهما بقدر ما يحضر الملازمون مراعيًا لوقت إلا في المغرب“. (الدر المختار،

كتاب الصلوة، باب الأذان، الفصل الثاني في كلمات الأذان و الإقامة: ۳۸۹/۱، سعيد)

الجواب حامداً و مصلياً :

کسی مصلحت یا ضرورت سے اتفاقاً طور پر اگر امام ۵، ۶/ منٹ کی تاخیر کر دے تو مقتدی تقاضہ نہ کریں، امام کو بھی پابندی کرنی چاہئے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح، بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

کسی کے انتظار میں وقت مقررہ سے کچھ تاخیر کرنا

سوال [۲۸۸۳]: مساجد میں عموماً جماعت کے لئے وقت مقرر ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی کسی وجہ اور کسی

ضرورت سے امام پانچ سات منٹ کی تاخیر کر دے وقت مقررہ سے تو کیا یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ یا کسی معزز عالم دین اور کسی بزرگ کے انتقال پر بھی تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے، اکثر لوگ اس پر خفا ہو جاتے ہیں اور وقت مقرر پر تاخیر کو حرام اور گناہ تصور کرتے ہیں، لہذا اس مسئلہ پر روشنی ڈالیں۔

الجواب حامداً و مصلياً :

نمازوں کے اوقات میں موجودہ مروجہ گھڑی کے اعتبار سے سہولت پیدا ہوتی ہے کہ پابند جماعت نمازی شرکت جماعت سے محروم نہ رہیں، اگر اس میں قدرے تغیر ہو جائے اور شرعی طریقے پر وقت مکروہ داخل نہ ہو تب بھی نماز بالیقین درست ہو جاتی ہے (۲)، یہ عقیدہ رکھنا کہ پانچ سات منٹ تاخیر کرنے سے نماز درست

(۱) "و یجلس بینہما بقدر ما یحضر الملازمون مراعیاً لوقت الندب إلا فی المغرب". (الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان : ۳۸۹/۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثانی فی الأذان، الفصل الثانی فی کلمات الأذان والإقامة اھ : ۵۷/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتاریخانیۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان، نوع فی بیان ما یفعل فیہ : ۵۱۵/۱، إدارة القرآن کراچی)

(۲) "و لا یفرط فی التأخیر حتی لا تقع صلاۃ فی وقت مکروہ". (رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب التیمم : ۲۲۹/۱، سعید)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الطہارۃ، باب التیمم : ۱۰۸/۱، امدادیہ ملتان)

نہیں ہوگی، یا یہ تاخیر کرنا حرام ہے غلط عقیدہ ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ جو شخص جماعت کا پابند ہو اور اتفاقاً طور پر کبھی اس کو تاخیر ہو جائے تو اس کی خاطر سب کو انتظار کرنے میں مضائقہ نہیں، اگر کوئی شخص شریک ہو کہ جماعت نہ ملنے کی وجہ سے فتنہ برپا ہو جائے تو اس کی خاطر بھی تاخیر کرنا درست ہے، البتہ باوجاہت کی وجہ سے خوشامدانہ انتظار نہیں ہونا چاہئے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

نماز وقت مقررہ سے ایک دو منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۸۸۴]: پانچوں نمازوں کا جو وقت مقرر کر لیا جاتا ہے جیسے فجر کا ۵ بجے، ظہر کا ڈھائی بجے، عصر ساڑھے پانچ بجے وغیرہ وغیرہ، ان مقررہ وقت کو اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ایک منٹ آگے ہونہ پیچھے، یہ کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

ایک منٹ آگے پیچھے ہونے سے نماز ناجائز نہیں ہوگی (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۷/۹۳ھ۔

= (و کذا فی الفتاوی التاتارخانیة، کتاب الطہارة، نوع آخر فی بیان وقت التیمم : ۲۳۸/۱،

إدارة القرآن)

(۱) ”رئیس المحلہ لا ینتظر ما لم یکن شریراً والوقت متسع“۔ (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب

الأذان : ۴۰۰/۱، سعید)

”ینبغی للمؤذن مراعاة الجماعة، فإن رأهم اجتمعوا، أقام، و إلا انتظرهم“۔ (البحر الرائق،

کتاب الصلوة، باب الأذان : ۴۵۵/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاوی العالمکیریة، الفصل الثانی فی کلمات الأذان : ۵۷/۱، رشیدیہ)

(۲) یہاں پر مفسدات نماز میں سے بھی کوئی مفسد نہیں پائی جاتی ہے اس لئے نماز اپنی جگہ درست اور صحیح ہے چونکہ اوقات کی مروجہ

تقریری وقت مشروع کے اندر کی جاتی ہے، لہذا اوقات مقررہ کی پابندی کو ضروری سمجھنا کہ ضرورت کے وقت بھی ایک منٹ کی

تقدیم و تاخیر کی کوئی گنجائش نہ ہو درست نہیں:

”و ینتظر المؤذن الناس، و یقیم للضعیف المستعجل، و لا ینتظر رئیس المحلہ و کبیرھا، کذا =

نماز میں معین آدمی کا انتظار

سوال [۲۸۸۵]: کیا ایک شخص کے باعث جماعت میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ جبکہ مستقل امام موجود ہو، اگر وہ شخص نہیں آتا تو بجائے ایک بچے کے ڈیڑھ یا دو بچے جماعت ہوتی ہے اور اس کے بلانے کے لئے پے درپے آدمی بھیجا جاتا ہے۔ یہ فعل عندالشرع مذموم ہے یا ممدوح؟

محمد یونس۔

الجواب حامداً ومصلياً:

وقت مقررہ پر اگر تمام نمازی آجائیں تو کسی خاص شخص کا انتظار جائز نہیں مگر جب وقت مستحب میں گنجائش ہو اور قوم پر گران بھی نہ ہو یا وہ شخص شریفانہ پرداز ہو تو کسی قدر انتظار میں مضائقہ نہیں:

”رئيس المحلة لا ينتظر ما لم يكن شريراً، والوقت متسع“۔ درمختار: ۱/ ۴۱۵ (۱)۔

”وأما الانتظار قبل الشروع في غير ما يكره تأخيره كمغرب، وعند ضيق وقت، فالظاهر عدم الكراهة ولو لمعين، إلا إذا ثقل على القوم“۔ طحطاوی: ۱/ ۲۲۰ (۲)۔

= فی معراج الدراية..... ينبغي أن يؤذن في أول الوقت، و يقيم في وسطه حتى يفرغ المتوضىء من وضوءه والمصلي من صلاته والمعتصر من قضاء حاجته“۔ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، باب الأذان، الفصل الثاني في كلمات الأذان والإقامة: ۱/ ۵۷، رشيدية)

”ويجلس بينهما بقدر ما يحضر الملازمون مراعيًا لوقت الندب إلا في المغرب“.

(الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الأذان: ۱/ ۳۸۹، سعيد)

(۱) (الدر المختار، باب الأذان: ۱/ ۴۰۰، سعيد)

(۲) (حاشية الطحطاوی على الدر المختار، فصل الشروع في الصلاة: ۱/ ۲۲۰، دار المعرفة بيروت)

”قوله: إطالة ركوع أو قراءة) وأشار إلى أن الكلام في المصلي، فلو انتظر قبل الصلاة، ففي

أذان البزازية: لو انتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة، يجوز، ولو احد بعد الاجتماع لا، إلا إذا كان

داعراً شريراً“۔ (رد المحتار، فصل في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها: ۱/ ۴۹۵، سعيد)

اگر وہ شخص دینی امور میں مشغول رہتا ہے تو اسکو نماز کی اطلاع کرنے میں مضائقہ نہیں (۱)۔ فقط۔

محمود گنگوہی، ۲۶/۴/۵۳ھ۔

صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۷/ربیع الثانی/۵۳ھ۔

کسی معین شخص کا نماز کے لئے انتظار کرنا

سوال [۲۸۸۶]: نماز باجماعت کے لئے جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ وقت پورا ہو جانے کے

بعد دس پانچ منٹ تک کسی خاص یا عام شخص کا انتظار کرنا کیسا ہے، جبکہ امام بھی موجود ہو اور مقتدی حضرات بھی جمع

ہوں؟ کسی خاص شخص یا اپنے محبوب دوست کا انتظار کرتے کرتے وقت تنگ رہ جانے پر نماز کے لئے کھڑا ہونا

کیسا ہے جبکہ دیگر مقتدی موجود ہوں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

..... اگر مقتدیوں کو گرانی نہ ہو اور وقت کے مکروہ ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو کسی پابند جماعت کے لئے کچھ

انتظار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں مگر اس کی عادت نہ ڈالی جائے، نہ یہ ہو کہ باوجاہت کا انتظار کیا جائے اور

غریب کا انتظار نہ کیا جائے، اگرچہ یہ زیادہ پابند ہو (۲)۔

۲..... مکروہ و ممنوع ہے، تفصیل اوپر آگئی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۲/۴/۹۱ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ۔



(۱) ”(قولہ: وینوب) لا ینبغی لأحد أن یقول لمن فوقه فی العلم والجاه: حان وقت الصلاة، سوى المؤذن؛

لأنه استفضالاً لنفسه. بحر، قلت؛ وهذا خاص بالثویب للأمیر ونحوه علی قول أبی یوسف، فافهم (قولہ:

للكل): أى كل أحد. وخصه أبو یوسف رحمه الله تعالى بمن یشتغل بمصالح العامة كالقاضی والمفتی

والمدرس، واختاره قاضیخان وغيره نهر“۔ (رد المحتار، باب الأذان: ۱/۳۸۹، سعید)

(و كذا فی البحر الرائق، باب الأذان: ۱/۳۵۳، رشیدیہ)

(و كذا فی بدائع الصنائع، فصل فی كيفية الأذان: ۱/۶۴۱، دار الكتب العملية بیروت)

(۲) (تقدم تخريجه تحت عنوان: ”نماز میں معین آدمی کا انتظار“۔)

الفصل الخامس في جماعة النساء

(عورتوں کی جماعت کا بیان)

عورتوں کی جماعت

سوال [۲۸۸۷]: کتاب علم الفقہ حصہ دوم مقتدی اور امام کے مسائل کے ضمن میں فقرہ نمبر ۱۵: ”اگر جماعت صرف عورتوں کی ہو یعنی امام بھی عورت ہو تو امام کو مقتدیوں کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہئے خواہ ایک مقتدی ہو یا ایک سے زائد، صحیح یہ ہے کہ صرف عورتوں کی جماعت مکروہ نہیں، بلکہ جائز ہے (۱)۔“

حاشیہ: ”ہمارے فقہاء صرف عورتوں کی جماعت کو مکروہ لکھتے ہیں مگر چونکہ احادیث میں مذکور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں کی امامت کرتی تھیں (۲) اور ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت کی اجازت دی تھی (۳) اس لئے مکروہ تحریمی کہنا بالکل خلاف تحقیق ہے، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الآثار میں لکھا ہے کہ ہم کو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ عورت

(۱) ”قال محمد: لا يعجبنا أن تؤم المرأة، فإن فعلت قامت في وسط الصف مع النساء كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى“ (کتاب الآثار، کتاب الصلوٰۃ، باب المرأة تؤم النساء، کیف تجلس فی الصلوٰۃ، ص: ۴۴، إدارة القرآن، کراچی)

(۲) ”حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء، تقوم معهن في الصف“ (المصنف لابن أبي شيبة، کتاب الصلوٰۃ، المرأة تؤم النساء، (رقم الحديث: ۴۹۵۴): ۴۳۰/۱، دارالکتب العلمیۃ بیروت)

(۳) ”عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، والأول أتم قال: وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذناً يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخاً كبيراً“ (سنن أبي داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب إمامة النساء: ۹۴/۱، ۹۵، امدادیہ ملتان)

امامت کرے“ (۱)۔

اس عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک صرف عورتوں کی جماعت مستحب نہیں ہے نہ کہ مکروہ ہے۔ معلوم نہیں کہ ہمارے فقہاء نے کراہت کہاں سے ثابت کی۔ حضرت مولانا ابوالحسنات نے اس مسئلے میں ایک جامع اور محقق رسالہ تصنیف فرمایا ہے (۲)۔

الجواب حامداً ومصلياً:

عنايہ شرح ہدایہ بر حاشیہ فتح القدير ۱/۲۵۰، میں جماعت النساء کی سنیت کو منسوخ لکھا ہے (۳)، اس کے قریب تبیین الحقائق، نصب الراية، طحاوی وغیرہ میں موجود ہے (۴)۔ علت کراہت بحر، کبیری، بدائع میں

(۱) ”قال محمد: لا يعجبنا أن تؤم المرأة، فإن فعلت قامت في وسط الصف مع النساء كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى“ (كتاب الآثار، كتاب الصلوة، باب المرأة تؤم النساء، كيف تجلس في الصلوة، ص: ۴۴، إدارة القرآن کراتشی)

(۲) (تحفة النبلاء في جماعة النساء من مجموعة رسائل اللكنوي ۵/۲۱۴، إدارة القرآن کراچی)

(۳) ”و حمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام، جواب عما يقال: إذا كانت إمامتهن مكروهة، فكيف فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ و وجهه أنها فعلت ذلك في ابتداء الإسلام، و كانت جائزة سنة، تقف الإمام و سطهن فنسخت سنيتها دون الجواز“ (العنايہ شرح الهدایة علی هامش فتح القدير، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۵۳، مصطفى الحلبي بمصر)

(۴) ”قال: (فإن فعلم يقف الإمام و سطهن كالعراة)؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها فعلت كذلك. كان جماعتهن مستحبة، ثم نسخ الاستحباب، و لأنها ممنوعة عن البروز و لاسيما في الصلوة، و لهذا كان صلاحها في بيتها أفضل“ (تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۳۲۸، ۳۲۹، دارالكتب العلمية بيروت)

”لكن يمكن أن يقال: إنه منسوخ، فعلت ذلك حين كان النساء يحضرن الجماعات، ثم

نسخت جماعتهن، انتهى“ (نصب الراية لأحاديث الهداية، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۲/۳۳،

مؤسسة الريان المكتبة المكية جده)

”قوله: لفساد الزمان) و لذا قالت عائشة حين شكون إليها من عمر لنهيها عن الخروج =

ذکر کی گئی ہے (۱)۔ مولانا ابوالحسنات کے رسالہ کو محقق علماء نے پسند نہیں فرمایا بلکہ رد کیا ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۹/۸۸ھ۔

عورتوں کی نماز جماعت سے

سوال [۲۸۸۸]: بہت سی عورتیں حافظ قرآن ہیں، رمضان المبارک میں نماز تراویح باجماعت گھر

= إلى المساجد: لو علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما علم عمر ما أذن لكن في الخروج، قهستاني.

(حاشية الطحاوی علی الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۲۳۵، دار المعرفة بیروت)

(۱) ”(قوله: ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى: ﴿و قرن فی بیوتكن﴾ [سورة الأحزاب: ۳۳]

”وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ”صلاتها فی قعر بيتها أفضل من صلاتها فی صحن دارها، و صلاتها فی

صحن دارها أفضل من صلاتها فی مسجدها، و بیوتهن خیر لهن“. و لأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن.

(البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۲۷، ۶۲۸، رشیدیہ)

”أما النساء، فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة“. (بدائع الصنائع، کتاب الصلوة، فصل فیمن

تجب علیه الجماعة: ۱/۶۶۳، دار الکتب العلمیة بیروت)

(و کذا فی مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، کتاب الصلاة، فصل: الجماعة سنة مؤكدة: ۱/۱۰۹،

دار احیاء التراث العربی بیروت)

(۲) رد کرنے والے حضرات کے اسمائے گرامی مع حوالہ یہ ہیں:

۱- مفتی اعظم حضرت مولانا محمد کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ: (کفایت المفتی: ۳/۱۳۳، کتاب الصلوة، تیسرے باب امامت و جماعت،

دارالاشاعت، کراچی)

۲- مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی: (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۳/۳۰۱، کتاب الصلوة، باب

امامت و جماعت، مکتبہ امدادیہ، ملتان)

۳- حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی: (امداد الاحکام: ۱/۵۱۶-۵۱۸، کتاب الصلوة، مکتبہ دارالعلوم کراچی)

۴- حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ: (احسن الفتاویٰ: ۳/۳۱۳، کتاب الصلوة، باب الامام و الجماعة، سعید)

میں پڑھتی ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح مرد مسجد میں پڑھتے ہیں کہ عورت ہی امام ہوتی ہے اور اس کے پیچھے عورتیں اقتداء کرتی ہیں، البتہ صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ امام عورت صف سے بہت تھوڑا سا آگے ہو جاتی ہے۔ جس مکان میں جماعت ہوتی ہے اس میں مردوں کی شرکت بالکل نہیں ہوتی، عورتوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس طریقہ کو ترک کر دیا جائے تو جن لڑکیوں نے حفظ کیا ہے اور سنانے کے شوق میں یاد کرتی اور رکھتی ہیں وہ قرآن مجید بھول جائیں گی، اور اس بہانے بہت سی عورتیں تراویح پابندی سے ادا کرتی ہیں، نیز یہ کہ طریقہ نماز کی اصلاح ہو جاتی ہے، کچھ قبل غالباً جمعہ کی نماز بھی اسی طرح ادا کی جاتی تھی، اور غالباً سابق مفتی مالیر کوٹلہ نے نماز تراویح کے سلسلہ میں کچھ سہولت کی اجازت دے دی تھی۔

مجھ سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا تو اپنے دارالعلوم کے مسلک کے مطابق میں نے مکروہ تحریمی بتایا اور دلیل میں درمختار کی یہ عبارت بھی پیش کر دی: ”ویکرہ تحریماً جماعة النساء“ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس موضوع پر مستقل رسالہ تحریر فرمایا ہے اور مولانا موصوف کا رجحان جواز کی طرف ہے، وہ رسالہ یہاں میرے پاس نہیں ہے۔ بہر صورت میری خواہش یہ ہے کہ تنہا عورتوں کی نفل نماز کی جماعت کے مسئلہ پر اچھے اور بڑے دونوں پہلو سامنے رکھ کر آنجناب کی بصیرت افروز رائے معلوم ہو جائے؟

مفتی فضیل الرحمن ہلال عثمانی، دارالافتاء مالیر کوٹلہ، پنجاب۔

الجواب حامداً ومصلياً:

محض عورتوں کا جماعت سے نماز پڑھنا کہ عورت ہی امام ہو اور عورت ہی مقتدی ہوں مکروہ تحریمی ہے، پنجگانہ فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، سب کا یہی حکم ہے، یہ مسئلہ کتب فقہ میں اور متون، شروح میں صراحتاً مذکور ہے، ملاحظہ ہو: نور الإيضاح (۱) قدوری (۲) کتنز (۳) طحطاوی (۴) بحر (۵) زیلعی (۶) رمز (۷) ہدایہ (۸) مجمع الأنهر (۹) در مختار (۱۰) رد المحتار (۱۱) فتح القادیر (۱۲) نہایہ، کفایہ، عنایہ (۱۳)۔

”ویکرہ تحریماً جماعة النساء و لو فی التراویح“۔ در مختار: ۱/۲۸۰۔

مکروہ تحریمی ہونے کے باوجود اگر وہ جماعت کریں تو امام کو وسط میں کھڑا ہونا چاہئے، اس حالت میں

(۱) ”و کرہ جماعة النساء بواحدة منهن“ (نور الايضاح، فصل فی بیان الأحق بالإمامة: ۳۰۴، قدیمی) =

= (۲) ”ويكره للنساء أن يصلين و حدهن بجماعة“ . (مختصر القدوري ، كتاب الصلوة، باب الجماعة : ۱/ ۱۱۷، إدارة القرآن كراچي)

(۳) ”و كره إمامة العبد و جماعة النساء“ (كنز الدقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۲۸، دهلي)
 (۴) ”ويكره تحريماً جماعة النساء؛ لأن الإمام إن تقدمت، لزم زيادة الكشف، و إن وقفت وسط الصف، لزم ترك الإمام مقامه، و كل منهما مكروه“ . (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/ ۲۴۵، دارالمعرفة بيروت)

(۵) ”و كره إمامة عبد و جماعة النساء“ . (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/ ۶۱۰، رشيديه)

(۶) ”و كره جماعة النساء و حدهن“ . (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/ ۱۳۵، امداديه ملتان)
 (۷) ”و كره أيضاً جماعة النساء؛ لأنها لا تخلو عن نوع حرام“ . (رمز الحقائق المعروف بعيني شرح كنز الدقائق : ۱/ ۳۸، إدارة القرآن، كراچي)

(۸) ”ويكره للنساء أن يصلين و حدهن الجماعة“ . (الهداية، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/ ۱۲۳، مكتبه شركت علمية ملتان)

(۹) ”و كذا (أى يكره) جماعة النساء و حدهن“ . (مجمع الأنهر، كتاب الصلاة، فصل : الجماعة سنة : ۱/ ۱۶۳، غفاريه كوئته)

(۱۰، ۱۱) ”ويكره تحريماً جماعة النساء“ . (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/ ۵۶۵، سعيد)

(۱۲) ”ويكره للنساء و حدهن الجماعة؛ لأنها لا تخلوا الخ صريح في أن ترك التقدم لإمام الرجال محرم الخ“ . (فتح القدير، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/ ۳۵۲، مطبع مصطفى البابي الحلبي ، مصر)

(۱۳) ”يكره للنساء مكروه؛ لأن إمامتهن إما تتقدم على القوم أو تقف و سطهن“ . (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير، كتاب الصلاة باب الإمامة : ۱/ ۳۵۲، مصطفى البابي، مصر)

ان کی نماز ہو جائے گی، ارتکابِ تحریمی سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں:

”کرہ جماعة النساء؛ لأنه لا يخلو عن ارتكاب محرم، وهو قيام الإمام وسط الصف، فيكره كالعراة، كذا في الهداية، وهو يدل على أنها كراهة تحريم؛ لأن التقدم واجب على الإمام للمواظبة عليه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه، وترك الواجب موجب لكراهة التحريم المقتضية للإثم الخ“. البحر الرائق (۱)۔ ”ولأنه يلزمه من أحد المحظورين؛ إما قيام الإمام وسط الصف وهو مكروه، أو تقدم الإمام وهو أيضاً مكروه في حقهن كالعراة، فلم يشرع في حقهن الجماعة أصلاً، ولذا لم يشرع لهن الأذان، وهو دعاء إلى الجماعة، ولو لا كراهة جماعتهم شرع الخ“۔ زيلعي (۲)۔

حفظ کو باقی رکھنے کے لئے خارج نماز حافظہ سنائے، دیگر مستورات بیٹھ کر سن لیں، ہر ایک اپنی تراویح میں اوابین میں، تہجد میں، پڑھا کرے، اس طرح حفظ بھی باقی رہے گا اور کراہتِ تحریم کے ارتکاب سے بھی حفاظت رہے گی۔ مولانا عبدالحی لکھنویؒ پر ایک زمانے میں اجتہاد کا اثر رہا ہے، یہ مسئلہ بھی اسی دور میں انہوں نے اپنے ایک رسالہ میں لکھا ہے جس کا نام ہے ”تحفة النبلاء“ یا پھر ان کے تفردات میں سے ہے جس کی وجہ سے اصل مذہب کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۶/۹۴ھ۔

جماعت النساء

سوال [۲۸۸۹]: عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے یعنی صرف عورتیں جماعت منعقد کر سکتی ہیں یا نہیں؟ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

عورتوں کو صرف جماعت کرنا خواہ فرأض کی ہو یا نوافل کی مکروہ تحریمی ہے: ”(ویکره تحريماً جماعة النساء ولو في التراويح)۔ قال ابن عابدين رحمة الله تعالى: ”أفاد أن الكراهة في كل ما

(۱) (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۱۴، رشيدية)

(۲) (تبيين الحقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۱۳۵، امدادية)

تشریح فیہ جماعة الرجال فرضاً أو نفلاً“. درمختار و شامی (۱)۔

عورتوں کو مردوں کے ساتھ بھی جماعت میں شریک ہونا مکروہ ہے، خواہ وہ بیخوقتہ جماعت ہو خواہ جمعہ و

عیدین کی: ”ویکرہ حضورہن الجماعة ولولجمعة و عید و وعظ مطلقاً ولو عجوزاً لیلاً علی

المذہب المفتی بہ، اہ۔“ درمختار (۲)۔ جمعہ و عیدین کی جماعت بھی عورتوں کے لئے ممنوع ہے بلکہ اگر

ان کو مرد جمعہ و عیدین میں امام بن کر پڑھائے اور کوئی مقتدی مرد نہ ہو تب بھی ناجائز: ”والسادس: الجماعة

وأقلها ثلاثة رجال“. درمختار۔ قال ابن عابدین رحمة الله تعالى: ”واحترز بالرجال عن النساء

والصبيان، فإن الجمعة لا تصح بهم وحدثهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال. بحر عن

المحیط“. شامی (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، ۶/۶/۶۰ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

عورتوں کا مسجد میں جانا

سوال [۲۸۹۰]: عورتوں کا پردہ کے ساتھ باجائز شوہر کے مسجد میں نماز کے لئے جانا جائز ہے یا نہیں؟

(۱) (الدرالمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۵/۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلوة، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الثالث فی بیان من

یصلح إماماً لغيره: ۸۵/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۲۴۴/۱، امدادیہ ملتان)

(۲) (الدرالمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۶/۱، سعید)

(و کذا فی ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، کتاب الصلوة، فصل: الجماعة سنة مؤکدة: ۱۰۹/۱،

داراحیاء التراث العربی)

(۳) (الدرالمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الجمعة: ۱۵۱/۲، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلوة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة:

۱۴۸/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب صلوة الجمعة: ۲۶۲/۱، رشیدیہ)

الجواب حامداً ومصلياً:

فتنہ وفساد کی زیادتی کی وجہ سے ممنوع ہے (۱) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ”عورتوں کی یہ حالت اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے تو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے“ (۲)۔ بعض اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبیروں سے اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

(۱) ”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات“۔ ”لكن ليخرجن إلى المساجد للصلوة والحال أنهن غير متطيبات وغير مبرجات بزينة..... والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفساد“۔ (بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد: ۳۱۸/۱، ۳۱۹، إمداديه ملتان)

(۲) ”وعن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالت: ”لو أدرك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أحدث النساء“ من التطيب والزينة للخروج إلى المسجد ”لمنعهن“: أي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صريحاً، وإلا فقد منعهن ضمناً كما في الحديث المتقدم بقوله: ”(و لا يخرجن وهن تفلات)“ ”المسجد“ خروجهن إلى المسجد ”كما منعت نساء بنى إسرائيل“۔ الحديث، (بذل المجهود كتاب الصلاة باب التشديد في ذلك: ۳۱۹/۱، إمداديه ملتان)

(۳) ”عن مجاهد قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ”اتذنبوا للنساء إلى المساجد بالليل، فقال ابن له: والله! لا نأذن لهن“ لظهور الفتن و حدوث الفساد في الزمن ”فيتخذونه“ الخروج إلى المساجد ”دغلاً“ ذريعة إلى الفساد“۔ إلى آخر الحديث، (بذل المجهود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد: ۳۱۹ / ۱، إمداديه ملتان)

”ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد و وعظ مطلقاً و لو عجزوا ليلاً على المذهب المفتى به لفساد الزمان“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۶/۱، سعيد)
(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۲۵۰/۱، إمداديه ملتان)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱۳۹/۱، دار الكتب العلمية، بيروت)

ایضاً

سوال [۲۸۹۱]: عورتیں آج کل عید کی نماز مسجد میں پڑھتی ہیں لیکن اس سال بعض علماء اسے بدعت قرار دے کر عورتوں کو عید گاہ لے گئے، عید گاہ کے پیچھے کی طرف، چاروں طرف سے بند کر دیا اس کے اندر عورتوں نے نماز پڑھی (چند عورتیں)۔ بعض مولویوں نے و بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ مسجد میں عورتوں کا نماز پڑھنا بدعت ہے، تو اس کا ثبوت دیجئے، تو ثبوت و دلائل پیش کرنے سے انکار، نیز وہ خطیب بھی ہے جامع مسجد کے، اب عوام بگڑی ہوئی ہے کہ وہ بدعت کا ثبوت پیش کرے ورنہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عورتوں پر عید کی نماز نہیں ”مراقی الفلاح“ (۱)، لہذا وہ نہ مسجد میں عیدین کی نماز پڑھنے جائیں نہ عید گاہ میں۔ پنجگانہ نماز کے لئے بھی ان کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں۔

حضرت اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ: ”عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری مسجد (نبوی) میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے“ (۲)۔ یہاں کی کوئی مسجد یا عید گاہ مسجد نبوی کے برابر نہیں ہو سکتی۔

(۱) ”و لا يحضرن الجماعة لما فيه من الفتنة والمخالفة، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، و صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها“ فالأفضل لها ما كان أستر لها، لا فرق بين الفرائض و غيرها كالتراويح“ (مراقی الفلاح مع حاشية الطحطاوى، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص: ۳۰۳، قديمی)

”ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة و عيد و وعظ مطلقاً و لو عجزوا ليلاً على المذهب المفتى به، لفساد الرمان“ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۶، سعيد)

”والفتوى اليوم على الكراهة في الصلوات كلها لظهور الفساد“ (بذل المجهود كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد: ۱/ ۳۱۹، امداديه ملتان)

”ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت“ (فتح الباری، كتاب الأذان، باب انتظار الناس قيام الإمام العالم: ۲/ ۱۲۳۵، قديمی)

(۲) ”و أبريعلی و عنه ابن حبان بلفظ: قالت: يا رسول الله! إنى أحب الصلوة معك، قال: ”قد علمت“ =

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ”اب عورتوں کے جو حالات ہو گئے ہیں، یہ حالات اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تو..... عورتوں کو بالکل ہی مسجد میں جانے کی اجازت نہ ہوتی، جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو اجازت نہیں تھی“ (۱)۔

اب کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے اس لئے عورتوں کو بالکل منع کر دیا جائے، وہ کہیں بھی عیدین یا نماز پنجگانہ کے لئے نہ جائیں نہ مسجد میں نہ عید گاہ میں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

نامحرم عورتوں کے ساتھ جماعت

سوال [۲۸۹۲]: اگر کچھ نامحرم عورتیں بھی ہوں اور بچے بھی اور صف ایک ہی ہو تب جماعت کرنا چاہئے یا اکیلے نماز پڑھنا چاہئے؟ اور اگر نابالغ اقامت کہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

درمیان میں پردہ ڈال کر جماعت کر لی جائے اور اقامت امام خود کہے (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

= أنك تحبين الصلوة معي، وصلوتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، و صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، و صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، و صلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدى“ (اتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، كتاب المساجد، باب التشديد في ذلك: ۳۷۱/۱، عباس أحمد الباز مكة المكرمة)

(۱) ”عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”لو أدرك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما أحدث النساء لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل“. قال يحيى: فقلت لعمرة: أمّنت نساء بنى إسرائيل؟ قالت: نعم“.

(أبو داود، كتاب الصلوة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد: ۹۱/۱، امداديه ملتان)

(۲) چونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے اس وجہ سے جس طرح اس کی اذان اور امام کو لقمہ دینا صحیح نہیں، اسی طرح اس کا اقامت کہنا بھی صحیح نہیں: ”فی الشامل للبيهقي: لا أذان ولا إقامة على النساء؛ لأنهما من سنة الجماعة، ولا جماعة عليهن، ولأن صوتهن عورة واجبة إلا خفاء، كذا في ”جامع المصنرات“ وفي ”مواهب الرحمن“: الأذان مكروه للنساء اتفاقاً، ولا تسن الإقامة. انتهى. وفي بحث الأذان من ”فتح القدير“: الأصل عندنا =

عورتوں کی انفراداً نماز صاف کی طرح

سوال [۲۸۹۳]: اگر عورتیں جگہ کی قلت کی وجہ سے صف لگا کر کھڑی ہوں اور اپنی اپنی نماز الگ الگ پڑھ رہی ہوں تو اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں؟ اگر کسی تقریب میں عورتیں زیادہ ہوں اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا ایسا کیا جاسکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عورتیں جب اپنی اپنی نماز بلا جماعت پڑھیں اور آگے پیچھے عورتیں صفوں کی طرح پڑھیں تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، اس میں یہی ہوگا کہ کسی کا قیام ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی قعدہ میں ہے، جیسے سنت اور نقلیں متعدد صفوں میں پڑھ سکتے ہیں (۱)۔ نماز مغرب کی ہو یا اور کوئی، سب کا یہی حکم ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۹/۹۷ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۹/۹۷ھ۔

عورتوں کا نماز کے لئے مسجد آنا

سوال [۲۸۹۴]: جس مسجد میں بندہ نماز پڑھتا ہے وہ شوافع کی ہے، مسجد سے متصل ایک درگاہ ہے

= أن يؤذن لكل فرض أدى وقضى إلا الظهر يوم الجمعة في المصر، فإن أداءه بهما مكروه، وإلا ما تؤديه النساء، أو ما يقضينه بمجاعتهن؛ لأن عائشة أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين كانت جماعتهن مشروعة، وهنا يقتضى أن المنفردة أيضا كذلك؛ لأن تركها لما كان هو السنة حال شرعية الجماعة كان حال الأفراد أولى“ (مجموعه رسائل اللكنوى: ۲۳۳/۵-۲۳۴، تحفة النبلاء فى جماعة النساء، ص: ۲۳-۲۴، المرصد الثالث فى الفوائد المتعلقة بمسلك أصحابنا الحنفية، إدارة القرآن، كراچی)

(۱) ”وہذا كله إذا كان الإمام فى الصلوة، أما قبل الشروع، فيأتى بها فى المسجد فى أى موضع شاء“.

(الفتاوى العالمكبرية، كتاب الصلوة، الباب التاسع فى النوافل: ۱/۱۱۳، رشیدیہ)

(و كذا فى الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلوة، الفصل الحادى عشر فى التطرع قبل الفرض وبعده الخ:

۱/۶۲۵، إدارة القرآن كراچی)

جس میں شوافعی مستورات نماز پڑھنے حاضر ہوتی ہیں، تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ آواز مانگ سے جاتی رہتی ہے۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

عورتوں کا نماز کی شرکت کے لئے آنا ممنوع ہے (۱) وہ اپنے مکان پر نماز پڑھا کریں تاہم اگر مسجد اور مدرسہ میں اتنا فصل نہیں کہ ایک گاڑی گزر سکے اور وہ پڑھ لیں تو فرض ادا ہو جائے گا (۲) لیکن کوشش کی جائے کہ وہ آنا بند کر دیں۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

عورتوں کے لئے پردہ ہونے کی صورت میں مسجد جانا

سوال [۲۸۹۵]: جس مسجد میں بندہ نماز پڑھتا ہے وہ شوافع کی ہے، مسجد سے متصل ایک درسگاہ

(۱) ”عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول:

لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء، لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل

..... اهـ“ (الصحيح لمسلم: ۱/۸۳، كتاب الصلوة، باب خروج النساء إلى المساجد، قديمي)

”ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقاً ولو عجوزاً ليلاً على المذهب

المفتي به لفساد الزمان“ (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۶، سعيد)

”أما النساء، فلأن خروجهن إلى الجماعات فتنة“ (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل فيمن

تجب عليه الجماعة: ۱/۶۶۳، دارالكتب العلمية، بيروت)

”قولہ: ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى: ﴿وقرن في بيوتكن﴾ (الأحزاب: ۳۳)، وقال

عليه السلام: ”صلوتها في قعر بيتها أفضل من صلوتها في صحن دارها، وصلوتها في صحن دارها أفضل

من صلوتها في مسجدها، وبيوتهن خير لهن“ (ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن“ (البحر الرائق، كتاب

الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۲۷، ۶۲۸، رشيدية)

(۲) ”والحاصل لا يمنع الاقتداء إن لم يشته حال إمامه بسماع أو رؤية..... اهـ“ (الدرالمختار)

”الحائل بينهما بحيث يشته به حال الإمام يمنع، وإلا فلا، قال قاضي خان: إذا قام على الجدار

الذي يكون بين داره وبين المسجد ولا يشته حال الإمام، يصح الاقتداء..... اهـ“ (ردالمحتار على

الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۸۶، ۵۸۷، سعيد)

ہے جس میں شوافعی مستورات نماز پڑھنے حاضر ہوتی ہیں۔ تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ آواز مانگ سے جاتی رہتی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

عورتوں کا نماز کی شرکت کے لئے آنا ممنوع ہے وہ اپنے مکان پر نماز پڑھا کریں (۱)، تاہم اگر مسجد اور مدرسہ میں اتنا فصل نہیں کہ ایک گاڑی گزر سکے اور وہ پڑھ لیں تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن کوشش یہ کی جائے کہ وہ آنا بند کر دیں (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔



(۱) ”عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”صلوة المرأة فی بیتها أفضل من صلوتها فی حجرتها، و صلوتها فی مخدعها أفضل من صلوتها فی بیتها“۔ رواہ أبو داؤد“۔ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوة، باب الجماعة و فضلها: ۹۶/۱، قدیمی)

”ویکرہ حضور ہن الجماعة و لو لجمعة و عید و وعظ مطلقاً و لو عجوزاً لیلاً علی المذہب المفتی بہ، لفساد الزمان“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۶/۱، سعید)
(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریة، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱۲۶/۱، مکتبہ شرکة علمیہ ملتان)
(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۲۷/۱، رشیدیہ)

(۲) ”و یمنع من الاقتداء طریق تجری فیہ عجلة، أو نهر تجری فیہ السفن، أو خلایء فی الصحراء یسع صفتین“۔ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۸۴، ۵۸۵، سعید)
(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریة، کتاب الصلوة، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الرابع فی بیان ما یمنع صحۃ الاقتداء و ما لا یمنع: ۸۷/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۳۳، ۶۳۵، رشیدیہ)

باب تسویۃ الصفوف وترتیبها

(صفوں کی ترتیب اور برابری کا بیان)

تسویۃ الصفوف کا مطلب

سوال [۲۸۹۶]: مقتدیوں کو صف میں کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم چسپاں اور ملا کر کھڑا ہونا سنت ہے یا الگ الگ چار انگل کا فاصلہ رہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے ملاتے اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم سے ملاتے رہتے تھے، ایسے طور پر کہ دونوں قدموں یعنی اپنے ساتھی کا قدم اور اپنا قدم دونوں ایسے ملے رہتے تھے کہ ذرا بھی فرجہ باقی نہیں رہتا ایسا تھا یا نہیں؟ یہ مسئلہ حدیثوں سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس کا ثبوت حدیث سے دیا جائے اور حدیثیں مع حوالہ کتب ہونی چاہئیں۔ اگر یہ مسئلہ زمانہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جاری تھا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تمام صحابہ اس پر عامل تھے تو اس وقت یہ سنت مردہ ہو گئی ہے، اس کو زندہ کرنا چاہئے تاکہ سوشہیدوں کا ثواب پانے کے مستحق ہوں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

احادیث میں صفوف کے ہموار کرنے کا حکم وارد ہوا ہے یعنی قیام کی جگہ ایک ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی بلندی پر کھڑا ہو، کوئی پستی پر اور اقدام برابر ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی آگے کھڑا ہو کوئی پیچھے اور اتصال ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ دو شخصوں کے درمیان ایک آدمی کی جگہ خالی رہے اور پہلی صف پوری ہونے پر دوسری صف شروع کی جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلی صف میں جگہ باقی ہو اور دوسری صف شروع کی جائے۔ تسویۃ الصفوف ان چار امور کو مشتمل ہے۔ اس مضمون کو مختلف احادیث میں مختلف الفاظ سے بیان فرمایا گیا ہے:

”استووا واعدلوا صفوفکم“ - ”اعتدلوا سووا صفوفکم“ - ”أتموا الصف المقدم ثم الذی

یلیہ، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر“۔ ”ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟“ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: ”يتمون الصفوف المقدمة، و يتراصون في الصفوف“۔ ”والله! لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم“۔ قال: فرأيت الرجل يلزم منكبه بمنكب صاحبه و ركبته بركبة صاحبه و كعبه بكعبه“۔ ”كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه وفقهنا، أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدرة فقال: ”لتسؤن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم“۔ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا و مناكبنا و يقول: ”لا تختلفوا فتختلف قلوبكم“۔ ”أقيموا الصفوف، و حاذوا بين المناكب، و سدوا الخلل، و ليتوا بأيدي إخوانكم، و لا تذروا الفرجات للشيطان، و من وصل صفاً و صلته الله، و من قطع صفاً قطعه الله“۔ ”ورصوا صفوفكم“۔ ”وقاربوا بينها، و حاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده! إنى لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف اه“۔

یہ کل الفاظ ابوداؤد شریف میں موجود ہیں (۱) اور بذل المجہود میں اس کی شرح کی گئی ہے (۲)۔ صحیح مسلم میں ”یتراصون فی الصف“ وارد ہے (۳)، امام بخاری نے مختلف عنوانات سے تبویب کر کے مسائل کو ثابت فرمایا ہے: ”باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم فی الصف“ کی شرح میں حافظ ابن حجر

() (سنن أبی داؤد ، کتاب الصلوۃ ، باب تسویۃ الصفوف : ۱ / ۱۰۳ ، ۱۰۵ ، إمدادیہ ملتان)

(۲) یہ عبارات بذل المجہود میں تقدیم و تاخیر کے ساتھ مذکور ہیں نہ کہ اس ترتیب کے ساتھ، دیکھئے: (بذل المجہود شرح

أبی داؤد، کتاب الصلوۃ، باب تسویۃ الصفوف : ۱ / ۳۶۰، ۳۶۲، مکتبہ إمدادیہ ملتان)

(وإعلاء السنن، کتاب الصلوۃ، أبواب الإمامة، باب سنیۃ تسویۃ الصف اه : ۳ / ۳۱۳، ۳۲۲، إدارة القرآن)

(۳) الحدیث بتمامہ: ”عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ..... قال: ثم خرج علينا، فقال: ”ألا

تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟“ فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال:

يتمون الصفوف الأول، و يتراصون في الصف“۔ (الصحيح لمسلم، کتاب الصلوۃ، باب الأمر بالسكون

في الصلوۃ، والنهي عن الإشارة باليد و رفعها عند السلام، وإتمام الصفوف الأول و التراص فيها، اه:

فرماتے ہیں:

”المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف و سدّ خلله“ (۱)۔

”قلت: وهو مراده عند الفقهاء الأربعة: أى لا يترك فى البين فرجةً تَسَعُ فيها ثالثاً بقى الفصل بين الرجلين، ففى شرح الوقاية أنه يفصل بينهما بقدر أربع أصابع، وهو قول عند الشافعية، وفى قول آخر قدر شبر، قلت: ولم أجد عند السلف فرقاً بين حال الجماعة والانفراد فى حق الفصل بأن كانوا يفصلون بين قدميهم فى الجماعة أزيد من حال الانفراد. وهذه المسئلة أو ما غير المقلدين فقط، وليس عندهم إلا لفظ ”الزاق“، وليت شعري! ما ذا يفهمون من قولهم: الباء للإصاق، ثم يمثلونه مررت بزيد، فهل كان مروره به متصلاً بعضه ببعض أم كيف معناه؟

ثم إن الأمر لا ينفصل قط إلا بالتعامل، وفى مسائل التعامل لا يؤخذ بالألفاظ كلفظ ”فوق الصدر“ عند ابن خزيمة، فإنه من توسع الرواة قطعاً؛ لأنه لم يعمل به أحد من الأئمة (إلى أن قال) وليس الطريق أن يبنى الدين على كل لفظ جديد بدون النظر إلى التعامل، و من يفعل ذلك لا يثبت قدمه فى موضع، و يخترع كل يوم مسئلة، فإن توسع الرواة معلوم و اختلاف العبارات والتعبيرات غير خفى فاعلمه وهذا الذى عرض للمحدثين فإنهم ينظرون إلى حال الإسناد فقط، و لا يراعون التعامل، فكثيراً ما يصح الحديث على طورهم، ثم يفقدون به العمل، فيتحيرون، حتى أن الترمذى أخرج فى جامعه حديثين صالحين للعمل، ثم قال: إنه لم يعمل به أحد. و ذلك لفقدان العمل لا غير، وإلا فإسنادهما صحيح. وكذلك قد يضعفون حديثاً من حيث الإسناد، و مع أنه يكون دائراً سائراً فيما بينهم ويكون معمولاً به، فيتضرر هناك من جهة أخرى، فلا بد أن يراعى مع الإسناد التعامل أيضاً، فإن الشرع يدور على التعامل والتوارث.

(۱) (فتح البارى كتاب الأذان، باب الزاق المنكب بالمنكب اهـ، (رقم الحديث: ۷۲۵):

والحاصل أنا لما نجد الصحابة والتابعين يفرقون في قيامهم بين الجماعة والافراد، علمنا أنه لم يرد بقوله: إلزاق المنكب إلا التراصّ وترك الفرجة، ثم فكر في نفسك ولا تعجل أنه هل يمكن إلزاق المنكب مع إلزاق القدم إلا بعد ممارسة شاقّة، ولا يمكن بعده أيضاً، فهو إذن من مخترعاتهم لا أثر له في السلف، اهـ. فيض الباری (۱)۔

ایسی مخترع چیز کو جس پر صحابہ، تابعین، مجتہدین، فقہاء، محدثین کسی کا بھی عمل نہ ہو آج سنتِ مردہ قرار دیکر اس پر عمل کر کے احیائے سنت کا دعویٰ کرنا اور شہیدوں کے اجر کی توقع رکھنا اور جملہ سلف صالحین کو تارکِ سنت سمجھنا اہل علم و فہم و دیانت سے بعید ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۳/۵/۶۶ ھ
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف۔

تسویۃ الصفوف

سوال [۲۸۹۷]: نمازیوں کی صفیں ستون کے درمیان اس طرح قائم کرنا کہ ہر ستون کے آگے ایک مصلیٰ کھڑا ہوتا کہ صف درمیان سے منقطع نہ ہو، البتہ صف سیدھی باقی نہیں رہتی اس سے نماز میں کوئی خلل تو نہیں پڑتا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا کرنا مکروہ ہے صفوف سیدھی کرنے کی بہت تاکید آئی ہے (۲)، ستون درمیان میں آجانے سے

(۱) (فيض الباری، کتاب الأذان، باب إلزاق المنكب بالمنكب اهـ: ۲/۲۳۶، ۲۳۷، خضر راہ بک ڈپو دیوبند الہند)

(وإعلاء السنن، أبواب الإمامة، باب سنية تسوية الصف اهـ: ۳/۳۱۹، ۳۲۰، إدارة القرآن کراچی)

(۲) ”قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ”لتسوّن صفوفكم، أو ليخالقن الله بين وجوهكم“.

”قوله: ”(أو ليخالقن الله بين وجوهكم)“: أي إن لم تسوّوا، والمراد تسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد“. (فتح الباری، کتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها:

۲/۲۶۳، قديمی)

نماز میں خرابی نہیں آتی، کذا فی المبسوط (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

صف سیدھی کرنے میں پاؤں کی انگلیوں کا لحاظ رکھا جائے یا ایڑیوں کا؟

سوال [۲۸۹۸]: کتب میں درج ہے: نماز میں صف برابر کرے۔ آیا آگے کی طرف سے برابر کرے یا پیچھے سے؟ کیوں کہ یہاں کے بعض علماء کہتے ہیں کہ آگے کی طرف سے چھوٹی انگشت برابر کرے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیچھے کی طرف سے ایڑیاں برابر کرے۔ تو ان میں سے کونسا قول معتبر ہے؟ بینوا تو جروا۔

= "قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "أقیموا صفوفکم، فإنی أراکم من وراء ظہری"، وکان أحدنا یلزم منکبہ بمنکب صاحبه و قدمه بقدمه". قال صاحب الفتح: "المراد بذالک المبالغة فی تعدیل الصف و سدّ خلله". (فتح الباری، کتاب الأذان، باب إلزاق المنکب بالمنکب اهـ) (رقم الحدیث: ۷۲۵): ۲/۲۶۸، قدیمی)

وفی مراقی الفلاح: "قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "أقیموا الصفوف و حاذوا بین المناکب و سدوا الخلل، و لیتوا بأیدیکم إخوانکم، لا تذروا فرجات للشیطان، من وصل صفاً وصله اللہ"

الحديث".
"و یأمرهم أيضاً بأن یتراصوا، و یسدوا الخلل، و یستروا مناکبهم و صدورهم. وفی الفتح: و من سنن الصف التراص فیہ، و المقاربة بین الصف و الصف و الاستواء فیہ". (حاشیة الطحطاوی، فصل فی بیان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۶، قدیمی)

"و ینبغی أن یأمرهم بأن یتراصوا، و یسدوا الخلل، و یسروا مناکبهم، و یقف وسطاً".
(الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۸، سعید)

(۱) "والاصطفاف بین الأسطواناتین غیر مکروه؛ لأنه صف فی حق کل فریق و إن لم یکن طویلاً، و تخلل الأسطوانة بین الصف کتخلل متاع موضوع أو کفرجة بین الرجلین، و ذلک لا یمنع صحة الاقتداء ولا یوجب الکراهة" (المبسوط للسرخسی، کتاب الصلوة، باب صلاة الجمعة: ۱/۵۴، الجزء الثانی، غفاریہ کوئتہ)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۸۶، سعید)

(و کذا فی مراقی الفلاح، فصل فی بیان الأحق بالإمامة، ص: ۳۹۳، قدیمی)

الجواب حامداً ومصلياً:

ٹخنے اور ایڑیاں برابر کر کے کھڑے ہوں، آگے سے انگلیوں کو برابر کرنے کی ضرورت نہیں: ”وإن

تفاوتت الأقدام صغيراً و كبراً، فالعبرة بالساق والكعب، الخ“۔ بحر (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۶/۱۱/۵۹ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مفتی مدرسہ ہذا، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ ہذا۔

ایضاً

سوال [۲۸۹۹]: صفِ نماز سیدھی کرتے وقت پاؤں کی انگلیاں برابر کرنی چاہئے یا ایڑیوں کو برابر

رکھنا چاہئے؟

محمد ثوبان۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ایڑیوں کو برابر رکھنا چاہئے، انگلیوں کی برابری کا اہتمام ضروری نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۵/۲/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۵ صفر ۵۸ھ۔

مردوں کی صفوں کے درمیان بچوں کی صف

سوال [۲۹۰۰]: اگر مردوں کی صف کے درمیان کوئی صف بچوں کی ہو تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بچوں کی صف مردوں کے پیچھے ہونا چاہئے، صورتِ مسئلہ میں بھی نماز صحیح ہوگی اور بچوں کی صف کا

(۱) (البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۷، رشیدیہ)

(و کذا فی رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۷، سعید)

(و کذا فی الحلبي الكبير من لا یصح الاقتداء به، ص: ۵۲۰، سہیل اکیڈمی لاہور)

(۲) (تقدم تخريجه تحت عنوان: ”صف سیدھی کرنے میں پاؤں کی انگلیوں کا لحاظ رکھا جائے یا ایڑیوں کا؟“)

مردوں کی صف کے درمیان یا ان سے آگے کرنا مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ اعلم۔

کیا صف اول میں جگہ ہونے کے باوجود بچوں کی صف پیچھے بنائی جائے؟

سوال [۲۹۰۱]: اگر صف اول میں جگہ موجود ہے تو کیا پھر بھی نابالغ لڑکوں کو صف سے پیچھے اپنی مستقل صف بنانے کی ضرورت ہے یا صف اول ہی میں کھڑے ہو جائیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

صف اول میں نہ کھڑے ہوں بلکہ مستقل اپنی صف پیچھے بنا لیں، رد المحتار (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ اعلم۔

نابالغ بچوں کی جگہ صف میں

سوال [۲۹۰۲]: چہ می فرمایند علمائے دین و مفتیان شرع متین اندرین مسئلہ کہ اگر نابالغ تنہا در جماعت نماز حاضر شد، آیا آن نابالغ در صف بالغان استادہ نماز گزار دیا در پس صف بالغان؟ اگر در صف بالغان ایستد بجانب راست ایستد یا بجانب چپ؟ و آیا ہمراہ بالغان متصلاً ایستد یا منفصلاً از بالغان؟ و اگر بہ بالغان ایستد در آن

(۱) ”ویصف الرجال، ثم الصبيان اھ“۔ (رد المحتار، باب الإمامة : ۱/۵۶۸، ۵۷۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۶۱۸، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۲۳۶، إمدادیہ ملتان)

(و کذا فی ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر، کتاب الصلوة، فصل : الجماعة سنة مؤکدة : ۱/۱۰۹،

دار احیاء التراث العربی بیروت)

(۲) ”ویصف الرجال، ثم الصبيان الخ“۔ (الدر المختار)۔ ”و کذا لو کان المقتدی رجلاً و صبياً یصفهما

خلفه لحديث أنس رضي الله تعالى عنه ”فصفت أنا والیتیم وراءه، والعجوز من ورائنا“۔ (رد المحتار،

کتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۵۶۸، ۵۷۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۶۱۸، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/۲۳۶، إمدادیہ ملتان)

صورت اگر دیگر نمازیان بیایند در کدام جانب آن نابالغ استند؟ اگر بجانب راست در آن صورت اگر دیگر نمازیان بیایند، در کدام جانب آن نابالغ استند؟ اگر بجانب راست آن نابالغ متصل به بالغان استند پس آن نمازی مجبور شود کہ او را گرفته بر طرف کند، یا اینکه آن نمازی از فعل خود او را بر طرف نہ کرد، بلکه آن نمازی چون در میان آمد، آن نابالغ را خود بر طرف شدن افتد؟ و همچنین مسلسل هر نمازی کہ یکے بعد دیگرے بیاید آیا چنین فعل روا باشد یا چہ؟

و اگر بجانب چپ آن نابالغ ایستد آن نابالغ در میان صف بالغان افتادن لازم آید، کدام طریقہ اختیار کند، و کدام طریقہ مکروه باشد؟ اگر مکروه باشد تحریمی است یا تنزیہی؟ تصریح فرمودہ حوالہ کتب و عبارتش نقل باید فرمود. و اگر آن نابالغ در صف بالغان نیستاد و در پس صف بالغان استادہ نماز گزارد، در آن صورت مکروه شود یا نہ؟ اگر مکروه باشد تحریمی باشد یا تنزیہی؟ و آیا اثر کراہت در نماز آن نابالغ واقع شود فقط یا در نماز بالغان نیز؟ جواب هر سوال مدلل و عبارات کتب نیز نقل باید فرمود. بینوا توجروا۔

اگر دو یا زائد از دو نابالغ حاضر شوند، پس اوشان در صف بالغان استند یا در پس صف؟ حالانکہ در صف بالغان ایستادہ نماز گزارند مکروه شود یا نہ؟ اگر مکروه شود تحریمی است یا تنزیہی؟ و آیا اثر کراہت در نماز آن نابالغان واقع شود تنها یا در نماز جمیع بالغان ہم؟ جواب سوال مدلل و عبارات کتب نقل باید فرمود. بینوا توجروا۔
الجواب حامداً ومصلياً:

اگر نابالغان متعدد باشند، امام را باید کہ ایشانرا مستقل صف نموده در پس بالغان ایستادہ کند، و هر بالغی کہ بعد ازاں بیاید در صف بالغان بایستد و نابالغ در صف نابالغان. و اگر نابالغ یکے باشد آن در صف بالغان بایستد، در آن وقت آن نابالغ در حکم بالغان باشد. پس تعیین جانب راست و چپ و بحث اتصال و انفصال بے سود است،

وہر طرف کردن آن عبث و لغو است، و همچنین اورا خود بر طرف شدن خلاف این طریق ایستادن مکروه تنزیہی است:

”ویصف: أي یصفہم الإمام بأن یأمرہم بذلك الرجال، ثم الصبیان، ظاہرہ تعددہم، فلو واحداً دخل فی الصف، اھ“۔ در مختار (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۷/محرم/۶۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مفتی مظاہر علوم سہارنپور، ۱۷/محرم/۶۸ھ۔

نابالغ کے کھڑے ہونے کی جگہ

سوال [۲۹۰۳]: نماز کی صف بندی کے لئے صاف ذہنیت ہونے کے باوجود بچوں کی صف پیچھے رکھی جاتی ہے درآنحالیکہ اگلی صف خالی ہوتی ہے جب کہ صف خالی نہ رکھنے کا حکم ہے جب آدمی ہوں، پھر یہ کہ بعد میں آنے والے نمازی کو بچوں کے آگے سے گزر کر اگلی صف میں جانا پڑتا ہے، بہت سے لوگ بچوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو اسی بچوں کی صف میں کھڑے ہونا پڑتا ہے حالانکہ اگلی صف پُر نہیں ہوتی تو جو نقصان بچوں کو جوانوں کے ساتھ رکھنے میں ہوتا ہے وہ آخر کار ہوتا ہی ہے۔ تو کیا بچوں سے گزر کر اگلی صف میں جانا درست ہے؟

اگر بچوں کو بیچ میں ایک صف چھوڑ کر رکھتے ہیں، مگر ان نو جوانوں سے بھی (جو ۱۵، ۲۰/سال تک ہوتے ہیں) اسی بچوں کی سی کراہت ہوتی ہے، کیا امرد کو ابتداء ہی سے نو جوانوں کی اگلی صف میں رکھا جائے کیونکہ کسی حال میں بیچ نہیں سکتے؟ نابالغ کو ایک صف چھوڑ کر رکھا نہیں جاسکتا اور رکھنے میں آگے سے گزران پڑتا ہے، آخر کیا کیا جائے؟ عام حالت میں نو جوانوں (امرد) کو عام لوگوں کے ساتھ کراہت کا سبب بنے گا، کراہت کا حکم

(۱) (ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۵۶۸، ۵۷۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۶۱۸، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/۲۴۶، إمدادیہ ملتان)

(و کذا فی مجمع الأنہر شرح ملتقى الأبحر، کتاب الصلوٰۃ، فصل: الجماعة سنة مؤکدة: ۱/۱۰۹،

دار إحياء التراث العربی بیروت)

عام ہے یا معلول ہے؟ کیونکہ دیہاتی سیدھے سادھے لوگ ذہن ان کا صاف ہوتا ہے، کیا اپنے امر و بیٹے کے کھڑے ہونے سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے؟ اسی طرح بھائی کے بارے میں سوال ہے۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ نابالغوں کی مستقل صف بالغین کی صف سے پیچھے ہو، بالغین کی صف میں نہ کھڑے ہوں، اگر بالغین کی صف میں جگہ باقی ہے اور کوئی بالغ آجائے تو وہ نابالغوں کی صف میں نہ کھڑا ہو بلکہ ان سے آگے بڑھ کر بالغین کی صف میں کھڑا ہو، اس سب کے باوجود اگر کوئی امرد بالغ کے قریب کھڑا ہو جائے تو اس سے اس بالغ کی نماز خراب نہیں ہوگی، وہ عورت کے حکم میں نہیں۔ نابالغ اگر تنہا ہو تو وہ بالغین کی صف میں ہی کھڑا ہوگا، کذا فی ردالمحتار۔ ”إن لم یکن جمع من الصبیان یقوم الصبی بین الرجال اھ“۔
مراقی الفلاح (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

نابالغ لڑکا ایک ہو تو کہاں کھڑا ہو

سوال [۲۹۰۲]: اگر نابالغ لڑکا صرف ایک ہو تو کیا وہ بھی مستقل تنہا کھڑا ہو؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

نہیں، وہ مردوں کی صف میں کھڑا ہو جائے، ردالمحتار (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

(۱) ”عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: صلیت مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات لیلۃ، فقامت عن یسارہ، فأخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برأسی من ورائی، فجعلنی عن یمینہ فصلی ورقد، فجاءہ المؤمن، فقام یصلی ولم یتوضأ“۔ (الصحيح للبخاری، کتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن یسار الإمام و حوله الإمام اھ: ۱۰۰/۱، قدیمی)

(مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح، کتاب الصلوة، فصل فی بیان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۸، قدیمی)

(و کذا فی ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۷۱/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۱۸/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی النهر الفائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۲۳۶/۱، إمدادیہ ملتان)

(۲) ”ویصف: أي یصفہم الإمام بأن یأمرہم بذلك الرجال ثم الصبیان، ظاہرہ تعددہم، فلو واحداً، =

بچوں کی صف سے بڑھ کر بڑوں کی صف میں کھڑا ہونا

سوال [۲۹۰۵]: جس وقت چند صفیں نمازیوں سے پُر ہو جائیں تو اس وقت بچوں کو کون سی

صف میں کھڑا کریں؟

۲..... بعض دفعہ بچے بہت ہوتے ہیں اور آنے والے نمازیوں کو آگے سے گزرنا پڑتا ہے ایسی حالت

میں بچوں کو کس طرح کھڑا کریں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... جس وقت بڑے آدمیوں کی صفیں پُر ہو جائیں اور پیچھے جگہ موجود ہو تو بچوں کی صف ان کے پیچھے

بنائی جائے (۱)۔

۲..... بچوں کی صف جب بڑی ہو اور کوئی بالغ آدمی آ کر بالغین کی صف میں کھڑا ہونا چاہے تو بچوں

کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھ جائے، بچوں کی صف میں کھڑا نہ ہو (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

= دخل فی الصف اھ۔ (ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة : ۵۶۸/۱، ۵۷۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة : ۶۱۸/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة : ۲۲۶/۱، امدادیہ ملتان)

(۱) ”و یصف: أی یصفہم الإمام بأن یأمرہم بذلك الرجال ثم الصبیان، ظاہرہ تعددہم، فلو واحداً

دخل فی الصف اھ۔ (ردالمحتار، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة : ۵۶۸/۱، ۵۷۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة : ۶۱۸/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة : ۲۲۶/۱، امدادیہ ملتان)

(۲) ”و لو وجد فرجة فی الأول لا الثانی، له خرق الثانی لتقصیرہم، و فی الحدیث: ”من سد فرجة

غفرلہ۔“ و صح: ”خيارکم ألینکم مناكب فی الصلوۃ۔“ (الدر المختار). و فی رد المحتار: ”وفی القنیة:

قام فی آخر صف، و بینہ و بین الصفوف مواضع خالیة، فللداخل أن یمر بین یدیه لیصل الصفوف؛ لأنه

أسقط حرمة نفسه، فلا یأثم المار بین یدیه۔“ (کتاب الصلوۃ، باب الإمامة : ۵۷۰/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة : ۶۱۸/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة : ۲۲۶/۱، امدادیہ ملتان)

نابالغ کا صفِ اول میں کھڑا ہونا

سوال [۲۹۰۶]: جمعہ اور عیدین کی نماز میں نابالغ صفِ اول میں کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نابالغ اگر متعدد ہوں تو مسنون یہ ہے کہ ان کی علیحدہ صف مردوں کے پیچھے کی جاوے، اگر ایک ہو تو بالغین ہی کی صف میں کھڑا ہو جاوے: ”یصف الرجال ثم الصبيان، ظاهره تعددهم، فلو واحداً، دخل في الصف، اهـ“ درمختار (۱)۔

اس حکم میں صلوٰۃ خمسہ یا جمعہ یا عیدین کی کہیں تخصیص نہیں دیکھی، اسی طرح نابالغین کو تنہا ہونے کی شکل میں مردوں کی صف میں کھڑے ہونے کے متعلق صفِ اول یا ثانی کی بھی تخصیص نہیں دیکھی، بظاہر حکم عام ہے لیکن امام کے قریب ”أولو الأحلام والنهي“ کو کھڑے ہونے کا حکم روایات سے ثابت ہے، اس لئے اگر نابالغ صفِ اول میں کھڑا ہو تو ایک طرف کنارہ پر ہو (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۶/۱۲/۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۰/محرم/۵۷ھ۔

(۱) (ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۵۶۸/۱، ۵۷۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۶۱۸/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۲۲۶/۱، امدادیہ ملتان)

(۲) ”قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”لِيلِيْنِيْ مِنْكُمْ اَوْلُواْ الْاَحْلَامَ وَالنَّهْيَ“۔ الحدیث.

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، باب تسویۃ الصف: ۹۸/۱، قدیمی)

”عن ابي مسعود الأنصاري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه

وسلم: ”لِيلِيْنِيْ مِنْكُمْ اَوْلُواْ الْاَحْلَامَ وَالنَّهْيَ“، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم“۔ (سنن أبي داؤد، باب من

يستحب أن يلي الإمام في الصف و كراهية التأخير: ۱۰۵/۱، امدادیہ، ملتان)

وقيل: ”أولو الأحلام“ البالغون ”والنهي“ بضم النون جمع نهيّة، وهو العقل الناهي عن القبائح،

وإنما أمرهم بالدنو لشرفهم و مزيد تفضلتهم و ضبطهم لصلوته وإن حدث به عارض يخلفوه للإمامة، ثم

”الذين يلونهم“ كالمراهقين أو الذين يقربون الأولين في النهي والحلم ”ثم الذين يلونهم“ كالصبيان المميزين“.

(بذل المجهود، باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف و كراهية التأخر: ۳۶۳/۱، امدادیہ ملتان)

اٹھارہ سالہ بے داڑھی مونچھ لڑکے کا صف میں کھڑا ہونا

سوال [۲۹۰۷]: ۱۸/ سال کی عمر کا لڑکا اور نہ ڈاڑھی نہ مونچھ ہے اور جماعت ہو رہی ہے اور دائیں طرف ایک آدمی کی جگہ خالی ہے پہلی جماعت میں اور کوئی آدمی دوسری جماعت میں نہیں ہے تو شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور وہ کون سے دس شخص ہیں جن کے پیچھے نماز مکروہ ہے یا نہیں، یہ حدیث قوی ہے یا ضعیف؟
حافظ مبارک علی موضع گھانم پور سہارنپور۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اٹھارہ سالہ لڑکا شرعاً بالغ ہے نابالغ نہیں، داڑھی مونچھ کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا اس کو بھی صف میں کھڑا ہونا چاہئے۔ اگر کوئی لڑکا نابالغ ہو اور وہ تنہا ہو یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسرا نابالغ نہ ہو بلکہ اور سب بالغ ہوں تو اس کو بھی مردوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہئے، مردوں کی صف سے علیحدہ تنہا نہیں کھڑا ہونا چاہئے۔ البتہ اگر لڑکے نابالغ کئی ہوں تو ان کی صف مردوں کے پیچھے مستقل کر دی جائے وہ مردوں کی صف میں نہ کھڑے ہوں: "یصف الرجال ثم الصبيان ظاهره تعددهم فلو واحداً دخل في الصف، اه"۔ در مختار (۱)۔

کس حدیث کے قوی یا ضعیف ہونے کو معلوم کرنا ہے اس کے الفاظ لکھئے، حوالہ دیجئے کس کتاب میں ہے، اس کا جواب دیا جائے گا، اس میں ان دس آدمیوں کا ذکر بھی ہوگا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۸/ صفر/ ۵۸ھ۔

مسجد میں جگہ تنگ ہو تو امام کے دائیں بائیں کھڑا ہونا

سوال [۲۹۰۸]: مسجد میں بوجہ تنگی کے دو صف نہیں ہو سکتی ہیں اس لئے امام کے دائیں بائیں پیچھے کو

(۱) (ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۸، ۵۷۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/ ۶۱۸، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/ ۲۳۶، امدادیہ ملتان)

خالی چھوڑ کر صف کر لیتے ہیں، آیا اس طرح نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

صف اول مقتدی امام مقتدی

الجواب حامداً ومصلياً:

صف کو بھرنے اور خالی جگہ کو پُر کرنے کی بہت تاکید آئی ہے: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولينوا بأيديكم إخوانكم، لا تزروا فراجات للشيطان، من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله" (۱)، مراقی الفلاح (۲)۔

اس لئے درمیان میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اگر عذر ہو اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی تو امام کو زیادہ آگے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس قدر آگے ہو جائے کہ پیر مقتدیوں کے پیروں سے آگے رہیں یعنی ایڑی (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۱/ شعبان/ ۱۳۵۵ھ۔

الجواب صحیح: عبداللطیف ۱۱/ شعبان/ ۱۳۵۵ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ۔

جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے کچھ آگے بڑھنا کچھ پیچھے ہٹنا

سوال [۲۹۰۹]: مسجد میں جو نمازی دیوار کے پاس ہوتا ہے تو جب رکوع میں جاتا ہے تو سرین

(۱) (مشکوٰۃ المصابیح، باب تسوية الصفوف، ص: ۹۸، قدیمی)

(وسنن أبی داؤد، باب تسوية الصفوف: ۱/ ۹۷، دار الحدیث، ملتان)

(۲) (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، فصل فی بیان بالإمامة، ص: ۳۰۶، قدیمی)

(۳) "ولو كانوا جماعة، فينبغي لإمام أن يتقدم، ولو لم يتقدم إلا أنه أقام على ميمنة الصف أو على ميسرته أو قام في وسط الصف، فإنه يجوز ويكره..... وأشار المصنف إلى أن العبرة إنما هو للقدم لا للرأس، فلو كان الإمام أقصر من المقتدى تقع رأس المقتدى قدام الإمام، يجوز بعد أن يكون محاذياً بقدمه أو متأخراً قليلاً". (البحر الرائق، باب الإمامة: ۱/ ۲۱۷، رشیدیہ)

(و كذا في رد المحتار، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۷، سعید)

دیوار سے لگتے ہیں اس لئے تھوڑا سا آگے کو بڑھنا پڑتا ہے پھر اٹھتے وقت تھوڑا سا پیچھے کو ہٹنا پڑتا ہے، ہر رکعت میں ایسا ہی ہوتا ہے تو اس حرکت سے نماز میں نقص ہوگا یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جگہ کی تنگی کی وجہ سے اتنی قلیل حرکت سے نماز فاسد نہیں ہوگی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۱/۸۷ھ۔

جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے جماعت کی کیفیت

سوال [۲۹۱۰]: لندن میں بواوسطہ ورکنگ کمیٹی مانسک بھوپال (جسے بیگم نے مسجد کے نام سے گذشتہ صدی میں بنوایا تھا اور اسلامک کلچرل سینٹر ایسٹ لندن ماسک) کیونکہ ان دونوں میں بڑے ہال میں اکثر مساجد اور مکانات ایسے ہیں جن کے کمرے بمشکل ۴/۳ گز لمبے اور ۳/۳ گز چوڑے ہوتے ہیں کہ دو صفیں اس حالت میں بنتی ہیں جب کہ پہلی صف امام کے دائیں بائیں صرف تین چار انگل کے فاصلہ سے بنائی جاتی ہے، جمعہ کے دن مندرجہ حالات ہیں۔ دوسری صف کے اس غیر محتاط مقتدی کا سر جو امام سے بالکل پیچھے ہوتا ہے، مسجد میں بسا اوقات امام کے پیروں سے ٹکرا جاتا ہے، کیا اس طرح نماز باجماعت بوجہ مجبوری بلا کراہت صحیح ہے؟

نوٹ: یہاں پر مکان دو منزلہ ہوتا ہے، کیا امام کے دائیں بائیں صف بنا کر کھڑے ہونے والے مقتدیوں کے لئے اسی امام کی اقتداء میں اوپر کی منزل کے کسی کمرے میں انتظام کرنا ضروری ہے؟ حکم شرع سے مطلع فرمائیں۔

(۱) ”مشی مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر الصف، ثم وقف قدر ركن، ثم مشى و وقف كذلك؟ و هكذا لا تفسد وإن كثر، ما لم يختلف المكان، قيل: لا تفسد حالة العذر ما لم يستدبر القبلة استحساناً“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها: ۱/۶۲، سعید)

”المشى فى الصلوة إذا كان مستقبل القبلة لا يفسد إذا لم يكن متلاحقاً، ولم يخرج من المسجد، وفى القضاء ما لم يخرج من الصفوف، كذا فى المنية. وإن استدبر القبلة فسدت، كذا فى الظهيرية“۔ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب السابع فيما يفسد الصلوة وما يكره فيها، الفصل الثانى فى الأفعال المفسدة للصلوة: ۱/۱۰۲، رشيدية)

(و كذا فى البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها: ۲/۲۲، رشيدية)

الجواب حامداً ومصلياً:

جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے اس کی اجازت ہے کہ امام کے دائیں اور بائیں صفیں ہوں صرف امام کی ایڑی مقتدیوں کی ایڑی سے آگے رہے، پس چار انگل بھی اگر امام آگے رہے گا تب بھی اقتدا درست ہوگی (۱)، اوپر کی منزل میں بھی اس کا انتظام کیا جاوے کہ امام کے انتقالات (رکوع، سجدہ وغیرہ) کا مقتدیوں کو صحیح علم ہوتا رہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۴/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۴/۹۰ھ۔

جماعت میں ٹخنہ سے ٹخنہ ملا کر کھڑا ہونا

سوال [۲۹۱۱]: جماعت میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹخنہ سے ٹخنہ ملانا چاہئے یا نہیں؟

(۱) ”وذكر الإسيجابي أنه لو كان معه رجلان فإمامهم بالخيار، إن شاء تقدم و إن شاء أقام فيما بينهما، ولو كانوا جماعةً فينبغي للإمام أن يتقدم، و لو لم يتقدم إلا أنه أقام على ميمنة الصف أو على يسرته أو قام في وسط الصف، فإنه يجوز و يكره و أشار المصنف إلى أن العبرة إنما هو للتقدم لا للرأس، فلو كان الإمام أقصر من المقتدى تقع رأس المقتدى قدام الإمام، يجوز بعد أن يكون محاذياً بقدمه أو متأخراً قليلاً“۔ (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱، رشيدية)

(و كذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶، سعيد)

(۲) ”ولو قام على سطح المسجد و اقتدى بإمام في المسجد إن كان للسطح باب في المسجد و لا يشته عليه حال الإمام، يصح الاقتداء، وإن اشبه عليه حال الإمام، لا يصح، كذا في فتاوى قاضى خان . وإن لم يكن له باب في المسجد لكن لا يشته عليه حال الإمام صح الاقتداء أيضاً اهـ“۔ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع في بيان ما يمنع الاقتداء و ما لا يمنع: ۱/۸۸، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۳۲، ۶۳۵، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلوة، باب الإمامة في بيان ما يمنع صحة الاقتداء و ما لا

يمنع: ۱/۶۱۶، إدارة القرآن كراچي)

الجواب حامداً ومصلياً:

جماعت میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹخنے برابر ہی کرنے چاہئیں کہ صف سیدھی رہے، شرح ابوداؤد میں یہی تشریح کی ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

بعد میں آنے والا شخص کسی مقتدی کو پیچھے کھینچ لے

سوال [۲۹۱۲]: زید امام کے پیچھے بکرنے نماز پڑھی اس کے بعد عمر آ کر شامل ہوا تو بکر پیچھے ہٹ گیا لیکن عمر کو اس مسئلہ کی واقفیت نہ تھی، وہ کھڑا رہا، اس پر بکرنے اپنے ہاتھ سے اس کو پیچھے ہٹا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا، کیا یہ فعل بکر کا مفسدِ صلوٰۃ تھا یا نہ؟
۲..... کیا بکر کے لئے ایسا کرنا ضروری تھا؟

۳..... اگر شامل ہونے والا مقتدی پیچھے نہ ہے تو پھر پہلا مقتدی اپنی پہلی جگہ کھڑا ہو جاوے یا وہیں کھڑا رہے؟

الجواب حامداً و مصلياً:

۱..... بہتر یہ ہے کہ بعد میں آ کر شامل ہونے والا مقتدی اس پہلے سے شریک ہونے والے مقتدی کو

(۱) "قال": أي نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: "فرايت الرجل": أي من الصحابة المصلين بالجماعة بعد صدور ذلك القول من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "يلزق": أي يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، و كعبه بكعبه". ولعل المراد بالالزاق المحاذاة، فإن إلزاق الركبة بالركبة، الكعب بالكعب في الصلوة مشكل، وأما إلزاق المنكب بالمنكب، فمحمول على الحقيقة". (بذل المجهود شرح أبي داؤد، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف : ۳۶۰/۱، مكتبته إمداديه ملتان)

(وإعلاء السنن، أبواب الإمامة، باب سنية تسوية الصف و رصها : ۳۱۹/۴، إدارة القرآن كراچی)

(و كذا في فتح الباری، كتاب الأذان، باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف : ۲۶۸/۲، قديمی)

(و كذا في فيض الباری، كتاب الأذان، باب إلزاق المنكب بالمنكب : ۲۳۶/۲، ۲۳۷، خضرة راه بکڈپو، الہند)

کھینچ لے، اگر نہ کھینچے تو اس مقتدی کو خود پیچھے ہٹ جانے میں بھی مضائقہ نہیں، اگر وہ دوسرا پہلے کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا تو یہ بھی درست ہے کہ امام ان دونوں کو خفیف سا اشارہ کر دے کہ وہ دونوں پیچھے ہٹ جائیں اور یہ بھی درست ہے کہ امام خود آگے بڑھ جائے۔ اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو پھر دوسرے مقتدی کو امام کے برابر کھڑے ہونے میں بھی مضائقہ نہیں بلکہ ایسی حالت میں کوئی کسی کو نہ کھینچے کیونکہ ناواقفیت کی وجہ سے فساد نماز کا اندیشہ ہے (۱)۔ بکر کے اس فعل سے نماز فاسد نہیں ہوتی (۲)۔

(۱) ”فقمة“ إذا اقتدی بإمام فجاء آخر، يتقدم الإمام موضع سجودہ، کذا فی مختارات النوازل. وفي القهستانی عن الجلابی: أن المقتدی يتأخر عن اليمين إلى خلف إذا جاء آخره وفي الفتح: ولو اقتدی واحد بآخر فجاء ثالث، يجذب المقتدی بعد التكبير، ولو جذبه قبل التكبير لا يضره، وقيل: يتقدم الإمام اهـ.

”ومقتضاه أن الثالث يقتدی متأخراً و مقتضى القول بتقدم الإمام أنه يقوم بجانب المقتدی الأول، والذي يظهر أنه ينبغي للمقتدی التأخر إذا جاء ثالث، فإن تأخر، وإلا جذبه الثالث إن لم يخش إفساد صلاته. فإن اقتدی عن يسار الإمام، يشير إليهما بالتأخر، وهو أولى من تقدمه؛ لأنه متبوع.“
(ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۸/۱، سعيد)

”وذكر الإسيحابی أنه لو كان معه رجلان فإمامهم بالخيار، إن شاء تقدم، وإن شاء أقام فيما بينهما، ولو كانوا جماعة فينبغي للإمام أن يتقدم، ولو لم يتقدم إلا أنه أقام على ميمنة الصف أو على يسارته أو قام في وسط الصف، فإنه يجوز ويكره.“ (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۱۷/۱، رشيدية)

(و كذا في ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۷/۱، سعيد)

(۲) ”ولو كان المقتدی عن يمين الإمام فجاء ثالث و جذب المؤتم إلى نفسه بعد ما كبر، لا تفسد صلواته.“ (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۱۷/۱، رشيدية)

”لو جذبه آخر فتأخر، الأصح لا تفسد صلواته.“ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة:

۲..... ایسا کرنا فرض نہیں بلکہ سنت ہے کہ نہ کرنے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوئی (۱)۔

۳..... ناواقفیت کی صورت میں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، اگر ہٹ گیا اور دوسرا مقتدی پیچھے نہ ہٹا تو

پہلے مقتدی کو دوبارہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۶/۱/۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۶/۱/۵۶ھ۔

ایک مقتدی کے بعد دوسرا مقتدی آگیا تو وہ کس طرف شرکت کرے؟

سوال [۲۹۱۳]: ایک امام اور ایک مقتدی امام کے داہنی طرف قعدہ میں بیٹھے ہیں، ایک اور مقتدی

آگیا وہ امام کے کس طرف بیٹھے، آخری قعدہ ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بائیں طرف (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

ایک مقتدی کے بعد دوسرا مقتدی آگیا تو کہاں کھڑا ہو؟

سوال [۲۹۱۴]: امام اور ایک مقتدی اس کے داہنی طرف ہو اور دونوں حالت رکوع میں ہوں ایک

نمازی اور آگیا، اب یا تو وہ نمازی ایک رکعت ضائع کرے یا امام کے بائیں جانب کھڑا ہو جائے، کیا حکم ہے؟

اگر امام کے بائیں جانب کھڑا ہو جائے تب رکوع کے بعد امام کو بڑھنا چاہئے اگر جگہ ہو۔ ورنہ کیا مقتدیوں کو پیچھے

کھسکنا چاہئے؟

(۱) "ترك السنة لا يوجب فساداً ولا سهواً بل إساءة لِرِ عامداً غير مستخف". (الدر المختار).

"(قوله: لا عامداً غير مستخف) فلو غير عامداً فلا إساءة أيضاً". (رد المحتار، كتاب الصلوة: ۱/۴۷۳،

۴۷۴، سعید)

(۲) (راجع الحاشية المتقدمة آنفاً)

(۳) "والظاهر أيضاً أن هذا إذا لم يكن في القعدة الأولى، وإلا اقتدى الثالث عن يسار الإمام، ولا تقدم،

ولا تأخر". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۸، سعید)

الجواب حامدًا ومصلياً:

امام کے ساتھ اگر ایک مقتدی ہو اور وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہو اور پھر کوئی مقتدی آ کر شریک ہو تو یہ بھی درست ہے کہ امام آگے بڑھ جائے، یہ بھی درست ہے کہ مقتدی کو اشارہ کر دے کہ وہ پیچھے ہو جائے، یہ بھی درست ہے کہ بعد میں آنے والا خود پہلے کو پیچھے کھسکا لے، اگر بعد میں آنے والا بائیں جانب کھڑا ہو گیا اور امام رکوع میں ہے تو رکوع سے فارغ ہو کر امام آگے بڑھ جائے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

ایک مقتدی ہو تو کہاں کھڑا ہو؟

سوال [۲۹۱۵]: اگر ایک مقتدی اور ایک امام ہے دونوں برابر میں کھڑے ہو گئے تو نماز ہوگی یا

نہیں؟ اگر نہیں تو کس طرح کھڑے ہوں؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے پیچھے رہے اور بس (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) [تسمۃ] إذا اقتدى بإمام ف جاء آخر يتقدم الإمام موضع سجوده، كذا في مختارات النوازل. وفي القهستاني عن الجلابي: أن المقتدى يتأخر عن اليمين إلى خلف إذا جاء آخر اهـ. "ولو اقتدى واحد بآخر ف جاء ثالث يجذب المقتدى بعد التكبير، ولو جذبه قبل التكبير، لا يضره، وقيل: يتقدم الإمام اهـ. "ومقتضاه أن الثالث يقتدى متأخراً، ومقتضى القول بتقدم الإمام أنه يقوم بجانب المقتدى الأول، والذي يظهر أنه ينبغي للمقتدى التأخر إذا جاء ثالث، فإن تأخر، وإلا جذبه الثالث إن لم يخش إفساد صلاته، فإن اقتدى عن يسار الإمام يشير إليهما بالتأخر، وهو أولى من تقدمه؛ لأنه متبوع". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۸، سعيد)

(و كذا في فتح القدير، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۳۵۷، مصطفى البابی الحلبي بمصر)

(۲) "ويقف الواحد ولو صبياً، أما الواحدة فتأخر محاذياً أو مساوياً ليمين إمامه على المذهب ولا عبرة بالرأس بالقدم، فلو صغيراً فالأصح ما لم يتقدم أكثر قدم المؤتم لا تفسد". (الدر المختار). وفي رد المحتار: "و أشار المصنف إلى أن العبرة إنما هو للقدم لا للرأس، فلو كان الإمام أقصر من المقتدى يقع رأس المقتدى قدام الإمام، يجوز بعد أن يكون محاذياً بقدمه أو متأخراً قليلاً". (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۸، ۵۷۱، سعيد)

اگر بعد میں ایک مقتدی رہ جائے تو مقتدی کیا کرے؟

سوال [۲۹۱۶]: اگر امام اور دو مقتدی نماز ادا کر رہے ہیں ایک مقتدی کا وضو ساقط ہو جاتا ہے اور وہ

چلا جاتا ہے اور وہ مقتدی اپنی ہی جگہ اور امام اپنی جگہ رہ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ہوئی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ہوگئی۔ فقط (۱)۔

صف کے پیچھے تنہا ایک آدمی کا کھڑا ہونا

سوال [۲۹۱۷]: فقہاء نے لکھا ہے کہ صف کے پیچھے تنہا کھڑا ہونا مکروہ ہے، بہتر ہے کہ اگلی

صف سے ایک آدمی پیچھے کھینچ لے تو اس آدمی کو کس طرف سے کھینچے وسط سے یا درمیان سے یا نہیں؟ اور کہاں کھڑا

ہو یعنی امام کے پیچھے لاوے یا نہیں یا وہیں کھڑا ہو جائے جہاں سے آدمی کو پیچھے لاوے اور کیا جس کو پیچھے لاوے

گا اس کی نماز میں کچھ نقصان نہ ہوگا؟

۲..... حضرت مولانا تھانوی صاحب مدظلہ نے کسی رسالہ میں لکھا ہے کہ اگر امام ”ما یجوز بہ

الصلوة“ پڑھ چکا ہے صحت کے ساتھ اور پھر آگے چل کر کہیں بھول گیا یا غلط پڑھ گیا یا کوئی اور بات آگئی تو نماز

ہو جائے گی، لہذا گزارش ہے کہ اگر سورۃ بینہ میں ”خیر البریۃ“ کی جگہ ”شر البریۃ“ پڑھ دے تو کیا نماز

ہو جائے گی؟ فقط۔ بینوا وتوجروا۔

مولوی عبدالوہاب صاحب از بہار (بذریعہ مولوی عبدالمجید صاحب) ۹/ شعبان۔

= (و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة: ۶۱۸/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة: ۲۲۵/۱، إمدادیہ ملتان)

(۱) صورت مسئلہ میں نماز تو ہوگئی لیکن بہتر یہ ہے کہ مقتدی آگے ہو کر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے:

”قوله: ویقف الواحد عن یمینہ والإثنان خلفہ)..... ولو وقف خلفہ، فیہ روایتان

أصحهما الكراهة“ (البحر الرائق، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة: ۶۱۶/۱، رشیدیہ)

وفی الفتاویٰ العالمگیریۃ: ”ولو وقف خلفہ جاز، ولم یذکر محمد الکراہیۃ نصاً، واختلف

المشاہخ فیہ، قال بعضهم: یکرہ هو الصحیح، هكذا فی البدائع“ (کتاب الصلاة، الفصل الخامس فی

بیان مقام الإمام والمأموم: ۸۸/۱، رشیدیہ)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ایک صف پوری ہو چکی ہے اس کے بعد کوئی نمازی آیا ہے تو اس کو چاہئے کہ کچھ انتظار کر لے اور اگر رکوع سے پہلے پہلے کوئی اور مقتدی آجائے تو اس کے ساتھ مل کر کھڑا ہو جائے اگر کوئی اور نمازی نہیں آیا تو اس کو چاہئے کہ کسی شخص کو جو کہ اس مسئلہ سے واقف ہو صف سے کھینچ لے اور جس جگہ سے کھینچا ہے اسی جگہ سے پچھلی صف میں دونوں کھڑے ہو جائیں (تقليلاً للمشي في الصلوة)۔ اور اگر کوئی اس مسئلہ کا جاننے والا نہ ہو پھر تنہا ہی کھڑا ہو جائے:

”ومتى استوى جانباه، يقوم عن يمين الإمام إن أمكنه. وإن وجد في الصف فرجةً

سدّها، وإلا انتظر حتى يجيء آخر فيقفان خلفه، وإن لم يجيء حتى رجع الإمام يختار أعلم الناس بهذه المسئلة منهم به، ويقفان خلفه، وإن لم يجد عالماً يقف خلف الصف بحذاء الإمام للضرورة، ولو وقف منفرداً بغير عذر تصح صلاته“۔ رد المحتار: ۱/ ۵۹۴ (۱)۔

حضرت مولانا تھانویؒ نے یہ مضمون کس رسالہ میں تحریر فرمایا ہے؟ اس کی عبارت نقل فرمائیے تب

جواب دیا جائے گا۔ فقط۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۱۰/ شعبان/ ۵۵ھ۔

ایضاً

سوال [۲۹۱۸]: اگر جماعت قعدہ اخیرہ میں بیٹھی ہے تو پیچھے آنے والا اکیلا آدمی کیا کرے؟ کیا

پیچھے تنہا بیٹھ جائے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب قعدہ اخیرہ میں آ کر شریک ہو اور صف پُر ہو تو پیچھے تنہا بیٹھ جائے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، کیم/ صفر/ ۸۹ھ۔

(۱) (رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۵۶۸، ۵۷۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۶۱۸، رشیدیہ)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی، کتاب الصلوة، فصل فی بیان الأحق بالإمامة، ص: ۳۰۷، قدیمی)

(۲) (تقدم تخريجه تحت العنوان السابق: ”صف کے پیچھے تنہا ایک آدمی کا کھڑا ہونا“۔)

منفرد کے پیچھے اقتداء

سوال [۲۹۱۹]: اگر منفرد عشاء کی نماز جہر سے ادا کر رہا ہے اور کوئی مقتدی شریک ہو گیا، مگر وہ منفرد امامت کی نیت نہیں کرتا اور پھر تکبیرات انتقال بھی زور سے نہیں کہتا، ایسی حالت میں مقتدی بغیر امام کے تکبیر کہے اس کی اتباع کرتا رہا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز ہو جائے گی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

اگر مقتدی ایک نابالغ لڑکا اور ایک بالغ ہوں تو کس طرح کھڑے ہوں

سوال [۲۹۲۰]: ایک مقتدی اور ایک لڑکا نابالغ۔ ان دونوں کو امام اپنے پیچھے کھڑا کر سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

کر سکتا ہے بلکہ اسی طرح کرنا چاہے، کذا فی الطحطاوی، ص: ۱۶۸ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) ”وَأَمَانِيَّتُهُ الْإِمَامَةُ، فليست بشرط إلا في حق النساء“۔ (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح،

كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ۲۹۰، قديمي)

(و كذا في الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الصلوة، الباب الثالث في شروط الصلوة، الفصل الرابع في النية:

۱/۶۶، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة: ۱/۴۹۳، رشيدية)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة: ۱/۴۲۳، ۴۲۵، سعيد)

(۲) ”وإن لم يكن جمع من الصبيان، يقوم الصبي بين الرجال، (قوله: يقوم الصبي اهـ) و لو كان مع رجل

تقدمهما الإمام، اهـ“۔ (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان الأحق

بالإمامة، ص: ۳۰۸، قديمي)

”قال: وكذا لو كان المقتدى رجلاً و صبياً يصفهما خلفه لحديث أنس رضي الله تعالى عنه:

”فصفت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا“ وهذا بخلاف المرأة الواحدة، فإنها تتأخر مطلقاً =

مسجد میں ایک جانب اضافہ ہو گیا تو امام کہاں کھڑا ہو؟

سوال [۲۹۲۱]: مسجد کے اندرونی حصہ کو ضرورتاً شمال کے جانب سے بڑھا دیا گیا، اب امام کے داہنے جانب تیس نمازی اور بائیں جانب پندرہ نمازی رہتے ہیں، بحالت موجودہ کسی قسم کی کراہت تو نہیں ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

ایسی حالت میں امام کو وسط میں کھڑا ہونا چاہئے تاکہ دونوں طرف مقتدی برابر ہوں ورنہ کراہت ہوگی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

مقام امام وسط مسجد ہے

سوال [۲۹۲۲]: امام بجائے درمیانی دروازے کے ایک جانب میں کھڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے

= كالتعدادات للحدیث المذكور، (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱ / ۵۷۱، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱ / ۶۱۸، رشیدیہ)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱ / ۲۳۶، إمدادیہ ملتان)

(۱) "السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان، ولو قام في أحد جانبي الصف، يكره".

قال عليه السلام: "توسطوا الإمام و سدوا الخلل" و كذا قوله في موضع آخر: السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحارب ما نصب إلا وسط المساجد، وهي قد عُينت لمقام الإمام". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة، مطلب في كراهة قيام الإمام في غير المحراب: ۱ / ۵۶۸، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمية، كتاب الصلوة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم : ۱ / ۸۹، رشیدیہ)

"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وسَّطُوا الإمام و سدُّوا الخلل": أي اجعلوا إمامكم بأن تصفوا خلفه بحيث يكون الإمام حذاء وسط الصف، ويكون من عن يمينه من الرجال و من عن يساره سواء". (بذل المجهود، باب مقام الإمام من الصف : ۱ / ۳۶۵،

مقتدی بعض مسجد سے خارج حصہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر امام وسط صحن میں کھڑا ہو تو سب مقتدی مسجد میں کھڑے ہو سکتے ہیں خارج مسجد کی ضرورت نہیں، پس دونوں صورتیں مساوی ہیں یا ایک اولیٰ دوسری غیر اولیٰ؟
بینوا توجروا۔

بندہ حافظ محمد حسن سنسار پوری۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امام کو وسط میں کھڑا ہونا چاہئے کہ یہی سنت ہے، وسط کو چھوڑ کر کسی ایک جانب کھڑا ہونا یہ خلاف سنت ہے، مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے جو لوگ خارج مسجد کھڑے ہوں گے ان کو مسجد کا ثواب نہیں ملے گا:
”السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نُصبت إلا وسط المساجد، وهي قد عُينت لمقام الإمام“۔ در مختار (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۸/۶۱ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/شعبان/۶۱ھ۔

امام کا محراب میں کھڑا ہونا

سوال [۲۹۲۳]: تنہا امام کا مسجد کے محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، محراب سے کیا مراد ہے اور کراہت تحریمی ہے یا تنزیہی؟
الجواب حامداً ومصلياً:

عامۃً وسط مساجد میں جدارِ قبلہ میں امام کے لئے جگہ بنی رہتی ہے، امام کے قدم باہر ہوتے ہیں اور سجدہ محراب میں کرتا ہے، علامہ شامی نے علت پر بحث کر کے حاشیہ بحر سے نقل کیا ہے: ”الذی یظہر من کلامہم

(۱) (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة، مطلب فی کراہة قیام الإمام فی غیر المحراب : (۵۶۸/۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الخامس فی بیان مقام الإمام والمأموم : ۸۹/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة : ۳۵۱/۱، دارالکتب العلمیۃ بیروت)

کراہتہ تنزیہیہ“۔ شامی: ۱/ ۶۷۰ (۱) یعنی کراہت تنزیہیہ ہے۔ فقط۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

جواب صحیح ہے، میں صرف میں اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ محراب ہی کے حکم میں باہر کا دروازہ بھی ہے، اس

میں کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے (۲)۔ فقط سعید احمد غفرلہ مفتی مظاہر علوم۔

امام کا محراب میں کھڑا ہونا

سوال [۲۹۲۴]: ۱- مسجد کے اندرونی حصہ میں دو صفوں کی جگہ ہے، محراب اتنا کشادہ ہے کہ امام

بآسانی رکوع و سجود کر سکتا ہے، اگر امام محراب کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو مقتدیوں کو کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن امام

صاحب کہتے ہیں کہ نماز درست نہیں ہوتی؟

۲- اگر امام محراب سے صرف ایڑھیاں باہر رکھتا ہے تو قعدہ کی حالت میں امام کا جسم محراب کے اندر

ہو جاتا ہے لہذا نماز درست نہ ہوگی؟

۳- اگر امام صاحب محراب سے بالکل باہر کھڑا ہوتا ہے تو مقتدیوں کے سر امام کے سرین سے ٹکراتے

(۱) (رد المحتار، باب ما یفسد الصلاة و ما یکرہ فیہا: ۱/ ۶۳۶، سعید)

”قولہ: (وقیام الإمام، لا سجودہ فی الطاق) فالحاصل أن مقتضى ظاهر الرواية كراهة

قیامہ فی المحراب مطلقاً، سواء اشتبه حال الإمام أو لا، و سواء كان المحراب من المسجد أم لا، وإنما

لم یکرہ سجودہ فی المحراب إذا كان قدماه خارجه؛ لأن العبرة للقدم فی مكان الصلاة حتی تشتط

طهارتہ رواية واحدة، بخلاف مكان السجود؛ إذ فیہ روایتان“۔ (البحر الرائق، باب ما یفسد الصلاة و ما

یکرہ فیہا: ۲/ ۴۶، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، الفصل الثانی فیما یکرہ الصلاة و ما لا یکرہ: ۱/ ۱۰۸، رشیدیہ)

(۲) ”الأصح ما روى عن أبی حنیفة أنه قال: أکرہ للإمام أن یقوم بین الساریتین أو زاویة أو ناحية

المسجد أو إلى ساریة؛ لأنه بخلاف عمل الأمة“۔ (رد المحتار، باب ما یفسد الصلاة و ما یکرہ فیہا:

۱/ ۶۳۶، سعید)

(و کذا فی فتح القدر، باب الإمامة: ۱/ ۳۵۶، مصطفى الحلبي بمصر)

(و کذا فی النهر الفائق، باب الإمامة: ۱/ ۲۳۵، إمدادیہ ملتان)

ہیں جس کی وجہ سے مقتدی کچھ کھسک جاتے ہیں اور صف ٹیڑھی ہو جاتی ہے تب سجدہ کرنا پڑتا ہے اور بعض لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے کتراتے ہیں، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ صحیح طریقہ یہی ہے، شرعی اعتبار سے مطلع فرمائیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ کہنا غلط ہے کہ شکل نمبر ۱، ۲: میں نماز درست نہ ہوگی، ہاں شکل نمبر ۱: ایک میں امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے (۱)، شکل نمبر ۲: میں نہ مقتدی کو دشواری ہے نہ امام کو، تو شکل نمبر ۲: کو اختیار کر لیا جائے (۲)۔
جگہ کی قلت اور جگہ کی دشواری اور نمازیوں کی کثرت کے وقت خود محراب میں کھڑا ہونا مکروہ نہیں (۳)،
شکل نمبر ۳: میں صف ٹیڑھی نہ کی جائے، نہ دوسری صف والوں کے لئے تنگی کی جائے (۴)۔ فقط واللہ اعلم۔
حرره العبد محمود وغفر له۔

(۱، ۲، ۳) ”وكره قيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه وقدماه خارجه؛ لأن العبرة للقدم مطلقاً، وإن لم يتشبه حال الإمام إن علل بالتشبه، وإن بالاشتباه ولا اشتباه، فلا اشتباه في نفي الكراهة وهذا كله عند عدم العذر أو في المحراب لضيق المكان لم يكره. وحكى عن أبي الليث: لا يكره قيام الإمام في الطاق عند الضرورة بأن ضاق المسجد على القوم.“ (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۱/ ۲۳۵، ۲۳۷، سعيد)

”ويكره قيام الإمام وحده في الطاق وهو المحراب، ولا يكره سجوده فيه إذا كان قائماً خارج المحراب، وإذا ضاق المسجد بمن خلف الإمام، فلا بأس بأن يقوم في الطاق.“ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره: ۱/ ۱۰۸، رشيدية)

(و كذا في تبين الحقائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۱/ ۲۵، إمداديه)
(۴) ”عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدرح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه، وفقهنا، أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدرة فقال: ”لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.“ (سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف: ۱/ ۱۰۴، إمداديه، ملتان)

”السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان، ولو قام في أحد جانبي الصف يكره.“
(رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۵۲۸، سعيد)

امام کا محراب میں کھڑا ہونا

سوال [۲۹۲۵]: امام صاحب کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے لیکن گرمی کے زمانہ میں لوگوں کا کہنا ہے کہ صحن میں صرف ایک ہی صف کی جگہ ہے، نمازیوں کو بجد تنگی ہوتی ہے تو مجبوراً اگر امام صاحب محراب میں کھڑے ہو جائیں تو گنجائش ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:


تنگی اور ضرورت کی حالت میں محراب میں کھڑے ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں، كذا في البحر:

۲/۲۶ (۱) - فقط والله تعالى اعلم -

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم ديوبند، ۱/۳/۸۸ھ -

امام کا مسجد کے وسط میں کھڑا ہونا

سوال [۲۹۲۶]: ہماری مسجد کا نقشہ مندرجہ ذیل ہے:



(الف) مسئلہ کی رو سے امام بیچ میں بروقت نماز ہونا چاہیے مگر برآمدہ مسجد سے جنوب کی طرف ۴/۴ گز

(۱) "قال الولوالجي في فتاواه و صاحب التجنيس : اذا ضاق المسجد بمن خلف الإمام على القوم، لا بأس بأن يقوم الإمام في الطاق؛ لأنه تعذر الأمر عليه، وإن لم يضق المسجد بمن خلف الإمام، لا ينبغي لإمام أن يقوم في الطاق؛ لأنه يشبه تباين المكانين". (البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۲/۴۶، رشيدية)

(و كذا في رد المحتار. باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۱/۶۲۳، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، الفصل الثاني فيما يكره الصلاة و ما لا يكره: ۱/۱۰۸، رشيدية)

بڑھا ہوا ہے، اب اگر جماعت برآمدہ میں ہو تو امام کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ برآمدہ کی مغرب والی دیوار جو مسجد اندرون کی دیوار ہے اس میں تین دروازے ہیں، اب ان میں سے امام کو کون سے دروازے پر کھڑا ہونا چاہیے۔

(ب) برآمدہ سے مسجد صحن مسجد بھی اس طرح سے ۴/۳ گز جنوب کو بڑھا ہوا ہے، اب اگر امام جماعت صحن مسجد میں کرے تو وہ کہاں کھڑا ہو؟ چونکہ صحن مسجد کی مغرب والی دیوار جو برآمدہ کی ہے اس میں پانچ دروازے ہیں۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ امام کون سے دروازے میں کھڑا ہو، کیونکہ اگر صحن کا بیچ کر کے امام کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ برآمدہ کے چوتھے دروازے میں کھڑا ہوتا ہے جو مسجد کی جنوبی دیوار کے سامنے امام کھڑا ہو جاتا ہے۔

(ج) اگر محراب مسجد کے سامنے امام کھڑا ہوتا ہے تو جماعت جنوب کی طرف ۸/۸ گز بڑھ جاتی ہے، یہ پوزیشن مسجد کی ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امام کو ایسی جگہ کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے شمال و جنوب میں حدود مسجد کے اندر اندر دونوں نمازی برابر ہوں (۱)، یہی حکم برآمدہ و صحن مسجد کا ہے (۲)۔ اگر اس مسجد کی محراب بالکل وسط میں ہے اور برآمدہ و صحن میں کسی

(۱) "حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وسَطُوا الإمام": أي اجعلوا إمامكم بأن تصفوا خلفه بحيث يكون الإمام حذاء وسط الصف، ويكون من عن يمينه من الرجال ومن عن يساره سواء، اهـ". (بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب مقام الإمام في الصف: ۳۶۵/۱، إمداديه، ملتان)

(۲) "السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان، ولو قام في أحد جانبي الصف يكره، ولو كان المسجد الصفي بجنب الشئ وامتأ المسجد، يقوم الإمام في جانب الحائط يستوي القوم من جانبيه، والأصح ما روى عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو في ناحية المسجد أو إلى سارية؛ لأنه خلاف عمل الأمة. قال عليه الصلوة والسلام: "توسطوا الإمام، وسدوا الخلل". (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۵۶۸/۱، سعيد) =

جانب اضافہ ہے تو اصل مسجد کی محراب کی سیدھ میں برآمدہ و صحن میں کھڑا ہونا ضروری نہیں، بلکہ برآمدہ و صحن میں جو جگہ وسط میں ہو وہاں کھڑا ہو (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۷/۱۱/۹۹ھ۔

جگہ تنگ ہو تو امام کا بیچ میں کھڑا ہونا

سوال [۲۹۲۷]: ایک مسجد ہے جس میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے، امام صف سے ایک قدم کے قریب آگے کھڑا ہوتا ہے، آدھی صف اس کے دائیں آدھی صف اس کے بائیں، نماز درست ہے یا نہیں؟ جب کہ بیچ میں جگہ خالی ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

جب مسجد اتنی تنگ ہے تو امام کا بیچ میں کھڑا ہونا درست ہے جس طرح ایک مقتدی ہو تو داہنی طرف کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح تمام آدمی داہنی طرف اور بائیں طرف کھڑے ہو جائیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

تنگی کی وجہ سے امام کا مقتدیوں سے دو چار بیچ آگے ہونا

سوال [۲۹۲۸]: مسجد میں محراب نہیں ہے اور امام صف پر کھڑا ہوتا ہے اور جمعہ کے روز جگہ کی تنگی رہتی ہے تو امام دو چار بیچ آگے بڑھ جاتا ہے اور مقتدی بھی اسی صف پر، تو امام درمیان میں ہوگا تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر درست ہے تو حوالہ کتب کی اہم ضرورت ہے۔ اگر درست نہیں ہے تو کیوں؟ اور تنگی کی صورت

= (و كذا في الفتاوى العالمية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم: ۸۹/۱، رشیدیہ)

(۱) "وفناء المسجد حكم المسجد، يجوز الاقتداء فيه وإن لم تكن الصفوف متصلة"، (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۶۳۵/۱، رشیدیہ)

(و كذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۸۵/۱، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمية، كتاب الصلوة، الباب السابع فيما يفسد الصلوة وما يكره فيها، فصل: كره غلق المسجد: ۱۰۹/۱، رشیدیہ)

(۲) (سیاتی تخریجہ تحت المسئلة التالية)

میں یہ جماعت مانند عورتوں کے ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام کو مقتدیوں سے آگے کھڑا ہونا چاہئے، لیکن اگر نمازیوں کی کثرت اور جگہ تنگ ہو اس لئے چند انچ ہی مقتدیوں سے آگے ہے تب بھی کافی ہے، یہ عذر شرعاً معتبر ہے (۱) جیسا کہ ازدحام میں پچھلی صف والے اگلی صف والوں کی کمر پر سجدہ کر لیں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۶/۱۰/۹۵ھ۔

امام اور منبر کے درمیان آدمی کھڑا کرنا

سوال [۲۹۲۹]: بوقت ادائے نماز جمعہ امام صاحب کے بائیں بازو ایک صف کھڑی ہے، منبر کے دائیں بازو بھی ایک صف کھڑی ہے، محراب میں امام صاحب کھڑے ہیں، امام صاحب دائیں بازو ایک شخص کھڑا کر دیتے ہیں، اس شخص کی سیدھی جانب منبر بالکل متصل ہے اور بائیں جانب پیش امام فاصلہ سے

(۱) ”وذكر الإسبيجاني أنه لو كان معه رجلان، فإمامهم بالخيار إن شاء تقدم وإن شاء أقام فيما بينهما، ولو كانوا جماعة فينبغي للإمام أن يتقدم، ولو لم يتقدم إلا أنه أقام على ميمنة الصف أو على اليسرة أو قام في وسط الصف، فإنه يجوز ويكره..... وأشار المصنف إلى أن العبرة إنما هو للتقدم للرأس، فلو كان الإمام أقصر من المقتدى تقع رأس المقتدى قدام الإمام، يجوز بعد أن يكون محاذياً بقدمه أو متأخراً قليلاً“ (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱، رشيدية)

(و كذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶، سعيد)

(و كذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الصلوة، ما يتصل بصحة الاقتداء: ۱/۱۵۶، ۱۵۷، امجد اكيڈمی

لاهور)

(۲) ”وان سجد للزحام على ظهر مصل صلاته التي هو فيها، جاز للضرورة، وإن لم يصلها، بل صلى غيرها أو لم يصل أصلاً أو كان فرجة، لا يجوز“ (الدر المختار، كتاب الصلوة، فصل في بيان تأليف

الصلوة إلى انتهائها: ۱/۵۰۲، سعيد)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۱/۳۰۵، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۱/۲۱۷، إمداديه ملتان)

آگے اور پیش امام کے بائیں جانب ایک صف کھڑی ہے۔ امام کے دائیں بازو اور منبر کے بائیں بازو ایک شخص حیثیت مقتدی تنہا کھڑا کر سکتے ہیں کیا؟ اور اس شخص کی نماز ہوئی یا نہیں؟ واضح ہو کہ مقتدیوں کے لئے مسجد میں جگہ کی کمی نہیں ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

امام اور منبر کے درمیان ایک آدمی کو کھڑا کرنا ضروری نہیں، اگر وہ جگہ خالی رہے تب بھی مضائقہ نہیں۔ اگر اس کو وہاں کھڑا کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے کسی اور کی نماز میں خلل نہیں آیا، سب کی نماز درست ہے، کوئی نزاع نہ کیا جائے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

دوستونوں کے درمیان صف بنانا

سوال [۲۹۳۰]: ایک مسجد ہے جس میں امام کے پیچھے ایک صف کھڑی ہو جاتی ہے اسی طرح پھر دوسری صف لگ جاتی ہے، لیکن ان دونوں صفوں کے درمیان ستون آجاتے ہیں، ان ستونوں کے درمیان ایک صف کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن وہ صف مسلسل نہیں ہو سکتی بلکہ ستون کی آڑ کی وجہ سے صف میں خلا ہو جاتا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ آیا ان ستونوں کے درمیان صفِ ثانی کھڑی ہو سکتی ہے یا ان ستونوں کے درمیان کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے؟

(۱) ”و يمنع من الاقتداء صف من النساء بلا حائل، أو طریق تجری فہ عجلة، أو نہر تجری فیہ السفن،

أو خلاء فی الصحراء یسع صفین فأكثر، إلا إذا اتصلت الصفوف، فیصح مطلقاً..... والحائل لا

یمنع الاقتداء..... و لم یختلف المكان حقیقۃً کمسجد، و لا حکماً عند اتصال الصفوف“۔ (التنویر

مع الدر المختار، کتاب الصلوة باب الإمامة: ۱/ ۵۸۳، ۵۸۲، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلوة، الفصل الرابع فی بیان ما یمنع صحۃ الاقتداء وما

لا یمنع: ۱/ ۸۷، رشیدیہ)

(و کذا فی مراقی الفلاح مع نور الإیضاح، کتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ۲۹۱، قدیمی)

الجواب حامدًا ومصلياً:

مبسوط سرحسی میں موجود ہے کہ اگر ستون درمیان میں ہو تو اس سے نہ اقتدا ممنوع ہوتا ہے نہ کراہیت

پیدا ہوتی ہے:

”والاصطفاف بين الأستوانتين غير مكروه؛ لأنه صف في حق كل فريق وإن لم يكن

طويلاً، وتخلل الأستوانة بين الصف كتخلل متاع موضوع أو كفرجة بين رجلين، وذلك لا

يمنع صحة الاقتداء، ولا يوجب الكراهة، اهـ.“ مبسوط: ۲/۳۵ (۱)۔

اگر مسجد میں وسعت ہو تو اچھا یہ ہے کہ اس جگہ اصطفاف سے احتراز کیا جائے جہاں ستون بیچ

میں آجائے، کیونکہ بعض اہل علم نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے (۲)۔ فقط

واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

امام کے کسی جانب نمازیوں کا زیادہ ہونا

سوال [۲۹۳۱]: اگر نماز جماعت میں دائیں یا بائیں طرف آدمی زیادہ ہو جائیں تو نماز کیسی ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

امام کی ایک جانب مقتدیوں کا زیادہ ہونا اور دوسری جانب کم ہونا مکروہ ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۹/۸/۵۵ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، یکم/رمضان/۵۵ھ۔

(۱) (المبسوط، کتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة: ۲/۵۳، غفاریہ کوئٹہ)

(۲) ”عن عبد الحمید بن محمود: ”قال صلینا خلف امیر من الأمراء فاضطرنا الناس، فصلینا بین الساریتین،

فلما صلینا، قال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کنا نتقی هذا علی عهد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم. وقد کره قوم من أهل العلم أن یصف بین السواری..... وقد رخص قوم من أهل العلم فی ذلك.“

(سنن الترمذی، کتاب الصلاة، باب ما جاء فی کراهیة الصف بین السواری: ۱/۵۳، سعید)


(۳) ”قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”وسَطُوا الإمام، وسَدُّوا الخلل“: أى اجعلوا إمامکم بأن =

صف ٹیڑھی ہو تو کیا کیا جائے

سوال [۲۹۳۲]: ایک قدیم مسجد ہے جس میں صفیں کچھ ٹیڑھی بچھائی جاتی ہیں رخ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ نماز میں عین قبلہ ضروری ہے یا جہت قبلہ اور قطبین پر جو مساجد ہوں وہ صحیح اور جو اس کے تھوڑے فرق پر ہوں وہ غیر صحیح، یہ قطب تارے شرعاً حجت ہیں یا نہیں؟ اگر مسجد میں صفیں قطب تارے کے رخ پر بچھاتے ہیں، مسجد سے کافی جگہ نکل جاتی ہے اور جگہ کی تنگی ہے تو اب کیا کریں، آیا جہت کعبہ پر عمل کریں یا سمت کعبہ پر؟ نقشہ ذیل میں ہے:

مسجد میں صرف اتنا فرق ہے، اب دیوارِ مغرب قطب والے نشان پر رکھی جائے یا اخیر والے خط پر؟

مفصل بیان فرمائیے۔



الجواب حامداً ومصلياً:

بہتر یہ ہے کہ کسی عالم تجربہ کار کو جو کہ سمت قبلہ معلوم کرنے میں ماہر ہو، بلا کر معائنہ کرادیا جائے کہ اتنا

= تصفوا خلفه بحيث يكون الإمام حذاء وسط الصف، ويكون من عن يمينه من الرجال و من عن يساره

سواء“ (بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب مقام الإمام من الصف : ۱/ ۳۶۵، مکتبہ امدادیہ ملتان)

”السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان، ولو قام في أحد جانبي الصف يكره“

(ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۱/ ۵۶۸، سعید)

”و لو قام الإمام وسط القوم أو قاموا في يمينته أو يسارته، فقد أساءوا“ (التاتارخانية، كتاب

الصلوة، الفصل السابع في بيان مقام الإمام والمأموم : ۱/ ۶۲۳، إدارة القرآن کراچی)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم : ۱/ ۸۹، رشیدیہ)

تفاوت قابل تسامح ہے یا نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۸/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

امام کا صف پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا

سوال [۲۹۳۳]: ایک مسجد کے اندر کا صحن تین صفوں کا ہے اور امام کے پاس محراب تک پنکھے کی ہوا

نہیں پہنچتی تو کیا امام صاحب پہلی صف پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر پڑھا سکتا ہے تو کسی قسم کا نماز کے

اندر فرق تو نہیں آتا؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

اگر مقتدیوں کو تنگی نہ ہو، سب مسجد میں سما جائیں تو بجائے محراب کے صف اول میں محراب کے سیدھ

میں کھڑا ہو جائے تب بھی مضائقہ نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۱/۹۰ھ۔

(۱) "السنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان، ولو قام في أحد جانبي الصف يكره. ولو كان المسجد

الصيفي بجانب الشتوي وامتلاء المسجد، يقوم الإمام في جانب الحائط يستوي القوم من جانبه. والأصح

ما روى عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أنه قال: أكره أن يقوم بين الساريتين أو في زاوية أو في ناحية

المسجد أو إلى سارية؛ لأنه خلاف عمل الأمة. قال عليه السلام: "توسطوا الإمام، وسدوا الخلل"

..... السنة أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف، ألا ترى أن المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد، وهي

قد عُيِّنت لمقام الإمام اهـ. والظاهر أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لئلا يلزم عدم قيامه في الوسط،

فلو لم يلزم ذلك، لا يكره، تأمل". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۶۸/۱، سعيد)

"ولو قام الإمام وسط القوم أو قاموا في ميمنته أو يسرته، فقد أساءوا". (التاتارخانية، كتاب


الصلوة، الفصل السابع في بيان مقام الإمام والمأموم: ۶۲۳/۱، إدارة القرآن كراچی)

(و كذا في العالمكيرية، كتاب الصلوة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم: ۸۹/۱، رشيدية)

امام کے پیچھے والی صف چھوٹی، بعد والی بڑی

سوال [۲۹۳۴]: ہمارے یہاں ایک عید گاہ ہے جس کی مرمت کرائی جا رہی ہے اور پیش امام کی جگہ تھوڑا آگے کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے کے طور پر پیش امام کے پیچھے جو صف بنے گی وہ چودہ آدمیوں پر مشتمل ہوگی اس کے بعد کی صف تقریباً ۱۰۰/۱۰ آدمیوں کی ہے، کیا چھوٹی صف پہلے بن سکتی ہے اور اس کے پیچھے بڑی صف بن جائے؟ شرعاً اس پر روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔

نقشہ اس طرح ہے:



الجواب حامدًا ومصلياً:

اگر امام کے پیچھے جگہ کم ہونے کی وجہ سے چودہ آدمیوں کی صف ہو اس کے پیچھے سو آدمیوں کی صف ہو تو شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں، درست ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟" قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: "يتمون الصفوف المقدمة، و يتراصون في الصف".

"الصفوف المقدمة: أي المتقدمة، وهي إتمامها أن يكمل الصف الأول، ثم الثاني، ثم

الثالث". (بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف: ۱/۳۶۰، إمداديه ملتان)

"وفي القنية: والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني، وفي الثاني من الثالث، هكذا؛ لأنه

روى في الأخبار أن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أولاً على الإمام، ثم تتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف الأول، ثم إلى الميامن، ثم إلى المياسر، ثم إلى الصف الثاني". (البحر الرائق،

كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۹، رشيدية)

(وكذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۶۹، سعيد)

بڑی چوڑی مسجد کی صفوں کو نماز میں دائیں بائیں سے کم کرنا

سوال [۲۹۳۵]: جامع مسجد کی چوڑائی تقریباً ۴۰۰/فٹ سے زائد ہے، اس میں آج بھی پانچوں وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، عموماً سردی کے زمانے میں اور دیگر وجوہات کی بنا پر جماعت میں شامل ہونے والے کبھی کم، کبھی زیادہ تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، چونکہ صف اول کا پورا کرنا بنیادی طور پر لازمی ہے، مگر اس کی لمبائی اس قدر زیادہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو لوگ یمیناً و یساراً دوڑتے دوڑتے صف اول میں جا ملتے ہیں، اس طرح بسا اوقات ان کی ایک ایک رکعت بھی فوت ہو جاتی ہے اور نمازیوں میں ہر قسم کے لوگ مثلاً بوڑھے، ضعیف، جوان اور بیمار بھی ہوتے ہیں، اس لئے صف اول کے پورا کرنے میں بوجہ درازی صف بہت پریشانی ہوتی ہے۔

نمازیوں کی رائے ہے کہ صف کو ایک خاص حد تک محدود بنایا جائے اور دونوں جانب باقی حصہ چھوڑ دیا جائے تاکہ امام صاحب کے پیچھے نمازی ایک خاص حد تک کھڑے ہوں اور اگر دوسری صف بھی لگ جائے تو اس کے مطابق اسی کے سیدھے میں قائم کیا جاسکے۔ کیا شریعت مطہرہ اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ جواب مدلل بحوالہ کتب تحریر فرمایا جائے۔

نوٹ: جمعہ کی نماز میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے اور اہتمام بھی خاصا ہوتا ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے بارے میں کوئی بات دریافت طلب نہیں ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جو حصہ ایک دفعہ مسجد بنا دیا گیا ہے یمیناً و یساراً، اس کو مسجد سے خارج کرنے کی تو کسی صورت میں اجازت نہیں، وہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہے (۱)، البتہ عذر مذکور فی السؤال کی وجہ سے دونوں جانب کچھ خالی جگہ چھوڑ

(۱) "فبإذاتم (أى الوقف) ولزم، لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن". (الدر المختار، كتاب الوقف: ۳۵۱/۳، ۳۵۲، سعید)

"ولو خرب ما حوله واستغنى عنه، يبقى مسجداً عند الإمام والثاني أبداً إلى قيام الساعة، وبه يفتى، حاوی القدسی". (الدر المختار، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره: ۳۵۸/۳، سعید)

(و كذا فى الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر فى المسجد وما يتعلق به، الفصل الأول فيما يصير به مسجداً وفى أحكامه: ۳۵۸/۳، رشيدية)

دی جائے اور امام وسط ہی میں رہے اور دوسری پھر تیسری صف بھی صف اول کی طرح ہو جائے تو اس کی وجہ سے دوسری، تیسری صف والے نماز میں صف اول کی فضیلت سے تو ضرور محروم رہیں گے، فضیلتِ جماعت بلا تردد حاصل ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں مکروہ ہونے میں اختلاف ہے: ”وفی کراهة ترك الصف الأول مع إمكان خلاف، اه“۔ شامی: ۱/۳۸۳ (۱)۔

ہاں! اگر رکعت فوت ہونے کا خوف ہو، مثلاً امام رکوع میں ہو تو پھر دوسری صف میں شریک ہو جانا مکروہ نہیں بلکہ تحصیل رکعت کے لئے ایسا کرنا افضل ہے:

”قال فی الأشباه: إذا أدرك الإمام، فشرّعه لتحصيل الركعة في الصف الأخير أفضل من وصل الصف، اه“۔ شامی: ۱/۳۸۳ (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) (ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الامامة: ۱/۵۶۹، سعید)

”عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها“۔ ”عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار“۔ (سنن أبي داؤد، كتاب الصلوة، باب صف النساء و كراهة التأخر عن الصف الأول: ۱/۱۰۶، إمداديه، ملتان)

(۲) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۷۰، سعید)

”حدثنا الحسن أن أبا بكره رضى الله تعالى عنه حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راکع، قال: فرکعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”زادك الله حرصاً ولا تعد“۔ (سنن أبي داؤد، كتاب الصلوة، باب الرجال يركع دون الصف: ۱/۱۰۶، إمداديه، ملتان)

(وسنن النسائی، کتاب الإمامة والجماعة، باب الركوع دون الصف: ۱/۱۳۹، قدیمی)


(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۱۷، رشیدیہ)

جہت قبلہ کی رعایت کی وجہ سے صفوں کا چھوٹا بڑا ہونا

سوال [۲۹۳۶]: ایک مکان ہے جس میں نماز باجماعت ہوتی ہے مگر بوجہ مکانیت کے صفیں چھوٹی

بڑی بچھائی جاتی ہیں تو اس طرح نماز باجماعت و جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلاً:

نقشہ



اس طرح صفیں بچھتی ہیں، ان پر نماز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مکان کے رخ پر صفوں کا ہونا ضروری نہیں، جہت قبلہ پر صفوں قائم کی جائیں، اگرچہ بعض چھوٹی بعض بڑی ہو جائیں (۱)۔ پنج وقتہ نماز درست ہے، اگر وہاں ہر ایک کو شرکت نماز کی اجازت ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہاں جمعہ بھی درست ہے (۲)، اگر وہاں مسجد نہیں ہے تو مسجد بنانے کی کوشش کی جائے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۹/۹۴ھ۔

(۱) "والسادس استقبال القبلة، فللمكى إصابة عينها ولغيره إصابة جهتها بأن يبقى شيء من سطح الوجه

مسامتا للكعبة أو لهوائها". (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة: ۱/۲۲۷، ۲۲۸، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة: ۱/۳۹۵، رشيدية)

(۲) "والسابع: الإذن العام من الإمام وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي". (الدر المختار)

"(قوله: الإذن العام): أي أن يأذن للناس إذناً عاماً بأن لا يمنع أحداً ممن تصح منه الجمعة عن

دخول الموضع الذي تصلى فيه، وهذا مراد من فسر الإذن العام بالاشتغال". (رد المحتار، كتاب

الصلوة، باب الجمعة: ۱۵۱/۲، ۱۵۲، سعيد)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة: ۱/۵۳۳، دارالکتب العلمیة بیروت)

(و كذا في الفتاوى العالمكبرية، كتاب الصلوة، الباب السادس في صلوة الجمعة: ۱/۱۳۸، رشيدية)

(۳) "عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ببناء المسجد، فقال: =

کسی خاص شخص کے لئے کسی عامی کو اس کی جگہ سے ہٹانا

سوال [۲۹۳]: اگر امام کے پیچھے کوئی عوام کھڑا ہو جائے اور اسی صف میں طالب علم اور مولوی بھی کھڑا ہو، کیا طالب علم یا مولوی صاحب کو یہ حق ہے کہ اس عوام کو ہٹا کر خود کھڑا ہو جائے، یا امام کو چاہئے کہ اپنے پیچھے طالب علم اور مولوی کو کھڑا کرے تاکہ حدت واقع ہونے پر خلیفہ بنا سکے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ وہ شخص پہلے آ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے تو کسی دوسرے نمازی یا امام کو اس کا حق نہیں کہ اس کی جگہ سے اس کو ہٹا دے، ہاں! اگر وہ خود ہٹنے کے لئے رضا مند ہو جائے تو مضائقہ نہیں:

”ويكره أشد كراهة أن يقيم الرجل أخاه، فيجلس في موضعه في الجمعة وغيرها. قال الكرمانى: وظاهر النهي الوارد فيه التحريم؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به بخلاف ما لو قام الجالس باختياره وأجلس غيره، فلا كراهة في جلوس غيره، اهـ.“ طحطاوى، ص: ۳۰۴ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم شہر میرٹھ جامع مسجد۔

= ”يا بنى النجار! ثامنوني بحائطكم هذا.“ قالوا: لا والله! لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.“ (صحيح البخارى، كتاب الوصايا، باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز: ۳۸۸/۱، قديمى)

(۱) (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، باب الجمعة، ص: ۵۲۳، قديمى)

البتہ اگر امام محض استخفاف کی نیت سے کسی ذی علم شخص کو آگے صف میں لے آئے تو بظاہر مناسب ہے، ”لما روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: ليلينى منكم أولوا الآحلام والنهى.“ (مشكوة المصابيح، كتاب الصلوة، باب تسوية الصف: ۹۸/۱، رشيدية)

” (والنهي) وهو العقل الناهى عن القبائح أى: ليدن من البالغون العقلاء لشرفهم ومزيد تعظيهم وتيقظهم وضبطهم لصلاته، وإن حدث به عارض يخلفوه فى الإمامة.“ (مراقبة المفاتيح، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف: ۱۷۲/۳، رشيدية)

(وكذا فى بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب من يستحب أن يلى فى الصف وكرهية التأخير:

۳۶۳/۱، إمداديه، ملتان)

صف میں رومال یا مصلی رکھ دینا

سوال [۲۹۳۸]: مسجد میں یا کسی حلقہ وغیرہ میں کوئی شخص جائے اور جا کر وہاں کوئی کپڑا وغیرہ اپنی نشست کے لئے رکھ دے تو آیا کوئی دوسرا شخص اس جگہ آ کر بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی بیٹھ جائے تو پہلے شخص کو اس دوسرے شخص سے جھگڑا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مدلل جواب تحریر فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر کوئی شخص آ کر کسی جگہ بیٹھ گیا پھر کوئی فوری ضرورت پیش آئی جس کو پورا کرتے ہی لوٹ کر آئے گا مثلاً تھوکنہ، ناک صاف کرنا، وضو کرنا وغیرہ اور جاتے وقت اپنی جگہ کپڑا رکھ کر چلا گیا تو اس میں مضائقہ نہیں اور دوسرے شخص کو اس کی جگہ بیٹھنا بھی نامناسب ہے اور اگر کوئی شروع ہی سے کپڑا رکھ دے اور اپنے کاروبار میں مشغول رہے اور نماز کے وقت آ کر اپنی جگہ پر قبضہ جمائے یہ غیر مستحسن ہے، ایسی حالت میں دوسرے شخص کو اگر تنگی کی وجہ سے جگہ میسر نہ آئے تو اس کے کپڑے کو ہٹا کر بیٹھنا درست ہے، مگر ہاتھ سے نہ ہٹائے ورنہ اس کی ضمان میں داخل ہو جائے گا، اگر تنگی نہ ہو بلکہ وسعت ہو تو دوسری جگہ بیٹھ جائے:

”ولو فرش له نحو سجادة، ففيه وجهان: فقليل: يجوز لغيره تنحيتها والجلوس في موضعها؛ لأن السبق بالأجسام لا بما يفرش، ولا يجوز الجلوس عليها بغير رضاه، نعم! لا يرفعها بيده أو غيرها؛ لئلا تدخل في ضمانه، وقيل: لا يجوز تنحيتها؛ لأنه ربما يفضي إلى الخصومة، ولأنه سبق إليه بالحجر، فصار كحجر الموات.“ ص: ۳۰۴ (۱)۔

”وهذا كمن بسط بساطاً أو مصلی: أي سجادة في المسجد أو المجلس، فإن كان المكان واسعاً، لا يصلی ولا يجلس عليه غيره، وإن كان المكان ضيقاً، جاز لغيره أن يرفع البساط ويصلی في ذلك المكان أو يجلس، اهـ.“ مراقی الفلاح، ص: ۳۵۹ (۲)۔ والمسئلة

(۱) حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، باب الجمعة، ص: ۵۲۳، ۵۲۴، قدیمی

(۲) حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز، فصل فی حملها و

دفنها، ص: ۶۱۵، قدیمی

”كمن بسط سجادة في المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر، لا ينبغي أن يوحش الأول إن =

مذکورہ فی شرح الہدایۃ ورد المحتار ایضاً (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، مظاہر علوم سہارنپور، ۸/۶/۶۰ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور

امام کے سلام کے بعد صف سے ہٹ کر بیٹھنا

سوال [۲۹۳۹]: جماعت کے اختتام پر بعض مقتدی صف سے ذرا سرک کر قبلہ رو بیٹھ جاتے ہیں بوجہ

بجھاوٹ (۲) یا سخت گرمی یا سردی کے اور تسبیح پوری کر کے امام کے ساتھ ہی دعاء میں شرکت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا یہ مقتدی منافق یا گنہگار ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا کرنے سے وہ منافق بھی نہیں، گنہگار بھی نہیں (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۴/۷/۸۷ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند

الجواب صحیح: بندہ سید احمد علی سعید، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند۔

= كان في المكان سعة“ (البحر الرائق، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المساجد: ۵/۲۲۶، رشیدیہ)

(۱) ”(قولہ: و تخصیص مکان لنفسہ)؛ لأنه یخل بالخشوع: أي لأنه إذا اعتاده ثم صلی فی غیرہ، ینی

بالہ مشغولاً بالأول..... له فی المسجد موضع معین یواظب علیہ وقد شغله غیرہ، قال الأوزاعی: له

أن یزعجه و لیس له ذلك عندنا اه: أي لأن المسجد لیس ملكاً لأحد. قلت: ینی تقييده بما إذا لم

یقم عنه علی نية العود بلا مهلة كما لو قام للوضوء مثلاً، ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتتحقق سبق یده

تأمل“ (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یكره فیها، مطلب فی الغرس فی

المسجد: ۶۶۲۱، سعید)

(۲) ”بجھاوٹ: موٹا تختہ جو شہتیروں پر ٹاٹ لگانے اور چھت پانے کے کام آتا ہے“۔ (فیروز اللغات، ص: ۲۳۳، فیروز سنز، لاہور)

(۳) ”وقیل: ینی کسر الصفوف“ (الدر المختار). ”(قولہ: وقیل ینی کسر الصفوف) لیزول

الاشتباه عن الداخل المعاین للکل فی الصلوة البعیدة عن الإمام، و ذکرہ فی البدائع والذخیرة عن =

نماز کے بعد کسی چھوٹے کا بڑے سے کچھ پیچھے ہٹ جانا

سوال [۲۹۲۰]: بسا اوقات بعض جگہ طلبہ و اساتذہ جماعت میں شریک رہتے ہیں جب امام سلام پھیرتا ہے تو جو طالب علم اپنے استاد کے پاس ہوتا ہے پیچھے کھسک جاتا ہے یہ فعل کیسا ہے؟ اور برابر ہی بیٹھے رہنا کیسا ہے، اگر دونوں درست ہیں تو بہتر کیا ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

برابر بیٹھے رہنا بھی درست ہے، پیچھے کھسک کر بیٹھنا بھی ادا و درست ہے، یہ نہ اصرار کی چیز ہے نہ انکار کی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۰/ رجب/ ۱۴۰۰ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۲۲/ رجب/ ۱۴۰۰ھ۔

صف میں نابالغ بچوں کے سامنے سے گزرنا

سوال [۲۹۲۱]: نابالغ بچے اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے سامنے سے مرور جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ نماز کے ارکان و شرائط سے بخوبی واقف ہوں اور طفل لا یعقل نہ ہوں بلکہ طفل یعقل ہوں اور مراہق ہوں تو کیا حکم ہے؟

= محمد، و نص فی المحيط علی أنه السنة، كما فی الحلیة“۔ (رد المحتار، کتاب الصلوة، فصل فی

بیان تألیف الصلوة إلی انتہائها : ۱/ ۵۳۱، سعید)

”فیہ دلیل لما قالہ أصحابنا: أن النافلة الراتبه و غیرها یستحب أن یتحول لها عن موضع

الفريضة إلی موضع آخر، وأفضله التحول إلی بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غیره، لیكثر

مواضع سجوده لتفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة“۔ (النووی علی صحیح مسلم، کتاب

الجمعة، باب الأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة : ۱/ ۲۸۸، قدیمی)

(۱) ”و حق الأستاذ علی التلمیذ واحد علی السواء، وهو لا یفتح الكلام قبله، ولا یجلس مكانه وإن

غاب، ولا یرد علیه كلامه، ولا یتقدم علیه فی مشیه“۔ (رد المحتار، کتاب الخشی، مسائل شتی :

الجواب حامداً ومصلياً:

صفوف متقدمہ میں جا کر قیام کرنے کے لئے اس مرور کی ضرورت پیش آئے تو اجازت ہے، ورنہ بلا ضرورت ان کے سامنے کو بھی مرور نہ کیا جاوے (۱)، ان کی نماز بھی شرعاً نماز ہے اگرچہ وہ سات بہال کے ہوں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند، ۹/۴/۹۳ھ۔

مسجد کے قریبی حصہ سے گذرنا

سوال [۲۹۲۲]: ایک مسجد جس میں پنج وقتہ نماز جماعت اور عیدین اور جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے، اس مسجد کے مشرقی حصہ میں ایک کمرہ ہے اور کمرہ کے درمیان چھ فٹ کا فاصلہ ہے جہاں سے نمازی وضو اور طہارت کے لئے مسجد کے جنوبی حصہ میں جاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے کا دروازہ اور کمرہ میں داخل ہونے کا دروازہ بھی اسی حصہ میں ہے۔ جماعت کے وقت مسجد کا اندرونی حصہ بھر جانے کے بعد مقتدی اس کمرہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور درمیانی حصہ جو چھ فٹ چوڑا اور شمال سے جنوب میں ۲۳ فٹ لمبا ہے، خالی رہتا ہے، جہاں سے بعد میں آنے والے نمازی جماعت کی ادائیگی کے وقت بھی گذرتے ہیں۔

جواب طلب امر یہ ہے کہ اس کمرہ میں صورت مذکورہ میں جماعت کے ساتھ نماز جائز ہے یا نہیں؟ نیز

(۱) ”ولو وجد فرجة في الأول لا الثاني، له خرق الثاني لتقصيرهم، وفي الحديث: ”من سد فرجة غفر له“۔ وصح: ”خياركم أليكم مناكب في الصلوة“۔ (الدر المختار)۔

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”وفي القنية: قام في آخر صف و بينه و بين الصفوف مواضع خالية فللداخل أن يمر بين يديه ليصل الصفوف؛ لأنه أسقط حرمة نفسه، فلا يَأْتُم المار بين يديه“۔ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۷۰، سعيد)

(۲) ”عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”مروا أولادكم بالصلوة و هم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها و هم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع“۔ رواه أبو داؤد“۔ (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الصلوة، الفصل الثاني:

۱/۵۸، قديمی)

یہ دونوں مقامات مختلف سمجھے جائیں گے یا متحد؟ اس میں اقتداء درست ہے یا نہیں؟ دارآنحالیکہ امام اور کمرہ والے مقتدیوں کے درمیان دوسری صفیں بھی ہوتی ہیں اور صرف راستہ خالی رہتا ہے جو نمازیوں کے آنے جانے کے لئے کھلا رہتا ہے اور جماعت کے نمازیوں کا اس کمرہ والے راستہ سے گذرنا کیسا ہے، جبکہ دوسرا راستہ نہیں؟ نیز مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے اگر مذکورہ جگہ میں نماز جماعت کیساتھ پڑھی جائے تو کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کا صحن نمازیوں سے بھر جانے کے بعد کمرہ میں بقیہ نمازی کھڑے ہو جائیں اور مذکورہ راستہ آنے والوں کے لئے چھوڑ دیں تو بھی اقتداء درست ہے، یہ فصلِ قلیل ہے جو کہ اقتداء سے مانع نہیں اور نماز ہی کی ضرورت کے لئے چھوڑا گیا ہے، شرکتِ جماعت کے لئے اس راستہ سے بھی گذرنے کی گنجائش ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۶/۹۱ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۶/۹۱ھ۔

ایضاً

سوال [۲۹۲۳]: ہمارے محلہ میں مدرسہ رحمانی کے نام سے ایک مدرسہ ایک بڑی عمارت میں قائم ہے، عمارت تین منزلہ ہے، پنج وقتہ نماز نیز جمعہ و عیدین کی نماز بھی ہوتی ہے، یہ ایک بڑا کمرہ ہے، اس میں منبر بھی ہے گویا مسجد ہی ہے، اس کمرہ کے مقابل ایک اور کمرہ ہے، ان دونوں کمروں کے درمیان ایک صف سے زیادہ کی جگہ راستہ کے لئے ہے جس میں آمد و رفت رہتی ہے۔ عیدین کے موقع پر جب نماز زیادہ ہوتے ہیں تو مقابل والے کمرہ میں بھی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور لوگ نماز کی حالت میں بھی اس درمیان والے راستے میں آتے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں مقابل والے کمرہ میں نماز پڑھنا درست ہے؟ جواب سے نوازیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسی حالت میں یہ درمیانی راستہ اقتداء اور صحت نماز سے مانع نہیں، پس اس دوسرے کمرہ میں جو لوگ

شريك نماز ہونگے ان کی بھی نماز درست ہو جائے گی:

”ويمنع من الاقتداء طريق تجرى فيه عجلة“. التنوير۔ ”(قوله: أو طريق): أي نافذ، أبو السعود عن شيخه، قلت: ويفهم ذلك من التعبير عنه في عدة كتب بالطريق العام، وفي التاتار خانيه: الطريق في مسجد الرباط والخان لا يمنع؛ لأنه ليس بطريق عام، اهـ“. رد المحتار، ص: ۱/۳۹۳(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حرره العبد محمود غفرلہ۔



(۱) (تنوير الأبصار مع رد المحتار، باب الإمامة: ۱/۵۸۳، سعيد)

(و كذا في التاتار خانية، كتاب الصلوة، ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع: ۱/۶۱۶، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي)

”وإن كان طريقاً لا تمر فيه العامة، وإنما يمر فيه الواحد والإثنين، لا يمنع الاقتداء، وهذا إذا لم تكن الصفوف متصلة“. (المحيط البرهاني، كتاب الصلاة، الفصل السادس عشر في التعني والألحان: ۱/۴۷۵، المكتبة الغفارية)

فصل فی الفصل بین الإمام والمقتدی والاتصال بین الصفوف

(امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ اور اتصالِ صفوف کا بیان)

بند کواڑ یا پردہ کے پیچھے سے اقتداء

سوال [۲۹۲۲]: اندر جماعت ہو رہی ہے، پردے سب چھوٹے ہوئے ہیں یا کواڑ سب بند

ہیں۔ باہر والوں کی نماز درست ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر امام کے انتقالات کا صحیح علم ہوتا ہے تو بغیر کواڑ کھولے اور بغیر پردہ ہٹائے بھی باہر والوں کی نماز

درست ہو جائے گی۔ اچھا یہ ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے یا کوئی کواڑ کھولا جائے تاکہ انتقالات کا مشاہدہ ہوتا

رہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۳/۹۰ھ۔

الجواب صحیح بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۳/۹۰ھ۔

(۱) ”والحائل لا يمنع الاقتداء إن لم يشته حال إمامه بسماع أو رؤية، ولو من باب مشبك يمنع

الوصول في الأصح، ولم يختلف المكان حقيقة كمسجد وبيت في الأصح، قنية، ولا حكماً عند اتصال

الصفوف“۔ (الدرالمختار)۔ قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”(قوله: بسماع): أي من الإمام أو

المكبر، التاتارخانية..... ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع، لا فرق فيها بين أن يرى انتقالات الإمام

أو احد المقتدين“۔ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۸۶، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع في بيان ما

يمنع صحة الاقتداء ومالا يمنع: ۱/۸۸، رشديه)

(و كذا في منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۶۳۳، رشديه)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۲۵۳، إمداديه ملتان)

امام نیچے کی منزل پر اور مقتدی اوپر

سوال [۲۹۲۵]: اگر کوئی مسجد دو منزلہ تین یا اس سے زائد منزلوں کی ہو اور سب سے نیچے کے حصے میں جماعت ہو رہی ہو اور چند آدمی بجائے نیچے جماعت میں کھڑے ہونے کے اوپر کے حصوں میں سے کسی بھی حصے میں امام کی اقتداء میں نماز ادا کر لیں جبکہ مصلیان فوق کو امام کی آواز اوپر کے حصوں میں خوب آتی ہے، مانک کے ذریعہ سے ہو یا بغیر مانک کے، اور رکوع و سجود کا بخوبی علم ہوتا ہو۔ امام کے اوپر نیچے کے حصے میں کئی صفیں بھی خالی ہیں، پورا حصہ بھرا ہوا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں مصلیان فوق کی نماز ادا ہوگی یا نہیں؟ آیا یہ کہ وہ پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ کریں گے؟

ایسے ہی اگر کوئی بیمار آدمی جو کہ نیچے نہیں جاسکتا ہے وہ اوپر کے حصے میں اقتداء کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی اگر امام اوپر نماز پڑھا رہا ہو اور نیچے کے حصے میں مرمت وغیرہ کا کام جاری ہو تو کچھ مصلیان نیچے کے حصے میں کھڑے رہ کر اوپر کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ اوپر جگہ بھی خالی ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد کی جس منزل میں امام ہے مقتدی بھی اسی منزل میں اقتداء کریں، جب وہاں جگہ نہ رہے تب اوپر کی منزل میں کھڑے ہوں، وہاں جگہ رہتے ہوئے اوپر کی منزل میں کھڑا ہونا پسندیدہ نہیں اگرچہ آواز آتی ہو، تاہم بیماری کے عذر کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو دوسری بات ہے اس کے لئے وسعت ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/۷/۹۲ھ۔

الجواب صحیح بندہ نظام الدین عفی عنہ، ۳/۷/۹۲ھ۔

(۱) "ولو قام على سطح المسجد، واقتدى بإمام في المسجد، إن كان للسطح باب في المسجد ولا يشبهه عليه حال الإمام، يصح الاقتداء، وإن اشبهه عليه حال الإمام لا يصح، كذا في فتاوى قاضيخان. وإن لم يكن له باب في المسجد، لكن لا يشبهه عليه حال الإمام، صح الاقتداء أيضاً." (الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع في بيان ما يمنع الاقتداء وما لا يمنع: ۸۸/۱، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۶۳۲/۱، سعيد) =

امام کی اقتداء نیچے کی منزل سے کرنا

سوال [۲۹۲۶]: ایسا دو منزلہ مکان جس میں اوپر کی منزل پر کوئی دریچہ یا سوراخ وغیرہ نہیں جس سے نیچے کی منزل میں رہنے والوں کو دیکھا جاسکے، اگر اس مذکورہ دو منزلہ مکان میں نماز جماعت ادا کی جائے اور امام اوپر کی منزل میں ہو اور کچھ مقتدی نیچے کی منزل یا نیچے کے سائبان میں اس امام کی اقتداء کریں تو یہ اقتداء صحیح ہے یا نہیں، جبکہ امام یا مکبر کی آواز سنائی دیتی ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مکان ایک ہی ہے، اوپر کی منزل میں امام ہو اور کچھ مقتدی نیچے کی منزل میں مسقف یا سائبان میں ہوں اور امام کی تکبیرات کی ان کو پوری طرح خبر ہو تو یہ اقتداء درست ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۱۱/۹۵ھ۔

امام اور مقتدی کے درمیان کتنا فاصلہ صحت سے مانع ہے؟

سوال [۲۹۲۷]: (الف) جن مقامات میں امام اور مقتدیوں کے درمیان ایک بیل گاڑی وغیرہ کا فاصلہ مفسد نماز ہوتا ہے، کیا وہاں دو صفوں کے درمیان بھی اتنا فاصلہ مفسد نماز ہوتا ہے؟
(ب) بعض مسائل میں درمیانی فاصلہ کہیں ایک رہ گذر کا اور کہیں ایک بیل گاڑی گذر جانے کا

= (و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۲۵۳/۱، إمدادیه ملتان)

(و كذا في رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۵۸۷/۱، سعید)

(۱) ”والحائل لا يمنع الاقتداء إن لم يشتهه حال إمامه بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح، ولم يختلف المكان حقيقة كمسجد وبيت في الأصح، قنية و حكماً عند اتصال الصفوف“۔ (الدر المختار)۔

وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”(قوله: بسماع): أي من الإمام أو المكبر، تاتارخانية.
(قوله: أو رؤية) ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع، لا فرق فيها بين أن يرى انتقالات الإمام أو أحد المقتدين“۔ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۸۶/۱، سعید)

(و كذا في منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۶۳۳/۱، رشيدیه)

اور کہیں درمیان دو صفیں ہو سکتے کا مذکور ہے۔ ان تینوں چیزوں کے فاصلوں سے ایک ہی فاصلہ مراد ہے یا الگ الگ ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

(الف) خارج مسجد مثلاً میدان میں جماعت ہو تو وہاں اتنا فاصلہ مانع ہے (۱)۔

(ب) ایک ہی مراد ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۶/۷/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

امام اور مقتدی کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟

سوال [۲۹۲۸]: ایک لمبی چوڑی مسجد ہے جمعہ کی نماز سے پہلے تیز بارش ہونے لگی، لوگ صحن مسجد کو (جس میں سات آٹھ صفیں ہوتی ہیں) چھوڑ کر دو منزلہ مدرسہ میں جا کر نیچے اوپر نماز پڑھنے لگے، بیچ میں یہ جگہ

(۱) ”والمانع من الاقتداء فی الفلوات قدر ما یسع فیہ صفین“۔ (الفتاویٰ العالمگیریۃ، کتاب الصلوٰۃ،

الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الرابع فی بیان ما یمنع صحۃ الاقتداء وما لا یمنع: ۸۷/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۵۸۵/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۶۳۵/۱، رشیدیہ)

(۲) مفتی صاحب کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ مانع اقتداء کے لئے اتنا ہی فاصلہ کافی ہے، یہ نہیں کہ ان سب عبارات کا ایک مفہوم ہو، بلکہ آبادی میں یعنی مساجد عید گاہ اور گھروں میں ایک راہ گذر (طریق عام) یا ایک بیل گاڑی گذر جانے کا فاصلہ ہو، تو مانع اقتداء ہے، اور صحراؤں اور بیابانوں میں دو صفوں کے برابر کا فاصلہ مانع اقتداء ہے:

”و یمنع الاقتداء تجری فیہ عجلۃ أو تجری فیہ السفن، أو خلأ فی الصحراء یسع صفین

فأكثر، إلا إذا اتصلت الصفوف فیصح مطلقاً“۔ (تنویر الأبصار مع الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب

الإمامة: ۵۸۲/۱، ۵۸۶، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الرابع فی بیان ما

یمنع صحۃ الاقتداء وما لا یمنع: ۸۷/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۶۳۲/۱، ۶۳۵، رشیدیہ)

خالی رہی۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ ان لوگوں کی نماز جنہوں نے مدرسہ کے اوپر نیچے پڑھی ہیں، ہوئی یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

اگر دو تین صف کا فاصلہ درمیان میں خالی نہیں تو نماز ہوگئی: ”يجوز اقتداء جار المسجد بإمام المسجد وهو في بيته إن لم يكن بينه وبين المسجد طريق عام، الخ“. فتاویٰ عالمگیری: ۱/ ۴۶ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

امام اور مقتدیوں کے درمیان منبر کا فصل

سوال [۲۹۴۹]: امام کے قریب منبر ہے اور منبر کے قریب دو مقتدی نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری جانب، ۶، ۱۰ / مقتدی نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ منبر قدرے درمیان میں ہے تو اس سے صف ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر منبر صف کے درمیان آجائے کہ کچھ مقتدی صف کی ایک جانب ہوں اور کچھ دوسری جانب ہوں تو اس کی وجہ سے صف میں خلل نہیں آتا، صف درست ہو جائے گی، مبسوط سرخسی میں ایسا ہی مذکور ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) (الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الرابع فی بیان ما یمنع صحۃ الاقتداء وما لا یمنع: ۱/ ۸۸، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتاریخانیہ، کتاب الصلوٰۃ، وأما بیان ما یمنع صحۃ الاقتداء وما لا یمنع: ۱/ ۶۱۶، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیہ کراچی)

(و کذا فی حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة: ۱/ ۲۵۲، دار المعرفۃ بیروت)

(۲) ”والاصطفاف بین الأسطوانین غیر مکروه؛ لأنه صف فی حق کل فریق وإن لم یکن طویلاً، وتخلل الأسطوانة بین الصف کتخلل متاع موضوع أو کفرجة بین الرجلین، وذلك لا یمنع صحۃ الاقتداء، =

امام اور مقتدیوں کے درمیان پردہ حائل ہو

سوال [۲۹۵۰]: اگر نماز باہر مسجد پڑھی جاتی ہے اور بیچ میں پردے لٹکے ہوئے ہیں تو باہر والوں کی نماز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام کے سجدہ و رکوع وغیرہ کی اطلاع ہوتی رہے تو درست ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

صحن کا شمالی و جنوبی حصہ مسقف بنا کر اس میں نمازیوں کا کھڑا ہونا

سوال [۲۹۵۱]: ایک مسجد جس کا صحن کافی لمبا چوڑا ہے، موسم گرما و برسات میں نمازیوں کو صحن میں نماز ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس صحن کو نقشہ مذکورہ کے اعتبار سے برآمدہ کی شکل دینا چاہتے ہیں کہ شمالی اور مشرقی حصہ تھوڑا سا برآمدہ بنا دیا جائے اور بیچ میں صحن غیر مسقف چھوڑ دیا جائے تاکہ موسم گرما و برسات میں لوگ دونوں برآمدوں میں نماز ادا کریں، لیکن بیچ میں صحن جو ۴۲/فٹ ہے، وہاں مصلین کی صفیں نہ ہوا کریں گی

= ولا یوجب الکراہۃ۔ (المبسوط للسرخسی، کتاب الصلاۃ، باب الإمامۃ: ۱/۵۴، غفاریہ)

(و کذا فی رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب الإمامۃ: ۱/۵۸۶، سعید)

(ہ کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ، کتاب الصلوۃ، الفصل الرابع فی بیان ما یمنع صحۃ الاقتداء وما لا یمنع: ۱/۸۷، رشیدیہ)

(۱) ”والحائل لا یمنع الاقتداء إن لم یشتبہ حال إمامہ بسماع أو رؤیة“۔ قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ: ”ولما فی البرہان من أنه لو کان بینہما حائط کبیر لا یمنع الوصول منه إلی الإمام، ولكن لا یشتبہ حالہ علیہ بسماع أو رؤیة لانتقالہ، لا یمنع صحۃ الاقتداء فی الصحیح“۔ (رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب الإمامۃ: ۱/۵۸۶، ۵۸۷، سعید)

(و کذا فی ميسوط للسرخسی، کتاب الصلوۃ، باب الحدث فی الصلوۃ: ۱/۳۵۰، ۳۵۱، مکتبہ غفاریہ)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ، کتاب الصلوۃ، الفصل الرابع فی بیان ما یمنع صحۃ الاقتداء وما لا یمنع: ۱/۸۸، رشیدیہ)

بلکہ وہ خالی جگہ رہا کرے گی۔ آیا اس صورت میں شمالی اور مشرقی جانب برآمدہ بنا دیا جائے یا نہیں؟ اور اس طرح نماز میں کوئی خلل واقع ہوگا یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس طرح برآمدہ باہمی مشورہ کر کے حسب ضرورت درست ہے، اندرونی مسجد کی صفوف سے برآمدہ کی صفوف کا اتصال رہے گا، سخت دھوپ اور بارش کے وقت اگر صحن خالی رہے اور اندرونی مسجد نیز برآمدہ میں نمازی کھڑے ہوں تو بھی نماز درست ہو جائے گی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۵/۹۳ھ۔

صحن مسجد میں نماز

سوال [۲۹۵۲]: صحن مسجد کو اگر حکم مسجد میں داخل نہ مانا جائے تو کیا اس میں فرائض، تراویح باجماعت ادا کی جائے گی؟ نیز یہاں ادا کرنے میں ثواب میں تو کمی نہ ہوگی اور افضلیت کس میں ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسی صورت میں مسجد کا ثواب نہ ملے گا اور مسجد کو معطل کرنے کا وبال مستقل ہوگا، جماعت کا ادا کرنا مسجد میں بالیقین افضل ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۳/۶/۶۱ھ۔

جواب صحیح ہے: سعید احمد غفرلہ، ۹/شوال/۶۱ھ۔

صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۹/شوال/۶۱ھ۔

(۱) "وفناء المسجد له حكم المسجد يجوز الاقتداء فيه وإن لم تكن الصفوف متصلة". (البحر الرائق،

كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۶۳۵، رشیدیہ)

(و كذا في الفتاوى العالمكبرى، كتاب الصلوة، الباب السابع فيما يفسد الصلوة وما يكره فيها، فصل

كره غلق باب المسجد: ۱/۱۰۹، رشیدیہ)

(و كذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۸۵، سعید)

(۲) تنبیہ: "جو حصہ صحن مسجد کا غیر مسقف ہو اور موسم گرما میں اکثر اس میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے وہ داخل مسجد =

امام مسجد کا اقتداء خارج مسجد اور مدرسہ سے

سوال [۲۹۵۳]: مسجد اور مدرسہ کے درمیان ایک راستہ ہے، جمعہ کے روز جب نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں تو بہت سے لوگ مدرسہ میں جمعہ ادا کرتے ہیں، جبکہ اس گلیاری میں جوتے وغیرہ پڑے رہتے ہیں، نیز مدرسہ کی چھت پر بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی شرکت نماز میں ہوگی یا نہیں، یا ناجائز ہے جبکہ راستہ چھٹا ہوا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر یہ گلی اتنی کشادہ ہے کہ اسمیں گاڑی گذر سکتی ہے تو یہ مانع اقتداء ہے ورنہ مانع نہیں (۱)، مسجد میں جگہ

= ہوتا ہے، جملہ احکام مسجد اس سے متعلق ہوتے ہیں، وہ بالکل مثل مسقف کے ہے، اس میں جماعت کرنے سے جماعت کا ثواب ملے گا، اس کا منہدم کرنا جائز نہیں، معتکف غیر مسقف صحن مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے، دیگر عبادات کرنے سے اعتکاف میں کوئی نقصان نہ آئے گا، فقہاء غیر مسقف حصہ کو مسجد صحنی اور مسقف حصہ کو مسجد شتوی کہتے ہیں۔ (عزیز الفتاویٰ، ص: ۲۵۰، إدارة المعارف دارالعلوم)

”وفناء المسجد له حكم المسجد حتى لو قام في فناء المسجد واقتدى بالإمام، صح اقتداؤه وإن لم تكن الصفوف متصلةً ولا لمسجد ملآن“۔ (الفتاویٰ العالمکیرية، الفصل الثانی فیما یکره الصلاة وما لا یکره: ۱/۱۰۹، رشیدیہ)

(و کذا فی الحلبي الكبير، فصل فی احکام المسجد، ص: ۶۱۴، سهیل اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی شرح الحموی علی الأشباه والنظائر، باب فناء المسجد له حكم المسجد: ۱/۴۳۴، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية کراتشی)

(۱) ”ويمنع من الاقتداء طريق أو نهر فيه السّفن، أو خلاء في الصحراء يسع صفيين“۔ (الدر المختار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۸۴، ۵۸۵، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیرية، کتاب الصلوة الخامس فی الإمامة، الفصل الرابع فی بیان ما یمنع الاقتداء وما لا یمنع: ۱/۸۷، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتارخانية، کتاب الصلوة، الفصل السادس فی الإمامة، أما بیان ما یمنع الاقتداء وما لا یمنع: ۱/۶۱۲، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية کراچی)

نہ رہنے کی وجہ سے اگر باقی ماندہ نمازی مسجد کی چھت پر کھڑے ہو جائیں تو درست ہے، کذا فی الفتاویٰ

العالمکیریۃ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۱۰/۸۵ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: سید احمد علی سعید، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند۔

جوتے اتارنے کی جگہ سے اقتدا

سوال [۲۹۵۲]: وضو کرنے کی جگہ سے ایک فٹ نیچائی پر قریب دو میٹر چوڑی جوتے اتارنے کی

زمین ہے، یہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، یہاں نل کی لائن ہے جو ایک میٹر اونچی دیوار سے ملحق ہے، یہاں

بھی وضو کیا جاتا ہے۔ اس ایک میٹر اونچی دیوار کے بعد ایک جگہ جہاں موذن وغیرہ سوتے ہیں اور مسجد کا دیگر

سامان رکھا رہتا ہے، یہ جگہ صحن مسجد سے قریب چار صفوں کی دوری کی مقدار پر ہے، درمیان میں جوتے اتارنے

کی جگہ، دونوں جانب وضو کرنے کا مقام ہے۔ یہاں امام کی اقتداء صحیح ہوگی یا نہیں؟

نوٹ: صحن مسجد سے اوپر چھت پر جانے کا راستہ ہے یہ راستہ اس جگہ کے اوپر سے جہاں موذن

وغیرہ سوتے ہیں مسجد کی چھت پر جاتا ہے، اس جگہ اوپر بھی چھت ہے جو کہ صحن مسجد سے ملحق ہے۔

(۱) "ولو قام علی سطح المسجد واقتدی بامام فی المسجد، إن كان للسطح باب فی المسجد

ولا یشتبہ علیہ حال الإمام، یصح الاقتداء، وإن اشتبه علیہ حال الإمام لا یصح، کذا فی فتاویٰ قاضیخان.

وإن لم یکن له باب فی المسجد لکن لا یشتبہ علیہ حال الإمام، صح الاقتداء أيضاً." (الفتاویٰ

العالمکیریۃ، کتاب الصلوۃ، الباب الخامس فی الإمامۃ، الفصل الرابع بیان ما یمنع صحۃ الاقتداء

وما لا یمنع: ۱/۸۸ رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوۃ، باب الإمامۃ: ۱/۶۳۳، ۶۳۵، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتاریخانیۃ، کتاب الصلوۃ، الفصل السادس فی الإمامۃ، أما بیان ما یمنع صحۃ

الاقتداء وما لا یمنع: ۱/۶۱۶، إدارة القرآن کراچی)

الجواب حامداً ومصلیاً:

یہ جوتے اتارنے کی جگہ طریق عام خارج مسجد ہے، اس کے محض راستہ ہونے کی وجہ سے تو یہ اقتداء سے مانع نہیں، لیکن یہ جگہ مسجد نہیں، خارج مسجد ہے اور خارج مسجد بقدر چار صفوں کے جگہ کا خالی رہنا بھی اقتداء سے مانع ہے۔ پس اس کا انتظام کیا جائے کہ اس خالی جگہ میں تین چار مقتدی کھڑے ہو جایا کریں: ”ویمنع من الاقتداء طریق تجری فیہ عجلة“۔ در مختار۔ ”وفہم ذلك من التعبير عنه فی عدة كتب بالطریق العام، وفی التاتارخانیہ: فی مسجد الرباط، الخ“۔ شامی، ص: ۳۹۳ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند ۱۹/۷/۹۳ھ۔

مسجد کے دروں میں صف بنانا

الاستفتاء [۲۹۵۵]: زید اس بات پر مصر ہے کہ جس طرح امام کا محراب مسجد اور درہائے مسجد میں کھڑا ہونا مکروہ ہے اسی طرح مقتدی کا بھی درہائے مساجد میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، حالانکہ کتب فقہ: شرح وقایہ، ہدایہ، عالمگیری، درمختار، ردالمحتار (۲) وغیرہ میں صرف امام ہی کے لئے مکروہ تنزیہی تحریر ہے مقتدی کے لئے کوئی قید

(۱) (ردالمحتار علی الدر المختار، کتاب الصلوۃ، باب الإمامة: ۱/۵۸۲، ۵۸۵، سعید)

(و کذا فی الفتاوی التاتارخانیة، کتاب الصلاة، الفصل السادس فی الإمامة، أما بیان ما یمنع صحة الاقتداء وما لا یمنع: ۱/۶۱۲، إدارة القرآن کراچی)

(و کذا فی المبسوط، کتاب الصلوۃ، باب الحدث فی الصلوۃ: ۱/۳۵۱، المكتبة الغفاریہ کوئٹہ)

(۲) ”وقیام الإمام فی طاق المسجد“، (شرح الوقایة، کتاب الصلوۃ، باب ما یفسد الصلوۃ ما یکرہ فیہا: ۱/۱۶۸، سعید)

”ولا بأس بأن یكون مقام الإمام فی المسجد و سجوده فی الطاق، و یکرہ أن یقوم فی الطاق“.

(الهدایة، کتاب الصلوۃ، فصل فی مکروهات الصلوۃ: ۱/۱۴۱، مکتبه شركة علمیه ملتان)

”ویکرہ قیام الإمام وحده فی الطاق: وهو المحراب، و لا یکرہ سجوده فیہ إذا کان قائماً خارج

المحراب“، (الفتاوی العالمگیریة، کتاب الصلوۃ، الباب السابع فیما یفسد الصلوۃ و ما یکرہ: ۱/۱۰۸، رشیدیہ)

”و قیامہ فی المحراب لا سجوده فیہ“، (الدر المختار، کتاب الصلوۃ، باب ما یفسد الصلوۃ و

ما یکرہ فیہا: ۱/۶۳۵، سعید)

نہیں، لیکن زید اس امر پر مُصر ہے کہ اندر کے صحن میں دو صف پوری ہو چکیں، اب جو درہائے مساجد ہیں ان میں اگر مقتدی کھڑے ہوں گے تو صفوف کے ٹکڑے ہو جائیں گے..... اور صفوف کے ٹکڑے کرنا جائز نہیں، بلکہ درہائے مساجد میں جن کے اندر ہر درہ میں قریب پانچ آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں اس جگہ کو خالی چھوڑ کر باہر کے صحن میں کھڑا ہونا چاہئے تاکہ صف نہ ٹوٹے۔

تو کیا بقول زید درہائے مساجد میں مقتدیوں کا کھڑا ہونا قطع صفوف کا مرادف ہے اور کیا اس قدر خالی جگہ بلا وجہ چھوڑ کر صفوف میں فاصلہ کرنا جائز ہے؟ زید مکروہ کی دلیل پیش نہیں کرتا بلکہ درہائے مساجد میں مقتدیوں کے کھڑے ہو کر اقتداء کرنے کا ثبوت طلب کرتا ہے۔ مفصل برائے خدا جواب بحوالہ کتب جلد از جلد عنایت فرمائیں۔ خدا آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔

مقیم الدین پیش امام۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

اگر زید کو صرف اس امر کا ثبوت درکار ہے کہ بوقت ضرورت مقتدیوں کو درہائے مساجد میں کھڑا ہو کر پانچ آدمیوں کی چھوٹی چھوٹی صفیں بنا کر پڑھنا درست ہے تو اس کا مبسوط سہرخی میں جزئیہ موجود ہے:

”والاصطفاف بين الأستوانتين غير مكروه؛ لأنه صفت في حق كل فريق وإن لم يكن طويلاً. وتخلل الأستوانة بين الصف كتخلل متاع موضوع أو كفرجة بين رحلين، وذلك لا يمنع عسحة الاقتداء ولا يوجب الكراهة، اهـ.“ مبسوط: ۲/۳۵ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، صحیح: عبداللطیف۔

مسجد کے دروں میں کھڑا ہونا

سوال [۲۹۵۶]: اگر مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہو اور باہر محراب میں جگہ خالی ہو اور باہر فرش پر بھی نمازی ہوں تو اس سورت میں نماز میں کچھ خلل تو نہیں آئے گا؟ نیز اگر درمیان محراب میں ایک آدمی یا دو چار آدمی کھڑے ہو جائیں تو کچھ حرج تو نہ ہوگا یعنی درمیان محراب میں خالی جگہ چھوڑنا اور تنہا آدمی اور دو چار آدمیوں

(۱) (المبسوط للسرخسی، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجمعة: ۲/۵۴، غفاریہ کوئلہ)

کا کھڑا ہونا کیسا ہے، کوئی شکل جائز اور کوئی ناجائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

صورتِ مسئلہ میں محراب کو خالی چھوڑنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا اور دو چار آدمی کا صف بنا کر کھڑا ہونا بھی درست ہے، ایک آدمی کو تنہا نہیں کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۸/۱۰/۵۵ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۱۲/شوال/۵۵ھ۔

اتصالِ صفوف برائے اقتداء

سوال [۲۹۵۷]: اگر بارش ہو اور مسجد کے صحن میں مقتدی کھڑے نہ ہو سکتے ہوں اور صحن کے پاس متصل دوسرا مکان اوپر ہو یا نیچے، وہاں کھڑے ہو کر مسجد کے امام کے پیچھے اقتدا کر کے نماز پڑھے تو صحیح ہے یا نہیں، جب کہ اتصالِ صفوف بارش کی وجہ سے نہیں؟

۲..... امام مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں اور مقتدی بالکل منتہائے مسجد میں ہے، اقتداء صحیح ہے یا نہیں؟
محمد بشیر رنگوہی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر وہ مسجد صغیر ہے اور اس مکان کو مسجد سے دو صفوں کی مقدار کا فصل نہیں اور امام کے انتقالات و احوال کا اشتباہ نہیں ہوتا بلکہ علم ہوتا رہتا ہے خواہ امام کی آواز سے یا مکبر کی آواز سے تو اقتداء صحیح ہے (۲) اور اگر مسجد

(۱) "والاصطفاف بين الأستوانتين غير مكروه؛ لأنه صف في حق كل فريق". (المبسوط، باب الجمعة: ۵۴/۲، غفاریہ كوئٹہ)

"إذا اتصلت الصفوف، فيصح مطلقاً، كأن قام في الطريق ثلاثة، و كذا إثنان عند الثاني، لا واحد اتفاقاً؛ لأنه لكراهة صلاته، صار وجوده كعدمه في حق من خلفه". (الدر المختار، باب الإمامة: ۵۸۶/۱، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقتداء و ما لا يمنع: ۸۷/۱، رشیدیہ)

(۲) "أما في البيت مع المسجد، لم يتخلل إلا الحائط، ولم يختلف المكان، وعند اتحاد المكان، يصح =

کبیر ہے جیسے مسجد قدس، یا دو صفوں کی مقدار کا فصل ہے، یا امام کا حال مشتبه رہتا ہو تو اقتداء صحیح نہیں ہے، ہکذا
یفہم من شروط الاقتداء المذكورة فی الشامی (۱)۔

۲..... عدم اتصال کی صورت میں مسجد صغیر میں اقتداء صحیح ہوتا ہے (۲)، بہت بڑی میں صحیح نہیں جیسے
قدس کہ بہت بڑی مسجد ہے، اس میں صحیح نہیں (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۸/۲/۵۳ھ۔

= الاقتداء إذا اشتبه عليه حال الإمام اهـ۔“

”أقول : حاصل کلام الدرر أن اختلاف المكان مانع مطلقاً، و أما إذا اتحد، فإن حصل اشتباه منع، وإلا
فلا، وما نقله عن قاضیخان صریح فی ذلك.“ (ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۸۷/۱، سعید)

”و يجوز اقتداء جار المسجد بإمام المسجد وهو فی بيته إذا لم یکن بینہ و بین المسجد طریق
عام.“ (الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلوة، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل الرابع فی بیان ما یمنع
صحة الاقتداء و ما لا یمنع: ۸۸/۱، رشیدیہ)

(۱) ”و یمنع من الاقتداء طریق تجری فیہ عجلة، أو نهر تجری فیہ السفن، أو خلایء: أى فضاء فی
الصحراء أو فی مسجد کبیر جداً کمسجد القدس یسع صفین و الحائل لا یمنع الاقتداء إن لم
یشته حال إمام و لم یختلف المكان.“

”والمسجد وإن کبر لا یمنع الفاصل إلا فی الجامع القدیم بخوارزم، فإن رُبعه کان علی أربعة آلاف
أسطوانة، و جامع القدس الشریف أعنی ما یشتمل علی المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبیضاء، کذا فی
البرزازیة أقول : حاصل کلام الدرر أن اختلاف المكان مانع مطلقاً و أما إذا اتحد، فإن حصل اشتباه، منع،
و إلا فلا.“ (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۸۳/۱، ۵۸۷، سعید)

(و کذا فی الحلبي الكبير، شروط المحاذاة، ص: ۵۲۴، سهیل اکیڈمی لاہور)

(۲) ”والحائل لا یمنع الاقتداء إن لم یشته حال إمامه و لم یختلف المكان.“ و قال ابن عابدین رحمہ اللہ
تعالیٰ: ”(قوله: کمسجد و بیت) فإن المسجد مکان واحد، و لذا لم یعتبر فیہ الفصل بالخلایء، إلا إذا کان
المسجد کبیراً جداً.“ (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۸۶/۱، سعید)

(۳) (راجع رقم: ۱)

مسجد اور متصل حجرہ میں جماعت کی صف بنانا

سوال [۲۹۵۸]: مسجد کے دائیں جانب میں ایک کمرہ ہے اور اس کا دروازہ مسجد میں کھلا ہوا ہے اور برآمدہ مسجد اور کمرہ کا ایک سا ہی معلوم ہوتا ہے، اگلی صف مسجد اور کمرے میں سیدھی ہو کر ایک ہی آجاتا ہے، تو اس حالت میں جماعت ہوتے ہوئے اگلی صف کمرے اور مسجد دونوں کی ایک جماعت ہو جاوے یا کہ مسجد کی جماعت پوری کر کے پھر مسجد میں ہی دوسری صف میں کھڑا ہونا چاہئے، جب کہ نمازی اتنے ہیں کہ کمرے اور مسجد کی ایک صف پوری ہو کر شاید ہی کبھی دو چار آدمی بچے ہوں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مسجد میں صف پوری ہو جائے تو اس کے پیچھے دوسری صف بنالی جائے (۱)، کمرے اور اس کے آگے برآمدے میں اس وقت کھڑے ہوں جب مسجد میں اور اس کے برآمدہ میں اور صحن میں جگہ نہ ہو (۲)۔
فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) ”عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”أتمّوا الصف المقدم، ثم الذي يليه، فما كان من نقص، فليكن في الصف المؤخر“.

وقال السهاري نفوري رحمه الله تعالى: ”عن أنس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”أتمّوا“: أي أكملوا ”الصف المقدم: أي الأول ”ثم الذي“: أي الصف الذي ”يليه“: أي يتصل الأول، وهو الثاني اهـ“.(بذل المجهود، كتاب الصلوة، باب تسوية الصفوف : ۳۶۲/۱، إمداديه ملتان)

”و خير صفوف الرجال أولها في غير جنازة، ثم و ثم“.(الدر المختار). ”قوله: ثم و ثم“: أي

الصف الثاني أفضل من الثالث اهـ“.(ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۵۷۰/۱، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة : ۶۱۹/۱، رشيديه)

(۲) ”ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحنة مكاناً، كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة، قلت: و بالكراهة أيضاً صرح الشافعية“.(الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة :

مسجد کے وضو خانہ اور استنجا خانہ کی چھت کا حکم

سوال [۲۹۵۹]: ایک مسجد ہے جس کی باہر گیٹ ہے، سامنے اس گیٹ کے اندرونی ایک طرف استنجا خانہ ہے اور دوسری طرف وضو خانہ کے اوپر اور استنجا خانہ کے اوپر کمرے ہیں، ان سب کے اوپر پوری ایک چھت ہے اور یہ چھت مسجد کے فوقانی کا برآمدہ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ چھت مسجد کے اندر داخل ہو گئی ہے یا نہیں، جبکہ اس کے نیچے کا حصہ مسجد میں داخل نہیں ہے؟ اس چھت کے بارے میں (حالانکہ بعد میں بنائی گئی ہے) لوگوں کو خیال ہو رہا ہے کہ یہ داخل ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خارج ہے، اسی وجہ سے جماعتِ ثانی بہت سے لوگ نہیں کرتے، اور کچھ لوگ بلا کھٹک کر لیتے ہیں۔ اور مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے تہ خانہ بنا کر کمرہ یا استنجا خانہ بنا سکتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

صحن کا جو حصہ نماز کے لئے تجویز کیا گیا ہے اس کے اوپر کی چھت تو مسجد ہے (۱)، لیکن وضو خانہ اور استنجا خانہ کے اوپر کی جو چھت ہے وہ شرعی مسجد نہیں، اس پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے (۲)، اگر اتفاقاً کبھی دو چار آدمی جماعت سے گئے، مثلاً: سفر سے ایسے وقت آئے کہ جماعت ہو چکی ہے تو ان کو وہاں جماعت کرنا ممنوع

(۱) ”وكره الوطاء فوق المسجد، وكذا البول والتغوط؛ لأن سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء بمن تحته“۔ (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، فصل: كره استقبال القبلة الخ: ۶۰/۲، رشیدیہ)

(و كذا في الهداية، كتاب الصلاة، فصل: يكره استقبال القبلة: ۱/۱۴۴، مکتبہ شریعت علمیہ، ملتان)

(۲) ”وفی فتاویٰ الفضلی: بیت فوقہ بیت، و هو متصل بالمسجد، يتصل صف المسجد بصف البيت الأسفل، ويصلى في البيت الأسفل في الصيف والشتاء، اختلف أهل المسجد و أرباب البيت الذين يسكنون العلو، قال الأرباب: إن ذلك ميراث لنا، فالقول قولهم“۔ (التاتارخانية، كتاب الوقف الدعوى، والخصومات والشهادات: ۵/۸۲۹، إدارة القرآن کراچی)

و مکروہ نہیں (۱)، لیکن اس کی عادت نہ ڈالی جائے۔ جو مسجد بن چکی ہے اس کے نیچے تہ خانہ یا استنجہ خانہ یا کمرہ بنانے کی اجازت نہیں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔



(۱) ”وعن أبي يوسف: إذا لم تكن على الهيئة الأولى، لا تكره، وإلا تكره، وهو الصحيح. وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازیة اهـ.“ (ردالمحتار، کتاب الصلاة، باب الأذان : ۱ / ۳۹۵، سعید)

(و کذا فی الحلبي الكبير، فصل: أحكام المساجد : ۶۱۲، سهيل اكيذمي لاهور)

(۲) ”وأما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع.“ (الدرالمختار). ”وأما لو تمت المسجدية ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك.“ (ردالمحتار، کتاب الوقف مطلب فی أحكام المسجد: ۳۵۸/۳، سعید)

”وإذا أراد الإنسان أن يتخذ تحت المسجد حوانيت غلة لمرمة المسجد أو فوقه ليس له ذلك كذا في الذخيرة.“ (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الوقف، الباب الحادى عشر فى المسجد وما يتعلق به : ۲ / ۳۵۵، رشيديه)

باب المسبوق واللاحق

(مسبوق اور لاحق کا بیان)

مسبوق کی تعریف

سوال [۲۹۶۰]: مسبوق کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو شخص جماعت میں شروع سے شریک نہ ہو بلکہ اس کی کوئی رکعت فوت ہوگئی اسے مسبوق کہتے ہیں (۱)، اس کا حکم یہ ہے کہ امام کے فارغ ہونے کے بعد فوت شدہ نماز پوری کرے اور پہلی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورت بھی پڑھے، شامی: ۴۰۰/۱ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حرره العبد محمود غفرلہ۔

(۱) ”(والمسبوق من سبقه الإمام بها [أى بركعة] أو ببعضها و هو منفرد) حتى يثنى و يتعوذ و يقرأ (فيما يقضيه)“ . (الدرالمختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۹۶/۱، سعيد)

(و كذا فى الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الصلوة، الباب الخامس فى الإمامة، الفصل السابع فى المسبوق
اه: ۹۰/۱، رشيدية)

(و كذا فى بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، وأما بيان كيفية القضاء: ۵۶۳/۱، رشيدية)

(۲) ”إن المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه، قال: تخلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
— فذكر هذه القصة— قال: فأتينا الناس و عبد الرحمن بن عوف يصلى بهم الصبح، فلما رأى النبى
صلى الله تعالى عليه وسلم أراد أن يتأخر، فأومى إليه أن يمضى، قال: فصليت أنا، والنبى صلى الله
تعالى عليه وسلم خلفه ركعة، فلما سلم، قام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى الركعة التى سبق
بها و لم يزد عليها شيئاً“.

قال الشيخ ظفر أحمد العثماني نور الله مرقده تحت هذا الحديث: ”إن المغيرة رضى الله =

مسبوق کی نماز کا طریقہ

سوال [۲۹۶۱]: اگر کوئی شخص جماعت میں اس وقت پہنچے جب کہ امام نے دو ایک رکعت پڑھ لی ہو، تو جب یہ شخص اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہو تو ثناء، تعوذ، تسمیہ پڑھنا ہوگا یا نہیں؟
حافظ عبدالشکور زہد پوردار۔

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ شخص ثناء، تعوذ، تسمیہ تینوں چیزیں پڑھے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

مسبوق کا حکم

سوال [۲۹۶۲]: جماعت ہو رہی ہے اور امام کی ایک رکعت ہو گئی دوسری رکعت میں مقتدی آ کر ملا، جو ایک رکعت مقتدی کی رہ گئی ہے وہ خالی پڑھنی چاہئے یا بھری پڑھنی چاہئے اور امام نے پہلی رکعت میں ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ اور دوسری میں ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ پڑھی امام قرآن کی ترتیب ختم کر چکا تو مقتدی کو کیا پڑھنا چاہئے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بھری پڑھے اور ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ پڑھے (۲)۔

= تعالیٰ عنہ قال: فلما سلم قام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يقل: صلى الركعة التي بقيت منه، فهو يدل على أن مافاته: أي المسبوق هو أول صلاته، و ما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته، و به نقول“ (إعلاء السنن، أبواب الإمامة، باب المسبوق يقضى الخ: ۳/۳۲۳، إدارة القرآن كراچی) ”ويقضى أول صلاته في حق قراءة، و آخرها في حق تشهد، فمدرك ركعة من فجر يأتي بركتين بفاتحة و سورة و تشهد بينهما، و برابعة الرباعي بفاتحة فقط، و لا يقعد قبلها“ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۹۶، ۵۹۷، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، باب الإمامة، الفصل السابع في المسبوق: ۱/۹۱، رشيدية)
(۱) (راجع للتخريج، ص: ۵۴۲، رقم الحاشية: ۱)

(۲) ”إن المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه، قال: تخلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم—فذكر =

مبسوق امام کے سجدہ سہو کے بعد شریک ہوا

سوال [۲۹۶۳]: اگر مسبوق سجدہ سہو کے بعد قعدہ میں شریک ہوا تو وہ اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے یا نہیں؟ جب کہ امام بقدر تشہد بیٹھ کر قعدہ ادا کر چکا ہے تو اب سجدہ سہو کے بعد جو قعدہ ہوگا وہ فرض ہوگا یا واجب؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو مسبوق امام کے سجدہ سہو کے بعد قعدہ میں شریک ہوا اس کے ذمہ اس کی وجہ سے سجدہ سہو مستقلاً واجب نہیں ہوگا (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۱۰/۸۸ھ۔

سجدہ سہو کے بعد اقتداء کا حکم

سوال [۲۹۶۴]: اگر امام نے سجدہ سہو کیا اور اسکے بعد ایک شخص آ کر جماعت میں شریک ہوا تو امام کے سلام کے بعد وہ شخص آیا، اسی نیت اور تحریمہ سے نماز پوری کرے یا دوبارہ مستقل نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہے؟

= هذه القصة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلفه ركعة، فلما سلم، قام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يزد عليها شيئاً.

”إن المغيرة رضى الله تعالى عنه قال: فلما سلم، قام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فصلى الركعة التي سبق بها، ولم يقل: صلى الركعة التي بقيت منه، فهو يدل على أن ما فاتته: أى المسبوق هو أول صلاته، وما أدرك مع الإمام هو آخر صلاته، وبه نقول.“ (إعلاء السنن، أبواب الإمامة، باب المسبوق يقضى الخ: ۳۲۳/۲، إدارة القرآن، كراچی)

”ومنها أنه يقضى أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين، و فصل بقعدة، فيكون بثلاث قعدات، وقرأ في كل فاتحة و سورة.“ (الفتاوى العالمية، كتاب الصلوة، باب الإمامة، الفصل السابع في المسبوق الخ ۹۱/۱، رشيدية)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۹۶/۱، ۵۹۷، سعيد)

(۱) (راجع، ص: ۵۴۵، رقم الحاشية: ۱)

الجواب حامداً ومصلياً:

اسی نیت اور تحریمہ سے نماز پوری کرے، طحطاوی، ص: ۲۵۶ (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

ایضاً

سوال [۲۹۶۵]: ایک شخص فرضوں یا ترووں یا تراویح میں امام کے ساتھ سجدہ سہو کے بعد آ کر شامل ہوا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں، یا اس کو نماز لوٹانا پڑے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سجدہ سہو کے بعد امام کا اقتدا کرنا درست ہے اس وجہ سے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، کذا فی مراقی الفلاح، ص: ۲۷۳ (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۸/۱۰/۵۵ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۱۲/شوال/۵۵ھ۔

(۱) ”(و يلزم المأموم) السجود مع الإمام (بسہو إمامه)؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم سجد و سجد القوم معه، وإن اقتدى به بعد سہو وإن لم يدرك إلا ثانيتهما لا يقضى الأولى كما لو تركهما الإمام أو اقتدى به بعدهما لا يقضيهما.“

قال الطحطاوی: ”قوله (و يلزم المأموم السجود) عمّ كلامه المدرك والمسبوق واللاحق..... (أو اقتدى به بعدهما) بأن اقتدى به في تشهد السهو.“ (حاشية الطحطاوی على مراقی الفلاح، كتاب، الصلوة، باب سجود السهو، ص: ۲۶۴، قديمی)

”والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقاً سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده“ (الدرالمختار)
 ”(قوله: سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده) بيان للإطلاق، و شمل أيضاً ما إذا سجد الإمام واحداً، ثم اقتدى به. قال في البحر: فإنه يتابعه في الأخرى و لا يقضى قضاء الأولى كما لا يقضيها لو اقتدى بعد ما سجدهما.“ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۸۳/۲، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الثاني عشر في سجود السهو: ۱/۲۸، رشيدية)
 (و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل: وأما بيان من يجب عليه السهو: ۱/۴۲۳، رشيدية)

(۲) ”(و يلزم المأموم) السجود مع الإمام (بسہو إمامه)؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم سجد و سجد =

ایضاً

سوال [۲۹۶۶]: امام پر سجدہ سہو واجب ہوا، سجدہ سہو کے بعد اور سلام سے پہلے اگر کوئی مسبوق نیت باندھ کر امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو کیا اس کی اقتداء درست ہے؟ ہمارے یہاں بعض مفتی نے فتویٰ دیا کہ اقتداء درست ہے اور بعض نے کہا کہ اقتداء درست نہیں۔ صحیح کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس حالت میں بھی اقتداء درست ہے: ”والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقاً سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده اهـ“۔ درمختار۔ ”وشمل أيضاً ما إذا سجد الإمام واحداً ثم اقتدى به، قال في البحر: فإنه يتابعه في الأخرى، ولا يقضى الأولى، كما لا يقضيها لو اقتدى بعد ما سجدهما، اهـ“۔ شامی، ص: ۶۹۶ (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۱۴/۱/۱۴۰۱ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۴/۱/۱۴۰۱ھ۔

= القوم معه، وإن اقتدى به بعد سهوه، وإن لم يدرك إلا ثانيتهما لا يقضى الأولى كما لو تركهما الإمام أو اقتدى به بعدهما لا يقضيها“۔ (مراقی الفلاح، كتاب الصلوة، باب سجود السهو، ص: ۴۶۳، قديمی)

”سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السجود، كذا في المحيط، ولا يشترط أن يكون مقتدياً به وقت السهو، حتى لو أدرك الإمام بعد ما سهاها، يلزمه أن يسجد مع الإمام تبعاً، ولو دخل معه بعد ما سجد سجدة السهو، يتابعه في الثانية ولا يقضى الأول، وإن دخل معه بعد ما سجدهما لا يقضيها“۔

(الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الصلوة، الباب الثاني عشر في سجود السهو: ۱/۲۸، رشيدية)

(و كذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۲/۸۳، سعيد)

”ولو أدرك الإمام بعد ما سلم للسهو، فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: أما إن أدركه قبل السجود أو في حال السجود أو بعد ما فرغ من السجود..... وإن أدركه بعد ما فرغ من السجود، صح اقتداءه به، وليس عليه السهو بعد فراغه من صلاة نفسه الخ“۔ (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل: وأما بيان من يجب عليه السهو: ۱/۴۲۳، رشيدية)

(۱) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۲/۸۳، سعيد) =

اقتداء بعد لفظ "السلام"

سوال [۲۹۶۷]: ایک شخص ایسے وقت آیا جب امام صاحب نے سلام پھیرنا شروع کیا، ابھی امام صاحب السلام ہی کہنے پائے تھے کہ یہ شخص شامل ہو گیا۔ کیا ایسی صورت میں اقتداء صحیح ہوگئی؟
انیس الرحمن نیپال۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

یہ اقتداء صحیح نہیں ہوئی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

"(و يلزم المأموم) السجود مع الإمام (بسهو إمامه)؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم سجد و سجد القوم معه، وإن اقتدى به بعد سهو ه وإن لم يدرك إلا ثانيتهما، لا يقضى الأولى كما لو تركهما الإمام، أو اقتدى به بعدهما لا يقضيهما". (مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، باب سجود السهو، ص: ۴۶۴، قديمی)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الباب الثاني عشر في سجود السهو ۱/ ۱۲۸، رشيدیه)
(۱) چونکہ امام کے دائیں جانب سلام پھیرنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے تو اقتداء بھی درست نہیں ہوتی: "قال في التجنيس:
الإمام إذا فرغ من صلاته، فلما قال: السلام، جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول: عليكم، لا يصير داخلًا في صلاته الخ". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة ۱/ ۴۶۸، سعيد)
"فلو اقتدى به بعد لفظ السلام الأول قبل عليكم، لا يصح عند العامة". (حاشية الطحطاوى

على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في بيان واجب الصلوة، ص: ۲۵۱، قديمی)
"وأما حكمه فهو الخروج من الصلوة، ثم الخروج يتعلق بإحدى التسليمتين عند عامة العلماء، وقد روى عن محم د أنه قال: التسليمة الأولى للخروج والتحية، والتسليمة الثانية للتحية خاصة".
(بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل: وأما الذي هو عند الخروج من الصلوة فلفظ السلام: ۱/ ۴۵۷، مكتبة رشيدیه)

"عن على رضى الله تعالى عنه مرفوعاً: "مفتاح الصلوة الطهور و تحريمها التكبير وتحليلها التسليم". (إعلاء السنن، كتاب الصلوة، باب وجوب الخروج من الصلوة والسلام الخ: ۳/ ۱۴۰، إدارة القرآن كراچی)

دائیں جانب سلام پھیرنے کے بعد امام کی اقتدا

سوال [۲۹۶۸]: امام نے دائیں جانب سلام پھیرا تھا کہ بائیں جانب سلام پھیرنے سے قبل ایک شخص نے آکر اقتدا کر لی اقتدا صحیح ہوئی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نہیں صحیح ہوئی: ”و تنقض قدوة بالأول قبل عليكم“. درمختار۔ ”أى بالسلام الأول، قال فى التجنيس: الإمام إذا فرغ من صلواته، فلما قال: السلام، جاء رجل واقتدى به قبل أن يقول: عليكم، لا يصير داخلًا فى صلواته“. شامی: ۱/۴۳۶ (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسبوق نے تکبیر تحریمہ کہی اور امام نے سلام پھیر دیا

سوال [۲۹۶۹]: مسبوق نے آکر نیت باندھی تھی، ابھی وہ کھڑا ہی تھا، بیٹھنے نہ پایا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ اب یہ مسبوق کیا کرے، باندھے ہوئے تحریمہ کی نماز پوری کرے یا نئے سرے سے پھر نیت باندھے اور اکیلا نماز پڑھے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ مسئلہ مجھے نہیں ملا بہت جگہ تلاش کیا، ضابطہ کلیہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ نماز کے کسی فعل میں شریک نہیں ہوا، صرف تکبیر کہہ کر کھڑا ہوا، جب امام قعدہ میں ہے اور اس نے سلام پھیر دیا تو اس نے امام کے ساتھ قعدہ میں شرکت نہیں کی بلکہ امام کے سلام کی وجہ سے امام نماز سے خارج ہو گیا اور اس مسبوق نے اقتداء کی

(۱) (رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة ۱/۴۶۸، سعید)

”فلو اقتدى به بعد لفظ السلام الأول قبل عليكم، لا يصح عند العامة“. (حاشية الطحطاوى

على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل فى بيان واجب الصلوة، ص: ۲۵۱، قديمى)

”وأما حكمه فهو الخروج من الصلوة، ثم الخروج يتعلق بإحدى التسليمتين عند عامة

العلماء، وقد روى عن محمد أنه قال: التسليمة الأولى للخروج والتحية، والتسليمة الثانية للتحية

خاصة“. (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل: وأما الذى هو عند الخروج من الصلوة فلفظ السلام:

۱/۴۵۷، رشيدية)

نیت کی ہے، سلام امام کی وجہ سے جو مسبوق پہلے سے شریک ہو منفرد ہو جاتا ہے، نیت اقتدا محل افراد میں مفسد ہے، اس کو دوبارہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنا چاہئے۔ مگر اس کو دیگر علماء سے بھی تحقیق کر لیا جاوے، شاید کسی صاحب کے سامنے فقہی جزئیہ موجود ہو (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

اگر مسبوق قصد امام کے ساتھ سلام پھیر دے

سوال [۲۹۷۰]: امام نے سجدہ سہو کرنے کے لئے سلام پھیرا، مسبوق نے بھی قصد امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، اس نے یہ سمجھا کہ سجدہ سہو کا سلام مجھے بھی امام کے ساتھ کرنا چاہئے۔ تو ایسی صورت میں اس مسبوق کی نماز کا کیا حکم ہے؟

(۱) ”جب مسبوق مقتدی نے امام کے سلام سے پہلے امام کی نماز میں شریک ہونے کی نیت سے تکبیر تحریمہ ادا کر لی تو وہ امام کی نماز میں داخل ہو گیا، اس لئے کہ صحت اقتداء کے لئے تحریمہ بہ نیت اقتداء کہنا کافی ہے، اقتداء کی صحت صرف نیت اقتداء کیساتھ تکبیر تحریمہ کہنے سے ہو جاتی ہے، پس اگر مقتدی کے بیٹھنے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی اسی تحریمہ سے مسبوق کی طرح نماز ادا کرے۔“ (کفایت المفتی، کتاب الصلاة، فصل فی المسبوق واللاحق تحت عنوان: ”مسبوق کے تکبیر تحریمہ کہتے ہی امام نے سلام پھیر دیا تو نماز ہوئی یا نہیں؟“: ۳/۴۳۸، دار الإشاعت کراچی)

”نية المؤتم الاقتداء“ (الدر المختار). وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”أى الاقتداء بالإمام أو الاقتداء به فى صلاته أو الشروع فيهما أو الدخول فيهما..... وشرط النية أن تكون مقارنة للتحريم“ (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة ۱/۵۵۰، سعيد)

” (و شروط صحة الاقتداء أربعة عشر شيئاً) تقريباً (نية المقتدى المتابعة مقارنة لتحريمته)، إما مقارنة حقيقة أو حكمية كما تقدم، فينوى الصلاة والمتابعة أيضاً“ (مراقى الفلاح).

” (قوله نية المقتدى المتابعة) كأن ينوى معه الشروع فى صلاته أو الاقتداء به فيها، ولو نوى الاقتداء به لا غير الأصح أنه يجزيه و تنصرف إلى صلاة الإمام وإن لم يكن للمقتدى علم بها؛ لأنه جعل نفسه للإمام“ (حاشية الطحطاوى، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ص: ۲۹۰، قديمي)

”فبإذ اكبر قائماً، ينوى الشروع فى صلوة الإمام، تنقطع الأولى فى ضمن شروعه فى صلاة

الإمام“ (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة: ۲/۵۲، سعيد)

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کی نماز فاسد ہوگئی، شامی ۱/۴۹۹ (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

اگر مسبوق نے بھول کر ایک طرف سلام پھیر دیا

سوال [۲۹۷۱]: مسبوق نے بھولے سے امام کے ساتھ ایک طرف سلام پھیر لیا، دوسری

طرف سلام پھیرنے سے پہلے اس کو یاد آ گیا کہ میری رکعت چھوٹی ہوئی ہے۔ اب اس کے ذمہ سجدہ سہولاً لازم ہوگا یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام نے جب داہنی طرف سلام پھیرا اور اس میں لفظ ”السلام“ کے ”میم“ پر پہنچا اگر اسی وقت

ماسبوق کو یاد آیا اور وہ رک گیا تب تو اس کے ذمہ سجدہ سہولاً نہیں، اگر اس کے بعد سلام پھیرا اور پھر یاد آیا تو اس کے ذمہ سجدہ سہولاً ہوگا، شامی: ۱/۴۹۹ (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

(۱) ”والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقاً“۔ (الدر المختار). ”والمسبوق يسجد مع إمامه (قيد بالسجود؛ لأنه لا يتابعه في السلام بل يسجد معه يتشهد، فإذا سلم الإمام، قام إلى القضاء، فإن سلم فإن كان عامداً فسدت، وإلا لا. ولا سجود عليه إن سلم سهواً قبل الإمام أو معه، وإن سلم بعده، لزم لكونه منفرداً، وأراد بالمعية المقارنة، وهو نادر الوقوع، كما في شرح المنية. وفيه: ولو سلم على ظن أنه عليه أن يسلم، فهو سلام عمد يمنع البناء“۔ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۸۲/۲، سعيد) ”ولو سلم ساهياً. قيد به؛ لأنه لو سلم مع الإمام على ظن أن عليه السلام معه، فهو سلام عمد،

فتفسد، كما في البحر“۔ (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۵۹۹/۱، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل بيان من يجب عليه السهو: ۴۲۲/۱، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۱۷۶/۲، رشيدية)

(۲) (راجع، ص: ۵۵۱، رقم الحاشية: ۲)

مَسْبُوقِ كَا بَهُولِ كَرْدُونُوں جَانِبِ سَلَامِ پھیر دینا

سوال [۲۹۷۲]: مسبوق یا منفرد بھولے سے دونوں جانب سلام پھیر دے، پھر خود بخود یاد آجانے پر یا کسی کے یاد دلانے پر فوراً اٹھ کر اس صورت میں کہ سینہ ہنوز قبلہ ہی کی طرف تھا اپنی بقیہ رکعت سجدہ سہو کے ساتھ تمام کرے تو حسب ارشاد حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند (۱) اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن یہاں بعض اہل علم کا قول ہے کہ اگر دونوں جانب سلام پھیر دے تو نماز از سر نو ہی پڑھنا چاہئے۔ اس صورت میں اصح قول کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بھول کر دونوں طرف سلام پھیر دیا حالانکہ ابھی نماز پوری نہیں ہوئی تھی، کوئی رکعت باقی تھی، پھر جب ہی قبلہ کی طرف سے سینہ پھرانے اور کسی مفسد نماز کے ارتکاب سے پہلے فوراً یاد آ گیا یا کسی کے یاد دلانے سے یاد آ گیا اور بقیہ نماز سجدہ سہو کے ساتھ پوری کر لی تو نماز درست ہو گئی، یہی حکم ایک طرف سلام پھرانے کی صورت میں ہے سلام سے قطع کی نیت اس حالت میں معتبر نہیں اور ایک ہی سلام سے نماز ختم ہو جاتی ہے جب کہ وہ اپنے محل میں ہو:

”و يسجد للسهو سلامه ناوياً للقطع؛ لأن نية تغيير المشروع لغو ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم، سلم مصلی الظهر مثلاً علی رأس الرکتین توہماً إتمامها أتمها أربعاً وسجد للسهو؛ لأن السلام ساهياً لا يبطل؛ لأنه دعاء من وجه“۔ درمختار: ۱/۵ (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۵/۳/۹۳ھ۔

(۱) (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، کتاب الصلوٰۃ، فصل سادس: مدرک، للاحق اور مسبوق کے احکام: ۳/۲۵۲، دارالاشاعت، کراچی)

(۲) (الدرالمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود السهو: ۲/۹۱، سعید)

”عن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی ثلاثاً، ثم سلم، فقال الخریاق: إنک صلیت ثلاثاً، فصلی بهم الرکعة الباقية، ثم سلم، ثم سجد سجدتی السهو وهو جالس، ثم سلم“۔ (إعلاء السنن، کتاب الصلاة، باب وجوب سجود السهو: ۴/۱۳۲، إدارة القرآن) =

مَسْبُوقِ كَالْإِمَامِ مَعَهُ بَهْوَلٌ كَرِّسَلَامٍ بِبَحْرِ

سوال [۲۹۷۳]: مسبوق نے بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، بعد میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر نماز پوری کر لی، ایسے شخص پر سجدہ سہو لازم ہے یا نہیں اور اس کا کھڑا ہونا صحیح ہو یا نہیں؟ زید کہتا ہے اگر سلام کے بعد بغیر کلام کیے ہوئے کچھ درود وغیرہ بھی پڑھ لیا تو بھی کوئی حرج نہیں پھر یاد آنے پر کھڑے ہو کر پورا کر لینے سے صحیح ہو جائے گی۔ آیا زید کا قول صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک کوئی قول یا فعل منافی صلوٰۃ نہیں کیا تو کھڑا ہو کر اپنی نماز پوری کر لے اور سجدہ سہو کر لے، نماز صحیح ہو جائے گی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۰/۷/۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۶/رجب/۵۶ھ۔

= ”(ويسجد للسهو) و جوباً (وإن سلم عامداً) مریداً (للقطع)؛ لأن مجرد نية تغيير المشروع لا تبطله ولا تعتبر مع سلامه غير مستحق، وهو ذكر فيسجد للسهو، لبقاء حرمة الصلاة (مالم يتحول عن القبلة أو يتكلم (توهم) (مصل رباعية) فريضة (أو ثلاثية) و لو وترأ (أنه أتمهما وسلم، ثم علم قبل إتيانه بمناف (أنه صلى ركعتين) (أتمها) بفعل ما تركه (وسجد للسهو)“ (مراقى الفلاح)

و فی حاشیة الطحطاوی: قوله: (وسجد للسهو) لما روى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل كذلك في حديث ذي الیدين المتفق عليه و كان سلامه صلى الله تعالى عليه وسلم على رأس الركعتين من صلاة الظهر والعصر شك من الراوى، و ما قيل: إنها العشاء وهم، و ما حصل في ذلك من الكلام و التحول عن القبلة منسوخ؛ لأن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل فی مثل هذه الحادثة بخلاف عمله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فأعاد صلاته الخ“ (كتاب الصلاة، باب سجود السهو، ص: ۲۷۲، ۲۷۳، قديمی)

(۱) ”(مصل رباعية) فريضة (أو ثلاثية) و لو وترأ (أنه أتمها وسلم، ثم علم) قبل إتيانه بمناف (أنه صلى ركعتين) أو علم أنه ترك سجدة صلبية أو تلاوية (أتمها) بفعل ما تركه (وسجد للسهو) لبقاء =

مَسْبُوقِ نَعْدَةِ سَهْوٍ فِي مَامِ كَسَاتِهِ سَلَامٌ يَخِيرُ دِيَا

سوال [۲۹۷۴]: ایک آدمی مسبوق ہے اور امام کو سجدہ سہو لاحق ہو گیا، امام نے سجدہ سہو کے لئے سلام پھیرا ہے، مسبوق کو یہ بات یاد نہ رہی کہ میں مسبوق ہوں، یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ ان سب صورتوں میں مسبوق کی نماز ہوگئی یا نہیں؟ اگر بھول کر پھیرا ہو تو کس صورت میں جائز ہے اور کس میں نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مسبوق نے بھول کر سلام میں امام کا اتباع کیا ہے، تو اس سے اس کی نماز میں نقصان نہیں آیا، اگر جان کر قصداً یعنی اتباع کیا ہے، تو اس کی نماز فاسد ہوگئی۔

(تنبیہ) یہ یاد ہوتے ہوئے کہ میں مسبوق ہوں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے سلام پھیرنا سہو میں

داخل نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حرره العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین منقہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۹/۱۱/۵۷ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲/ذی الحجہ/۵۷ھ۔

سَلَامِ مَسْبُوقِ كَسَلْسَلَةِ فِي دَارِ الْعُلُومِ كَسَلْسَلَةِ الْفَتَوَىٰ وَرِ تَعْلِيمِ الْإِسْلَامِ كَسَبَارَتِ فِي تَطْبِيقِ

سوال [۲۹۷۵]: اس سے پہلے بندہ نے ایک استفتاء روانہ کیا تھا کہ مسبوق اگر امام کے ساتھ غلطی

= حرمة الصلوة“ (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، باب سجود السہو، ص: ۴۷۳، قدیمی)

”والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقاً“ (الدر المختار). ”(قوله: والمسبوق يسجد مع إمامه

الخ) قيد بالسجود؛ لأنه لا يتابعه في السلام بل يسجد معه ويتشهد..... ولا سجود عليه إن سلم سهواً قبل الإمام أو معه، وإن سلم بعده، لزمه لكونه منفرداً وأراد بالمعية المقارنة، وهو نادر الوقوع،

كما في شرح المنية“ (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۸۲/۲، ۸۳، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان من يجب عليه السهو: ۲۲۲/۱، رشیدیہ)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۱۷۶/۲، رشیدیہ)

(۱) (راجع، ص: ۵۵۲، رقم الحاشیة: ۱)

سے سلام پھیر دے تو سجدہ سہو یہ مسبوق مقتدی کب کرے، اگر ایک طرف سلام پھیر دے تب یا دونوں طرف پھیر دے تب؟

حضرت مفتی صاحب نے تحریر فرمایا کہ ”مسبوق نے اگر ایک طرف بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو یہ مسبوق جب اپنی نماز کا سلام پھیرے تو سجدہ سہو کرے“ وجہ یہ تحریر فرمائی تھی کہ ”چونکہ واجب صرف لفظ سلام تھا آگے ”علیکم ورحمة اللہ“، کلمات زائد ہیں، تو یہ مسبوق امام کی اقتداء میں لفظ سلام تک تھا، پورا سلام امام کے ہمراہ پھیرنے سے تاخیر کی وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا“۔ یہ فتویٰ شعبۂ افتاء دارالعلوم سے حاصل کردہ ہے جو میرے پاس ہے، لیکن جب اس مسئلہ کو سنایا گیا تو کچھ آدمیوں نے تعلیم الاسلام کے حوالہ سے یہ بتایا کہ ایک طرف سلام اگر مسبوق سہو امام کے ساتھ پھیر دے تو سجدہ سہو نہیں، مجھے اس مسئلہ میں چپ ہونا پڑا۔ تو مذکورہ مسئلہ کہ اگر ایک طرف سلام پھیر دے اور مسبوق پر سجدہ سہو ہو تو کیا ثبوت ہے؟ اور مسئلہ کیا اسی طرح ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تعلیم الاسلام حصہ چہارم میں یہ عبارت: ”اگر امام کے سلام کے بعد اس نے سلام پھیرا تو اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے“ (۱)۔ اس میں ایک دو طرف سلام کی بحث نہیں، نہ یہ کہ پورا ”السلام یعنی علیکم ورحمة اللہ“ کہے یا فقط ”السلام“ کہے۔ تعلیم الاسلام، حصہ سوم (۲) میں واجبات نماز کے بیان میں ہے: ۱۲/ لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، اس میں علیکم ورحمة اللہ نہیں ہے۔

الحاصل جب لفظ سلام امام نے کہا نماز سے خارج ہو گیا اور مسبوق اقتداء سے خارج ہو کر منفرد ہو گیا اور مقتدی امام کے پیچھے ہی چلتا ہے، نہ پہلے نہ بالکل ساتھ، اس لئے جب مسبوق بھول کر امام کے لفظ ”السلام“ کے بعد سلام پھیرے گا تو اس کے ذمہ سجدہ سہو لازم ہوگا (۳) دارالعلوم کا فتویٰ تعلیم الاسلام کے خلاف نہیں۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) (تعلیم الاسلام، حصہ چہارم، مدرک، مسبوق، لاحق کا بیان، ص: ۷۵، ۱، مکتبہ حقانیہ، ملتان)

(۲) (تعلیم الاسلام، حصہ سوم، واجبات نماز کا بیان، ص: ۱۲۸، مکتبہ حقانیہ ملتان)

(۳) ”قولہ: والمسبوق يسجد مع إمامه)..... فإن سلم فإن كان عامداً فسدت، وإلا لا، ولا سجود عليه إن سلم سهواً قبل

الإمام أو معه، وإن سلم بعده لزمه لكونه منفرداً حينئذ، بحر“ (رد المحتار، باب سجود السهو: ۸۲/۲، ۸۴، سعید)

(و كذا في الحلبي الكبير، فصل في سجود السهو، ص: ۲۶۵، سهيل اكيدي)

مسبوق نے سجدہ سہو کے سلام میں قصداً سلام پھیر دیا تو کیا حکم ہے؟

سوال [۲۹۷۶]: ”نظام“ کے پچھلے شمارے میں یہ فتویٰ شائع ہوا تھا کہ ”سجدہ سہو کا سلام اگر مسبوق نے قصداً امام کے ساتھ پھیر لیا تو مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی۔“ اس پر عوام تو درکنار بعض اہل علم بھی خلجان میں پڑ گئے، لہذا براہ کرم عبارت محولہ تحریر فرما کر مطمئن فرمائیں۔

حمید اللہ نعمانی، کانپور۔

الجواب حامداً ومصلياً:

متن درمختار میں ہے: ”والمسبوق يسجد مع إمامه“ اس پر رد المحتار: ۱/۴۹۹ میں لکھا ہے: ”قيد بالسجود؛ لأنه لا يتابعه في السلام، بل يسجد معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام قام إلى القضاء، فإن سلم، فإن كان عامداً، فسدت، وإلا لا“ (۱)۔ یہ مسئلہ بحر شرح كنز: ۱۰۸/۲ (۲) اور بدائع: ۱/۱۷۶ (۳) میں بھی ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

مسبوق کا سہو امام کے ساتھ سلام پھیرنا

سوال [۲۹۷۷]: زید کی نماز جماعت میں مسبوق ہے اور امام کو سجدہ سہو کرنا پڑا، زید نے بھی سہو امام کے ساتھ دائیں طرف سلام پھیر دیا اور امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، بعد ازاں امام نے نماز ختم کر دی زید نے کھڑے ہو کر اپنی بقیہ رکعت پوری کر لی۔ آیا زید کو دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت تھی یا نماز کا اعادہ کرنا چاہئے تھا یا نہیں؟ بینوا تو جرو فقط۔

اصغر علی، محلہ چوہدراران، مقیم مظفرنگر، محلہ کھالہ پار، معرفت منشی ریاض الحسن صاحب۔

(۱) (الدر المختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۲/۸۲، سعید)

(۲) ”ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام..... وإن سلم فإن كان عامداً، فتنفسد

صلاته الخ“۔ (بدائع الصنائع، کتاب الصلوة، فصل بيان من يجب عليه السهو: ۱/۴۲۲، رشیدیہ)

(۳) ”ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو لا في السلام فيسجد معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام قام إلى

القضاء، فإن سلم فإن كان عامداً فسدت، وإلا فلا“۔ (البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب سجود السهو:

الجواب حامداً ومصلياً:

صورتِ مسئلہ میں زید کی نماز صحیح ہوگئی، اعادہ کی ضرورت نہیں اور ایسی حالت میں مسبوق کو امام کے ساتھ سجدہ سہو کرنا تو ضروری ہے لیکن سجدہ سہو کے لئے سلام میں امام کا اتباع ناجائز ہوتا ہے، اگر قصد امام کے ساتھ سلام پھیرے گا تو مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی اور سہواً پھیرنے سے فاسد نہ ہوگی اور زید نے صورتِ مسئلہ میں سہواً سلام پھیرا ہے اس لئے نماز فاسد نہیں ہوئی اور بحالتِ اقتداء سہواً سلام پھیرا ہے اور مقتدی کے سہو سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، اس لئے بقیہ نماز پوری کرنے میں سجدہ سہو لازم نہیں:

”والمسبوق يسجد مع إمامه) قيد بالسجدة؛ لأنه لا يتابع في السلام بل يسجد معه ويتشهد، فإذا سلم الإمام، قام إلى القضاء، فإن سلم فإن كان عامداً فسدت، وإلا لا“۔ درمختار ورد المحتار: ۱/۷۷۷، باب سجدة السهو (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور، ۲۲/۷/۵۷ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ۔

مسبوق سجدہ سہو کرے، سلام نہ پھیرے

سوال [۲۹۷۸]: ”ما يقول العلماء الحنفية في مسألة: إذا كان الإمام و عليه سجدة

السهو وخلفه مسبوق، هل يسلم مع الإمام سلام التشهد أم لا“۔ وإن كان الثاني هل بقى اقتداءه، وإن كان الأول، فهل فرق بين تسليم العمدة والنسيان، بينوا بالصواب مع صفحات الكتاب (۲)۔

الجواب حامداً ومصلياً:

”المسبوق يتبع إمامه في سجود السهو لا في السلام، وإذا سجد الإمام، سجد

(۱) (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۸۲/۲، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، بيان من يجب عليه سجود السهو: ۴۲۲/۱، رشیدیہ)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۱۷۶/۲، رشیدیہ)

(۲) خلاصہ سوال: جب امام کے ذمہ سجدہ سہو لازم ہو تو مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیرے گا یا نہیں، اگر نہیں تو اس کی اقتداء باقی رہے گی یا نہیں؟ اور اگر سلام پھیرے گا تو سلام عمد و سلام نسیان میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟

معه وهو في اقتداء حتى يقطع الإمام صلواته، فإذا قطع قام وأتم ما عليه وقضى، فإن سلم مع الإمام فإن كان عامداً فسدت صلواته وإلا لا“۔ هكذا في رد المحتار: ۱/۵۲۱ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له۔

مسبوق نے امام کے ساتھ سجدہ سہو نہیں کیا تو آخر میں اس پر سجدہ سہو واجب ہے؟

سوال [۲۹۷۹]: زید کو مغرب میں دو رکعت ملی، اب امام دوسرے قعدہ میں نہیں بیٹھا بلکہ کھڑا ہو گیا،

یاد آنے پر پھر بیٹھ گیا، اب امام نے قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کیا، زید کسی بھول کی وجہ سے سجدہ سہو میں شریک نہ ہو سکا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد زید نے رکعت پوری کی، اب اس کو یاد آیا کہ امام نے سجدہ سہو کیا تھا اس نے بھی سہو کا سجدہ کر کے اخیر رکعت میں سلام پھیر دیا۔ زید کی نماز ہوئی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس مسبوق کی نماز درست ہوگئی (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۲/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عثمی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۲/۹۰ھ۔

(۱) (رد المحتار، باب سجود السهو: ۸۲/۲، سعید)

”عن الحسن والمغيرة عن إبراهيم“ أنهما قالوا: في الرجل تفوته من صلاة الإمام ركعة وقد

سها فيها الإمام، فإنه يسجد مع الإمام سجدة السهو، ثم يقضى الركعة بعد ذلك“۔

قال الشيخ ظفر أحمد العثماني: ”قلت: فيه دلالة على وجوب السجود على المسبوق بسهو

إمامه“۔ (إعلاء السنن، كتاب الصلوة، باب في بقية أحكام السهو: ۱/۶۸، إدارة القرآن)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل بيان من يجب عليه السهو: ۱/۳۲۲، رشيدية)

خلاصہ جواب: مسبوق سجدہ سہو میں امام کا اتباع کرے گا سلام میں نہیں، جب امام سجدہ کرے تو وہ بھی سجدہ

کرے اور مسبوق امام کے نماز ختم کرنے تک اقتدا ہی میں رہے گا، جب امام نماز پوری کر لے تو مسبوق کھڑا ہو کر اپنی بقیہ نماز

پوری کرے اور مسبوق نے اگر امام کے ساتھ عمداً سلام پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی ورنہ نہیں۔

(۲) ”(والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقاً) سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده (ثم يقضى ما فاته)“۔ (الدر المختار) =

مَسْبُوقِ اِمَامٍ كَقَعْدَةِ الْاٰخِرَةِ فِي تَشَهُّدٍ پڑھے یا نہیں؟

سوال [۲۹۸۰]: مسبوق قعدہ اخیرہ میں ملا تو امام کے ساتھ تشہد پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ اور تشہد

اخیرہ میں درود کے بعد دعاء پڑھنا سنت مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مَسْبُوقِ كُوْبِهِ اِمَامٍ كَقَعْدَةِ الْاٰخِرَةِ فِي تَشَهُّدٍ پڑھنا واجب ہے (۱)، تشہد اخیر میں بعد میں درود شریف

دعاء پڑھنا سنت مؤکدہ ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۲/۹۲ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

= ” (قوله : ثم يقضى ما فاته) فلو لم يتابعه في السجود و قام إلى ما سبق به، فإنه يسجد في آخر صلاته استحساناً؛ لأن التحريمه متحدة، فجعل كأنها صلاة واحدة“. (ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب سجود السهو: ۸۲/۲، ۸۳، سعيد)

” ولو قام إلى قضاء ما سبق به و لم يتابع الإمام في السهو، سجد في آخر صلاته استحساناً“.

(بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل بيان من يجب عليه السهو: ۴۲۲/۱، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الصلوة، الباب الثاني عشر في سجود السهو: ۱/۲۸، رشيدية)

(۱) ” قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في رجل سبقه الإمام بشيء من صلاته أيتشهد

كلما جلس الإمام؟ قال: نعم، قال: فيرد السلام إذا سلم الإمام؟ قال: إذا فرغ من صلاته رد السلام. قال

محمد: و به نأخذ، و هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى“. (كتاب الآثار، كتاب الصلوة، باب من سبق

بشيء من صلاته، ص: ۵۶، إدارة القرآن كراچی)

” (و جب متابعتہ) (بخلاف سلامه) أو قيامه لثالثة (قبل تمام المؤتمر التشهد) فإنه لا

يتابعه بل يتمه لوجوبه“. (الدرالمختار). ” (قوله: فإنه لا يتابعه) و شمل بإطلاقه ما لو اقتدى به

في أثناء التشهد الأول أو الأخير فحين قعد قام إمامه أو سلم، و مقتضاه أنه يتم التشهد ثم يقوم“.

(ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۴۹۶/۱، سعيد)

(۲) ” عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فقال: ألا أهدي لك =

تشہد میں شریک ہونے والا کیا کرے؟

سوال [۲۹۸۱]: جو شخص آخری قعدہ میں شریک ہوا ہو، اس کو بھی پوری التحیات پڑھنی ضروری

ہے یا نہیں؟

الجواب حامدًا ومصليًا:

وہ بھی التحیات پوری کر کے ہی نماز پوری کرے (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

= هدية سمعتها من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي، فقال: سألتنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلوة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف يسلم عليك؟ قال: قولوا: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد".

قال الشيخ ظفر أحمد العثماني رحمه الله تعالى: "قوله: اللهم صل على محمد الخ" قال العلامة الشوكاني: استدل بذلك على وجوب الصلوة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد التشهد فالحق أن الأمر في الحديث وفي سائر أحاديث الباب محمول على الندب، مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم عليها تفيد السنية، فهي عندنا سنة مؤكدة يكره تركها ولا تفسد بتركها". (إعلاء السنن، كتاب الصلوة، باب سنية الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخ: ۱۲۲/۳، ۱۲۲، إدارة القرآن) "و تسن (الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الجلوس الأخير فيقول مثل ما قال محمد رحمه الله تعالى لما سئل عن كيفيةها، فقال: يقول: اللهم صل ويسن (الدعاء) بعد الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لقوله عليه السلام: "إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم ليدع بعد ما شاء". (حاشية الطحطاوي على مراقبي الفلاح، كتاب الصلوة، في بيان سننها، ص: ۲۷۱، ۲۸۲، قديمي)

(۱) قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في رجل سبقه الإمام بشيء من صلاته أيتشهد كلما جلس الإمام؟ قال: نعم، قال: فيرد السلام إذا سلم الإمام؟ قال: إذا فرغ من صلاته رد السلام، قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى". (كتاب الآثار، كتاب الصلوة، باب من =

مسبوق تشهد سے فارغ نہیں ہوا کہ امام نے سلام پھیر دیا

سوال [۲۹۸۲]: کسے گروہر جماعت داخل شدہ تشهد خواندن آغاز کند، و

در آن وقت امام بسلام از نماز فارغ شود، آنکس تشهد اول خوانده قیام کند یا نہ؟ (۱).

الجواب حامداً ومصلياً:

تشهد اول خوانده قیام کند، کذا فی رد المحتار (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

صحیح: عبداللطیف، ۱۳/ربیع الثانی/۵۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ۔

= سبق بشيء من صلاته، ص: ۵۶، إدارة القرآن كراچی

” (و جب متابعتہ) (بخلاف سلامہ) أو قیامہ لثالثة (قبل تمام المؤتم تشهد) فإنه لا

یتابعہ بل یتیمہ لوجوبہ“۔ (الدر المختار). ” (قوله : فإنه لا یتابعہ) و شمل بإطلاقہ ما لو اقتدی بہ

فی أثناء التشهد الأول أو الأخير، فحين قعد قام إمامه أو سلم، ومقتضاه أنه يتم التشهد، ثم يقوم“.

(رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۱/۴۹۶، سعید)

(۱) ترجمہ سوال: کسی شخص نے جماعت میں داخل ہو کر تشهد پڑھنا شروع کیا اور اسی وقت امام سلام کے ذریعہ نماز سے

فارغ ہو جائے وہ شخص تشهد پڑھ کر کھڑا ہو یا نہیں؟

ترجمہ جواب: تشهد پڑھ کر کھڑا ہو۔ فقط

(۲) ” قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في رجل سبقه الإمام بشيء من صلاته أيتشهد

كلما جلس الإمام؟ قال: نعم، قال: فيرد السلام إذا سلم الإمام؟ قال: إذا فرغ من صلاته رد السلام،

قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى“۔ (كتاب الآثار، كتاب الصلوة، باب من

سبق بشيء من صلاته، ص: ۵۶، إدارة القرآن كراچی)

” (و جب متابعتہ) (بخلاف سلامہ) أو قیامہ لثالثة (قبل تمام المؤتم تشهد) فإنه لا

یتابعہ بل یتیمہ لوجوبہ“۔ (الدر المختار) ” (قوله : فإنه لا یتابعہ) و شمل بإطلاقہ ما لو اقتدی بہ

فی أثناء التشهد الأول أو الأخير، فحين قعد قام إمامه أو سلم، ومقتضاه أنه يتم التشهد، ثم يقوم“.

(كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة ۱/۴۹۶، سعید)

کیا مسبوق پر تشهد واجب ہے؟

سوال [۲۹۸۳]: مسبوق دوسری رکعت میں ہو، اب سوال یہ ہے کہ تشهد اس پر واجب ہے یا سنت یا مستحب ہے؟ پھر چوتھی رکعت (اس کی تیسری) میں پڑھنا کیسا ہے؟ نیز جب آخری رکعت میں مسبوق ہو تب بھی یہی سوال ہے۔ درجہ کا تعین حوالہ سے کریں، نوازش ہوگی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مسبوق پر امام کے تابع ہو کر تشهد واجب ہے کیونکہ وہ بھی مقتدی ہے، سلام امام کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پوری کرے تو ہر قعدہ میں تشهد پڑھنا واجب ہوگا:

”لو سلم الإمام قبل فراغ المقتدى من التشهد يتمه؛ لأنه من الواجبات، اهـ“۔ مراقی الفلاح، ص: ۱۸۵ (۱)۔ ”ويجب القعود الأول.....“ و يجب قراءة التشهد فيه في الصحيح -متعلق بكل من القعود و تشهدہ، - وهو احتراز عن القول بسنيتها أو سنية التشهد وحده. و يجب قراءة التشهد في الجلوس الأخير أيضاً“۔ وفي حاشية الطحطاوى: ”فالمسبوق بثلاث في الرباعية ثلاث قعدات.....“ (قوله: ويجب قراءة) فيسجد للسهو بترك بعضه ككله، اهـ“۔ مراقی الفلاح والطحطاوى، ص: ۱۴۹، ص: ۱۵۰ (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) حاشية الطحطاوى على مراقی الفلاح، كتاب الصلوة، فصل فيما يفعله المقتدى بعد فراغ إمامه الخ، ص: ۳۰۹، قديمی)

(۲) حاشية الطحطاوى على مراقی الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في واجبات الصلوة، ص: ۲۵۰، ۲۵۱، قديمی)

”قال محمد: أخبرنا أبو خنيفة عن حماد عن إبراهيم في رجل سبقه الإمام بشيء من صلاته أيتشهد كلما جلس الإمام؟ قال: نعم. قال: فيرد السلام إذا سلم الإمام؟ قال: إذا فرغ من صلاته رد السلام. قال محمد: و به نأخذ، و هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى“۔ (كتاب الآثار، كتاب الصلوة، باب من سبق بشيء من صلاته، ص: ۵۶، إدارة القرآن كراچی)

مسبوق کی نماز میں قرأت

سوال [۲۹۸۲]: زید عشاء کی نماز فرض میں اول رکعت کا مسبوق ہوا، بعد سلام امام یہ رکعت قرأت کے لحاظ سے کونسی رکعت سمجھی جائے گی یعنی قدر قرأت اور سورۃ کی تقدیم و تاخیر میں کیا حکم رکھے گی اور اگر اول کا حکم رکھے گی تو کیا امام کی قرأت کردہ سورۃ کو اس میں تلاوت کرنا افضل ہے یا نہیں؟ حوالہ کتب بیان فرمادیں۔
کاتب: احقر کثیر احمد جہلمی ساکن بھوچھا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ رکعت اپنی قرأت کے لحاظ سے اول رکعت سمجھی جائے گی، لہذا اس پر جمع احکام قرأت اول رکعت کے جاری ہونگے، مثلاً اس رکعت میں ثناء بھی پڑھے گا، تعویذ بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورہ بھی پڑھے گا:

”و هذا من أحكام المسبوق أنه يقضى أول صلوته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد، حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين و فصل بقعدة، فيكون بثلاث قعدات، وقرأ في كل فاتحة و سورة و لو ترك القراءة في أحدهما، تفسد. و لو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضى ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة و يتشهد و يقضى ركعة أخرى لذلك و لا يتشهد، و في الثالثة بالخيار، و القراءة أفضل.“ هكذا في الخلاصة (۱)۔

(۱) (الفتاوى العالمكيريّة، كتاب الصلوة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق: ۹۱/۱، رشيدية)

”إن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، قال: تخلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر هذه القصة، قال: فأتينا الناس و عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضى، قال: فصليت أنا، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلفه ركعة، فلما سلم قام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها، و لم يزد عليها شيئاً.“ (أبو داؤد، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين: ۲۳/۱، إمداديه ملتان)

قال الشيخ ظفر أحمد العثماني نور الله مرقده تحت هذا الحديث: ”إن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: فلما سلم، قام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فصلى الركعة التي سبق بها، و لم يقل: صلى الركعة التي بقيت منه، فهو يدل على أن ما فاتته: أي المسبوق هو أول صلاته، و ما أدرك مع الإمام =

مَسْبُوقِ اِپْنِی بَقِیةِ نَمَازِیْنِ مَنفَرِدِ كَ حَكْمِیْنِ مِیْنِ هُوَ تَا بَ، اِن دُونُوں بَاتُوں كَا تَقَاضَ هَی كَ مَسْبُوقِ قَدَرِ قَرَأَتْ
اور ترتیب کے اعتبار سے بھی اپنی اس رکعت کو اول رکعت سمجھے اور امام کی قرأت کردہ سورت سے پہلی اور اس کے
برابر بڑی سورت کی قرأت کرے اور درمیان کے فصل کا بھی خیال رکھے۔ امام کی قرأت کردہ سورۃ کو پڑھنا سورہ
واحدہ کا رکعتین میں تکرار ہوگا۔

” (و ههنا إنما مفرد وفيما يقضى، اهـ) إذا قرأ في ركعة سورة في الركعة الأخرى أو في
تلك الركعة سورة في تلك السورة، يكره، لا بأس أن يقرأ سورةً ويعيدها في الثانية. أفاد أنه
يكره تنزيهاً، وعليه يحمل جزم القنية بلا كراهية، ويحمل فعله - عليه الصلوة والسلام - لذلك
على بيان الجواز، هذا إذا لم يضطر، فإن اضطر بأن قرأ في الأولى: ﴿قل أعوذ برب الناس﴾
أعادها في الثانية إن لم يختم (نهر)؛ لأن التكرار أهون من القراءة منكوساً (بزاويه)، وأما لو ختم
القرآن في ركعة فيأتي قريباً أنه يقرأ من البقرة“۔ رد المحتار (۱)۔ فقط والسلام۔

حرره العبد محمود عنى عنه گنگوہی، مظاہر علوم سہارن پور، ۲/۲/۵۹ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف۔

= هو آخر صلواته، و به نقول“۔ (إعلاء السنن، ابواب الإمامة، باب المسبوق يقضى الخ: ۳/۳۲۳،
إدارة القرآن كراچی)

(و كذا في رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۱۶، ۵۱۷، سعید)

(۱) (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۱/۵۳۶، سعید)

”عن رجل من جهينة رضى الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في
الصبح: ﴿إذا زلزلت الأرض﴾ في الركعتين كليهما، قال: فلا أدري أنسى رسول الله صلى الله تعالى
عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً“۔ رواه أبو داود، وسكت عنه هو والمنذرى، وليس في إسناده مطعن، بل
رجالہ رجال الصحيح“۔

قلت : ولكن إذا دار الأمر بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع، فحمل فعله صلى
الله تعالى عليه وسلم على المشروعية أولى، فثبت أن تكرير سورة في الركعتين جائز مع كونه خلاف
العادة المستمرة له - صلى الله تعالى عليه وسلم - فيكون خلاف الأولى، فافهم. وهذا في الفرض =

مسبوق اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کب کھڑا ہو؟

سوال [۲۹۸۵]: جس شخص کی نماز میں کوئی رکعت رہ گئی تو:

(الف) جب امام داہنے طرف سلام پھیرتے وقت صرف لفظ سلام نکالے اسی وقت کھڑا ہو جائے؟ یا

(ب) بائیں طرف کے لفظ سلام کے وقت کھڑا ہو؟ یا

(ج) بائیں طرف کو سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو؟

ان تینوں میں سے کونسا احسن ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

طریقہ (ج) اسلم اور احسن ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۲/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۲/۹۰ھ۔

مسبوق کا دوسرے مسبوق کو دیکھ کر نماز پوری کرنا

سوال [۲۹۸۶]: دو شخص ایک ساتھ جماعت میں آ کر شریک ہوئے اور دونوں مسبوق تھے، جب امام

= وحده، و أما في النوافل فلا كراهة مطلقاً. (إعلاء السنن، كتاب الصلاة، باب القراءة، باب كراهة الخ: ۱۲۸/۳، إدارة القرآن)

(و كذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة، فصل في المكروهات، ص: ۳۵۲، قديمي)

(۱) ”(و يسجد المسبوق مع إمامه) لا لتزام متابعتة (ثم يقوم القضاء ما سبق به) واللاحق بعد إتمامه، وينبغي أن يمكث المسبوق بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه.“ (مراقى الفلاح).

و في حاشية الطحطاوي: ”وذلك بتسليم الإمام الثانية على الأصح أو بعدهما بشيء قليل

بناءً على ما صححه في الهداية.“ (كتاب الصلوة، باب سجود السهو، ص: ۳۶۳، قديمي)

(و كذا في الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۹۷، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلوة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق: ۱/۹۱، رشيدية)

نے نماز ختم کی تو دونوں اپنی چھوٹی ہوئی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے، لیکن ایک کو یاد تھا کہ میری کتنی نماز چھوٹی ہے دوسرے کو یاد نہیں رہا۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ دوسرا شخص جس کو یاد نہیں اتنی ہی رکعتیں پوری کرے کہ جتنی یاد والا کرتا ہے یعنی اس کی یاد پر اعتماد کر کے اس کو دیکھ کر اپنی نماز پوری کرے؟ اس طرح اس کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس طرح اس کی نماز صحیح ہو جائے گی مگر اس کی اقتدا کی نیت نہ کرے بلکہ ویسے ہی جتنی رکعتیں وہ پڑھے وہ بھی پڑھے، طحطاوی، ص: ۱۵۶ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

تین رکعت کا مسبوق بقیہ نماز کیسے پوری کرے؟

سوال [۲۹۸۷]: زید کی عصر کے وقت تین رکعتیں چھوٹیں تو زید امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو کتنی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا اور کتنی رکعتوں میں سورت نہیں ملائے گا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب زید کو امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملی ہے تو سلام امام کے بعد وہ ایک رکعت ثناء، الحمد، سورت کے ساتھ پڑھے پھر قعدہ کرے پھر ایک رکعت الحمد اور سورت کے ساتھ، پھر ایک رکعت صرف الحمد کے ساتھ پڑھے، الحاصل بعد سلام امام دو رکعت میں سورہ بھی پڑھے گا، ایک رکعت میں صرف الحمد پڑھے گا (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "وأن لا يكون الإمام مصلياً فرضاً غير فرضه (و لا مسبوقاً) لشبهة اقتدائه الخ". وفي حاشية الطحطاوي: "لشبهة اقتدائه: أي حال تحريمته، وإنما لزمته القراءة لشبهة الانفراد، نعم! إذا قضى المسبوقان ملاحظاً أحدهما الآخر ليعلم عدد ما عليه من فعله، فلا بأس به". (كتاب الصلوة، باب الإمامة، ص: ۲۹۱، ۲۹۲، قديمي)

"(قوله: نعم لو نسي) حاصله أنه لو اقتدى إثنان معاً بإمام قد صلى بعض صلاته، فلما قاما إلى القضاء، نسي أحدهما عدد ما سبق به، فقضى ملاحظاً للآخر بلا اقتداء به، صح". (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/ ۵۹۷، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب السابع في المسبوق واللاحق: ۱/ ۹۲، رشيدية)

(۲) "فمدرک ركعة من غير فجر يأتي بركتين بفاتحة و سورة و تشهد بينهما و برابعة الرباعي بفاتحة فقط" =

مَسْبُوقِ كِي بَقِيَّةِ نَمَازِ مِیں سَجْدَةُ سَهْوِ كَا حَكْم

سوال [۲۹۸۸]: مسبوق کو چار رکعت والی نماز میں دو رکعت ملی، اپنی بقیہ دو رکعت پڑھتے ہوئے کچھ سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا بغیر سجدہ سہو کے نماز ادا ہو جائے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پوری کرنے میں ایسا سہو ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہوگا بغیر سجدہ سہو کے نماز ناقص رہے گی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۸/۲/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۸/۲/۸۸ھ۔

مَسْبُوقِ وَالْاٰحِقِّ سَيِّ مَتَعَلِق

سوال [۲۹۸۹]: مقيم مقتدى جب کہ مسبوق ہو، اس کے بقیہ نماز کے پوری کرنے کا جو طریقہ کتب فقہ میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دو رکعت بلا قرأت ادا کرے اور پھر ایک رکعت مع قرأت کے ادا کرے اور یہ ترتیب بنا بر واجبیت کے ہے، کما فی شرح المنیة: ”و هذا علی سبیل الوجوب، ولو عکس، صح وأثم“ علی الترتیب (۲)۔ اس میں تین باتیں دریافت طلب ہیں:

- = (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/۵۹۷، سعید)
- (و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، کتاب الصلاة، الباب الخامس فی الإمامة، الفصل السابع فی المسبوق واللاحق : ۱/۹۱، رشیدیہ)
- (و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلاة، حکم المسبوق : ۱/۵۶۷، رشیدیہ)
- (۱) ”واللاحق لا یسجد لسهوہ فیما یقضى، والمسبوق یسجد لسهوہ فیما یقضى الصلوة“۔ (الفتاویٰ العالمکیریة، الباب الثانی عشر فی سجود السهو : ۱/۱۲۹، رشیدیہ)
- ”ولو سها المسبوق فیما یقضیه سجد له) : أى لسهوہ أيضاً، و لا یجزیه سجوده مع الإمام“۔
- (حاشیة الطحطاوی، کتاب الصلوة، باب سجود السهو، ص: ۲۶۲، قدیمی)
- (و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب الحدث فی الصلوة : ۱/۶۶۶، رشیدیہ)
- (۲) ”لم أجد هذه العبارة بهذا اللفظ فی شرح المنیة بل ذکر بلفظ : ”والأصل أن اللاحق یصلی علی =

اول: اگر عمداً برعکس کرے گا تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ کسی واجب کو عمداً ترک کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے (۱) وہ قاعدہ یہاں پر چلے گا یا نہیں؟

دوم: بھول کر اگر برعکس کر دے گا تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟

سوم: مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امداد الفتاویٰ میں اس ترتیب کو بجائے واجب کے افضل بیان کیا ہے اور علت افضلیت کی ابتلائے عام کو قرار دیا ہے، چونکہ اکثر لوگ بلکہ لکھے پڑھے بھی اس مسئلے سے واقف نہیں۔ ترتیب کو واجب قرار دے کر لوگوں کو حرج میں ڈالنا ہے اور قاعدہ فقہاء کا بیان کیا ہے: ”ما ضاق أمر إلا اتسع“. امداد الفتاویٰ: ۱/۵۲۵ (۲) لیکن مولانا نے بیان کیا ہے کہ ”یہ میرا قیاس ہے، دوسرے علماء سے مزید اس کی تحقیق کر لی جائے“۔ اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ مفصل بیان کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔

۲..... جن چیزوں میں امام کی متابعت واجب ہے اگر کوئی شخص عمداً متابعت نہ کرے تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ زید کہتا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی اور دلیل میں غایۃ وغیرہ کا یہ جزئیہ پیش کرتا ہے: ”إنما تفسد بمخالفتہ فی الفروض“. غایۃ الأوطار، ص: ۲۱۷، باب صفة الصلوة (۳) اور دوسرا جزئیہ یہ پیش کرتا ہے: ”حتی لم یدرک الرکوع تجب المتابعة فی السجدةین وإن لم تحسبأله، ولا تفسد

= ترتیب صلوة إمامہ و هذا علی سبیل الوجوب دون الافتراض الخ“. (الحلبی الکبیر، کتاب

الصلوة، فصل فی سجود السهو، فروع من سبق برکعة، ص: ۴۷۰، سهیل اکیڈمی)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۹۶، سعید)

(۱) واضح رہے کہ عمداً ترک واجب سے نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ واجب الاعادہ ہے، اعادہ نہ کرنے کی صورت میں گنہگار ہوگا: ”ولہا واجبات لا تفسد بترکها، و تعاد وجوباً فی العمد والسہو إن لم یسجد له، وإن لم یعدھا یكون

فاسقاً“. (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ۱/۴۵۶، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ۱/۵۱۵، رشیدیہ)

(۲) (إمداد الفتاویٰ، کتاب الصلاة، أحكام المسبوق واللاحق: ۱/۳۴۹، مکتبہ دار العلوم کراچی)

(۳) (غایۃ الأوطار ترجمہ اردو در مختار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ۱/۲۳۸، سعید)

بتر کہا۔ غایۃ الأوطار: ۱/۳۳۲، باب إدراك الفريضة (۱)۔ اور اس میں جیسے کہ مسبوق کا ما بقیہ کے واسطے کھڑا ہو جانا امام کے سلام سے پہلے بعد بیٹھنے بقدر تشہد کے آپ بیان فرمادیں، ہمارے ذہن میں تو اب تک یہ بھی نہیں کہ ترک واجب سے عمد نماز فاسد ہو جاتی ہے۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

۱..... کتب فقہیہ کی اصل عبارت سے مسبوق للاحق کی مابقی نماز میں ترتیب کا وجوب سمجھ میں آتا ہے (۲) لیکن ابتلائے عام اور نشر جہل کی بنا پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امداد الفتاویٰ میں استنباط فرماتے ہوئے جو استحباب کا حکم فرمایا ہے وہی اوسع اور ارفق للزمان ہے اور جب بر بنائے قول ثانی وجوب باقی نہ رہا تو عمد ترک سے بھی اعادہ واجب نہ ہوگا، هو التوسع، اور اعادہ میں احتیاط ہے هو التورع۔ اسی طرح سہو ترک ترتیب سے وجوب سجدہ سہو میں یہی تفصیل ہے (۳)۔

۲..... متابعت امام جیسا کہ فرائض میں واجب ہے اسی طرح واجبات میں بھی ضروری ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ: ”ولها واجبات..... وإنصات المقتدى و متابعة الإمام“ کے تحت تحریر فرماتے ہیں: ”والحاصل أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة“ آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں: قال ابن عابدین: ”ثم ذكر ما حاصله أنه تجب متابعة الإمام في الواجبات فعلاً كذا تركاً“۔

(۱) غایۃ الأوطار ترجمہ اردو در مختار کتاب الصلاة، باب إدراك الفريضة: ۱/۳۷۴، سعید

(۲) ”واعلم أن المدرک من صلاھا کاملۃ مع الإمام واللاحق من فاتتہ)..... و مقيم انتم بمسافر“ (الدر المختار). ”قوله: ”و مقيم الخ): أي فهو لاحق بالنظرين للأخيرتين، وقد يكون مسبوقاً أيضاً كما إذا فاتته أول صلاة إمامه المسافر“ (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الإمامة: ۱/۵۹۴، سعید)

”والأصل أن اللاحق يصلي على ترتيب صلوة إمامه..... وهذا على سبيل الوجوب دون الافتراض“ (الحلبی الكبير، کتاب الصلاة، فصل فی سجود السهو، فروع من سبق برکعة، ص: ۴۷۰، سهیل اکیڈمی، لاہور)

(۳) (إمداد الفتاوی، کتاب الصلاة، أحكام المسبوق واللاحق: ۱/۳۳۹، مکتبہ دار العلوم، کراچی)

اس مسئلہ کی مزید تحقیق کے لئے دیکھئے: (احسن الفتاویٰ: ۳/۳۸۶ میں ”القول السافر عن حکم المسبوق

شامی: ۱/ ۴۳۹ (۱)۔ البتہ متابعت کی مختلف صورتیں ہیں: ایک مقارنت مع الإمام، ایک مقارنت لا ابتداءً إمامہ مع المشاركة فی باقیہ، ان میں سے کوئی ایک متابعت اپنے اپنے موقع پر کافی ہوگی۔

”والحاصل أن المتابعة فی ذاتها ثلاثة أنواع: مقارنة لفعل الإمام مثل أن یقارن إحرامه لإحرام إمامه، وركوعه، لركوعه و سلامه لسلامه، و یدخل فیها ما لورکع قبل إمامه و دام حتى أدركه إمامه فيه و معاقبة لا ابتداءً فعل إمامه مع المشاركة فی باقیة، و متراخية عنه، فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلاثة یكون فرضاً فی القرض و واجباً فی الواجب و سنةً فی السنة عند عدم المعارض“۔ شامی: ۱/ ۲۳۹، ۴۴۰ مطابق: ۳۱۷، طبع نعمانیة (۲)۔

لہذا زید کا استدلال غایۃ الاوطار کی عبارت ”متی لم یدرک الکرکوع الخ“ سے درست نہیں، کیونکہ اس میں متابعت کی نوع ثالث یعنی متابعت موجود ہے کیونکہ امام کے بعد وہ ان رکوع و سجود کو ادا کرے گا۔ نیز چون کہ اس کا یہ رکوع معتبر نہ ہوگا، اس لئے ترکِ سجدہ سے فساد لازم آئے گا:

”ولا تفسد بترکھما: أى السجدةین؛ لأن وجوب الإتیان بهما إنما هو لوجوب متابعة الإمام لئلا یكون مخالفاً له كما تجب متابعة المسبوق فی القعدة وإن لم تكن علی ترتیب صلواته، و إلا فهاتان السجدةتان لیستا بعض الركعة التي فاتته؛ لأن السجود لا یصح الأمر تباً علی ركوع الصحیح، و لذا لزمه الإتیان برکعة تامة“ شامی: ۱/ ۶۷۵ (۳)۔

(۱) (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ۱/ ۴۷۰، سعید)

(۲) (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ۱/ ۴۷۱، سعید)

”عن أبی هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”أن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: ”إنما جعل الإمام لیؤتم به، فلا تختلفوا علیہ، فإذا کبر فکبروا، وإذا رکع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا: اللهم ربنا لک الحمد، وإذا سجد فاسجدوا“۔ الحدیث۔

”فنقول: إن قوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، إنما جعل الإمام لیؤتم به یدل علی وجوب مطلق المتابعة الشامل للمقارنة و المعاقبة و التراخی مع مانضم به من النهی عن الاختلاف و المسابقة علی الإمام و ما ورد من الوعيد علی ذلك“۔ (إعلاء السنن، کتاب الصلاة، باب وجوب متابعة الإمام: ۲۹۰/۳، ۲۹۱، إدارة القرآن)

(۳) (رد المحتار، کتاب الصلاة، باب إدراک الفریضة: ۲/ ۶۱، سعید) =

اور اس مسبوق کے مسئلہ سے بھی استدلال صحیح نہیں: ”لأن القعدة وإن كانت فرضاً، لكنه يأتي بها في آخر صلواته التي يقضيها بعد سلام إمامه، فقد وجدت المتابعة المترخية، فلذا صحت صلواته“ شامی: ۱/۴۴۰ (۱)۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۲۲/۱/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۲۲/۱/۸۸ھ۔

مسبوق ولاحق کس طرح سجدہ سہو کرے؟

سوال [۲۹۹۰]: اگر مسبوق وضو ٹوٹ جانے کی بناء پر للاحق ہو جائے اور اس وقت امام سجدہ سہو کرے اور للاحق بعد امام رکعت فائتہ ادا کر رہا ہو تو اس کو بھی کوئی ایسا امر پیش آجائے جس سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تو یہ شخص دو سجدہ سہو کرے یا ایک ہی سے کام چل جائے گا اس کو کفایت کرے گا؟

الجواب حامداً ومصلياً :

صورتِ مسئلہ میں یہ مسبوق للاحق ایک ہی دفعہ سجدہ سہو کرے، فی الدر المختار علی هامش ردالمحتار: ”والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقاً..... ثم يقضى ما فاته ولو سها فيه سجدتانياً“۔ و فی رد المحتار: ۱/۶۹۶: (قوله: ولو سها فيه) أي فيما يقضيه بعد فراغ الإمام يسجدتانياً؛ لأنه منفرد فيه، والمنفرد يسجد لسهو، وإن كان لم يسجد مع الإمام لسهو، ثم سها، وهو أيضاً كفته سجدةتان عن السهوين؛ لأن السجود لا يتكرر، الخ“ (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۶/۸۹ھ۔

= ”عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”إذا جنتم إلى الصلاة و نحن سجود، فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً، و من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة“۔ (إعلاء السنن، كتاب الصلاة، أبواب الإمامة، باب إدراك الركعة بإدراك الركوع: ۳/۳۰۱، إدارة القرآن) (۱) (رد المحتار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ۱/۴۷۱، سعيد)

(۲) (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، باب سجود السهو: ۲/۸۲، ۸۳، سعيد)

= ”و لنا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: لكل =

لاحق کی قرأت کا حکم

سوال [۲۹۹۱]: امام مسافر نے ظہر کی دو رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، اگر کسی نے قرأت کی تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کیسی؟ امامت مقيم کی اولیٰ ہے یا مسافر کی؟
لاحق تسمیع کہے یا تحمید؟

سوال [۲۹۹۲]: ۲..... مقتدی مقيم بعد سلام امام مسافر باقی رکعتیں جو اپنی پڑھے گا ان میں تسمیع پڑھے گا یا تحمید یا دونوں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

..... امام مسافر جب دو رکعت پر سلام پھیر دے تو مقيم مقتدی اپنی دو رکعت بغیر قرأت کے پوری کرے، اگر قرأت کی تو کراہت کا ارتکاب کیا، کیونکہ وہ بحکم مقتدی ہے اور مقتدی کا قرأت کرنا مکروہ ہے۔ مقيم کی امامت اولیٰ ہے:

”إذا صلى المسافر بالمقيم ركعتين، سلم، وأتم المقيمون صلواتهم؛ لأن المقتدى ألزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق، إلا أنه لا يقرأ في الأصح؛ لأنه مقتدى تحريمه لا قولاً والفرض مؤدى“۔ بحر: ۲/۱۳۵ (۱)۔

=سهو سجدهتان بعد السلام..... ولأن سجود السهو آخر عن محل النقصان بالإجماع، وإنما كان لمعنى، ذلك المعنى يقتضى التأخير عن السلام وهو أنه لو أداها هناك ثم سها مرة ثانية وثالثة ورابعة، يحتاج إلى أدائه في كل محل، وتكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع، فأخر إلى وقت السلام احترازاً عن التكرار، فينبغى أن يؤخر أيضاً عن السلام حتى أنه لو سها عن السهو لا يلزمه أخرى فيؤدى إلى التكرار“۔ (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان محل السجود: ۱/۴۱۶، ۴۱۷، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو: ۱/۱۳۰، رشيدية)
(۱) (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب المسافر: ۲/۲۳۸، رشيدية)

”وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده، فإذا قام المقيم (إلى الإتمام لا يقرأ) ولا يسجد للسهو (في الأصح)؛ لأنه كاللاحق“۔ (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب المسافر: ۲/۱۲۹، سعيد) =

”والأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلوة..... وثم المقيم على المسافر“.

درمختار (۱)۔

۲..... صریح جزئیہ نہیں دیکھا، حکماً مقتدی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تہمید پر کفایت کرے اور مسبوق

ہونے کا تقاضا ہے کہ جمع کرے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۳/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۳/۹۰ھ۔

امام کی پانچویں رکعت میں اقتداء

سوال [۲۹۹۳]: اگر امام بھول کر چار رکعت کے بعد کھڑا ہو گیا، پانچویں رکعت میں ایک شخص

شریک ہو گیا تو وہ شخص کیسے اور کتنی رکعت ادا کرے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وہ بہ نیت فرض شریک ہوا ہے اس کی شرکت درست نہیں، اس کو ایسے امام کے ساتھ شریک نہیں

ہونا چاہئے، شامی: ۱/۳۰۳ (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

= (و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، بيان اقتداء المقيم لمسافر : ۱/۲۷۷، رشیدیہ)

(۱) (الدر المختار، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/۵۵۷، ۵۵۸، سعید)

”واختلف في المسافر مع المقيم قيل: هما سواء، وقيل: المقيم أولى، وينبغي ترجيحه كما لا

يخفى“۔ (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة : ۱/۶۰۹، رشیدیہ)

(۲) ”لاحق فوت شدہ نماز مع سنن و آداب ادا کرے“۔ (احسن الفتاویٰ : ۳/۳۸۴، سعید)

(۳) ”عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: ”إنما جعل الإمام ليؤتم به

..... فلا تختلفوا عليه“.

قال الشيخ ظفر أحمد العثماني قدس سره: ”قلت: احتج به أصحابنا على المنع من اقتداء

المفترض بالمتنفل، قالوا: واختلاف النية داخل في ذلك“۔ (إعلاء السنن، كتاب الصلاة، باب جواز

النافلة خلف المفترض و عدم جواز عكسه : ۲/۲۵۷، إدارة القرآن)

”لو اقتدى به مفترض في قيام الخامسة بعد القعود و قدر التشهد، لم يصح“۔ (ردالمحتار، =

نماز فجر کے بعد روزانہ کتاب سنانا جب کہ نماز میں مسبوق بھی ہوں

سوال [۲۹۹۳]: بعد نماز صبح دعا سے قبل یا بعد مصلیٰ پر بیٹھ کر روزانہ کوئی دینی کتاب نمازیوں کو سنانا یا

جب کہ تلاوت کرنے والوں اور وظیفہ والوں اور مسبوق و لاحق کو پریشانی ہو، شرعاً کیسا ہے؟ یہاں دونوں خیال کے آدمی ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مسلمانوں میں عامۃً دین سے بے رغبتی اور بے عملی ہے، اس کے دور کرنے کے لئے دینی معتبر کتاب کا سنانا بہت مفید ہے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ سب لوگ جماعت سے نماز پڑھیں (۱)، اگر کوئی شخص مسبوق یا لاحق ہو جاوے تو وہ اپنی نماز پوری کرے اس کے بعد کتاب سنائی جائے۔ جن کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہو وہ دوسرے وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن نمازیوں کا مجمع پھر بغیر نماز کے جمع نہیں ہوگا۔ اگر دوسرے وقت تلاوت نہ کر سکتا ہو تو دوسری جگہ یا ایک طرف کو آہستہ بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس طرح سب کے اتفاق کے ساتھ مشورہ سے کام ہو جائے گا اور انشاء اللہ خیر و برکت بھی ہوگی۔

اتنی بات صحیح ہے کہ پابندی کے ساتھ کتاب سنانا اور روزانہ وعظ فرمانا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لئے اس کو سنتِ مستمرہ تصور نہ کیا جائے، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے مدارس میں تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے کہ وہاں روزانہ تعلیم کی جاتی ہے، یا اسپتال میں داخل شدہ آدمی کو روزانہ دوا دی جاتی ہے کہ یہ ضرورت کی

= کتاب الصلاة، باب سجود السهو: ۸۸/۲، سعید

”إذا قعد في الرابعة قدر التشهد، وقام إلى الخامسة ساهياً، واقتدى به رجل، لا يصح اقتداؤه ولو عاد إلى القعدة؛ لأنه لما قام إلى الخامسة فقد شرع في النفل، فكان إقتداء المفترض بالمتنفل، ولو لم يقعد مقدار التشهد، صح اقتداؤه؛ لأنه لم يخرج من الفرض قبل أن يقيد بها بسجدة“۔ (البحر الرائق، باب سجود السهو: ۱۸۶/۲، رشیدیہ)

(۱) ”عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”صلوة الجماعة تفضل على صلوة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة“۔ (جامع الترمذی، کتاب الصلوة، باب ماجاء في فضل الجماعة: ۵۲/۱، سعید)

بناء پر ہے، محض امرِ تعبیدی نفل روزہ کی طرح نہیں، جس قدر ضرورت ہو اس کو اختیار کیا جائے (۱)۔ اگر اس طرح نمازی متفق نہ ہوں اور وہ ضد میں آکر کتاب سنانے کے وقت زور سے تلاوت شروع کر دیں (گو مخلصین سے اس کی توقع نہیں) تو پھر مجبوراً مسجد کے کسی الگ کونے میں ہلکی آواز سے کتاب سنائی جاوے تاکہ دونوں آوازوں میں تصادم پیدا نہ ہو، یا اگر اس پر متفق ہو جائیں کہ ہفتہ میں ایک دن یا دو دن کتاب سنائی جایا کرے تو اسی کو اختیار کر لیں۔ غرض نزاع نہ کریں، قرآن پاک میں ہے: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا﴾ الآية (۲)۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد الفجر مصلیٰ پر تشریف فرما رہتے، کبھی لوگوں سے دریافت فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے کبھی اپنا خواب بیان فرماتے (۳)، کبھی مختلف قسم کی گفتگو فرماتے رہتے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کا ذکر شروع ہو گیا اور کسی نے اس دور کے اشعار سنائے تو ایک مجلس میں سو سو اشعار کی نوبت آئی۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "عن شقیق قال: کان عبد اللہ بن مسعود ینذکر الناس فی کل خمیس، فقال له رجل: یا أبا عبد الرحمن! لو ددت أنک ذکرنا فی کل یوم، قال: أما أنه یمنعنی من ذلک أنى أکره أن أملكکم، وإنى أتخولکم بالموعظة كما کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافة السامة".

قال القاری رحمہ اللہ تعالیٰ: "قال ابن الملک: أى یعظنا يوماً دون یوم، ووقتاً دون وقت. ویروی بالحاء المهملة أيضاً: أى یتأمل أحوالنا التى ننشط فیها للموعظة فیعظنا فیها، وكذلك یفعل المشایخ و الوعاظ فی تربية المریدین". (مرقاة المفاتیح شرح مشکوة المصابیح، کتاب العلم، الفصل الأول: ۱/۳۶۱، ۳۶۲، رشیدیہ)

(۲) (سورة الأنفال: ۳۶)

(۳) "عن سمرة بن جندب قال: کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم إذا صلی، أقبل علینا بوجهه، فقال:

"من رای منکم اللیلة رؤیا؟" قال: فإن رای أحد قصّها، فیقول: "ما شاء اللہ"، فسألنا يوماً فقال: "هل

رای منکم أحد رؤیا؟" قلنا: لا، قال: "لکنی رأیت اللیلة رجلین". (إلى آخر الحدیث) (مشکوة

المصابیح، کتاب الرؤیا، الفصل الأول، ص: ۳۹۵، ۳۹۶، قدیمی)

باب الحدث فی الصلوة

(نماز میں حدث لاحق ہونے کا بیان)

لحوق حدث سے بناء کا حکم

سوال [۲۹۹۵]: مقتدی کو نماز میں حدث اصغر ہو جائے تو وضو کرے یا نہیں؟ اگر وضو کرنے جائے تو کتنی دور جاسکتا ہے؟ اور اسی نیت سے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو فوت شدہ کو کس وقت پڑھے؟ غرضیکہ بناء کے متعلق جملہ صورتیں ارشاد فرمائی جائیں۔ بینوا و توجروا۔

الجواب حامداً و مصلياً:

اگر نماز میں کسی کو بلا قصد حدث اصغر غیر اختیاری لاحق ہو جائے تو شرعاً اس کو اجازت ہے؟ کہ وہ فوراً خاموش چلا جائے اور جس قدر قریب پانی ہو اس سے وضو کر کے دوبارہ اپنی جگہ آجائے اور اسی پر بناء کرے اور جس میں حدث ہوا تھا اس کا اعادہ کرے (۱)۔ اگر یہ نمازی مقتدی تھا اور امام اتنے میں نماز سے فارغ ہو چکا تو اس کو اختیار ہے خواہ پہلی جگہ لوٹ آئے خواہ وضو کی جگہ ہی پڑھ لے اور اگر فارغ نہیں ہوا تو پہلی جگہ لوٹ آئے اور اتنی دیر میں امام نے جس قدر نماز پڑھی ہے اس کے اعتبار سے یہ مقتدی لاحق ہے۔ پس اگر یہ چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھ کر امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے تب تو اس کو بلا قرأت مقتدی کی طرح پڑھ کر امام کے ساتھ شریک

(۱) ”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”من أصابه قیء أو رعاف أو قلس أو مذي، فليصرف فليتوضأ، ثم لين علی صلوته، وهو فی ذلك لا يتكلم“۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب الصلوة، باب ما جاء فی البناء علی الصلوة، ص: ۷۵، قدیمی)

”محمد قال: أخبرنا أبو حنیفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: یجزئه، والاستیناف أحب إلیّ۔ قال محمد: و بقول إبراهيم نأخذ ذلك یجزئ، فإن تکلم واستقبل فهو أفضل، وهو قول أبي حنیفة“۔ (کتاب الآثار، کتاب الصلوة، باب الرعاف فی الصلوة والحدث، ص: ۲۹، إدارة القرآن)

ہو جائے، پہلے امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور فراغتِ امام کے بعد چھوٹی ہوئی نماز بلا قرأت پڑھے۔
 اگر وہ شخص جس کو حدیث لاحق ہو گیا امام تھا تو کسی مدرک کو اپنا خلیفہ بنا دے اور رکعات کی مقدار انگلی کے اشارہ سے بتائے، رکوع کے لئے گھٹنے اور سجدہ کے لئے پیشانی اور زبان پر اور سجدہ سہو کے لئے سینہ پر ہاتھ سے اشارہ کرے اور پھر بطریق مذکور وضو کر کے جماعت میں شریک ہو جائے اور نماز پوری کرے، لیکن استیناف بہر حال افضل ہے کیوں کہ جوازِ بناء کے لئے تیرہ شرطیں ہیں جن کی حفاظت ہر شخص سے دشوار ہے، کذا فی حاشیۃ الطحطاوی، ص: ۱۴۹ (۱) و غنیۃ المستملی للحلبی الکبیر، ص: ۴۲۷ (۲)

(۱) "(و مکثہ قدر أداء رکن بعد سبق الحدیث مسیقظاً) بلا عذر، فلو مکث لزحام أو لینقطع رعافه أو نوم رعف متمکناً، فإنه یبنی و یرفع رأسه من رکوع أو سجود سبقه فی الحدیث بنیۃ التطمیر لا بنیۃ إتمام الرکن حذراً عن الإفساد به، و یضع یدہ علی أنفه تستراً..... کما إذا لم یعد لإمامه و قد بقی فیها، وإذا فرغ منها، فله الخيار، إن شاء أتمها فی مکانه أو عاد و اختلفوا فی الأفضل..... والأفضل الاستیناف خروجاً من الخلاف، و عملاً بالإجماع". (مراقی الفلاح).

وقال العلامة الطحطاوی: "(قوله: کما إذا لم یعد لإمامه) اعلم أنه إذا کان منفرداً، فالعود أفضل نتقع الصلوٰۃ فی مکان واحد، وقیل: الأفضل أن لا یعود لما فیہ من تقلیل المشی، و کذا إذا کان مقتدیاً فرغ إمامه، فإن لم یفرغ و کان بینهما ما یمنع الاقتداء، تحتم علیه العود. والإمام کالمقتدی فی تحتم العود إن کان ثمة ما یمنع الاقتداء لتحول الإمامة عنه". (حاشیۃ الطحطاوی، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ، ص: ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، قدیمی)

(۲) وقال العلامة إبراهیم الحلبي الكبير رحمه الله: "من سبقه حدث سماوی من بدنه موجب للوضوء فی الصلوٰۃ، انصرف من فورہ، و توضعاً من غیر أن یشتغل بشیء غیر ضروری فی وضوئه، و بنی علی صلاته عندنا إن لم یعرض له ما ینافیها..... و لكن الاستیناف أفضل للعبد عن شبهة الخلاف، وقیل: ذلك فی المنفرد، و أما الإمام والمقتدی فالبناء أفضل فی حقهما إحراراً فضیلة الجماعة، و علی هذا فلو أمکنهما الاستیناف بجماعة أخرى فهو أفضل فی حقهما أيضاً. ثم المنفرد أتمها فی مکان وضوئه إن أمکن أو أقرب المواضع إلیه إن لم یمنح تحرراً عن زیادة المشی، وإن شاء رجع إلی مصلاه لیؤدی صلاته فی مکان واحد، والمقتدی یعود إلی مکانه البتة إن لم یفرغ إمامه. ولو أتم فی غیره، لا یصح إذا کان بینہ و بین إمامه ما یمنع صحة الاقتداء. وإن کان إمامه قد فرغ یتخیر کالمنفرد. والإمام حکمه =

و در مختار، ص: ۶۲۶ (۱) اور علامہ شامی نے اس مسئلہ کی تفصیل پندرہ صفحات میں لکھی ہے۔ فقط واللہ
سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی، ۱۰/۷/۵۵ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد، الجواب صحیح: عبداللطیف، ۱۲/رجب۔

حدث لاحق ہونے کی صورت میں امام، منفرد اور مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟

سوال [۲۹۹۶]: وضو کند، بر همان نماز بنا کند، اگر منفرد باشد اور از سر نو
نماز خواندن افضل است، و اگر امام باشد خلیفہ گیرد، و وضو کند و داخل مقتدیان شود،
و مقتدی وضو کردہ باز آید بمکان کہ آنجا بود.

= حکم المقتدی؛ لأنه یصیر من جملة المقتدین“۔ (الحلی الکبیر (غنیة المستملی)، کتاب الصلوٰۃ،
فصل فیما تفسد الصلوٰۃ، فروع، ص: ۴۵۲، ۴۵۳، سہیل اکیڈمی)

(۱) ”اعلم أن لجواز البناء ثلاثة عشر شرطاً: كون الحدث سماوياً من بدنه غير موجب لغسل و لا نادر
وجوداً..... (سبق الإمام حدث) سماوی لا اختیار للعبد فیہ..... (غير مانع للبناء) كما قدمناه
(و لو بعد التشهد) لیأتی بالسلام (استخلف): أي جاز له ذلك و لو فی جنازة بإشارة أو جر لمحراب و
لو لمسبق، و یشیر بأصبع لبقاء ركعة و بأصبعین لركعتین، و یضع یدہ علی ركبتہ لترک ركوع، و علی
جبهته لسجود، و علی فمه لقرأة، و علی جبهته و لسانه لسجود تلاوة، أو صدره لسهو (ما لم یجاوز
الصفوف لو فی الصحراء)..... (و استینافه أفضل) تحرزاً عن الخلاف..... و إذا ساغ له البناء
توضاً) فوراً بكل سنة (و بنی علی ما مضی) بلا کراهة (و یتم صلاته ثمة) و هو أولى تقلیلاً للمشی (أو
یعود إلى مكانه) لیتحد مكانها (کمنفرد) فإنه مخیر. وهذا كله (إن فرغ خلیفته و الإعاد إلى مكانه) لو
بینهما ما یمنع الاقتداء الخ“۔ (رد المحتار مع الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الاستخلاف:
۱/۵۹۹-۶۰۶، سعید)

مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: (احسن الفتاویٰ: ۳/۴۳۳، کتاب الصلوٰۃ، باب مفصلات الصلوٰۃ)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الصلاة، فصل: الکلام فی محل البناء و کیفیتہ: ۱/۵۲۱، ۵۲۲،

۵۲۳، رشیدیہ)

۱.....سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے امام مقتدی اور منفرد تین قسم کے لوگ ہیں، پہلے ایک حکم ہے: در نماز حدث لاحق شود وضو کند، پھر امام اور منفرد و مقتدی کے لئے الگ الگ حالتیں بیان کی گئیں۔ اس عبارت کا صحیح مجمل کیا ہے؟

۲..... دو آدمی برابر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، ایک امام تھا دوسرا مقتدی، تیسرے شخص نے امام کو آگے بڑھا کر امام کی جگہ کھڑا کر دیا اور خود اسی ایک مقتدی کے ساتھ صف میں کھڑا ہو گیا، اب بعد سلام کے امام اپنی جگہ علی حالہ بیٹھا رہے یا داہنے طرف مڑ کر بیٹھے پھر دعاء کرے یہ عصر کی نماز تھی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... منفرد کے لئے اس صورت میں استیناف افضل ہے اس کا اپنا تنہا کا معاملہ ہے، امام کے لئے خلیفہ بنا دینا افضل ہے اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی ہیں، ان سب کی نماز بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو خلیفہ بنا دینا افضل ہے تاکہ وقتِ حدث تک جتنی نماز پڑھ چکے ہیں وہ خراب اور بیکار نہ ہو، ان کو استیناف (از سر نو پڑھنا اور پڑھی ہوئی کو بیکار قرار دینا) شاق ہوگا، بناء میں یہ بات نہ ہوگی (۱)۔

۲..... دائیں یا بائیں اس طرح مڑ کر بیٹھ سکتا ہے کہ مسبوق کی طرف اس کا رخ نہ ہو (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "أن الاستيناف أفضل تحرزاً عن الخلاف". (الدر المختار). "قلت: هذا ظاهر في المنفرد؛ لأن مانوا، هو عين صلاته من كل وجه، بخلاف الإمام أو المقتدى تأمل". (رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الاستخلاف: ۶۰۳/۱، سعيد)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة: ۲۵۷/۱، مكتبه إمداديه)

(و كذا في تبیین الحقائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة والحدث في الصلوة: ۳۶۹/۱، دارالكتب العلمية، بيروت)

(۲) "عن السدي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه". "عن عبد الله قال: "لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً لا يرى إلا أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينصرف عن شماله". (الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب جواز الانصراف من الصلوة عن اليمين والشمال: ۲۳۷/۱، قديمي)

پہلی صف کے نمازی کا وضو ٹوٹ گیا، کیا کرے؟

سوال [۲۹۹۷]: بڑھے اڑدھام کے موقع پر کوئی شخص اگلی صف میں ہو اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہو تو وہ شخص نمازیوں کے سامنے سے ہو کر گزر سکتا ہے یا صفوں کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے نکلے؟ تو اس صورت میں ایذائے مسلم لازم آئے گی اور اڑدھام کی صورت میں صفوں کثیرہ کو چیرتے پھاڑتے ہوئے گزرتا بڑا دشوار ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ہر صف کے دو آدمیوں کے درمیان سے نکلنا ہوگا اس کی اجازت ہے (۱)، تاہم اگر دشوار ہو تو وہیں بیٹھ جائے نماز میں شریک نہ رہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۹/۳/۹۳ھ۔

مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟

سوال [۲۹۹۸]: جماعت ہو رہی ہے اور مسجد اندر سے بھر رہی ہے اور پہلی صف کے اندر یا تیسری

= ”وإن كان لا يتنفل بعد ما يقعد مكانه، وإن شاء انحرف يمينا أو شمالاً. وإن شاء استقبلهم بوجهه إلا أن يكون بحذاءه مصل، سواء كان في الصف الأول أو في الأخير، والاستقبال إلى المصلي مكروه، هذا ما صححه في البدائع“۔ (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة: ۱/۵۸۵، رشیدیہ) (و کذا فی الدر المختار، کتاب الصلوة، فصل فی بیان تألیف الصلوة الی انتہائہا: ۱/۵۳۱، ۵۳۲، سعید) (و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی الدر المختار، فصل: الشروع فی الصلوة: ۱/۲۳۳، دار المعرفۃ بیروت) (۱) ”نماز کی اصلاح (وضو وغیرہ) کے لئے نمازیوں کے سامنے سے گزرتا جائز ہے لہذا جاتے وقت سامنے سے گزر جائے اور واپسی تک اگر وہ جگہ خالی ہے، تو سامنے سے گزر کر اس جگہ کو پر کرے، بلکہ سامنے سے جانے کی جگہ نہ ہو تو صف کو چیر کر بھی جاسکتا ہے“۔ (احسن الفتاویٰ: ۳/۲۹۷، سعید)

(۲) ”عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 'إذا صلى أحدكم، فأحدث، فليمسك على أنفه، ثم لينصرف'۔ (إعلاء السنن، كتاب الصلاة، باب جواز البناء لمن أحدث في الصلوة الخ: ۱/۵، إدارة القرآن)

(و أيضاً سيأتي تخریجه تحت عنوان: ”مقتدی کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے؟“)

صف کے اندر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرنا چاہئے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر نمازیوں کے درمیان کو نکلتا ہے اس طرح پر کہ کسی کی نماز قبلہ کی طرف سے سینہ پھر جانے کی وجہ سے فاسد نہ کرے تو نکل آئے ورنہ وہیں بیٹھا رہے (۱)۔

وضو ٹوٹ گیا باہر جانے کو جگہ نہیں تو کیا کرے؟

سوال [۲۹۹۹]: ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا کئی صفوں کے درمیان کھڑا ہے اب باہر کس طرح نکلے

جب کہ جگہ نہ ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر باہر نکلنے کی جگہ ہو تو چلا آئے ورنہ نیت ختم کر کے وہیں بیٹھ جائے (۲) پھر وضو کر کے دوبارہ پوری نماز پڑھے اگر اپنی پہلی جگہ جماعت میں شرکت کر سکتا ہے تو جا کر شریک ہو جائے ورنہ جہاں جگہ ملے وہیں پڑھے (۳)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۴/۸۷ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۴/۸۷ھ۔

(۱) چونکہ قبلہ سے سینہ کا انحراف مفسد نماز ہے، اس وجہ سے دوسرے نمازیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے وہیں بیٹھنا چاہیے: ”(وتحويل صدره على القبلة“۔ (التنوير). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: ”قال في البحر في شروط الصلاة: والحاصل أن المذهب أنه إذا حول صدره فسدت، كما عليه عامة الكتب“۔ (رد المحتار: ۱/۶۲۶، ۶۲۷، کتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها، سعيد)

(۲) (راجع الحاشية السابقة)

(۳) ”ومنها: إذا كان مقتدياً أن يعود إلى الإمام إن لم يكن فرغ الإمام و كان بينها حائل يمنع جواز الاقتداء ولو فرغ إمامة لا يعود“۔ (الفتاوى العالمكيريّة: ۱/۹۵، کتاب الصلوة، الباب السادس في الحدث في الصلاة، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى التاتار خانية، كتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة: ۱/۳۹۹، قديمي)

(و كذا في البحر الرائق: ۱/۶۲۶، كتاب الصلوة، باب الحدث في الصلوة، رشيدية)

نماز میں حدث ہو جائے، پانی دور ہو تو کیا کرے؟

سوال [۳۰۰۰]: کسی مصلیٰ نے حالتِ صلوٰۃ میں جو ریح نکلنے والی تھی اس کو دبا لیا تو کیا اس کی نماز ہوگئی؟ نیز اگر اس نے حالتِ نماز میں ریح خارج کیا تو کیا وضو کے لئے ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جانا پڑے گا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ریح خارج نہیں ہوئی تو نماز ہوگئی، اگر ریح خارج ہوگئی تو وضو باقی نہیں رہا، پانی کہیں بھی ہو خواہ دوسری مسجد میں یا مکان پر وہاں جا کر وضو کرے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۲/۸۵ھ۔

ایک طرف سلام پھیرا تھا کہ حدث لاحق ہو گیا

سوال [۳۰۰۱]: سلام ایک طرف پھیرا اور فوراً حدث اصغر لاحق ہو گیا، نماز ہوگئی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز ہو جائے گی: ”فيحصل التحليل بسلام واحد“۔ در مختار: ۱/۴۹۰ (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۷/۸۸ھ۔

(۱) ”و فی السراجیة : إذا سبقه حدث فی صلوته، جاز له أن یبني إذا سبقه الحدث، فإنه یذهب إلى الماء وإن كان بعيداً“۔ (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الحدث فی الصلوٰۃ، ص: ۱۳، سعید)

”لأن الوضوء أمر لا بد للبناء منه، والمشى، والاعتراف، والاستقاء عند الحاجة من ضرورات الوضوء“۔ و ما مشى کل ذلك كان محتاجاً إليه لتحصيل التطهير، فلا یوجب فساد الصلوٰۃ“۔ (بدائع الصنائع، کتاب الصلوٰۃ، فصل وأما شرائط جواز البناء: ۱/۵۲۰، رشیدیہ)

(۲) (کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ: ۱/۵۲۵ سعید)

”عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً: ”مفتاح الصلوٰۃ الطهور، و تحریمها التکبیر، و تحلیلها التسلیم“۔

قال العلامة العثماني رحمه الله تعالى عليه تحت هذا الحديث: ”إذا جلس مقدار التشهد، ثم =

قعدہ اخیرہ میں بعد التشہد حدث کا حکم

سوال [۳۰۰۲]: گوافل نماز میں اگر قعدہ اخیرہ میں التحیات اور درود کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو کیا

نماز ہو جائے گی یا دوبارہ وضو کرے اور التحیات اور درود پڑھ کر سلام پھیرے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

افضل یہ ہے کہ دہرائی جائے، اجازت اس کی بھی ہے کہ وضو کر کے بنا کر لی جائے یعنی وضو کر کے سلام پھیر دیا جائے، مگر اس کی شرائط سخت ہیں، عامۃً لوگ ان سے واقف نہیں اس لئے دہرانا ہی بہتر ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

= أحدث، فقد تم صلاته“۔ (إعلاء السنن، كتاب الصلوة، باب وجوب الخروج من الصلوة بالسلام: ۳/۱۳۰، ۱۳۱، إدارة القرآن)

”وأما حكمه، فهو الخروج من الصلوة، ثم الخروج يتعلق بإحدى التسليمتين عند عامة العلماء. وقد روى عن محمد أنه قال: التسليم الأولى للخروج والتحية، والتسليم الثانية للتحية خاصة“۔ (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل أما الذي هو عند الخروج من الصلوة فلفظ السلام: ۱/۴۵۷، رشيدية) (۱) ”عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”من أصابه قىء أو رعاف أو قلنس أو مذى، فليتنصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلوته، وهو في ذلك لا يتكلم“

”والأحاديث في الباب مختلفة، منها: ما يدل على الاستيناف، ومنها ما يدل على البناء، فجمعنا بينها بأن حكمنا بجواز كليهما واستحبنا الاستيناف“۔ (إعلاء السنن، كتاب الصلوة، باب جواز البناء لمن أحدث في الصلوة: ۱/۵، إدارة القرآن كراچی)

”(سبق الإمام حدث) (غير مانع البناء) كما قدمناه (ولو بعد التشهد) ليأتي بالسلام (واستينافه أفضل) تحرزاً عن الخلاف (وإذا ساغ له البناء توضأ) فوراً بكل سنة (و بنى على ماضى) الخ“۔ (الدر المختار، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/۵۹۹-۶۰۵، سعيد)

”ثم ما ذكرنا من جواز البناء لا يختلف، سيما إذا كان الحدث في وسط الصلوة أو آخرها، حتى لو سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد الأخير، يتوضأ و يبنى عندنا؛ لأنه يحتاج إلى الخروج بلفظ السلام التي هي واجبة“۔ (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة: فصل: الكلام في محل البناء و كفيته الخ:

گمانِ حدث پر رکوع سجدہ کرتا رہا

سوال [۳۰۰۳]: لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے سمجھا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا اور ویسے ہی رکوع سجدہ کرتا رہا، سمجھا کہ نماز سے خارج ہوں، پھر یقین ہوا کہ وضو نہ ٹوٹا تھا تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں؟

عاشق غفرلہ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

وضو ٹوٹنے کے گمان پر اگر نماز سے خارج ہونے کی نیت کر لی اور بغیر نیت نماز قیام، رکوع، سجدہ کرتا رہا تو نماز صحیح نہیں ہوئی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی غفرلہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد۔



(۱) ”و لو غلب علی ظنہ فی الصلوٰۃ أنه أحدث أو أنه لم یمسح، تیقن بذلك لا شک له فیہ، ثم تیقن أنه لم یحدث أو قد مسح، قال أبو بکر: إن کان أذی رکناً حال التیقن بالحدث أو بعدم المسح، فإنه یستقبل الصلوٰۃ، وإلا یمضی فیہا“۔ (الفتاویٰ العالمکیریۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود السهو، ومما یتصل بذلك مسائل الشک: ۱/۱۳۱، رشیدیہ)

(و کذا فی فتاویٰ قاضیخان علی ہامش الفتاویٰ العالمکیریۃ، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی مسائل الشک الخ: ۱/۱۰۸، رشیدیہ)

باب ما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ فیہا

الفصل الأول فیما یفسد الصلوٰۃ

(مفصلات نماز کا بیان)

نماز میں چڑیا کا خون لگ گیا تو کیا نماز فاسد ہوگئی؟

سوال [۳۰۰۲]: زید نماز پڑھ رہا تھا کہ سچھے سے ٹکرا کر چڑیا گر گئی، اس کا بازو ٹوٹ گیا اور خون

جاری ہو گیا اور اس کا خون زید کی ٹوپی پر گر پڑا، بعد میں معلوم ہوا۔ تو اس نماز کا اعادہ واجب ہوگا، یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ایک درہم سے زائد خون لگ گیا، تو نماز فاسد ہوگئی (۱)، عین نماز میں پیتہ چل جائے تو اسی وقت نماز ختم کر دے

کپڑا پاک کر کے دوبارہ پڑھے، اگر پیتہ نہ چلے تو جب معلوم ہو کپڑا پاک کر کے اعادہ کرے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۴/۱۱/۹۱ھ۔

(۱) "النجاسة إن كانت غليظة - وهي أكثر من قدر الدرهم - فغسلها فريضة، والصلاة بها باطلة الخ"

(الفتاوى العالمكيرية، الباب الثالث في شروط الصلاة: ۵۸/۱، رشيدية)

(و كذا في الدر المختار، باب الأنجاس: ۳۱۶/۱، سعيد)

"أما النجاسة القليلة: فإنها لا تمنع جواز الصلاة سواء كانت خفيفة أو غليظة استحساناً

..... ولهذا قدرنا بالدرهم على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث، كذا قاله إبراهيم النخعي

رحمه الله تعالى: إنهم استقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم، فكنوا عنه بالدرهم وأما النجاسة

الكثيرة، فتمنع جواز الصلاة". (بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في بيان المقدار الذي يصير به

المحل نجساً: ۴۲۸/۱، ۴۲۸، دار الكتب العلمية بيروت)

(۲) "و وجد في ثوبه منياً، أو بولاً، أو دمًا، أعاد من آخر احتلام و بول و رعاف". (الدر المختار، فصل

في البثر: ۴۱۹/۱، سعيد)

مذی وودی والے کپڑے میں نماز کا حکم

سوال [۳۰۰۵]: مذی وودی اگر جسم یا کپڑے میں لگی ہوئی ہو اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر دھوئے ہوئے، پھر اگر معاف ہے تو مقدار غفو کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مذی، وودی کو فقہاء نے نجاستِ غلیظہ لکھا ہے، ایک درہم سے کم مقدار بدن پر یا کپڑے پر لگی رہے اور نماز پڑھ لے تو نماز بالکراہت ادا ہو جائے گی، زیادہ ہو تو نماز درست ہی نہ ہوگی، ہاتھ کی ہتھیلی کے گڈھے سے رقیق کا اندازہ کیا جاسکتا ہے (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

نماز میں یاد آ یا کہ بڑا استنجا نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟

سوال [۳۰۰۶]: کوئی شخص بڑا استنجا کرنا بھول گیا اور نماز میں یاد آ گیا کیا کرنا چاہئے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک نجاست مخرج نجاست سے متجاوز نہ ہو استنجا سنت ہے، جب مخرج سے متجاوز ہو جائے اور مقدار درہم ہو تو پانی سے اس کا ازالہ واجب ہے اور جب مقدار درہم سے بھی متجاوز ہو جائے تو پانی سے اس کا

= وفي المبسوط: " وإن انتضح البول على المصلي أكثر من قدر الدرهم من موضع، فانفتل فغسله، لم يبين علي صلواته". (المبسوط للسرخسي، باب الحدث في الصلاة: ۱/ ۳۵۳، المكتبة الغفاريه)
(۱) " (وعفا) الشارع (عن قدر درهم)، وإن كره تحريماً، فيجب غسله (وعرض مقعر الكف في رقيق من مغلظة كعذرة) آدمي، وكذا كل ما خرج منه موجباً لوضوء أو غسل مغلظ". (الدر المختار).
(قوله: وإن كره تحريماً) أشار إلى أن العفو عنه بالنسبة إلى صحة الصلاة به، ففي المحيط:
يكره أن يصلي ومعه قدر درهم أو دونه من النجاسة عالماً به لاختلاف الناس فيه". (رد المحتار، باب الأنجاس: ۱/ ۳۱۶، ۳۱۸، سعيد)

(وكذا في بدائع الصنائع، فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً: ۱/ ۴۲۹، دار الكتب العلمية، بيروت)

دھونا فرض ہے (۱)، تو یہ تین صورتیں ہوئیں۔ پہلی صورت میں نماز تمام کرے اور بس (۲)، دوسری صورت میں نماز تمام کر کے اس کا اعادہ بھی استنجا کرنے کے بعد کرے (۳)، تیسری صورت میں نماز کا شروع کرنا ہی صحیح نہیں ہوا، لہذا نماز توڑ کر استنجا کرے اور از سر نو نماز پڑھے (۴)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۸/صفر/۵۸ھ۔

(۱) قال العلامة الحلبي: ”(و) من الآداب (أن يغسل مخرج النجاسة إذا لم تتجاوز) النجاسة (مخرجها، أما إذا تجاوزت مخرجها والحال أنها (لم تكن قدر الدرهم) وزناً في الكيف (فغسله سنة، وإن كانت قدر الدرهم فغسله واجب، وأما إن زادت) النجاسة المتجاوزة عن المخرج (على قدر الدرهم فغسله): أي النجس أو المخرج (فرض) إجماعاً“. (غنية المستملي، مطلب في آداب الوضوء، ص: ۲۹، مكتبة سهيل اكيذمي، لاهور)

(و كذا في الدر المختار، باب الأنجاس: ۳۱۶/۱، سعيد)

(و كذا في مراقي الفلاح، فصل في الاستنجاء، ص: ۳۴، قديمي)

(۲) ”و لو تركه، صحت صلاته . قال في الخلاصة : بناءً على أن النجاسة القليلة عفو عندنا، و علمائنا فصلوا بين النجاسة التي على موضع الحدث والتي على غيره، في غير موضع الحدث إذا تركها يكره، و في موضعه إذا تركها لا يكره“. (البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ۳۱۷/۱، رشيدية)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً: ۳۲۸/۱، مكتبة دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في رد المحتار، كتاب الطهارة، باب الأنجاس: ۳۱۶/۱، سعيد)

(۳) ”كل صلاة أديت مع كراهة التحريم، تجب إعادتها، والمختار أنه جابرٌ للأول“. (الدر المختار، باب صفة الصلاة: ۳۵۷/۱، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، باب صفة الصلاة: ۵۱۵/۱، رشيدية)

”قوله: وكذا كل صلاة، الخ) بل قال في فتح القدير: والحق التفصيل بين كون تلك

الكراهة كراهة تحريم، فتجب الإعادة، أو تنزيه فتستحب“. (رد المحتار، باب صفة الصلاة: ۳۵۷/۱، سعيد)

(۴) ”ثم الشرط العلامة اللازمة، و شرعاً ما يتوقف عليه الشيء و لا يدخل فيه (هي) ستة: =

نماز کے بعد دانتوں میں خون دیکھنا

سوال [۳۰۰۷]: ایک شخص نے نماز پڑھائی، نماز کے پندرہ بیس منٹ بعد دانتوں میں خون دیکھا یہ پتہ نہیں کب کا ہے تو کیا کرے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

یہ نماز صحیح ہوگئی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲/۹/۶۴ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مفتی مدرسہ ہذا، صحیح: عبداللطیف مدرسہ مظاہر علوم۔

بے وضو نماز پڑھا دی تو نمازیوں کو اس کی اطلاع دینا ضروری ہے

سوال [۳۰۰۸]: ایک روز میں گھر سے عصر کی نماز پڑھ کر بازار گیا اور مغرب تک وہیں رہ گیا، جب مغرب کی اذان ہوئی میں مسجد میں گیا، وہاں نماز پڑھانے والا کوئی نہ تھا، میں نے چونکہ کچھ روز تک وہاں

= (طہارة بدنہ): أي جسده (من حدث) بنوعیه (و خبث) مانع كذلك (و ثوبه)، و کذا ما يتحرك بحرکتہ“، (الدر المختار، باب شروط الصلاة: ۴۰۱/۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، کتاب الصلاة، الباب الثالث فی شروط الصلاة: ۵۸/۱، رشیدیہ)

قال العلامة الکاسانی: ”أما شرائط أركان الصلاة، فمنها: الطهارة والطهارة الحقيقية:

هی طهارة الشوب، والبدن، و مکان الصلاة عن النجاسة الحقيقية. و الطهارة الحکمیة: هی طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث، و طهارة جميع الأعضاء الظاهرة عن الجنابة“، (بدائع الصنائع، فصل فی بیان شرائط الأركان: ۵۳۶/۱، دارالکتب العلمیة بیروت)

(۱) ”وفی السراج: لو وجد فی ثوبه نجاسة مغلظة أكثر من قدر الدرهم ولم یعلم بالإصابة، لم یعد شیئاً بالإجماع، وهو الأصح اهـ. قلت: وهذا یشمل الدم، فیقتضی أن الأصح عدم الإعادة مطلقاً، تأمل“.

(ردالمحتار، کتاب الطهارة، فصل فی البئر مطلب مهم فی تعريف الاستحسان: ۲۲۰/۱، سعید)

”ومشایخنا قالوا وفی الدم فی آخر مارعف واختار فی المحيط أنه یعد شیئاً

لو رأی دمًا“، (البحر الرائق، کتاب الطهارة: ۲۲۱/۱، رشیدیہ)

نماز پڑھائی تھی اس لئے لوگوں نے مجھ کو نماز پڑھانے کی اجازت دی۔ اس وقت مجھ کو وضو کا خیال نہیں تھا، جب تکبیر ہو چکی اور میں نے نیت باندھ لی تو خیال آیا کہ میرا وضو نہیں ہے مگر میں نے نماز پڑھا دی اور سلام پھیرنے کے بعد بہت دیر تک بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ اب کیا کروں؟ لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں میرے پیچھے چار آدمی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ کئی جگہ کے تھے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بھول سے بے وضو شروع کر دی تھی پھر یاد آ گیا تو اسی وقت نمازیوں کو خبر کرنا لازم تھا کہ مجھے وضو نہیں، وضو کر لوں تب نماز پڑھاؤں گا، یاد آنے پر بلا وضو نماز پڑھنا سخت گناہ ہے (۱)، خدا کے سامنے توبہ واستغفار لازم ہے، نیز سب مقتدیوں کو اعلان کر کے خبر کر دیں کہ فلاں روز فلاں وقت کی نماز نہیں ہوئی اس کو سب دوبارہ پڑھیں، جو مقتدی اعلان کے وقت موجود نہ ہوں ان کو دوسرے وقت اطلاع کرنا واجب ہے (۲) ورنہ ان کی نماز خراب ہونے کا وبال سر پر رہے گا۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۲/۹۲ھ۔

بلغم منہ میں لئے ہوئے نماز پڑھنا

سوال [۳۰۰۹]: بلغم منہ میں لئے مگر منہ کھول کر نماز ادا کر لے تب کیا حکم ہے اور اگر تسبیح منہ بند

(۱) ”(فترض الوضوء)..... و حکمہ أن یستحق العقاب تارکہ، و یکفر جاحدہ“۔ (مجمع الأنهر، کتاب الطہارة: ۹/۱، مکتبہ دار إحياء التراث العربی بیروت)

”قلت: و بہ ظہر أن تعمد الصلاة بلا ظہر غیر مکفر کصلاة لغير القبلة، أو مع ثوب نجس“۔

(الدر المختار، کتاب الطہارة: ۸۱/۱، سعید)

(۲) ”(وإذا ظہر حدث إمامہ..... (بطلت، فیلزم إعادتها) لتضمنها صلاة المؤتمر صحة و فساداً

(كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم: و هو محدث أو جنب) أو فاقد شرط أو ركن..... (بالقدر

الممكن) بلسانه أو (بكتاب أو رسول على الأصح) لو معينين، و إلا لا يلزمه. بحر عن المعراج“۔

(تنوير الأبصار مع الدر المختار، باب الإمامة: ۵۹۱/۱، ۵۹۲، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، باب الإمامة: ۶۳۰/۱، رشیدیہ)

(و كذا في النهر الفائق، باب الإمامة والحدث في الصلاة: ۲۵۵/۱، مکتبہ امدادیہ ملتان)

کر کے کہہ دے تب کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر اس سے قرأت ترک ہو جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، بغیر زبان اور لبوں کی حرکت دیئے تسبیحات کس طرح کہے گا (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

ناپاک کپڑے و بدن والے شخص کے لقمہ دینے سے فساد نماز کا حکم

سوال [۳۰۱۰]: ایک شخص نابینا ہے اور وہ نماز میں شریک ہو کر امام کو لقمہ بھی دیتا ہے اور اس کا بدن بھی ناپاک رہتا ہے اور کپڑے بھی ناپاک رہتے ہیں، اس کے لئے کیا حکم ہے؟ نہ وہ بدن پاک کرتا ہے نہ کپڑے پاک کرتا ہے۔ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جس شخص کا بدن اور کپڑا ناپاک ہے اور وہ پاک کرنے پر قادر ہو، اس کو بغیر پاک کئے نماز میں شرکت جائز نہیں (۲)، اگر وہ نماز پڑھے گا تو فریضہ ادا نہیں ہوگا اور بجائے ثواب کے ایسا شخص سخت عذاب کا مستحق ہوگا،

(۱) ”(وأخذ درهم) ونحوه (فی فیہ لم یمنعه من القراءة) فلو منعه تفسد، اھ“۔ (الدر المختار، باب ما یفسد الصلوٰۃ و ما یکرہ فیہا: ۱/۶۳۰، ۶۳۱، سعید)

”و لا یصلی و فی فیہ دراهم او دنانیر لا یمنعه عن القراءة، وإن منعه لم تجز صلاته.....
وإن منعه عن أداء الحروف، أفسد الصلوٰۃ. وإن لم یمنعه عن عین القراءة، و إنما منعه عن سنة القراءة، لا تفسد صلاته، و لكن یکره له، وإن لم یمنعه شیئاً، فلا بأس به“۔ (الفتاویٰ التاتاریخانیة، الفصل الرابع فی بیان ما یکره للمصلی و ما لا یکره له: ۱/۵۶۵، إدارة القرآن)

(و کذا فی الحلبي الكبير، فصل فی ما یکره فعله فی الصلوٰۃ و ما لا یکره، ص: ۳۵۲، مکتبہ سہیل اکیڈمی لاہور)

(۲) ”ثم الشرط لغة العلامة اللازمة، و شرعاً ما يتوقف عليه الشئ ولا يدخل فيه. (هي) ستة: (طهارة بدنه): أي جسده..... (من حدث) بنوعیه..... (وخبث) مانع كذلك (و ثوبه)، و کذا ما يتحرك بحرکتہ“۔ (الدر المختار، باب شروط الصلوٰۃ: ۱/۴۰۱، سعید)

”تطهير النجاسة من بدن المصلی و ثوبه و المكان الذي یصلی علیه واجب، هكذا فی الزاهدی =

حتیٰ کہ ایسا کرنے سے ایمان کا سلامت رہنا دشوار ہے، وہ شخص خواہ آنکھوں والا ہو خواہ نابینا ہو، اگر ایسا شخص نماز میں شریک ہو کر امام کو لقمہ دے گا اور امام اس کا لقمہ لے گا تو امام کی اور سب مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۰/۹/۶۷ھ۔

اگر ناپاکی کی مقدار عفو سے زیادہ ہے، تو جواب صحیح ہے، معمولی پھینٹیں یا اتنی ناپاکی جو معاف ہے اس سے نماز ہو جاتی ہے اور لقمہ دینا بھی درست ہے اور جب تک ظن غالب ہو، محض احتمال کی بنا پر کسی کو ناپاک کہنا اور نماز کو فاسد قرار دینا صحیح نہ ہوگا (۲)، سائل کو خود تحقیق کرنی چاہئے۔

سعید احمد غفرلہ۔

= فی باب الأنجاس۔ (الفتاویٰ العالمگیریہ، الباب الثالث فی شروط الصلوة: ۵۸/۱، رشیدیہ)
 ”(قوله: ہی طهارة بدنه من حدث وخبث و ثوبه و مکانه). أما طهارة بدنه من الحدث، فبآية الوضوء والغسل، ومن الخبث فبقوله صلى الله عليه وسلم: ”تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه“
 ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضى الله تعالى عنه: ”اغسلى عنك الدم وصلى“ وأما طهارة ثوبه، فلقوله تعالى: ﴿و ثيابك فطهر﴾ [المدثر، آیت: ۴] فإن الأظهر أن المراد ثيابك الملبوسة، وأن معناه طهرها من النجاسة. وقد قيل فى الآية غير هذا، لكن الأرجح ما ذكرناه، وهو قول الفقهاء، وهو الصحيح كما ذكره النورى فى شرح المهدب“، (البحر الرائق، باب شروط الصلوة: ۴۶۳/۱، رشیدیہ)
 (و كذا فى الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة: ۸۱/۱، سعید)

(۱) ”و فى القنية: ارتج على الإمام، ففتح عليه من ليس فى صلاته و تذكر، فإذا أخذ فى التلاوة، قبل تمام الفتح، لم تفسد، وإلا تسد؛ لأن تذكره يضاف إلى الفتح و لو سمعه المؤتم ممن ليس فى الصلاة، ففتحه على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل؛ لأن التلقين من خارج“، (البحر الرائق، باب ما يفسد الصلوة و ما یکرہ فیہا: ۱۱/۲، رشیدیہ)

(و كذا فى الفتاوى العالمگیریة، الباب السابع فيما يفسد الصلوة و ما یکرہ فیہا ۹۹/۱، رشیدیہ)

(و كذا فى رد المحتار، باب ما يفسد الصلوة و ما یکرہ فیہا: ۶۲۲/۱، سعید)

(۲) ”النجاسة إن كانت غليظة، و هى أكثر من قدر الدرهم، فغسلها فريضة، و الصلاة بها باطلة. وإن كانت مقدار درهم فغسلها واجب، و الصلاة معها جائزة. وإن كانت أقل من قدر درهم فغسلها سنة. وإن =

نا پاک مشکوک تہبند سے نماز

سوال [۳۰۱۱]: پاک تہبند کے نیچے نا پاک تہبند یا مشکوک (تہبند) ہو، نماز پڑھے تو ان صورتوں میں کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پاک کرنا ضروری ہے بغیر الگ کئے نماز درست نہ ہوگی (۱) اور مشکوک کو بھی الگ کر دیا جائے: ”دع ما یریبک الی ما لا یریبک“ (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۵/۱/۵۹ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مفتی مظاہر علوم۔

صحیح: عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

= كانت خفيفة، فإنها لا تمنع جواز الصلاة حتى تفحش، كذا في المصنوعات“ (الفتاوى العالمكيرية، الباب الثالث في شروط الصلاة: ۵۸/۱، رشيدية)

(و كذا في الدر المختار، باب الأنجاس: ۳۱۶/۱، سعيد)

”أما النجاسة القليلة، فإنها لا تمنع جواز الصلاة سواء كانت خفيفة أو غليظة استحساناً، ولهذا قدرنا بالدرهم على سبيل الكناية عن موضع خروج الحدث، كذا قاله إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: انهم استقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم، فكنوا عنه بالدرهم، تحسیناً للعبارة، وأخذ بصالح الأدب، وأما النجاسة الكثيرة، فتمنع جواز الصلاة“ (بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً: ۴۲۸/۱، دار الكتب العلمية بيروت)

(۱) ”هي (أي شروط الصلوة): ستة: طهارة بدنه: أي جسده..... وثوبه، وكذا ما يتحرك بحر كتفه أو يعدّ حاملاً له“ (الدر المختار)

”قوله: وثوبه) أراد ما لبس البدن، فدخل القلنسوة والخف والنعل“ (رد المحتار، كتاب

الصلوة، باب شروط الصلوة: ۴۰۲/۱، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في بيان شرائط الأركان: ۵۳۶/۱، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۲) (مسند الإمام أحمد بن حنبل: ۳/۶۲۳، رقم الحديث: ۱۲۱۴۰، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

خارج آدمی کے کہنے سے تکبیر کہنے سے نماز فاسد ہوگی

سوال [۳۰۱۲]: ایک مسجد میں فرض نماز باجماعت ہو رہی ہے اوپر کئی منزلیں ہیں، بالائی حصہ میں بھی جماعت ملحق ہو رہی ہے، سوء اتفاق سے آلہ مکبر الصوت خراب ہو گیا، یا امام کی آواز اوپر نہیں پہنچی۔ ایک صاحب نے اوپر سے زینہ پر آ کر آواز دیا کہ تکبیر بولو، اوپر آواز نہیں آتی، نماز میں ایک صاحب نے پست آواز سے تکبیر کہنا شروع کیا، دوبارہ آواز دینے والے نے کہا زور سے تکبیر کہو، دوسرے صاحب نے نماز ہی میں زور سے تکبیر کہنا شروع کیا۔ پس دریافت طلب امر یہ ہے کہ خارج از نماز شخص کا لقمہ نمازی نے لیا اور اس پر تکبیر کہنا شروع کیا، اس حالت میں تکبیر کہنے والے نمازی کی نماز ہو جائے گی، یا فاسد ہو جائے گی؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

جب کسی نے جو کہ نماز میں شریک نہیں تھا کہا کہ تکبیر بولو، اس پر اگر کسی نمازی نے فوراً تکبیر آواز سے نہیں کہی: مثلاً امام اس وقت قرآن میں مشغول تھا، جب وہ فارغ ہو کر رکوع میں گیا، تب کسی نمازی نے تکبیر کہدی تاکہ اوپر کے نمازیوں تک بھی پہنچ جائے، تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی (۱)۔

اسی طرح اگر خارج نماز آدمی نے پھر کہا کہ زور سے تکبیر کہو تو فوراً آواز سے تکبیر نہیں کہی، بلکہ جب امام سجدہ میں گیا، یا سجدہ سے اٹھا، اس وقت تکبیر زور سے کہی، تب بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اگر خارج نماز آدمی کے کہنے پر فوراً تکبیر آواز سے کہدی تو نماز فاسد ہوگی، کذا فی رد المحتار (۲) والبحر الرائق (۳) والہدایہ (۴)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) "قوله: إلا إذا تذكروا، الخ)..... قلت: والذي ينبغي أن يقال: إن حصل التذکر بسبب الفتح، تفسد مطلقاً: أي سواء شرع في التلاوة قبل تمام الفتح أو بعده لوجود التعلم، وإن حصل تذکره من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقاً". (رد المحتار، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۱/۲۲۲، سعید)
(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، الباب السابع فیما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۱/۹۹، رشیدیہ)
(و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۱/۱۱، رشیدیہ)

(۲) "قوله: إلا إذا سمعه المؤتم الخ)، فی البحر عن القنیة: و لو سمعه المؤتم ممن لیس فی الصلاة، =

نمازی کا غیر نمازی کے کہنے پر عمل کرنا

سوان [۳۰۱۳]: ایک آدمی مسبوق فی الصلوٰۃ ہے، مگر اس کو اپنی مسبوقیت یاد نہیں ہے، جس وقت امام نے سلام پھیرا، تو ساتھ ساتھ اس نے بھی پھیر لیا، ایک دوسرا آدمی پہلو میں کھڑا تھا، سلام پھیرنے کے بعد اس نے یاد دلایا کہ تمہاری ایک رکعت باقی ہے، فاتح سے فتح لیکر رکعت کو پورا کر لیا۔ آیا مستفتح کی نماز ہوگی، یا نہیں؟ عبارت مع حوالہ کتب و صفحہ تحریر فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر محض فاتح کے فتح کی وجہ سے کھڑا ہو گیا، خود یاد نہیں آیا تو نماز فاسد ہوگئی: ”(و فتحہ علی غیر إمامہ) إلا إذا أراد التلاوة، و كذا الأخذ، إلا إذا تذاكر فتلا قبل تمام الفتح، اهـ“. در مختار مع ردالمحتار (۱)۔ ”(قوله: وكذا الأخذ): أي أخذ المصلي غير الإمام بفتح من فتح عليه مفسدًا

= ففتح به على إمامه، يجب أن تبطل صلاة الكل؛ لأن التلقين من خارج، اهـ، وأقره في النهج. ووجهه أن المؤتمر لما تلقن من خارج بطلت صلاته، فإذا فتح على إمامه و أخذ منه بطلت صلاته“. (رد المحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۱/۲۲۲، سعيد)

(۳) ”و فی القنیة: أرتج على الإمام، ففتح عليه من ليس في صلاته و تذكر، فإذا أخذ في التلاوة قبل تمام الفتح لم تفسد، و إلا فتفسد؛ لأن تذكره يضاف إلى الفتح، و فتح المراهق كالبالغ، و لو سمعه المؤتمر ممن ليس في الصلاة ففتح على إمامه، يجب أن تبطل صلاة الكل؛ لأن التلقين من خارج“۔ (البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۱/۲، رشیدیہ)

(۴) ”(وإن استفتح، ففتح عليه في صلاته، تفسد) و معناه أن يفتح المصلي على إمامه؛ لأنه تعليم و تعام، فكان من كلام الناس“۔ (الهداية، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۱/۱۳۶، مكتبه شركة علمیه)
(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب السابع فيما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۱/۹۹، رشیدیہ)
(۱) (رد المحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۱/۲۲۲، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب السابع فيما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۱/۹۹، رشیدیہ)
(و كذا في البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۱/۲، رشیدیہ)

أیضاً كما فی البحر عن الخلاصة. أو أخذ الإمام بفتح مَنْ لیس فی صلاته، كما فیہ من القنیة،
 اهـ. شامی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفر له۔

کیا لقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟

سوال [۳۰۱۴]: امام نے بجائے لقمہ لینے کے دوسری سورۃ شروع کر دی، دریافت طلب یہ بات
 ہے کہ مقتدی کی نماز ہوئی یا نہیں؟

مختار احمد۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اس مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوئی (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

لقمہ دینے سے مقتدی کی نماز فاسد نہیں ہوتی

سوال [۳۰۱۵]: اگر امام تین آیت سے زائد قرأت کر چکا ہو اور امام اگلی آیت پڑھتے ہوئے بھول جائے
 تو مقتدی نے لقمہ دیدیا، لیکن امام نے لقمہ نہ لے کر بعد میں سجدہ سہو کر لیا تو لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟

(۱) (ردالمحتار، باب ما یفسد الصلوٰۃ و ما یکرہ فیہا: ۶۲۲/۱، سعید)

”ارتج علی الإمام، ففتح علیہ من لیس فی صلاته، و تذکر، فإن أخذ فی التلاوة قبل تمام
 الفتح، لم تفسد، و إلا تفسد؛ لأن تذکره مضاف إلى الفتح. وفتح المراهق كالبالغ.“ (الفتاویٰ
 العالمگیریة، الباب السابع فیما یفسد الصلوٰۃ و ما یکرہ فیہا: ۹۹/۱، رشیدیہ)
 (و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلوٰۃ و ما یکرہ فیہا: ۱۱/۲، رشیدیہ)

(۲) ”(بخلاف فتحہ علی امامہ)، فإنه لا یفسد (مطلقاً) لفتح و أخذ بكل حال.“ (الدر المختار). ”قولہ:
 بكل حال): أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلوٰۃ أم لا، انتقل إلى آية أخرى أم لا، تكرر الفتح أم
 لا، هو الأصح، نهر.“ (الدر المختار، باب ما یفسد الصلوٰۃ و ما یکرہ فیہا: ۶۲۲/۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریة، الباب السابع فیما یفسد الصلوٰۃ و ما یکرہ فیہا: ۹۹/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلوٰۃ و ما یکرہ فیہا: ۱۰/۲، رشیدیہ)

الجواب حامداً ومصلیاً:

لقمہ دینے والے کی نماز تو فاسد نہیں ہوئی (۱) لیکن اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا غلط ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۱۰/۸۹ھ۔

ٹوپی پیشانی پر رکھ کر سجدہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟

سوال [۱۶ ۳]: ایک شخص ٹوپی پیشانی پر لگاتا ہے اور سر کا پچھلا حصہ کھلا رہتا ہے جس سے سجدہ ٹوپی

کے اوپر ہوتا ہے، اس طرح سے نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ شخص امامت بھی کرتا ہے۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

افضل یہ ہے کہ پیشانی سجدہ کرتے وقت زمین پر رہے اگرچہ سجدہ اس طرح بھی ادا ہو جاتا ہے کہ ٹوپی

پیشانی پر ہو اور اس پر سجدہ کیا جائے، لیکن اگر پیشانی بالکل نہیں رکھی گئی، نہ بلا واسطہ زمین پر، نہ ٹوپی کے واسطہ سے

زمین پر، بلکہ اٹھی رہی کہ صرف ٹوپی کا کچھ حصہ زمین پر رکھا گیا اور پیشانی علیحدہ اوپر اٹھی رہی جیسے کہ بعض دفعہ

عمامہ کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کا پیچ کچھ زمین پر رکھا گیا اور پیشانی کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوا، نہ

بالواسطہ نہ بلاواسطہ تو ایسی صورت میں سجدہ درست نہیں ہوتا، نماز صحیح نہیں ہوتی (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۷/۹۴ھ۔

(۱) (تقدم تخريجہ تحت العنوان السابق: "کیا لقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟")

(۲) "کما یکرہ تنزیہاً بکور عمامتہ إلا بعذر، وإن صح عندنا بشرط کونہ علی جہتہ کلہا أو بعضہا

کما مر، أما إذا کان الکور علی رأسہ فقط وسجد علیہ مقتصرأ: أي ولم تصب الأرض جہتہ ولا أنفہ

علی القول بہ، لا یصح لعدم السجود علی محلہ." (الدر المختار). "وہو أن صحۃ السجود علی الکور

إذا کان علی الجہتہ أو بعضہا، أما إذا کان علی الرأس فقط، وسجد علیہ ولم تصب جہتہ الأرض علی

القول بتعیینہا ولا أنفہ علی مقابلہ، لا تصح، اھ. فافہم." (ردالمحتار، کتاب الصلاۃ، فصل فی بیان

تألیف الصلاۃ إلی انتہائہا: ۱/۵۰۰، سعید)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوٰۃ، باب صفۃ الصلوٰۃ، فصل: ۱/۲۱۶، امدادیہ، ملتان)

"و ذکر البخاری فی صحیحہ: قال الحسن: "کان القوم یسجدون علی العمامۃ والقلنسوة"۔"

ترکی ٹوپی سے نماز اور حرام خور کی نماز

سوال [۳۰۱۷]: ترکی ٹوپی سے نماز درست ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جس کی روزی حرام ہے اس کی عبادت اور دعاء قبول ہوتی ہے یا نہیں؟

سعید احمد۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ترکی ٹوپی ناپاک رنگ سے رنگی ہوئی ہے تو اس سے نماز درست نہیں ہے (۱)، جب تک اس قدر نہ دھولیا جائے کہ رنگ کٹنا بند ہو جائے۔ اگر ترکی ٹوپی کا سرخ رنگ ناپاک نہیں یا پختہ رنگ ہے اس کو پاک کر لیا گیا، تب بھی خالص سرخ رنگ مرد کو منع ہے اس لیے اس سے نماز مکروہ ہوگی (۲)۔ جس کی روزی حرام ہے اس کے

= فدل ذلك على الصحة، وإنما كره لما فيه من ترك نهاية التعظيم وقد نبه العلامة ابن أمير الحاج هنا تنبيهاً حسناً، وهو أن صحة السجود على الكور إذا كان الكور على الجبهة أو بعضها، أما إذا كان على الرأس فقط، وسجد عليه، ولم تصب جبهته الأرض بتعينها ولا أنفه على القول بعدم تعيينها، فإن الصلوة لا تصح، لعدم السجود على محله، وكثير من العوام يتساهل في ذلك، ويظن الجواز“. (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، فصل: ۱/ ۵۵۷، رشيدية)

(۱) ”(قوله: والأولى غسله) اعلم أنه ذكر في المنية أنه لو أدخل يده في الدهن النجس أو اختضبت المرأة بالحناء النجس أو صبغ الثوب بالصبغ النجس، ثم غسل كل ثلاثاً، طهر. ثم ذكر عن المحيط أنه يطهر إن غسل الثوب حتى يصفوا الماء و يسيل أبيض“. (رد المحتار، باب الانجاس، مطلب في حكم الصبغ والاختضاب بالصبغ والحناء النجسين: ۱/ ۳۲۹، سعید)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب السابع في النجاسة وأحكامها: ۱/ ۴۲، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الطهارة بالانجاس: ۱/ ۴۱۱، رشيدية)

(۲) ”وقد روى عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه مرفوعاً: ”إياكم والحمرة، فإنها أحب الزينة

إلى الشيطان“. (إعلاء السنن، باب استحباب الزينة في العيدين: ۸/ ۹۰، إدارة القرآن كراچی)

(و كذا في الدر المختار، مسائل شتى: ۶/ ۷۵۵، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، فصل في اللبس: ۸/ ۳۲۹، رشيدية)

متعلق روایات میں آتا ہے کہ اسکی نماز و دعاء قبول نہیں ہوتی، کما فی طیب الشذی (۱)۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر العلوم۔

الجواب صحیح: العبد عبداللطیف، ناظم مدرسہ مظاہر العلوم، ۳۰/ربیع الثانی/۵۴ھ۔

حرم شریف میں عورت کا مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا

سوال [۳۰۱۸]: حریم شریفین میں حج کے موقع پر بھیر کے سبب عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر

نماز فرض شروع کر دیتی ہیں، تو ایسے موقع پر کئی صورتیں ہوتی ہیں: ۱- سامنے اگلی صف میں عورت ہے۔ ۲- بغیر

فصل دائیں اور بائیں ہے۔ ۳- ایک آدمی کے فصل سے دائیں اور بائیں ہے۔ ۴- عین پیچھے ہے۔ ۵- آگے

ایک دو صف بعد ہے۔ تو ان صورتوں میں سے کس کس میں نماز درست ہوگی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حنفیہ کے نزدیک عورت اگر جماعت میں شریک ہو تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ امام نے عورت کی

امامت کی نیت کی ہو، ایسی حالت میں عورت اگر دائیں یا بائیں ہو متصلاً، یا سامنے ہو تو اس مرد کی نماز فاسد

ہو جائے گی جس کے دائیں یا بائیں یا آگے ہے، اگر دائیں یا بائیں فاصلے سے ہے، یا پیچھے ہے تو اس مرد کی نماز

فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر امام نے عورت کی امامت کی نیت نہیں کی ہے تو مرد کی نماز عورت کے داہنے یا بائیں یا

آگے ہونے سے فاسد نہیں ہوگی، البتہ عورت کی نماز صحیح نہیں ہوگی:

”وإذا حادثته امرأة مشتهاة، ولا حائل بينهما في صلوة مطلقاً مشتركة تحريمًا و أداءً،

(۱) ”وفی الزواجر: أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى

عليه وسلم: ”إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى:

﴿يأأيها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحاً﴾ - إلى - بما تعملون عليهم ﴿ وقال: ﴿يأيها الذين آمنوا

كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب،

يارب! ومطعمه حرام، و مشربه حرام، و ملبسه حرام، و غذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك“

(الزواجر، باب المناهى من البيوع: ۳۸۳/۱، دار الفكر، بيروت)

(و كذا في تفسير ابن كثير، الجزء الثامن عشر: ۳/۳۳۱، دار السلام رياض)

واتحدت الجهة، فسدت صلواته إن نوى الإمام إمامتها، وإلا فسدت صلواتها“۔ تنوير الأَبصار (۱)۔

عرصہ ہوا امام حرم سے دریافت کیا گیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ ہم عورت کی امامت کی نیت کرتے ہی نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

املاء العبد محمود وغفر له، دارالعلوم دیوبند، ۲/۸/۱۴۰۶ھ۔

عورت کا مسجد میں آکر مردوں کی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا

سوال [۳۰۱۹]: اس عورت کی بابت کیا حکم ہے جس کی عمر تقریباً ۳۵/۴۰ یا ۵۰/۵۵ ہے، وہ ہر وقت مسجد میں باجماعت نماز کو آتی ہے، کہیں پیچھے تنہا کھڑی ہوتی ہے، کبھی مردوں کے ساتھ بائیں طرف ہاتھ دو ہاتھ فاصلہ پر کھڑی ہوتی ہے۔ کیا شرعاً جائز ہے یا کیا صورت کرنی چاہئے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

”الفتوى في زماننا على أنهن لا يخرجن وإن كنَّ عجائز إلى الجماعات لا في الليل و لا في النهار لغلبة الفتنة والفساد و قرب يوم المعاد“ (۲)۔

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو جماعت کی شرکت کے لئے مسجد میں آنا منع ہے۔ یہ حکم تو مسجد میں آنے

(۱) (تنوير الأَبصار مع الدر المختار، باب الإمامة: ۱/۵۷۲ - ۵۷۵، سعيد)

”أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا صلت المرأة إلى جانب الرجل و كانا في صلاة واحدة، فسدت صلاته. أخرجه محمد، و قال: به نأخذ، و هو قول أبي حنيفة“۔ (باب فساد صلاة الرجل بمحاذاة النساء في صلاة مشتركة جماعة: ۲/۲۲۸، إدارة القرآن، کراچی)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب الخامس في بيان مقام الإمام و المأموم: ۱/۸۹، رشيدية)

(۲) (نفع المفتى و السائل، ما يتعلق بالجماعة، مجموعة رسائل اللكنوى: ۳/۱۱۸، إدارة القرآن و العلوم الإسلامی)

”و یکرہ حضورهن الجماعة) و لو لجمعة و عید و وعظ (مطلقاً) و لو عجوزاً لیلاً (على

المذهب) المفتی به لفساد الزمان“۔ (الدر المختار، باب الإمامة: ۱/۵۶۶، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام و المأموم: ۱/۸۹، رشيدية)

کے متعلق ہے، نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر امام نے عورت کی امامت کی نیت نہیں کی تو عورت کی نماز صحیح نہیں ہوئی، مردوں کی صحیح ہوگئی۔ اگر عورت کی امامت کی نیت کی ہے اور عورت بھی اس نماز میں ہے جس میں اس کے قریب کھڑا ہونے والا مرد ہے اور مکان بھی متحد ہے اور مکان کے درمیان کوئی حائل بھی نہیں ہے تو جس مرد کے پاس وہ عورت کھڑی ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر کم از کم ایک ہاتھ کے فصل سے کھڑی ہے، یا مرد نے اس کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا اور وہ پیچھے نہ ہوئی تو مرد کی نماز فاسد نہیں ہوئی:

”ومحاذاة المشتہاة بساقہا و کعبہا فی الأصح - ولو محرماً لہ أو زوجة اشتہت، ولو ماضیاً کعجوز شوہاء - فی أداء رکن عند محمد، أو قدرہ عند أبی یوسف فی صلاة. ولو بالإیماء مطلقاً فلا تبطل صلاة الجنابة؛ إذ لا سجود لہا مشترکة تحریمة باقتدائها بإمام أو اقتدائها بہ فی مکان متحد، ولو حکماً بقیامہا علی ما دون قامۃ بلا حائل قدر ذراع، أو فرجة تسع رجلاً، ولم یشر إلیہا لتأخر عنہ، فإن لم تتأخر بإشارتہ، فسدت صلاتہا لا صلاتہ. ولا یکلف بالتقدم عنہا لکراہتہ. وتاسع شروط المحاذاة المفسدة أن یکون الإمام قد نوى بإمامتہا، فإن لم ینوہا، لا تكون فی الصلوة، فانتفت المحاذاة“. مراقی الفلاح علی هامش الطحطاوی، ص: ۱۹۲ (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حررہ العبد محمود گنگوہی، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۹/۳/۵۵ھ۔

صحیح: عبداللطیف، ۱۰/ربیع الاول/۵۵ھ۔

میاں بیوی کا ایک مصلے پر کھڑے ہو کر الگ الگ نماز پڑھنا

سوال [۳۰۲۰]: زید اور اس کی بیوی ایک مصلیٰ پر ایک دوسرے سے مل کر نماز گزارتے ہیں اور نیت بھی ہر ایک کی علیحدہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز

(۱) (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ص: ۳۲۹، ۳۳۰، قدیمی)

(و کذا فی تنویر الأبصار مع الدر المختار، باب الإمامة: ۱/۵۷۲، ۵۷۶، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب الإمامة: ۱/۶۲۰، ۶۲۱، رشیدیہ کوئلہ)

درست ہے۔ کس کا قول صحیح ہے اور کس امام کے قول پر فتویٰ ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

جب دونوں کی نماز علیحدہ علیحدہ ہے تب تو ایسی صورت میں کسی کی نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، مکروہ ہوتی

ہے: ”ومحاذاة المشتہاة بساقہا و کعبہا فی الأصح ولو محرماً لہ أو زوجته اشتہیت فی

صلاة مطلقة مشتركة تحریمة، مراقی الفلاح۔“ (قولہ: مشتركة) احتراز بہ عن محاذاة المصلية

لمصل لیس ہو فی صلاتہا حیث تکرہ ولا تفسد۔“ طحطاوی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور، ۸/۸/۵۵ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۹/۸/۵۵ھ۔

نماز میں چلنے سے نماز کا حکم

سوال [۳۰۲۱]: امام سخن مسجد میں مع مقتدیوں کے نماز ادا کر رہے ہیں، اسی حالت میں بارش

ہونے لگی، تو ایسی صورت میں کیا امام اور مقتدیوں کو اجازت ہے کہ نماز کے اندر اندر اس مقدار میں چلیں کہ دالان

مسجد میں داخل ہو کر بارش سے بچ سکیں؟ جواب مفصل اور مدلل مرحمت فرمائیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

اگر مسجد کے سخن سے دالان تین قدم کے فاصلے پر ہے اور اس طرح چل کر وہاں پہنچیں کہ

درمیان میں وقفہ نہ کریں، بلکہ مسلسل چلیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگر ایک قدم چل کر ایک رکن کی مقدار

ٹھہر جائیں پھر چلیں پھر ٹھہر جائیں، پھر چل کر پہنچیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر فاصلہ اس سے کم ہے، تو

نماز فاسد نہیں ہوگی:

”مشی مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر رکن، ثم مشی وقف

(۱) (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، باب ما یفسد الصلوة، ص: ۳۲۹، قدیمی)

(و کذا فی الدر المختار، باب الإمامة: ۵۷۴/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب الإمامة: ۶۲۲/۱، رشیدیہ)

كذلك، وهكذا لا تفسد وإن كثر، ما لم يختلف المكان“. در مختار، وبسط فی الشامی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

عمل کثیر کا حکم

سوال [۳۰۲۲]: دونوں ہاتھوں سے ایک وقت میں کام کرنا نماز پڑھتے ہوئے کیسا ہے، مثلاً رکوع میں سے کھڑے ہو کر اور سجدہ میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے پائیجامہ، یا دھوتی کو درست کرنا کیسا ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے، آیا نماز ہوگئی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو کام عادتاً دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے، بعض فقہاء کے نزدیک ایسا کام نماز میں کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے (۲)، معمولی طریقہ سے اگر پائیجامہ، یا دھوتی کو مختصر سا سہارہ دیا کہ سجدہ میں رکاوٹ نہ ہو، کشف

(۱) (الدر المختار، باب ما یفسد الصلوة وما یکرہ فیہا: ۱/۶۲۷، سعید)

”أن المشى لا يخلو: إما أن يكون بلا عذر أو بعذر، فالأول إن كان كثيراً متوالياً تفسد وإن لم يستدبر القبلة، وإن كان كثيراً غير متوال، بل تفرق في ركعات أو كان قليلاً، فإن استدبرها، فسدت صلاته للمنافى بلا ضرورة، وإلا فلا، وكره، وإن كان بعذر فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف، لم يفسد ها ولم يكره قل أو كثر، استدبر أو لا. وإن كان لغير ما ذكر، فإن استدبر معه، فسدت قل أو كثر، وإن لم يستدبر. فإن قل، لم يفسد ولم يكره، وإن كان كثيراً متلاحقاً أفسد.“

(رد المحتار باب ما یفسد الصلوة وما یکرہ فیہا: ۱/۶۲۸، سعید)

وفی الفتاویٰ العالمگیریة: ”و لو مشی فی صلاته مقدار صف واحد، لم تفسد صلاته، و لو كان مقدار صفین إن مشی دفعةً واحدة، فسدت صلاته، وإن مشی إلى صف و وقف، ثم إلى صف لا تفسد، كذا فی فتاویٰ قاضی خان“. (الباب السابع الخ، النوع الثاني فی الأفعال المفسدة للصلوة: ۱/۱۰۳، رشیدیہ)

(و كذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلوة وما یکرہ فیہا: ۲/۲۲، رشیدیہ)

(۲) ”العمل الكثير يفسد الصلاة، والقليل لا، كذا في محيط السرخسي..... الأول: أن ما يقام باليدين عادةً كثير، وإن فعله بيد واحدة كالتعمم و لبس القميص و شد السراويل و الرمي عن القوس =

عورت نہ ہو، زیادہ حرکت نہیں ہوئی تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اور ہاتھوں کو ایسی حالت میں زیادہ حرکت دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے (۱)، تاہم اس سے اجتناب کرنا بہر حال بہتر ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۵/۷/۵۷ھ۔

ایک رکن میں تین بار کھجلائے سے کیا نماز کو توڑنا لازم ہے؟

سوال [۳۰۲۳]: فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ نماز میں کوئی تین مرتبہ ایک رکن میں کھجلائے اور ہر بار

حرکت دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس صورت میں نیت توڑ دینا جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً :

اگر ایک رکن میں تین بار کھجلائے تو نیت نہ توڑے، پھر بعد میں دوبارہ اس نماز کو ادا کریں تو اچھا

ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۵/۹/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۶/۹/۸۸ھ۔

= وما یقام بید واحدة قلیل و إن فعله بیدین کنزع القمیص و حل السراویل و لبس القلنسوة و نزعها و نزع اللجام، هكذا فی التبیین“ (الفتاویٰ العالمگیریہ، النوع الثانی فی الأفعال المفسدة للصلاة: ۱۰۲/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی ردالمحتار، باب ما یفسد الصلاة و ما یکرہ فیہا: ۶۲۵/۱)

(و کذا فی بدائع الصنائع، فصل فی بیان حکم الاستخلاف: ۱۴۶/۲، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(۱) ”قولہ: و فیہ أقوال خمسة: أصحابها ما لا یشک، القول الثالث: الحركات الثلاث المتوالية كثير، و إلا فقليل“ (ردالمحتار، باب ما یفسد الصلاة و ما یکرہ فیہا: ۶۲۵/۱، سعید)

(و کذا فی الحلبي الكبير، فصل فی مفسدات الصلاة، ص: ۴۴۸، سهیل اکیڈمی لاہور)

(۲) ”إذا حک ثلاثاً فی رکن واحد، تفسد صلاته، هذا إذا رفع يده فی کل مرة، أما إذا لم يرفع فی کل

مرة، فلا تفسد. ولو كان الحک مرة واحدة، یکره، کذا فی الخلاصة“ (الفتاویٰ العالمگیریہ، الباب

السابع فیما یفسد الصلاة و ما یکرہ فیہا، النوع الثانی فی الأفعال المفسدة للصلاة: ۱۰۴/۱، رشیدیہ)

تنبیہ: احسن الفتاویٰ: ۳/۴۱، میں مذکورہ مسئلہ کی تفصیل یوں ہے: ”تین دفعہ کھجلائے سے مطلقاً نماز فاسد =

کیا تین دفعہ کھجلا نا عمل کثیر ہے؟

سوال [۳۰۲۴]: زید امام مسجد ہے، خارش میں مبتلا ہے، ہر نماز میں تین بار سے زیادہ کھجاتے ہیں۔

یہ عمل کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زید کو نماز پڑھانے سے احتیاط کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ صحت مند ہو جائے (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

= نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس وقت مفسد ہے کہ ہر دفعہ ہاتھ اٹھائے، اگر ہر دفعہ علیحدہ ہاتھ نہ اٹھائے، بلکہ ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھا کر تین دفعہ کھجلا یا، تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ (احسن الفتاویٰ: ۳/۴۱۷، سعید)

”وقال فی الفيض: الحک بید واحده فی رکن ثلاث مرات تفسد الصلاة إن رفع يده فی کل

مرة“۔ (ردالمحتار، باب ما یفسد الصلاة و ما یکرہ فیہا: ۱/۶۲۰، سعید)

(و کذا فی غنیة المستملی، مفسدات الصلاة، ص: ۴۲۸، سہیل اکیڈمی لاہور)

”و من الفروع المؤسسة أو حک ثلاثاً فی رکن یرفع يده کل مرة تفسد،

لا إن کسب أو حک أقل مما عیناه أو غیر متدارک لا تفسد“۔ (فتح القدير،

باب ما یفسد الصلاة و ما یکرہ منہا: ۱/۴۰۴، مکتبہ مصطفیٰ البابی الحلبي بمصر)

”الثالث: الحركات الثلاث المتوالية كثير، و إلا فقليل“۔ (رد المحتار، باب ما یفسد الصلاة

و ما یکرہ فیہا: ۱/۶۲۵، سعید)

”(و) لو فعل ذلك (مراراً متوالياً): أي فی رکن واحد (تفسد) صلاته؛ لأنه كثير“۔ (غنیة

المستملی [الحلبی الكبير]، مفسدات الصلاة، ص: ۴۲۸، سہیل اکیڈمی لاہور)

(۱) ”والسادس السلامة من الأعداء، فإن المعذور صلاته ضرورية، فلا یصح اقتداء غیره به اه“۔

(مراقی الفلاح، ص: ۲۸۸، کتاب الصلوٰۃ، باب الإمامة، قدیمی)

”وفی الخلاصة: وإن حک ثلاثاً فی رکن واحد، تفسد صلاته“۔ (مراقی الفلاح، کتاب

الصلاة، باب ما یفسد الصلوٰۃ، اه، ص: ۳۲۳، قدیمی)

و کذا فی منحة الخالق علی البحر الرائق، باب الإمامة: ۱/۶۰۲، رشیدیہ)

بائیں ہاتھ سے کھجانا کیا مفسدِ صلوٰۃ ہے؟

سوال [۳۰۲۵]: نماز میں قیام کی حالت میں اگر کسی جگہ بدن پر خارش آئے اور کسی وجہ سے بائیں ہاتھ سے کھجایا تو نماز ٹوٹ گئی یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں امام صاحب کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، داہنے ہاتھ سے کھجایا جائے۔ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر خارش کو ضبط نہیں کر سکتا تو حالتِ قیام میں داہنے ہاتھ سے کھجائے، لیکن اگر بائیں ہاتھ سے بھی کھجایا تو محض بائیں ہونے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۷/۸۹ھ۔

پکی گھموری (گرمی دانہ) کا کھجلا نا

سوال [۳۰۲۶]: نماز پڑھتے وقت اگر پکی گھموری کھجلا دی (اندھوری) تو اس سے پانی نکل آئے گا کیا اس سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ (اندھوری گھموری سے مراد گرمی دانہ ہے)
۲..... آج کل شدید گرمی کی وجہ سے اندھوریاں بہت کثرت سے نکل آتی ہے اور بہت کھجلا ہٹ ہوتی ہے، نماز کے ایک رکن میں دو بار سے زائد کھجلائیں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ بموجب فتویٰ حضرت والا اور بموجب حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب فتاویٰ دارالعلوم: ۱۳۵/۴ (۲)۔

(۱) ”(وإمساك فمه عند الشاؤب، فإن لم يقدر، غطاه بظهر (يده) اليسرى، وقيل: باليمنى لوقائماً وإلا فيسراه.“ (الدر المختار، باب صفة الصلاة، قبيل فصل: وإذا أراد الشروع في الصلوة: ۱/۸۷۸، سعيد)
”وإن حك ثلاثاً في ركن واحد، تفسد صلاته، هذا إذا رفع يده في كل مرة، أما إذا لم يرفع في كل مرة فلا تفسد؛ لأنه حك واحد.“ (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۲/۲۰، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى العالمكيريّة، النوع الثاني في الأفعال المفسدة: ۱/۱۰۴، رشيدية)

(۲) (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۱۳۵/۴ مکتبہ امدادیہ ملتان)

الجواب حامداً ومصلیاً:

- ۱..... اگر وہ پانی بہہ جائے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور وضو کی بھی دوبارہ ضرورت ہوگی ورنہ نہیں (۱)۔
 ۲... وہ فتویٰ یہاں بھیجے، پھر حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب کے فتویٰ سے ملا کر دیکھا جائے گا،
 ساتھ ہی یہ خط بھی بھیجئے (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/۷/۹۲ھ۔

(۱) "و أما الخارج من غیر السبیلین، فناقض بشرط أن یصل إلى موضع یلحقه حکم التطہیر". (البحر الرائق، کتاب الطہارة: ۶۲/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الطہارة: ۴۷/۱، دارالکتب العلمیۃ بیروت)

"وإن فشرت نطفه و سال منها ماء أو صدید أو غیره، إن سال عن رأس الجرح نقص، وإن لم یسل لا ینقص، هذا إذا فشرها فخرج بنفسه، و أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ینقص؛ لأنه مخرج وليس بخارج، کذا فی الهدایة". (الفتاویٰ العالمگیریۃ، الفصل الخامس فی نواقض الوضوء، کتاب الطہارة: ۱۱/۱، رشیدیہ)

(۲) "سوال: نماز میں خارش کو کتنی مرتبہ ہاتھ سے دفع کر سکتا ہے، یا ناک سے کتنی مرتبہ چوہے نکال سکتا ہے، اور تین مرتبہ کھجلاانا مفسد نماز تو نہیں ہے؟"

"جواب: [۱۷] خارش جتنی دفع بھی ہو کھجلاانا درست ہے، مفسد نماز نہیں: "و یفسدہا کل عمل کثیر ما لا یشک بسببہ الناظرین بعید فی فاعلہ أنه لیس فیہا". (در مختار، بیان مفسدات الصلاۃ) (در مختار کی اس تصحیح کے پیش نظر خارش اگرچہ بدفعات ہو عمل کثیر کی تعریف سے خارج ہے)۔ ناک سے میل نکالنا یہ برا ہے اگرچہ نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی مگر یہ مکروہ ہے اور جس جگہ نماز کو فاسد لکھتے ہیں وہاں اعادہ لازم ہے۔" (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۳/۱۳۵ مکتبہ امدادیہ ملتان)

حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب نے مذکورہ جواب میں: "نماز کے ایک رکن میں دو سے زائد بار کھجلائیں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی" عبارت نقل نہیں فرمائی جیسا کہ سوال میں حوالہ دیا گیا ہے:

قال فی الفیض: الحک بید واحده فی رکن ثلاث مرات تفسد الصلاۃ إن رفع یدہ فی کل مرۃ، و فی الجوہرۃ عن الفتاویٰ: اختلفوا فی الحک: هل الذہاب والرجوع مرۃ، أو الذہاب مرۃ، والرجوع آخری". (رد المحتار، باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا: ۶۳۰/۱، سعید)

(و کذا فی فتح القدر، باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا: ۴۰۴/۱، مصطفیٰ البابی الحلبي بمصر)

(و کذا فی الحلبي الكبير، مفسدات الصلاۃ، ص: ۴۴۸، مکتبہ سہیل اکیڈمی لاہور) =

کیا نماز میں گھڑی دیکھنا مفسد ہے؟

سوال [۳۰۲۷]: نماز کی حالت میں قصداً ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھنا کیسا ہے؟ کیا نماز فاسد ہو جائے گی؟ اگر بے ارادہ نظر پڑ گئی تو کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ بلا ضرورت یہ فعل عبث ہے جو کہ مکروہ ہے، بے ارادہ نظر پڑ گئی اور وقت بھی معلوم ہو گیا تو مکروہ بھی نہیں: ”ولا یفسدھا نظراً إلی مکتوب وفہمہ لو مستفہماً وإن کرہ.“ (قولہ: وإن کرہ): ”أی لا شتغاله بما لیس من أعمال الصلوٰۃ، وأما لو دفع علیہ نظراً بلا قصد وفہمہ، فلا یکرہ“۔ شامی: ۱/۴۲۶ (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

نماز میں جوؤں کو مارنا

سوال [۳۰۲۸]: اگر نماز کی حالت میں کپڑے پر، یا بدن پر جوؤں پھرتی نظر آئے، تو اس کا مارنا کیسا ہے، جب کہ حدیث کے اندر ”قتل الموذی قبل الإیذاء“ آیا ہے؟ تو اس کا مارنا درست ہے یا نہیں؟

= البتہ احسن الفتاویٰ میں لکھا ہے ”بلا ضرورت ایک بار بھی کھجلا نا مکروہ تحریمی ہے اور نماز واجب الاعدادہ ہے، اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آجائے کہ بدون کھجلانے سے نماز میں یکسوئی نہ ہو تو ایک یا دو بار کھجلا نا بلا کراہت جائز ہے اور تین بار ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہنے کی مقدار وقت میں تین بار بضرورت کھجلا نا بھی مفسد ہے..... تین دفع کھجلانے سے مطلقاً نماز فاسد نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس وقت مفسد ہے کہ ہر دفع ہاتھ اٹھائے اگر ہر دفع علیحدہ ہاتھ نہ اٹھائے بلکہ ایک ہی دفعہ ہاتھ اٹھا کر تین دفعہ کھجلا یا تو نماز فاسد نہ ہوگی..... نیز اگر ایک بار کھجلانے کے بعد بقدر رکن یعنی تین ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کی مقدار تک توقف کے بعد پھر کھجلائے تو اس طرح تین بار کھجلا نا بھی مفسد نہیں“۔ (احسن الفتاویٰ: ۳/۴۱۶، ۴۱۷، سعید)

(۱) (الدر المختار مع رد المحتار: ۱/۶۳۴، باب ما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ فیہا، مطلب إذا قرأ ”تعالیٰ“

بدون ألف لا تفسد، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق: ۲/۲۴۲ رشیدیہ)

(و کذا فی مراقی الفلاح، ص: ۳۴۱، قدیمی)

الجواب حامداً ومصلياً:

”قتل الموذی قبل الإیذاء“ حدیث شریف کی کس کتاب میں ہے؟ مع حوالہ و باب نقل کریں (۱)

تب اصل سوال کا جواب ہو سکے گا۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۷/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بند نظام الدین غنی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۷/۸۸ھ۔

کیا ایک سے زائد ضرب میں سانپ مارنا مفسد صلوٰۃ ہے؟

سوال [۳۰۲۹]: نماز میں سانپ مارنا جب کہ اس سے تکلیف کا قوی اندیشہ ہو اگرچہ خارج مسجد

سے آگے ضرب لاکر ہو، یا مسجد میں رہتے ہوئے انحراف قبلہ بھی ہو جائے، یا تین ضربات سے مارا جائے، یا دو تین

قدم چلنا پڑے کیسا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں؟ نور الإیضاح، فصل فیما یکرہ للمصلی

کے ذیل میں مرقوم ہے: ”وقتل حیة وعقرب خاف إذا هما بضربات وانحرف القبلة اھ“۔

(۱) کافی جستجو و تلاش کے بعد مذکورہ حدیث نہیں ملی، البتہ نماز میں جوں مارنے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر

موجود ہے: ”عن عبد الرحمن بن الأسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ

عنه یقتل القملة فی الصلاة حتی یتظہر دمها علی یدہ“۔ أخرجه ابن أبی شیبہ فی المصنف“۔ (کنز العمال:

۲۳۴/۴)۔ ”قوله: عن عبد الله: قلت: دلالتہ علی الجزء الأول والثانی من الباب ظاهرة، ولعلک

عرفت بذلك غایة مراعاة الحنفیة لجمع الأحادیث المختلفة فی الباب، فجوزوا قتل القملة فی

المسجد، ونهوا عن طرحها فیہ، وأجازوا دفنها و قتلها فی الصلاة بعذر، و کرهوا بدونه“۔ (إعلاء السنن،

باب جواز أخذ القملة و قتلها و دفنها فی الصلاة: ۵/۱۲۲، ۱۲۳، إدارة القرآن کراچی)

”قوله: کتعرض القملة) قال فی النهر: و یکره قتل القمل عند الإمام، وقال محمد رحمہ اللہ

تعالیٰ: القتل أحب إلی، رأی ذلك، فعل، لا بأس به، ولعل الإمام إنما اختار الدفن لما فیہ من التنزه عن

إصابة الدم ید القتال أو ثوبه، وإن کان مغفواً عنه، هذا إذا تعرضت القملة ونحوها بالأذى، وإلا کره

الأخذ فضلاً عن غیره“۔ (رد المحتار، باب ما یفسد الصلاة و ما یکره فیہا: ۱/۶۵۲، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلاة و ما یکره فیہا: ۲/۵۴، رشیدیہ)

الجواب حامداً ومصلیاً:

یہ عمل ممنوع و مکروہ نہیں، لیکن عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جائے گی، یہی قول صحیح ہے:

”قال السرخسی: إنها لا تفسد بقتلها ولو بعمل كثير ولو بانحراف عن القبلة. وصح الحلبي الفساد، وهو ما عليه عامة شروح الجامع الصغير، وراية مبسوط شيخ الإسلام. قال الكمال: الحق الفساد، فيها يظهر لكن لا إثم بمباشرته في الصلوة الخ.“ بحر ملخصاً (۱) الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح، ص: ۲۲۲ (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

کپڑے میں الجھ کر دونوں پیرا کھڑ جائیں تو نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟

سوال [۳۰۳۰]: نماز پڑھاتے وقت اگر امام کا پاؤں اس کے کپڑے میں الجھ کر گر پڑنے کی شکل پیدا ہو جائے اور دونوں پاؤں اکھڑ جائیں لیکن وہ سنجھل جائے تو کیا نماز میں کوئی خلل تو واقع نہ ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

اس عذر کی وجہ سے ایسا ہونے سے نماز فاسد نہ ہوگی (۳)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲/ محرم/ ۵۹ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۳/ محرم/ ۵۹ھ، صحیح: عبداللطیف، ۳/ محرم/ ۵۹ھ۔

(۱) (البحر الرائق: ۲/ ۵۴، باب ما یفسد الصلوة ویکرہ فیہا، رشیدیہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق: ۱/ ۲۱۶، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(۲) (حاشیة الطحطاوی، ص: ۳۷۰، کتاب الصلوة، فصل فیما لایکرہ للمصلی، قدیمی)

”لایکرہ قتل حیة أو عقرب مطلقاً ولو بعمل كثير علی الأظهر، لكن صحح الحلبي الفساد اهـ.“

(الدرالمختار): ”(قوله: لكن صحح الحلبي الفساد) حيث قال تبعاً لابن الهمام: فالحق فيما يظهر هو الفساد،

والأمر بالقتل لا يستلزم صحة الصلوة مع وجوده كما في صلاة الخوف، بل الأمر في مثله لإباحة مباشرته وإن

كان مفسداً للصلوة اهـ.“ (ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب ما یفسد الصلوة وما یکرہ فیہا: ۱/ ۶۵۱، سعید)

(۳) ”و فیہ یقترض وضع أصابع القدم ولو واحدة نحو القبلة، وإلا لم یجز، والناس عنه غافلون.“

(الدرالمختار). ”(قوله: وفيه الخ) والحاصل أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفريضة، والأرجح من =

کیا نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا ہٹ جانا مفسد نماز ہے؟

سوال [۳۰۳۱]: نماز میں قیام کے وقت داہنے پیر کا انگوٹھا ایک جگہ رہنا ضروری ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

داہنے پیر کا انگوٹھا اگر ہٹ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

نمازی کے سامنے والا شخص اپنی جگہ سے ہٹ کر جا سکتا ہے یا نہیں؟

سوال [۳۰۳۲]: اگر کوئی شخص عین کسی کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے تو اگلا شخص وہاں

سے ہٹ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی مرور میں شامل ہوگا یا نہیں؟ حوالہ بھی دیں۔

= حيث الدليل والقواعد الفريضة ثم الأوجه عدم الفريضة على الوجوب ، والله أعلم . (إلى أن قال) ولو وضع ظهر القدم دون الأصابع ، بأن كان المكان ضيقاً أو وضع إحداهما دون الآخر لضيقه جاز ، كما لو قام على قدم واحد ، وإن لم يكن المكان ضيقاً يكره وإنما الكلام في الكراهة بلا عذر“ . (الدر المختار مع رد المحتار فصل ، في بيان تأليف الصلاة وانتهائها: ۱/ ۵۰۰ ، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الاول في فرائض الصلاة، منها السجود: ۱/ ۷۰، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب صفة الصلاة: ۱/ ۵۵۶، رشيدية)

(۱) ”فقد قال في الفيض: ولو وضع ظهر القدم دون الأصابع، بأن كان المكان ضيقاً، أو وضع إحداهما دون الأخرى لضيقه، جاز، كما لو قام على واحد. وإن لم يكن المكان ضيقاً، يكره اهـ، فهذا صريح في اعتبار وضع ظاهر القدم، وإنما الكلام في الكراهة بلا عذر..... إلى أن قال: بل المصرح به أن توجيهها نحو القبلة سنة يكره تركها، كما في البر جندی والقهستاني“ . (رد المحتار، كتاب الصلوة،

باب صفة الصلوة، آداب الصلوة: ۱/ ۵۰۰، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق: ۱/ ۵۵۶، رشيدية)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية: ۱/ ۷۰، رشيدية)

الجواب حامداً ومصلياً:

جس کے پیچھے کسی نے آ کر اپنی نماز شروع کر دی وہ اگر اپنی ضرورت کے لئے وہاں سے ہٹ جائے تو یہ فعل ممنوع نہیں (۱)، امداد الفتاویٰ میں موجود ہے (۲)۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے استشہاد ہے کہ میرے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے اور میں کھسک جایا کرتی تھی، یہ روایت صحیح کی ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

نماز پڑھتے ہوئے بارش آ جائے تو کیا کیا جائے؟

سوال [۳۰۳۳]: اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے نماز پوری ہونے سے پہلے بارش آ گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیا نماز کو اسی جگہ پورا کیا جائے گا یا دوسری جگہ جا کر استیناف کیا جائے گا؟

(۱) "المروور بین یدی المصلی، فإن کان معہ شیء یضعہ بین یدیہ ثم یمر بأخذه، و لو مرّ اثنان یقوم أحدهما أمامه و یمر الآخر و یفعل الآخر، هكذا یمران، وإن معہ دابة فمر راكباً أثم، وإن نزل و تستر بالدابة و مرّ، لم یأثم، و لو مرّ رجلان متحاذیین، فالذی یلی المصلی هو الآثم، قنیة". (ردالمحتار، باب ما یفسد الصلوة و ما یکرہ فیہا: ۶۳۶/۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، الباب السابع فیما یفسد الصلوة و ما یکرہ فیہا: ۱۰۴/۱، رشیدیہ)

(۲) (امداد الفتاویٰ، مسائل مشورہ متعلقہ کتاب الصلوة: ۵۷/۱، مکتبہ دارالعلوم کراچی)

(و کذا فی سنن أبی داؤد، کتاب الصلوة، باب من قال المرأة لا تقطع الصلوة: ۱۱۰/۱، امدادیہ)

"وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: كنت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وهو یصلی، فإذا أردت أن أقوم کرهت أن أقوم، فأمر بین یدیہ انسلت انسلالاً". (سنن النسائی، کتاب القبلة، ذکر ما یقطع الصلوة و ما لا یقطع إذا لم یکن بین یدی المصلی سترة: ۱۲۳/۱، قدیمی)

(۳) "عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أنها قالت: كنت أنام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رجلا فی قبلته، فإذا سجد غمزنی، فقبضت رجلی، فإذا قام بسطتها. قالت: والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح". (صحیح البخاری، باب التطوع خلف المرأة:

۷۳/۱، قدیمی)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر عین نماز میں بارش آجائے اور برداشت نہ ہو سکے تو استیناف کیا جائے، بناء کی اجازت نہیں (۱)۔
فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۶/۹۵ھ۔

الجواب صحیح: بند نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۹/۶/۹۵ھ۔

معمولی ہنسی سے نماز فاسد ہوگئی، وضو نہیں ٹوٹا

سوال [۳۰۳۲]: جمعة الوداع کے دن زید کو جمعہ کی فرض نماز سے پہلے چار رکعت سنت پڑھتے وقت کچھ ایسی بات ذہن میں آگئی کہ اس کو بہت ہی ہلکی سے ہنسی آگئی کہ اس کے کانوں تک ہی آواز پہنچی، لیکن اتنی آواز ہنسی میں نہیں نکلی کہ بغل میں بیٹھا ہوا شخص سن سکے، تو کیا ایسا کرنے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی؟ اور ایک شخص سے اس نے یہ بھی سنا تھا کہ جو بغیر وضو کے نماز پڑھے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ اور اس نے جتنے بھی پہلے نیکی کے کام کئے، وہ سب ضائع ہو گئے تو کیا اس کو پھر سے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا چاہئے، اگر یہ سب جانتے ہوئے کہ وضو ٹوٹ گیا ہنسنے سے اور پھر بھی اس خوف سے کہ وضو کرنے جائے تو اس کی جگہ چلی جائے گی تو وہ وضو کرنے نہیں گیا اور جمعہ کی جماعت سے فرض پڑھے اور پھر سنن و نوافل پڑھ کر گھر چلا گیا، تو کیا اس کو اس پوری نماز کا اعادہ کرنا چاہئے یا نہیں؟ اور وہ سب جاننے کے لئے بہت بے قرار ہے، آپ برائے مہربانی جواب نیچے لکھ کر ارسال فرمائیں، وہ سنن و نوافل کا اعادہ تو کر سکتا ہے، لیکن وہ فرائض کا اعادہ کیسے کرے؟ جب کہ اس نے فرض نماز جماعت سے پڑھی اور جمعہ کے دو فرض ہوتے ہیں اور ظہر کے چار، تو چار دہرائے، یا دو؟

(۱) ”و کذا إذا جنّ فی الصلاة أو أغمی علیہ أو نام مضطجعاً، لا يجوز له البناء؛ لأن هذّہ العوارض یندر وقوعها فی الصلاة، فلم تکن فی معنی مورد النص والإجماع“۔ (بدائع الصنائع، فصل فی شرائط جواز البناء: ۲/۹۵، دارالکتب العلمیة بیروت)

(و کذا فی رد المحتار، باب الاستخلاف: ۱/۵۹۹، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب الاستخلاف فی الصلاة: ۱/۶۲۲، رشیدیہ)

الجواب حامداً ومصلياً:

جس نماز میں اس کو اتنی ہنسی آئی کہ خود اپنی آواز سن لی اور بغل والے آدمی نے نہیں سنی تو اس سے اس کی وہ نماز ٹوٹ گئی، مگر وضو پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑا، لہذا اس کے بعد نماز جمعۃ الوداع اور بعد والی سنت و نوافل سب درست ہو گئی (۱)، نہ اسلام سے خارج ہو اور نہ اس نماز کا اعادہ لازم ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۱/۱۰/۹۱ھ۔

کیا نماز میں ہلکی آواز نکلنے سے نماز فاسد ہو جائے گی؟

سوال [۳۰۳۵]: نماز میں خشوع لانے کے لئے اگر ہلکی سی آواز نکل جائے، تو نماز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً وہ صلياً:

خشوع کے لئے آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی لفظ نکل جائے تو نماز خراب نہ ہوگی (۳)۔
فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) ”(قوله: هي ما يسمع جيرانه) ”واحترز به عن الضحك“ و هو لغة أعم من القهقهة، واصطلاحاً ما كان مسموعاً له فقط، فلا ينقض الوضوء بل يبطل الصلاة“ (رد المحتار مطلب: نوم الأنبياء غير ناقض: ۱/۱۳۵، سعيد)

”والضحك يبطل الصلاة، ولا يبطل الطهارة“ (الفتاوى العالمكيرية، الفصل الخامس في نواقض الوضوء ۱/۱۲، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، كتاب الطهارة: ۱/۸۰، رشيدية)

(۲) مذکورہ شخص سے کوئی ناقض وضو متحقق نہیں ہوا ہے، بلکہ با وضو ہو کر نماز پڑھی ہے، بنا بریں نماز بھی درست ہوگی اور وہ اسلام سے بھی خارج نہیں ہوا۔

(۳) ”(والبكاء صوت) يحصل به حروف (لوجع أو مصيبة، لا لذكر جنة أو نار، فلو أعجبه قراءة الإمام، فجعل يبكي و يقول: بلى أو نعم أو آرى، لا تفسد سراجية، لدلالته على الخشوع“ (الدر المختار، باب ما يفسد الصلاة و ما يکرہ فیہا: ۱/۶۱۹، سعيد)

و كذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب السابع فيما يفسد الصلاة و ما يکرہ فیہا: ۱/۱۰۰، رشيدية) =

امام کی تکبیرات اور سلام سے پہلے مقتدی کا تکبیر و سلام کہنا

سوال [۳۰۳۶]: نماز پنجگانہ وغیرہ کی جماعت میں امام کی تکبیر اولیٰ اور تکبیرات دیگر اور سلام ختم کرنے سے پہلے اگر مقتدیوں کی تکبیرات اور سلام ختم ہو گئے تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی، یہ مشہور ہے، آیا یہ مسئلہ صحیح ہے، یا غلط؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

امام کی تکبیر اولیٰ (تحریمہ) سے پہلے اگر مقتدی نے اپنی تکبیر تحریمہ ختم کر دی تو نماز کا شروع کرنا صحیح نہیں ہوا (۱)، امام کے لفظ ”السلام“ سے پہلے ہی اگر مقتدی نے اپنا سلام پورا کر دیا، تو نماز درست نہیں ہوئی (۲)، بقیہ

= و فی البحر الرائق: ”(قوله: ”والأین والتأوه وارتفاع بکائه من وجع أو مصیبة، لا من ذکر جنة أو نار): ای یفسدہا..... و أما ارتفاع البکاء، فهو أن یحصل به حروف..... فالحاصل أنها إن كانت من ذکر الجنة أو النار فهو دالٌّ علی زیادة الخشوع“ (باب ما یفسد الصلاة و ما یکرہ فیہا: ۶/۲، رشیدیہ)

(۱) ”عن خطان بن عبد الله الرقاشی..... فقال أبو موسى ماتعلمون كيف تقولون فی صلوتکم: إن رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا و علمنا صلوتنا؟ فقال: ”إذا صلیتم فأقیموا صفوفکم، ثم لیؤتم أحدکم، فإذا کبر فکبروا، وإذا قال: غیر المغضوب علیهم و لا الضالین، فقولوا: آمین، یجبکم الله، فإذا کبر و رکع، فکبروا و ارکعوا، فإن الإمام یرکع قبلکم و یرفع قبلکم“، فقال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم: ”فتلک بتلک“ (الصحيح لمسلم، باب التشهد فی الصلاة: ۱/۱۷۴، قدیمی)

”فلو قال: ”الله“ مع الإمام: و ”أكبر“ قبله، أو أدرك الإمام راکعاً فقال ”الله“ قائماً و ”أكبر“ راکعاً، لم یصح فی الأصح“ (الدر المختار، باب صفة الصلاة: ۱/۴۸۰، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریة، الباب الرابع فی صفة الصلاة: ۱/۶۸، رشیدیہ)

(۲) (سیاتی تخریجہ تحت عنوان ”امام سے پہلے سلام توڑنے کی بحث“)

تنبیہ: فقہی عبارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی امام سے پہلے سلام پھیر دے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، حضرت مفتی صاحب کے فتویٰ میں جو منقول ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، وہ احتیاط پر محمول ہے دیکھئے: (فتاویٰ دار العلوم دیوبند: ۳/۳۷۳) جب کہ ”خیر الفتاویٰ ۲/۳۴۲“ میں ”تذکرۃ الرشید“ اور ”فتاویٰ دار العلوم دیوبند“ =

تکبیرات اگر امام سے پہلے کہی ہیں، تو نماز فاسد نہیں ہوئی، البتہ مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفر لہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۷/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۷/۸۸ھ۔

امام سے پہلے سانس توڑنا

سوال [۳۰۳۷]: زید کہتا ہے کہ اگر امام نے دونوں سلام کے اندر سانس توڑ دیا تو کسی کی نماز نہ ہوگی، بکر کہتا ہے کہ امام قرأت سے آہستگی سے سلام پھیر لے اور اس کے قبل یعنی امام سے پہلے مقتدی سانس

= میں مذکور فساد نماز کے بارے میں یہ جواب دیا ہے: ”مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتدی آخری قعدہ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد اگر امام سے پہلے سلام پھیر کر چلا جائے، تو اس کی نماز باطل نہ ہوگی، البتہ بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، عذر کی وجہ سے ہو تو کراہت بھی نہیں“۔

”قولہ: و لو أتمہ الخ) و لو أتم التشهد، بأن أسرع فیہ و فرغ منه قبل إتمام إمامہ فأتی بما یخرجه من الصلاة کسلام أو کلام أو قیام جاز: أی صحت صلاتہ لحصولہ بعد تمام الأركان و إنما کره للمؤتم ذلك، لتركه متابعة الإمام بلا عذر، فلو به فلا کراهة“۔ (رد المحتار، باب صفة الصلاة: ۱/۵۲۵، سعید)

اس جزئیہ سے ظاہر ہے کہ انقطاع قدوہ کا اس مسئلہ کے کیساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے..... امام سے پہلے ”السلام علیکم“ کہہ دیا، تو بھی نماز ہو جاتی ہے، البتہ تذکرۃ الرشید کے مسئلے کے بارے میں خیال یہ رہا ہے، حضرت گنگوہی قدس سرہ نے درحقیقت ابتدائے نماز کا مسئلہ بتایا ہوگا، سامع کو التباس ہوا، اس لئے اسے آخر نماز کا مسئلہ سمجھا اور اصل یہ مسئلہ تکبیر تحریمہ کے لفظ ”اللہ“ کے بارے میں ہے (اگر کسی نے امام سے پہلے لفظ ”اللہ“ ختم کر لیا اس کی نماز نہ ہوگی) ”السلام علیکم ورحمة اللہ“ کے اسم جلالہ ”اللہ“ کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں۔

(۱) ”عن أبی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: ”إنما جعل الإمام لیؤتم بہ، فلا تختلفوا علیہ، فإذا کبر فکبروا، وإذا رکع فارکعوا، وإذا قال: سمع اللہ لمن حمدہ، فقولوا: ربنا و لک الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلی جالساً فصلوا جالساً أجمعون“۔ (الصحيح لمسلم، باب إتمام المأموم بالإمام: ۱/۱۷۷، قدیمی)

”و یکره للمأموم أن یسبق الإمام بالركوع والسجود و أن یرفع رأسه فیہما قبل الإمام، کذا فی السرخسی“، (الفتاویٰ العالمگیریہ، الفصل الثانی فیما یکره الصلاة و ما لا یکره: ۱/۱۰۷، رشیدیہ)

(و کذا فی رد المحتار، باب صفة الصلاة: ۱/۳۹۶، سعید)

توڑ دے تو جن لوگوں کا سانس ٹوٹا ان کی نماز نہ ہوگی۔ کیا ان دونوں کا کہنا صحیح ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً :

دونوں سلام کے درمیان سانس ختم ہو جانے پر دوسرا سانس لینے سے نماز میں نقض نہیں آئے گا (۱)، امام کے پیچھے مقتدی قرأت نہیں کرتا، بلکہ خاموش کھڑا رہتا ہے تو اس کے سانس ٹوٹنے کی بحث بے محل ہے، البتہ سلام مقتدی بھی پھیرتا ہے، اگر امام نے ”السلام“ کہا، اس کے بعد مقتدی کا سانس ٹوٹ گیا، حالانکہ ابھی امام کا سانس باقی ہے تو مقتدی کی نماز صحیح ہو جائے گی (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۳/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۳/۹۰ھ۔

(۱) ”عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فى حديث التشهد و قال بعد قوله: و أشهد أن محمداً عبده و رسوله قال: فإذا قضيت هذا أو قال، فإذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك“۔ (إعلاء السنن،

باب افتراض القعدة الأخيرة قدر التشهد: ۱۱۶/۳، إدارة القرآن كراچی)

(و كذا فى البحر الرائق، باب صفة الصلاة: ۵۱۲/۱، رشيدية)

(و كذا فى بدائع الصنائع، فصل فى بيان أركان الصلاة: ۵۳۲/۱، دارالكتب بيروت)

(۲) قال الملا على القارى رحمه الله تعالى: ”(وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى صلاته): أى أداها و فرغ منها (أقبل علينا بوجهه فقال: ”أيها الناس إني إمامكم“) يعنى سُمى الإمام إماماً ليؤتم به و يقتدى به على المتابعة (”فلا تسبقونى بالركوع، و لا بالسجود و لا بالقيام و لا بالانصراف): أى بالتسليم، و حاصله أن المتابعة واجبة فى الأركان الفعلية“۔

(مرقاة المفاتيح، باب ما على المأموم من المتابعة و حكم المسبوق: ۲۱۳/۳، رشيدية)

”قوله: و لو أتمه الخ) و لو أتم التشهد، بأن أسرع فيه و فرغ منه قبل إتمام إمامه فأتى بما يخرج من الصلاة كسلام أو كلام أو قيام، جاز: أى صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان و إنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذر، فلو به فلا كراهة“۔ (ردالمحتار، باب صفة

الصلاة: ۵۲۵/۱، سعيد)

(و كذا فى الفتاوى العالمكيرية، الباب الرابع فى صفة الصلاة: ۷۱/۱، رشيدية)

(و كذا فى حاشية الطحطاوى، فصل فيما يفعله المقتدى، ص: ۳۱۱، قديمى)

امام کے ساتھ چوتھی رکعت کا قیام کئے بغیر سلام پھیرنا

سوال [۳۰۳۸]: ایک مقتدی امام کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تیسری رکعت کے ختم پر مقتدی یہ سمجھ کر کہ یہ چوتھی رکعت ہے قعدہ میں بیٹھ گیا، التحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے قریب ہی امام صاحب چوتھی رکعت کے لئے رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت یہ مقتدی بھی سلام پھیرے بغیر امام کے ساتھ رکوع میں چلا گیا اور اسی طرح امام کے ساتھ پوری نماز ختم کر دی۔ تو کیا اس مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟

۲..... اسی طرح ایک اور صورت ہے کہ ایک مقتدی امام کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، چار رکعت پوری ہونے کے بعد امام صاحب التحیات کے لئے قعدہ میں بیٹھ گئے مگر یہ مقتدی یہ سمجھ کر کہ یہ چوتھی رکعت ہے تکبیر باندھ لی مگر جب امام صاحب سلام پھیرنے لگے تو یہ مقتدی سلام کی آواز سن کر تکبیر ختم کر کے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ تو کیا اس مقتدی کی نماز ہوگئی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... اس کی نماز ہوگئی۔

۲..... اس کی بھی نماز ہوگئی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

املاہ العبد محمود غفرلہ، ۳/۶/۱۴۰۶ھ۔

(۱) ”عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه“ رواه البخاري و مسلم“. (إعلاء السنن، باب وجوب متابعة الإمام، والنهي عن مسابقته: ۲۸۹/۴)

”نعم! تكون المتابعة فرضاً، بمعنى أن يأتي بالفرض مع إمامه أو بعده، كما لو ركع إمامه فركع معه مقارناً أو معاقباً، و شاركه فيه أو بعد ما رفع منه، فلو لم يركع أصلاً أو ركع ورفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده، معه أو بعده بطلت صلاته“.

والحاصل أن المتابعة في ذاتها ثلاثة أنواع: مقارنة لفعل الإمام مثل أن يقارن إحرامه لإحرام إمامه، وركوعه لركوعه، و سلامه لسلامه، و يدخل فيها ما لو ركع قبل إمامه و دام حتى أدرکه إمامه فيه. ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة في باقيه و متراخية عنه“. (رد المحتار، باب صفة الصلاة، مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام: ۴۷۱/۱، سعيد)

امام نماز میں سو جائے تو مقتدی کیا کریں اور نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟

سوال [۳۰۳۹]: اگر امام صاحب قعدہ اولیٰ، یا قعدہ ثانیہ میں سو جائیں تو مقتدی امام صاحب کا انتظار کرتے رہیں، یا کوئی بیدار کرنے کی شکل ہو، تو آپ مطلع فرمائیں اور قعدہ اولیٰ میں جو فرض میں تاخیر ہو، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نماز فاسد ہوگی، یا نہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً :

”سبحان اللہ“ کہہ کر جگا دیا جائے (۱)، ادائے واجب (۲)، یا ادائے فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

امام کا سجدہ میں انتقال کر جانا

سوال [۳۰۴۰]: امام نماز پڑھا رہا ہے اور سجدہ میں انتقال ہو گیا ہے دوسری رکعت میں یا تیسری

(۱) ”عن أبی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: ”التسبیح للرجال، والتصفیق للنساء“۔ رواہ الجماعة و زاد مسلم: و آخرون فی الصلاة“۔ (آثار السنن، باب التسبیح والتصفیق، ص: ۱۷۲، امدادیہ ملتان)

(و کذا فی رد المحتار، باب شروط الصلاة: ۲۰۶/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب شروط الصلاة: ۳۷۰/۱، رشیدیہ)

(۲) ”عن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: صلی ثلاثاً، ثم سلم، فقال: الخرباق: إنک صلیت ثلاثاً، فصلی بهم الركعة الباقية، ثم سلم، ثم سجد سجدتی السهو، ثم سلم“۔ رواہ النسائی، و سکت عنہ و روی مسلم نحوه“۔ (إعلاء السنن، باب وجوب السهو و كونه بین السلامین: ۱۳۲/۷، إدارة القرآن، کراچی)

”ولا یجب السجود إلا بترك واجب أو تأخیره أو تأخیر ركن أو تقدیمه أو تكراره أو تغییر واجب بأن یجهر فیما یخافت“۔ (الفتاویٰ العالمکیریة، الباب الثانی فی سجود السهو:

۱۲۶/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی بدائع الصنائع، فصل فی بیان سبب الوجوب: ۶۹۱/۱، دار الکتب العلمیة بیروت)

رکعت میں، کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومضلياً:

مقتدی از سر نو نماز پڑھیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

نماز میں مقتدی کا انتقال ہو جانا

سوال [۳۰۴۱]: جماعت ہو رہی ہے اور کسی مقتدی کا انتقال ہو گیا ہے اور جماعت کے سامنے

پڑا ہے اور امام کی دو رکعت یا ایک رکعت رہ گئی تو کیا حکم ہے کیونکہ جنازہ سامنے پڑا ہے؟

الجواب حامداً ومضلياً:

جن لوگوں کے سامنے اس طرح پڑا ہے کہ سجدہ کی جگہ بالکل نہیں رہی، سجدہ کرنا دشوار ہو گیا ہے ان کو

چاہیے کہ وہ اس کو اٹھا کر سامنے سے ہٹا دیں پھر نماز میں شریک ہو جائیں، باقی لوگ اپنی حالت پر نماز پوری

کریں (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۲۸/صفر/۵۸ھ۔

(۱) ”(قوله: و موت) أقول: تظہر ثمرتہ فی الإمام لو مات بعد قعدة الأخيرة، بطلت صلاة المقتدين به

فيلزم استئنافها“۔ (رد المحتار، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۶۲۹/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۲۴/۲، رشیدیہ)

(و کذا فی بدائع الصنائع، فصل فی بیان حکم الاستخلاف: ۱۴۵/۲، دارالکتب العلمیہ بیروت)

(۲) جو نمازی میت کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھیں گے تو ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لئے کہ میت کا اٹھانا اور چلنا عمل کثیر ہے

جو کہ مفسدِ صلاۃ ہے: ”(و) یفسدہا (کل عمل کثیر) لیس من أعمالہا ولا لإصلاحہا“ (الدر المختار، مطلب

فی التشبه بأهل الكتاب: ۶۲۴/۱، سعید)

وقال العلامة ابن عابدين رحمة الله عليه: ”إن المشى لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر، فالأول

إن كان كثيراً متوالياً، تفسد وإن لم يستدبر القبلة، وإن كان كثيراً غير متوالى، بل تفرق فى ركعات أو كان

قليلاً، فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافى بلا ضرورة، وإلا فلا، وكره، لما عرف أن من أخذ كثيراً كره قليلاً =

گمان فساد پر نماز کا اعادہ

سوال [۳۰۴۲]: اگر جماعت کی نماز لوٹائی جائے اس یقین کے ساتھ کہ اولاً نماز نہیں ہوئی اور بعد کو تحقیق ہو جائے کہ اولاً نماز ہو گئی تھی، لوٹانا مناسب نہ تھا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ خصوصاً فجر اور عصر کی نماز میں اگر ایسا اتفاق ہو جبکہ اس کے بعد نفل کا وقت بھی نہیں رہتا، نیز اس صورت میں اگر کچھ لوگ جماعت اول میں شریک نہ تھے اور جماعت ثانی میں شریک ہو جائیں تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر فجر کی نماز اس یقین کی بناء پر لوٹائی گئی کہ نماز درست نہیں ہوئی اور واقعہ نماز درست ہو گئی تھی تو دوسری مرتبہ ادا کی گئی نماز نفل ہوئی اور نمازی کراہت کے مرتکب نہیں ہوئے: ”و کرہ نفل قصداً“. کذا فی الدر المختار علی هامش رد المحتار: ۱/۳۴۹ (۱) اور جو لوگ اول نماز میں شریک نہیں تھے اور دوسری مرتبہ ادا کی گئی نماز میں شریک ہوئے ان کی نماز فجر صحیح نہیں ہوئی، ان کے ذمہ نماز کا اعادہ لازم ہے، لعدم صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، ۲۸/۷/۸۸۔

= بلا ضرورة. وإن كان بعذر، فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف، لم يفسدها، ولم يكره قلّ أو كثر، استدبر أو لا. وإن كان لغير ما ذكر، فإن استدبر معه فسدت قلّ أو كثر وإن لم يستدبر، فإن قلّ، لم يفسد ولم يكره، وإن كان كثيراً متلاحقاً أفسد“. (رد المحتار، مطلب في المشي في الصلوة: ۱/۶۲۸)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب السابع فيما يفسد الصلوة وما يكره فيها: ۱/۱۰۳، ۱۰۴، رشيدية)

(و كذا في بدائع الصنائع، فصل في مفسدات الصلوة: ۲/۱۳۶، دار الكتب العلمية بيروت)

(۱) (الدر المختار، كتاب الصلوة، ص ۳۷۴/۱، سعيد)

”قال في المنع: واحترز بقوله: (قصداً) عن الشروع ظناً، كما إذا ظن أنه لم يصل فرضاً

فشرع فيه فتذكر أنه قد صلاه، صار ما شرع فيه نفلاً، لا يجب إتمامه، حتى لو نقضه لا يجب القضاء“

(رد المحتار، باب الوتر والنوافل: ۲/۳۰، سعيد)

(و كذا في ملقى الأبحر، باب الوتر والنوافل: ۱/۱۳۲، دار إحياء التراث العربى، بيروت)

(۲) ”ولا مفترض بمتنفل و بمفترض آخر؛ لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا“. (الدر المختار، باب

الإمامة: ۱/۵۷۹، سعيد)

تین سجدے کرنے سے نماز کا اعادہ

سوال [۳۰۴۳]: ایک شخص نے ایک رکعت میں تین سجدے کئے اور آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا، تو کیا اس کی نماز درست ہو جائے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز واجب الاعادہ ہوگئی (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

ترک اقامت کی وجہ سے نماز کا اعادہ

سوال [۳۰۴۴]: جمعہ کے روز امام نے خطبہ دیا، خطبہ کے بعد اقامت کہنا بھول گئے اور نماز جمعہ جماعت سے پڑھ لی گئی، پھر بعد سلام یاد آیا کہ اقامت نہیں کہی گئی پھر دوبارہ فرض نماز جمعہ سب لوگوں نے پڑھی۔ تو دوبارہ پڑھنا مکروہ تنزیہی ہوایا مکروہ تحریمی ہوا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اذان کی طرح اقامت بھی سنت ہے، جو سنت داخل نماز ہو اس کے ترک سے اعادہ لازم نہیں ہوتا، جو

= (و کذا فی البحر الرائق، باب الإمامة ۱/ ۶۳۱، رشیدیہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق، باب الإمامة والحدث فی الصلاة: ۱/ ۳۶۰، دارالکتب العلمیة بیروت)

(۱) ”ولا یجب السجود إلا بترک واجب، أو تأخیرہ، أو تأخیر رکن، أو تقدیمہ، أو تکرارہ، أو تغییر واجب بأن یجهر فیما یخافت. وفي الحقيقة وجوبه بشئ واحد، وهو ترک الواجب، کذا فی الکافی“

(الفتاویٰ العالمکیریة، الباب الثانی عشر فی سجود السهو: ۱/ ۱۲۶، رشیدیہ)

” (ولها واجبات) لا تفسد بترکها، وتعاد وجوباً فی العمد والسهو إن لم یسجد له، وإن لم

یسدها، یكون فاسقاً آثماً، وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم، تجب إعادتها، والمختار أنه جابرٌ

لأول“۔ (الدر المختار، باب صفة الصلاة: ۱/ ۴۵۶، ۴۵۷، سعید)

”فالحاصل أن من ترک واجباً، أو ارتكب مکروهاً تحريمياً، لزمه وجوباً أن یعيد فی الوقت، فإن

خرج آثم، ولا یجب جبر النقصان بعده، فلو فعل أفضل“۔ (ردالمحتار، باب قضاء الفوائت: ۲/ ۶۳، سعید)

سنت خارج نماز ہو اس کے ترک سے بطریق اولیٰ اعادہ لازم نہیں، سنت مؤکدہ کو قصد ترک کرنے پر وعید آئی ہے:

”وہو: سنة مؤكدة، هي كالواجب“ (۱)۔ ”والإقامة كالأذان، الخ“۔ در مختار (۲)۔

”قوله: كالواجب) بل أطلق بعضهم اسم الواجب عليه، قال في المعراج وغيره: والقولان متقاربان؛ لأن المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك يعنى وإن كان مقولاً بالتشكيك“۔ شامی (۳)۔ ”ترك السنة لا يوجب فساداً ولا سهواً بل إساءة لو عامداً“۔ در مختار۔

”فلو غير عامد، فلا إساءة أيضاً“۔ شامی (۴)۔

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ بھول کر ترک کرنے پر وعید نہیں ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۸/۱۱/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۹/۱۱/۸۸ھ۔

(۱) (الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان: ۱/۳۸۴-۳۸۸، سعید)

”قوله: سن للفرائض: أي سن الأذان للصلوات الخمس والجمعة سنة مؤكدة قوية قريبة من الواجب حتى أطلق بعضهم عليه الوجوب“۔ (البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان: ۱/۳۴۳، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان: ۱/۱۷۰، مکتبہ امدادیہ ملتان)

(۲) (الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان: ۱/۳۸۸ سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان: ۱/۳۴۶، رشیدیہ)

”قال رحمه الله تعالى: سن للفرائض: أي الأذان، وهو سنة مؤكدة عند عامة المشايخ، وكذا الإقامة“۔ (تبيين الحقائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان: ۱/۲۳۹، دارالکتب العلمیہ بیروت)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان: ۱/۱۷۲، مکتبہ امدادیہ ملتان)

(۳) (ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان: ۱/۳۸۴ سعید)

”واستشهد على ذلك في معراج الدراية عن أبي حنيفة وأبي يوسف: صلّوا في الحضر الظهر أو العصر بلا آذان ولا إقامة، أخطأ وأثموا.....“ ”و لعل الإثم مقول بالتشكيك بعضه أقوى من بعض، ولهذا صرح في الرواية بالسنية حيث قال: أخطأ السنة، وفي غاية البيان والمحيط: القولان متقاربان؛ لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب في حق لحوق الإثم لتار كهما اه“۔ (البحر الرائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان: ۱/۳۴۵، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، کتاب الصلوٰۃ، باب الأذان: ۱/۱۷۱، مکتبہ امدادیہ ملتان)

(۴) (الدر المختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، سنن الصلوٰۃ: ۱/۴۷۳، سعید)

عین نماز میں طلوع شمس

سوال [۳۰۲۵]: فجر کی نماز میں نیت باندھنے کے بعد یا ایک رکعت پڑھنے کے بعد آفتاب طلوع ہو گیا تو ایسی حالت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ یا قضا نماز جماعت سے ادا کی جائے یا فرداً قضا کی جائے؟

الجواب حامداً ومصلياً :

ادا نہیں ہوگی (۱)، اگر سب کی فوت ہوگئی تو جماعت سے پڑھیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم۔

”لاصلوة الا بحضور القلب“ کا مطلب

سوال [۳۰۲۶]: ”لاصلوة الا بحضور القلب“ (۳)۔ ترجمہ: حضور قلب کے بغیر نماز نہیں

(۱) وقوله: ”بخلاف الفجر): أي فإنه لا يؤدي فجر يومه وقت الطلوع؛ لأن وقت الفجر كله كامل، فوجبت كاملة، فتبطل بطرؤ الطلوع الذي هو وقت الفساد“۔ (رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب: يشترط العلم بدخول الوقت: ۳۷۳/۱، سعيد)

قال في المبسوط: ”ولو طلعت الشمس وهو في خلال الفجر، فسدت صلاته عندنا“۔ (باب مواقيت الصلاة: ۳۰۲/۱، المكتبة الغفارية كوئٹہ)

(و كذا في بدائع الصنائع، كتاب الصلاة: ۵۸۳/۱، دار الكتب العلمية بيروت)

(۲) (رد المحتار، باب الأذان، مطلب في أذان الجوق: ۳۹۱/۱، سعيد)

”وإذا قضى الفوائت إن قضاها بجماعة و كان صلاةً يجهر فيها بالقراءة، يجهر فيها الإمام..... و لو فاتت من جماعة صلاة فجر أو ظهر من يوم واحد، جاز لهم قضاؤها بالجماعة“۔ (الفتاوى التاتارخانية، الفصل العشرون في قضاء الفائتة: ۷۶۷/۱، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراچی)

(و كذا في فتاوى قاضى خان، فصل فيما يوجب السهو و ما لا يوجب السهو: ۱۲۳/۱، رشیدیہ)

(۳) ”وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: ”لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه“۔

قال العلامة زين الدين أبى الفضل عبدالرحيم الحسين العراقي: حديث ”لا ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه“۔ لم أجده بهذا اللفظ وروى محمد بن نصر في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن أبى وهوش مرسلًا ”لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه“۔ ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبى بن كعب وإسناده ضعيف“۔ (إحياء علوم الدين، كتاب أسرار الصلاة ومهماتہا، فضيلة الخشوع: ۱۹۹/۱، دار إحياء التراث العربى، بيروت)

ہوتی۔ حضور قلب سے کیا مراد ہے؟ یہ جو دنیا کے خیالات نماز میں آتے ہیں کبھی حضور قلب رہتا ہے اور کبھی نہیں، تو جتنی دیر حضور قلب نہ ہو وہ نماز میں شمار آئے گی یا نہیں؟ اگر کسی شخص نے دو رکعت فرض کی نیت سے نماز شروع کی لیکن درمیان نماز میں اس نے خیال کیا کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں پھر سلام پھیر دیا بعد میں یاد آیا کہ نہیں وہ نماز فرض کی نیت سے شروع کی تھی تو ایسی نماز فرض قرار پائے گی یا نہیں؟ کیا اس کو فرض مکرر پڑھنے ہوں گے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر حضور قلب باقی نہ رہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور فریضہ ذمہ میں باقی رہتا ہے اس لئے کہ ادائے فریضہ کے لئے جو شرائط و ارکان فقہاء نے بیان کئے ہیں ان میں حضور قلب کو شمار نہیں کیا ہے، پس اگر نماز میں کچھ خیالات آئیں تو نماز فاسد نہیں ہوگی (۱)، اگرچہ حضور قلب والی نماز کا درجہ بھی حاصل نہیں ہوگا، محض اس درمیانی خیال سے وہ فرض نماز سنت نہیں بنے گی جب کہ فرض کی نیت سے اس کو شروع کیا ہے اور اس کو قطع کر کے سنت کی نیت سے تحریمہ نہیں کہی ہے (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۱۰/۸۸ھ۔

(۱) ”وعن أبی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم : ”إن اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بہ صدرہا ما لم تعمل بہ أو تتکلم“ متفق علیہ۔ (مشکوٰۃ المصابیح، باب فی الوسوسة، ص: ۱۸، قدیمی)

”و فی شرح مقدمة الكیدانی للعلامة القہستانی : یجب حضور القلب عند التحریمة ، فلو اشتغل قلبہ بتفکر مسألة مثلاً فی أثناء الأركان ، فلا تستحب الإعادة ، وقال البقالی : لم ینقض أجرہ ، إلا إذا قصر ، وقیل : یلزم فی كل ركن ، و لا یؤخذ بالسہو ؛ لأنه معفو عنہ ، لكنه لم یتحقق ثواباً كما فی المنیة“۔ (رد المحتار، مطلب فی حضور القلب والخشوع : ۱/۴۱۷، سعید)

(۲) ”رجل افتتح المكتوبة، فظن أنها تطوع، فصلى على نية التطوع حتى فرغ فالصلاة هي المكتوبة، ولو كان الأمر بالعكس، فالجواب بالعكس، وكذا في فتاوى قاضيخان“۔ (الفتاوى العالمكيرية، الفصل الرابع فی النية : ۱/۶۶، رشیدیہ)

(و كذا فی البحر الرائق، باب شروط الصلاة : ۱/۴۹۱ رشیدیہ)

(و كذا فی خلاصة الفتاوى، الفصل الثامن فی النية : ۱/۱۸۰، امجد اکیڈمی لاہور)

کیا بغیر حضور قلب کے نماز نہیں ہوتی؟

سوال [۳۰۲۷]: بعض پیروں کے مرید نماز کی پابندی بالکل نہیں کرتے اور بعض نماز بالکل نہیں پڑھتے، اگر نماز کے بارے میں ان لوگوں کو کہا جائے تو جواب دیتے ہیں کہ جب قلب حاضر نہ ہوگا نماز قبول نہیں ہوتی اور بعض قائل ہیں کہ نماز صرف دل سے پڑھنی کافی ہے، شرعاً یہ لوگ کیا حکم رکھتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز فرض عین ہے، اسکی فرضیت کا منکر کافر ہے اور بلا عذر شرعی اس کا تارک فاسق ہے (۱)۔ نماز فقط قلب سے ہرگز ادا نہیں ہوتی (۲)، یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، ایسے عقیدہ والوں کو فوراً توبہ کرنا فرض ہے اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لینا چاہیے۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۹/۲/۵۵ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۲/صفر/۵۵ھ۔

خیالات آنے سے نماز میں خرابی نہیں آتی

سوال [۳۰۲۸]: نماز میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور سجدہ میں دعائیں دل سے نکلنے لگتی

(۱) ”ہی فرض عین علی کل مکلف، و یکفر جا حدھا، لثبوتھا بدلیل قطعی (وتارکھا عمدأ مجانة):

ای تکاسلاً فاسق (یحبس حتی یصلی)؛ لأنه یحبس لحق العبد، فحق الحق أحق“۔ (الدر المختار، کتاب

الصلوة: ۱/۳۵۲، سعید)

(و کذا فی مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح، فصل فیما یوجب قطع الصلوة و ما یجیزہ و غیر ذلک،

ص: ۳۷۳، قدیمی)

(و کذا فی ملتقى الأبحر متن مجمع الأنهر، کتاب الصلوة: ۱/۶۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(۲) ”اعلم بأن الصلوة) و هی فی اللغة مطلق الدعاء بالخیر، و فی الشریعة: عبادة ذات قرآءة و رکوع و

سجود..... (فريضة ثابتة بالكتاب والسنة)“۔ (الحلبی الكبير فی المقدمة، ص: ۶، سهیل اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی البحر الرائق، کتاب الصلوة: ۱/۴۲۳، رشیدیہ)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، ص: ۱۷۳، قدیمی)

ہیں، نماز میں کچھ حرج واقع ہونے لگتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوتا ہو تو اس کے دفعیہ کے لئے کیا کرنا چاہیے؟

خواجہ عامر حسین عفی عنہ، محلہ شاہ ولایت صاحب، سہارنپور۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مخض خیالات آنے یا دل سے دعاء نکلنے سے نماز میں خلل نہیں آتا (۱)، خداوند تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا تصور کر کے نماز پڑھے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے (۲) اور ہر رکن کے آداب کی رعایت رکھی جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ نماز کا حظ حاصل ہوگا اور خیالات بھی پریشان نہیں کریں گے (۳)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۳۰/ جمادی الاولیٰ/ ۶۹ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ۔

نماز میں حوروں کا تصور

سوال [۳۰۴۹]: زید جب نماز پڑھتا ہے تو اسے بذریعہ قرأتِ امام حوروں کا ذکر معلوم ہو جاتا ہے

اس کی وجہ سے اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے، اسی طرح کبھی بیوی کا خیال بھی آ جاتا ہے یہاں تک کہ پوری نماز ختم

(۱) "عن ابی ہریرۃ - رضی اللہ تعالیٰ عنہ - قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: "إن اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست بہ صدرہا ما لم تعمل بہ أو تتکلم بہ". متفق علیہ". (مشکوٰۃ المصابیح، باب فی الوسوسۃ، ص: ۱۸، قدیمی)

(۲) "عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارزاً یوماً للناس، فأتاہ رجل، فقال: ما الإیمان؟ قال: "الإیمان أن تؤمن باللہ وملئکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث"..... قال: ما الإحسان؟ قال: "أن تعبد اللہ كأنک تراه، فإن لم تکن تراه فإنه یراک الخ". (صحیح البخاری، باب سؤال جبرائیل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن الإیمان الخ: ۲/۱، قدیمی)

(۳) "(ولہا آداب) ترکہ لا یوجب إساءةً وعتاباً کترک السنۃ الزوائد، لکن فعلہ أفضل: (نظرہ إلى موضع سجودہ حال قیامہ، وإلى ظہر قدمیہ حال رکوعہ، وإلى أرنبة أنفہ حال سجودہ، وإلى حجرہ حال قعودہ، وإلى منكبہ الأيمن والأيسر عند التسليمۃ الأولى والثانية) لتحصيل الخشوع". (تنویر الأبصار مع

الدر المختار، باب صفة الصلاة: ۴۷۷/۱، سعید)

(وکذا فی البحر الرائق، باب صفة الصلاة: ۵۳۰/۱، رشیدیہ)

ہو جاتی ہے اور یہ تصورات بغیر قصد کے ہوتے ہیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز میں بے اختیار بیوی اور حوروں کا تصور ہو جائے اور انتشار پیدا ہو جانے کے بعد اگر زید اس تصور سے لذت اندوز نہیں ہوتا اور ان خیالات میں منہمک نہیں ہوتا ہے بلکہ ان خیالات کو دور کر کے نماز کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کرتا ہے تو زید گنہگار نہیں ہوگا (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

نماز میں غیر عربی میں دعاء مانگنا

سوال [۳۰۵۰]: میں نے عصر کی نماز میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد کی دعاء پڑھ کر کلام پاک اور حدیث شریف کی دوسری دعاؤں کے بعد اردو میں بھی سہواً دعا مانگ لیا، غالباً یہ دعاء مانگی کہ ”اے اللہ! اپنے شایان شان فضل فرما“۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز میں غیر عربی میں دعاء مانگنا حرام ہے، مفسدِ صلوٰۃ نہیں۔ یہ مسئلہ یاد نہیں رہا تھا اس لئے میں نے اپنی نماز دہرائی، آیا بہتر کیا یا مجھے دہرانے کی ضرورت ہی نہ تھی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

آپ نے ٹھیک کیا کہ نماز دہرائی (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/۷/۹۲ھ۔

(۱) (تقدم تخریجہ تحت عنوان: ”لا صلاة إلا بحضور القلب“)

(۲) ”(ودعاء) بالعربية، وحرم بغيرها، نهر..... (قوله: وحرم بغيرها)..... وكره الدعاء بالعجمية؛

لأن عمر -رضي الله تعالى عنه- نهى عن رطانة الأعاجم، والرطانة كما في القاموس: الكلام بالعجمية،

..... وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى، وأن الكراهة فيه تنزيهية،..... ولا يبعد

أن يكون الدعاء بالفارسية مكروهاً تحريماً في الصلاة وتنزيهاً خارجها، فليتأمل“ (الدر المختار مع

ردالمحتار، مطلب في الدعاء بغير العربية: ۱/۵۲۱، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح بيان سننها، ص: ۲۷۲، قديمي)

نماز اور غیر نماز میں عربی اور غیر عربی میں دعاء میں فرق

سوال [۳۰۵۱] : طحاوی علی مرقی الفلاح، ص: ۱۵۸ میں ہے: ”یدعوا بالعربیۃ، و یحرم

بغیرھا؛ لأنها تنافی جلال اللہ تعالیٰ“۔ (۱)۔

دعاء بغیر عربی کی حرمت صرف نماز میں ہے یا خارج نماز بھی؟ تساوی علت سے شبہ ہوتا ہے کہ خارج نماز بھی حرام ہو، نیز ”ماہنامہ دارالعلوم، دیوبند“ میں بحوالہ ”شامی“ خارج نماز دعاء بغیر عربی مکروہ لکھنے سے اور بھی شبہ ہوا کہ کہیں شامی کا منشاء کراہت تحریمی نہ ہو، بہر حال دعاء کے بارے میں باوجود استطاعت علی العربی ہونے کے دوسری زبان استعمال کرنا کیسا ہے؟

المستفتی: مولوی عبدالسلام صاحب۔

الجواب حامداً و مصلياً :

نماز کے قعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد سلام سے پہلے دعاء کو ”مرقی الفلاح“ میں سنت لکھا ہے (۲)، اس کے ذیل میں شرح کرتے ہوئے علامہ طحاوی فرماتے ہیں: ”ویدعوا بالعربیۃ و یحرم بغیرھا؛ لأنها تنافی جلال اللہ تعالیٰ“ (۳)۔

اس حرمت کا محل تو اندرونِ صلوٰۃ ہی ہے، چند سطر بعد لکھا ہے: ”ولا یجوز أن یدعو فی صلاتہ ، بما یشبہ کلام الناس“۔ مرقی الفلاح۔ ”و لذا قالوا: ینبغی له فی الصلوٰۃ أن یدعوا بدعاء محفوظ لا بما یحضر، ولأنه (بما یجری علی لسانہ ما یشبہ کلام الناس، فتفسد صلوٰۃ، وأما فی غیر

(۱) (حاشیۃ العلامة احمد بن محمد بن اسماعیل الطحاوی علی مرقی الفلاح، کتاب الصلوٰۃ، نصل فی بیان سننھا، ص: ۲۷۲، قدیمی)

(۲) ”ویسن الدعاء بعد الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لقوله علیه الصلاة والسلام: ”إذا صلی أحدکم، فلیبدأ بتحمید اللہ..... ثم لیذع بعد ما شاء“۔ (مرقی الفلاح، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی بیان سننھا، ص: ۲۷۲، ۲۷۳، قدیمی)

(۳) (حاشیۃ الطحاوی علی مرقی الفلاح، المرجع السابق، ص: ۲۷۲، قدیمی)

(و کذا فی الدر المختار، کتاب الأیمان، قبیل باب الیمین فی الدخول والخروج الخ: ۳/۷۲۱، سعید)

الصلوٰۃ، فبالعکس، فلا یستظهر له دعاء؛ لأن حفظ الدعاء یمنع المعرفة، اھ۔ بحر“ (۱)۔
 اس سے بھی معلوم ہوا کہ دعاء کا حکم خارج نماز اور داخل نماز یکساں نہیں ہے بلکہ الگ الگ ہے، علامہ
 شامی نے اس موقع پر بحث کر کے لکھا ہے: ”وظاهر التعلیل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى وأن
 الكراهة فيه تنزيهية..... ولا أن يكون الدعاء بالفارسية مكروهاً تحريماً في الصلوٰۃ و تنزيهاً
 خارجها، فليتأمل وليراجع“۔ رد المحتار: ۱/ ۳۵۰ (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
 حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

کتنے نقصان پر نماز توڑنے کی اجازت ہے؟

سوال [۳۰۵۲]: نماز پڑھتے ہوئے کتنے نقصان پر نیت توڑنا جائز ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تقریباً ۴ (.....) کی مالیت پر بھی گنجائش ہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۷/ صفر/ ۶۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۷/ صفر/ ۶۸ھ۔

(۱) (حاشیۃ العلامة احمد بن محمد بن اسماعیل، طحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوٰۃ، فصل
 فی بیان سننہا، ص: ۲۷۳، قدیمی)

(۲) (رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی بیان تألیف الصلوٰۃ إلی انتہائہا، مطلب فی الدعاء بغير
 العربية: ۱/ ۵۲۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب صفة الصلوٰۃ: ۱/ ۵۷۸، ۵۷۹، رشیدیہ)

(۳) ”رجل قام إلی صلاة فسرق منه شیء قیمته درہم، له أن یقطع الصلاة، ویطلب السارق سواء كانت
 فريضةً أو تطوعاً؛ لأن الدرہم مال“۔ (الفتاویٰ العالمکیریۃ، الباب السابع فیما یفسد الصلاة وما یکرہ
 فیہا، الفصل الثانی فیما یکرہ الصلاة: ۱/ ۱۰۹، رشیدیہ)

(و کذا فی الدر المختار، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۱/ ۶۵۳، سعید)

(و کذا فی فتح القدير، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا، فصل: ویکرہ للمصلي: ۱/ ۳۱۸، مصطفى
 البابی الحلبي، مصر)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آجائے تو نماز کا حکم

سوال [۳۰۵۳]: نماز کی حالت میں اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال دل میں آئے یا

ادراک کی حالت میں آئے تو نماز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیال نماز میں آئے تو نماز فاسد نہیں ہوتی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

التحیات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور

سوال [۳۰۵۴]: التحیات میں "السلام عليك أيها النبي" سے صوفیاء حضرات استدلال کرتے

ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ضروری ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ان الفاظ کی وجہ اور شان نزول کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز کو معنی پردھیان رکھ کر اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے (۲)، اس لئے تصور بھی آئے گا۔ معراج میں تین

(۱) "اس لئے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک یا فرشتوں یا بزرگوں کا خیال یا عجیب و غریب مسائل خود بخود دل میں پیدا ہو جائیں تو اس سے نماز میں کچھ خلل نہیں آتا، البتہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف "صرف ہمت" کر کے دل میں نماز کی حالت خیال لانا اور بہمہ وجوہ آپ کی طرف متوجہ ہو جانا مضر تر ہے، کیونکہ آپ کی بے پناہ عقیدت اور لازوال محبت کے پیش نظر اور بے حد تعظیم و تکریم کے لحاظ سے اس خیال میں منہمک ہو کر آدمی توجہ الی اللہ سے محروم رہ جائے گا جو نماز میں مطلوب تھی، اس لئے یہ زیادہ خطرناک ہے۔" (عبارات اکابر، از شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر، حصہ اول، باب اول، چوتھا اعتراض، ص: ۸۶، مکتبہ صفدریہ گوجرانوالہ)

(۲) نماز میں معنی پردھیان رکھ کر اور سمجھ کر پڑھنے سے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا جو عین مقصود نماز ہے، حدیث میں ہے: "قال (جبریل) فأخبرني عن الإحسان؟" قال: "أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن قراه فإنه يراك". قال القاري رحمه الله تعالى: "كأنك تراه"..... أي حال كونك مشبهاً بمن ينظر إلى الله خوفاً منه وحياءً وخضوعاً وخشوعاً وأدباً وصفاءً ووفاءً..... فإن العبد إذا قام بين يدي مولاہ، لم يترك شيئاً مما قدر عليه من إحسان المحل بمقتضاه..... اهـ". (مرقاۃ المفاتیح، کتاب الإیمان، الفصل الأول: ۱/۲۵، رقم الحدیث: ۲، رشیدیہ)

چیزیں ہمیں ”التحیات، الصلوات، الطیبات“ بارگاہِ خداوندی میں پیش کرنے کے لئے وہاں سے جواب میں تین چیزیں: سلام، رحمت، برکات عطا ہوئیں (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، ۱۲/۶/۸۷ھ۔

امام کے سورہ فاتحہ ختم کرنے پر مقتدی کا کلمہ طیبہ پڑھنا

سوال [۳۰۵۵]: میں جب امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں تو امام کے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میری زبان سے خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے، کافی کوشش کرتا ہوں کہ روکوں مگر نہیں رکتا، ایسی صورت میں میری نماز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوگی (۲) لیکن اس کی اصلاح کیجئے، امام کے پیچھے خاموش رہنے کا

(۱) ”فلما قال ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالهام من الله سبحانه، رد الله عليه وحياه بقوله: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته)“ فقال: ”التحيات بالسلام الذي هو تحية الإسلام، وقابل الصلوة بالرحمة التي هي بمعناها، وقابل الطيبات بالبركات المناسبة للمال لكونها النمو والكثرة..... اهـ“، (إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح، ص: ۳۲۶، كتاب الصلوة، مطلب في شرح ألفاظ التشهد، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(و كذا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، ص: ۲۸۳، ۲۸۵، كتاب الصلوة، فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلوة، قديمي)

(۲) ”قوله: (و يفسد الصلاة التكلم) لحديث مسلم: ”إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، و قرأة القرآن“، (البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۳/۲، رشيدية)

(و كذا في رد المحتار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۱/۵، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع، فصل في بيان حكم الاستخلاف: ۲/۱۲۶، دار الكتب العلمية بيروت)

حکم ہے (۱)، اس حکم پر عمل کا تصور کیجئے اور کوشش بھی کیجئے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۴/۱۴۰۱ھ۔

نماز میں نام مبارک سن کر درود شریف پڑھنے کا حکم

سوال [۳۰۵۶]: اگر امام نے نماز میں آیت: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ پڑھی اور کسی مقتدی نے یہ سوچ کر کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود شریف پڑھنا چاہئے، اس لئے اس نے نام مبارک سنتے ہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیا، تو اس سے نماز میں تو کوئی خرابی نہیں آئی؟

مولوی محمد احسن صاحب سلطان پوری۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کا یہ خیال صحیح ہے کہ نام مبارک سن کر درود شریف پڑھنا چاہئے، احادیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے، لیکن یہ حکم خارج نماز کا ہے نماز میں یہ حکم نہیں، پس اگر نماز میں اس قصد سے درود شریف پڑھا ہے تو نماز فاسد ہوگئی (۲)، جیسے کہ امام سے اللہ پاک کا نام سن کر جل جلالہ کہہ دیا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اللہ پاک کا نام سن کر

(۱) قال اللہ تعالیٰ: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنْصِتُوا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (سورة الأعراف: ۲۰۴)
” (والمؤتم لا یقرأ مطلقاً) و لا الفاتحة فی السریة اتفاقاً..... (فإن قرأ کره تحریماً، بل یستمع و ینصت إذا أسر، لقول أبی هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ”کنا نقرأ خلف الإمام فنزل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (الدر المختار، فصل فی القراءة: ۱/۵۴۲، ۵۴۵، سعید)
(و کذا فی بدائع الصنائع، فصل فی بیان أركان الصلاة: ۱/۵۱۹، دار الکتب العلمیة بیروت)
(۲) ” [فروع]: سمع اسم اللہ تعالیٰ فقال: جل جلاله، أو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی علیہ، أو قراءة الإمام فقال: صدق اللہ ورسوله، تفسد إن قصد جوابه“. (الدر المختار، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۱/۶۲۱، سعید)

” (قوله: تفسد إن قصد جوابه) ذکر فی البحر أنه لو قال مثل ما قال المؤذن، إن أراد جوابه تفسد، و کذا لو لم تکن له نية؛ لأن الظاهر أنه أراد به الإجابة، و كذلك إذا سمع اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی علیہ فهذا إجابة“. (رد المختار، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۱/۶۲۱، سعید)
(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریة، الباب السابع فیما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۱/۹۹، رشیدیہ)

تعظیمی لفظ کہنا چاہئے، یا امام سے کسی آیت کو منکر کہہ دیا: صدق اللہ ورسولہ، ان صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ ان سب صورتوں میں قصدِ جواب ملحوظ ہے، اگر بغیر قصدِ جواب کے درود شریف پڑھا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوئی، کیونکہ درود شریف ایسی چیز نہیں جس کے پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے، بلکہ نماز میں اس کو مستقلاً پڑھا جاتا ہے (قعدہ اخیرہ میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے)، اور اللہ پاک کے لئے تعظیمی الفاظ مستقل پڑھے جاتے ہیں (جیسے رکوع میں سبحان ربی العظیم) (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

کیا سجدہ میں دونوں پیروں کے اٹھ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟

سوال [۳۰۵۷]: اگر سجدہ کرتے وقت دونوں پیروں سے اٹھ جائیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

محمد یاسین فاروقی اناؤ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر دونوں پیروں کی انگلیاں بالکل زمین سے اٹھی رہیں تو سجدہ درست نہیں ہوگا اور سجدہ درست نہ ہونے سے نماز درست نہیں ہوگی، طحطاوی، ص: ۱۲۶ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ۔

(۱) ”(قولہ: تفسد إن قصد جوابہ)..... واستفید أنه لو لم يقصد الجواب، بل قصد الشاء والتعظیم، لا تفسد؛ لأن نفس تعظیم اللہ تعالیٰ والصلاة علی نبیہ - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - لا ینافی الصلاة، كما فی شرح المنیة“۔ (رد المحتار، باب ما یفسد الصلاة و ما یکرہ فیہا: ۱/۲۲۱، سعید)
وفی الفتاویٰ العالمگیریة: ”و لو صلی علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الصلاة إن لم یکن جواباً لغيره، لا تفسد صلاته“۔ (الباب السابع فیما یفسد الصلاة و ما یکرہ فیہا: ۱/۹۹، رشیدیہ)
(و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلاة و ما یکرہ فیہا: ۲/۹، رشیدیہ)

(۲) ”فخرج وضع الجبهة مع رفع القدمین؛ لأنه تلاعب وليس بتعظیم“۔ (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، باب شروط الصلاة، ص: ۲۳۰، قدیمی)

(و أيضاً سیاتی تخریجہ مفصلاً تحت عنوان: ”سجدہ میں دونوں پیروں کا زمین سے اٹھ جانا“)

سجدہ میں دونوں پیروں کا زمین سے اٹھ جانا

سوال [۳۰۵۸]: نماز پڑھتے وقت اگر سجدہ میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ حوالہ کتب و صفحات کا ہونا ضروری ہے اور اس مسئلہ میں کسی فقیہ کی نظر فقہی بھی ضرور درج فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلیاً:

ایسا کرنے سے سجدہ صحیح نہیں ہوگا اور جب سجدہ صحیح نہ ہو، نماز صحیح نہ ہوگی:

”وفی مختصر الکرخی: سجد و رفع أصابع رجليه عن الأرض، لا تجوز اهـ“. غنیة، ص: ۲۸۰ (۱)۔ ”ومن شرط جواز السجود أن لا یرفع قدمیه فیہ، فإن رفعهما فی حال سجوده، لا تجزیه السجدة اهـ“. جوهره، ص: ۵۲ (۲)۔ قال المحقق ابن الهمام: ”أما افتراض وضع القدم، فلأن السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظیم والإجلال، ویکفیه وضع أصبع واحدة. وفی الوجیز: وضع القدمین فرض، فإن وضع إحداهما دون الأخری، جاز و یکره، اهـ“. فتح القدير (۳)۔
یہ حکم اس وقت ہے جب کہ دونوں پیراٹھانے کی مقدار ایک رکن کی ادائیگی تک پہنچ جائے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور، ۲۵/۱/۶۱ھ۔

صحیح: عبداللطیف، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور، ۲۵/۱/۶۱ھ۔

(۱) (غنیة المستملی شرح منیة المصلی، الخامس من الفرائض: السجدة، ص: ۲۸۵، سهیل اکیڈمی لاہور)

(۲) (الجوهرة النيرة علی مختصر القدوری، باب صفة الصلاة: ۶۳/۱، مکتبہ امدادیہ ملتان)

(۳) (فتح القدير، باب صفة الصلاة: ۳۰۵/۱، مصطفى الحلبي بمصر)

” (قوله: و منها السجود) ”و أما إذا رفع قدمیه فی السجود، فإنه مع رفع القدمین بالتلاعب

أشبه منه بالتعظیم والإجلال (قوله: و قدمیه) و أفاد أنه لو لم يضع شيئاً من القدمین، لم یصح

السجود“. (ردالمحتار، باب صفة الصلاة، بحث الركوع والسجود: ۴۴۷/۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیرية، الفصل الأول فی فرائض الصلاة، و منها السجود: ۴۰/۱، رشیدیہ)

سجدہ میں دونوں پیروں کا اٹھالینا

سوال [۳۰۵۹]: اگر سجدہ میں دونوں پیر زمین سے اٹھ جاویں تو نماز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

”ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض، لا يجوز اهـ“۔ عالمگیری (۱)۔ اس عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر دونوں پیر سجدہ میں زمین سے اٹھائے تو سجدہ جائز نہیں اور جب سجدہ جائز نہ ہوا (جو کہ نماز کا فرض و رکن ہے) تو نماز بھی جائز نہ ہوگی۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ۔

رفع قدمین

سوال [۳۰۶۰]: سجدہ کی حالت میں پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگانا ضروری ہے یا نہیں اور اگر

پاؤں اٹھ گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

سجدہ میں پیر کی کسی انگلی کا زمین سے لگا رہنا ضروری ہے اگر دونوں پیر اس طرح زمین سے اٹھے رہے کہ کسی انگلی کا کوئی حصہ بھی زمین سے لگا ہوا نہیں رہا اور تین تسبیح کی مقدار یہی کیفیت رہی تو نماز درست نہیں ہوگی، سجدہ سہو بھی اس کے لئے کافی نہیں:

”ومنہا السجود بجنبته وقدمیه، ووضع إصبع واحدة منهما شرط، اهـ“۔ درمختار۔

”وأفاد أنه لو لم يضع شيئاً من القدمين، لم يصح السجود، اهـ“۔ رد المحتار (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) (الفتاویٰ العالمگیریة، الفصل الأول فی فرائض الصلاة: ۷۰/۱، رشیدیہ)

(وأيضاً تقدم تخريجه تفصيلاً تحت عنوان: ”سجدہ میں دونوں پیروں کا زمین سے اٹھ جانا“۔)

(۲) (الدر المختار مع رد المحتار، باب صفة الصلاة، بحث الركوع والسجود: ۴۴۷/۱، سعید)

(وراجع أيضاً عنوان ”سجدہ میں دونوں پیروں کا زمین سے اٹھ جانا“)

سجدہ میں پیشانی اور ناک رکھنے کی جگہ کا موضع قد میں سے بلند ہونا

سوال [۳۰۶۱]: ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور حالت سجدہ میں اس کے ہاتھ اور ناک و پیشانی بلندی پر رہتے ہیں اور گھٹنے پستی میں رہتے ہیں اس صورت میں کیا قباحت ہے اور کتنی بلندی کس حکم میں ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

اگر پیشانی اور ناک قدم سے نصف ذراع سے کم بلندی پر ہو تو سجدہ ادا ہو جائے گا، اگر اس سے زیادہ بلندی پر ہو تو سجدہ ادا نہیں ہوگا اور سجدہ نہ ہونے کی صورت میں نماز بھی نہیں ہوگی:

”و من شروط صحة السجود عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمین بأكثر من نصف ذراع لیتحقق صفة الساجد، والارتفاع القلیل لا یضر، وإن زاد علی نصف ذراع، لم یجز السجود: أی لم یقع معتمداً به، فإن فعل غیره معتبراً صحت، وإن انصرف من صلوته ولم یعده، بطلت، اھ۔“ مراقی الفلاح، ص: ۱۲۶ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

عورت کا نماز میں جہراً قرأت کرنا کیا مفسد ہے؟

سوال [۳۰۶۲]: عورت اگر بالجہر نماز پڑھے تو اس کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ اور اس طرح جس نے نماز پڑھی ہے ان نمازوں کو قضاء کرنا پڑے گا یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

بعض فقہاء کے نزدیک عورت کی آواز عورت ہے، جہر سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لئے

(۱) (مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح، باب شروط الصلاة وأركانها، ص: ۲۳۲، قدیمی)

”و لو كان موضع سجوده أرفع من موضع القدمین بمقدار لبنتين منصوبتين، جاز سجوده (وإن أكثر لا)، إلا لزحمة كمامر. والمراد لبنة بخارا: وهي رُبْع ذراع عرض ستة أصابع، فمقدار ارتفاعهما نصف ذراع ثلثا عشرة أصبعاً، ذكره الحلبي.“ (الدر المختار، فصل فی بیان تالیف الصلاة إلی انتهائها: ۵۰۳/۱، سعید)

(و كذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، الفصل الأول فی فرائض الصلاة، و منها السجود ۷۰/۱، رشیدیہ)

احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ جہر سے نہ پڑھے، جو نمازیں جہر سے پڑھ چکی ہے ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۷/۹۰ھ۔

نماز میں تفسیر کے ساتھ قرأت کرنا

سوال [۳۰۶۳]: کسی شخص نے تفسیر کے ساتھ قرأت پڑھی ہے، نماز میں آیا اسکی نماز ہوگی یا نہیں؟

بینو باللیل۔ فقط۔

المستفتی: احقر نور محمد میمننگی، مدرسہ مظاہر علوم۔

الجواب حامداً ومصلياً:

تفسیر قرآن نہیں، غیر قرآن کو قرآن کے ساتھ نماز میں پڑھنا مفسدِ صلوة ہے: "الصلوة یمنع فیہا عن غیر القراءة والذکر قطعاً، وما کان قصة ولم تثبت قرآنیة، لم یکن قراءة ولا ذکراً، فیفسد" الخ ردالمحتار: ۱/۶۰۶ (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/محرم/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۱۳/محرم/۵۹ھ، صحیح: عبداللطیف، ۱۳/محرم/۵۸ھ۔

(۱) "قولہ: و صوتہا) معطوف علی المستثنی: یعنی أنه لیس بعورة (قولہ: علی الراجح)، عبارة البحر عن الحلیة: أنه الأشبه. و فی النهر: و هو الذی ینبغی اعتماده، و مقابله ما فی: النوازل نعمة المرأة عورة. قال فی الفتح: و علی هذا لوقیل: إذا جهرت بالقراءة فی الصلاة، فسدت، کان متجهاً، ولهذا منعه علیہ الصلاة والسلام من التسبیح بالصوت لإعلام الإمام لسهوه إلى التصفیق". (ردالمحتار، باب شروط الصلاة: ۱/۴۰۶، سعید)

(و کذا فی النهر الفائق، باب شروط الصلاة: ۱/۱۸۳، امدادیہ ملتان)

(و کذا فی البحر الرائق، باب شروط الصلاة: ۱/۴۷۰، رشیدیہ)

(۲) (رد المحتار، مطلب فی حکم القراءة بالشاذة: ۱/۴۸۵، سعید)

"و لا یجوز بالتفسیر إجماعاً؛ لأنه کلام الناس". (البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب صفة

الصلوة: ۱/۵۳۶ رشیدیہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق، باب صفة الصلاة: ۱/۲۸۹، دار الکتب العلمیة بیروت)

”سمع اللہ لمن حمدہ“ کے بجائے ”سمع اللہ من حمدہ“ کہنا

سوال [۳۰۶۴]: امام بجائے ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کے ”سمع اللہ من حمدہ“ کہتا ہے،

اس سے نماز میں کوئی خرابی تو نہ ہوگی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن صحیح الفاظ ادا کرنے کی کوشش و اہتمام لازم ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ

تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

لفظ ”اللہ“ کے شروع میں ”مد“

سوال [۳۰۶۵]: ایک امام بجائے ”اللہ اکبر“ کے ”آلہ اکبر“ پڑھتا ہے، اس کو کہا گیا کہ تم

صحیح پڑھا کرو تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نزدیک بالکل ”اللہ اکبر“ ہی پڑھتا ہوں، مگر تمہیں ”آلہ اکبر“ معلوم

ہوتا ہے، حالانکہ وہ کبھی ”اللہ اکبر“ صحیح کہتا ہے اور کبھی غلط۔ اب اس امام کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے یا

نہیں؟ میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ رکھی ہے جیسا حکم ہو، کروں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر امام مذکور ”اللہ اکبر“ میں اللہ کے شروع میں ”الف“ پڑھتا ہو اور اس کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا

تو ایسی حالت میں اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کرتا ہے تو نماز کا شروع کرنا صحیح نہیں ہوا۔

اگر علم ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اس سے معنی میں کیا خرابی ہے تو پھر قصداً ایسا کرنے سے کفر کا خوف ہے:

قال ابن نجيم: ”لو مد ألف ”اللہ اکبر“ لا يصير شارعاً، خيف عليه الكفر إن كان

(۱) ”و لو زاد كلمة أو نقص كلمة أو نقص حرفاً أو قدمه أو بدله بآخر لم تفسد ما لم يتغير

المعنى“. (الدر المختار، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها: ۶۳۲/۱، ۶۳۳، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيريّة، الفصل الخامس في مسائل زلة القاري: ۷۹/۱، رشيدية)

(و كذا في خلاصة الفتاوى، الفصل الثاني عشر في زلة القاري: ۱۰۶/۱، امجد اكيڈمی لاہور)

قاصداً، اھ۔“ بحر، ص: ۳۱۴ (۱)۔ ”اعلم أن المدّ إن كان فی ”اللہ“، فأما فی أوله أو أوسطه أو آخره، فإن كان فی أوله لم یصر به شارعاً، وأفسد الصلوٰۃ لو فی أثنائها، ولا کفر إن كان کاجاهلاً؛ لأنه جازم، وإلا کفر للشک فی مضمون الجملة“۔ شامی: ۱/ ۵۰۰ (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند۔

قصداً ترک رکوع اور ترک قعدہ اولیٰ کا حکم

سوال [۳۰۶۶]: جو شخص عمداً امام کے ساتھ رکوع میں شامل نہ ہو اور قرأت میں مشغول رہا تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ اور یہ مسئلہ متفقہ بین الائمہ الاربعہ ہے یا نہیں؟ فسادِ صلوٰۃ کی صورت میں اسی طرح اگر کوئی شخص قعدہ اولیٰ میں عمداً نہ بیٹھتے اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

امام کے پیچھے قرأت کی اجازت نہیں، پھر اس میں مشغول رہنے کی وجہ سے رکوع میں شریک نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر رکوع ترک کر دیا، تو ترک فرض کی وجہ سے نماز باطل ہوگئی (۳)، قعدہ اولیٰ واجب ہے، عمداً ترک واجب سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے اور اعادہ واجب ہوتا ہے:

(۱) (البحر الرائق، باب صفة الصلاة: ۱/ ۵۳۸، رشیدیہ)

(۲) (رد المحتار، فصل فی بیان تالیف الصلاة إلى انتهائها: ۱/ ۳۸۰، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، الفصل الثالث فی کیفیتہا: ۱/ ۷۳، رشیدیہ)

(۳) ”و فی الولوالجیة: الأصل فی هذا أن المتروک ثلاثة أنواع: فرض و سنة و واجب، ففی الأول إن أمکنه التدارک بالقضاء یقضی، وإلا فسدت صلاته“۔ (الفتاویٰ العالمکیریة، الفصل الثانی فیما یکرہ الصلاة و ما لا یکرہ: ۱/ ۱۲۶، رشیدیہ)

(و کذا فی بدائع الصنائع للکاسانی، فصل فی بیان المتروک سهواً: ۱/ ۷۰۱، دارالکتب

العلمیة بیروت)

(سجدة السهو واجبة، إنه لا یجب إلا بترک الواجب) لا بترک الفرائض؛ لأن ترکها لا

ینجبر بسجود السهو، بل هو مفسد، إن لم یتدارک فیعاد“۔ (غنیة المستملی (الحلبی الکبیر) مفسدات

الصلاة، ص: ۳۵۵، سهیل اکیڈمی لاہور)

”و حکم الواجب استحقاق العذاب بترکہ عمدًا عدم إکفار جاحده، والثواب بفعله، و لزوم سجدة السهو لنقص الصلوٰۃ بترکہ سهواً، أو إعادتها بترکہ عمدًا، و سقوط الفرض ناقصاً إن لم یسجد و لم یعد.“ مراقی الفلاح (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

امام سے پہلے رکوع یا سجدہ

سوال [۳۰۶۷]: اگر کوئی امام سے پہلے رکوع یا سجدہ میں چلا جائے تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن اگر اس رکوع و سجدہ میں امام بھی پہنچ گیا تو نماز درست ہو جائے گی، اگر اس مقتدی نے امام کے رکوع یا سجدہ میں پہنچنے سے پہلے سر اٹھالیا یعنی امام کے ساتھ رکوع و سجدہ میں شرکت بالکل نہیں کی تو اس کی نماز فاسد ہوگئی:

”و لو رکع قبل الإمام فله حقه إمامه فيه، صح رکوع و کرہ تحریمًا، وإلا لا یجزیه،

الخ.“ در مختار علی رد المحتار: ۱/ ۴۸۸ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

املاہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

(۱) (مراقی الفلاح، فصل فی بیان واجب الصلوٰۃ، ص: ۲۴۶، قدیمی)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ. الباب الثانی عشر فی سجود السهو: ۱/ ۱۲۶، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، باب سجود السهو: ۱/ ۱۶۱، رشیدیہ)

(۲) (الدر المختار، باب إدراک الفریضة: ۲/ ۶۱، سعید)

”عن محمد بن زیاد قال: سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه

وسلم قال: ”أما يخشى أحدكم“ أو ”ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس

حمار“، أو ”يجعل الله صورته صورة حمار“ أخرجه البخارى“. (إعلاء السنن، باب وجوب متابعة الإمام،

والنهي عن المسابقة: ۲/ ۲۹۵، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراچی)

(و کذا فی البحر الرائق، باب إدراک الفریضة: ۲/ ۱۳۶، رشیدیہ)

سلام قبل الامام سے متعلق تذکرۃ الرشید اور تذکرۃ الخلیل کی عبارتوں میں تعارض

سوال [۳۰۶۸]: اگر مقتدی امام سے پہلے کلمہ ”السلام علیکم ورحمة اللہ“ ختم کر دے تو نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوگی تو اس عبارت اور حاشیہ کا کیا مطلب ہے جو کہ تذکرۃ الرشید، ص: ۱۷۹، میں لکھی ہوئی ہے۔ عبارت یہ ہے:

”اس عنوان کو اس مسئلہ پر ختم کرتا ہوں جس کو حضرت امام ربانی قدس سرہ نے نہایت اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمایا اور کہا کہ سننے والے دوسروں کو پہنچاویں، عالم لوگ اس کی طرف سے غافل ہیں اور یہ غفلت ان کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے، وہ یہ کہ امام کے پہلے سلام ختم ہونے سے پہلے مقتدی سلام ختم کر دے تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔“

اور حاشیہ یہ ہے:

”مطلب یہ ہے کہ امام اکثر ”السلام علیکم ورحمة اللہ“ کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا اور سلام پھیرتا ہے، اور مقتدی اس کلمہ کو جلد ختم کر لیتے ہیں، پس اگر امام کی زبان سے لفظ ”ورحمة اللہ“ ختم ہونے سے پہلے مقتدی نے یہ الفاظ تمام کئے تو چونکہ امام سے پہلے مقتدی نے نماز ختم کی، اس لئے مقتدی کی نماز جاتی رہی۔“

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر مقتدی نے امام کے لفظ ”السلام“ ختم کرنے کے بعد اپنا سلام شروع کیا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی اگرچہ ”ورحمة اللہ“ امام سے پہلے ہی ختم کر دیا ہو۔

”وتنقضی قدوة بالأول قبل ”علیکم“ علی المشهور عندنا، وعلیہ الشافعیة“۔ درمختار

علی هامش الشامیہ: ۱/۴۳۸ (۱)۔

تذکرۃ الرشید میں جو مسئلہ ہے اس کا حال بھی یہی ہے، وہاں صرف سلام مذکور ہے، نہ کہ ”ورحمة اللہ“

اللہ۔“ محشی نے تذکرۃ الخلیل میں خود اس کے خلاف کہا ہے اور تذکرۃ الرشید کا حوالہ بھی اس کے حاشیہ میں دیا ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۵/۵/۸۸ھ۔

قعدہ اخیرہ کے بعد ضرورتاً امام سے پہلے سلام پھیرنا

سوال [۳۰۶۹]: ایک صاحب کہتے ہیں کہ کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو اور قعدہ اخیرہ التحیات کے بعد اس کو سخت عارضہ پیش آجائے، مثلاً ہوا خارج ہونے والی ہو یا قضائے حاجت کی ضرورت پیش آجائے تو ایسا شخص خود سلام پھیر کر نماز پوری کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیا یہ صحیح ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس کی نماز کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۴/۸۹ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۴/۸۹ھ۔

(۱) تذکرۃ الخلیل یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ اس طرح ہے: ”ایک دن عصر کی نماز سے فراغت کے بعد حضرت حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ شویل صاحب نے اس شامی حاجی کو کشاں کشاں لاکر حضرت کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس نے دوسرا سلام امام سے پہلے پھیر دیا، جب اس کو منع کیا تو اس نے کہا میں نے تو حضرت کو ایسا کرتے دیکھا ہے، کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا: ہاں ایسا کر سکتے ہیں۔“

حاشیہ میں ہے: ”تذکرۃ الرشید، جلد اول، ص: ۷۹، میں یہ مسئلہ غلط لکھا گیا، صحیح یہ ہے کہ جو یہاں مذکور ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی (عاشق الہی)۔“ (تذکرۃ الخلیل، ص: ۳۰۲، مکتبہ الشیخ، کراچی)

(۲) واضح رہے کہ بغیر عذر امام کے سلام سے پہلے مقتدی کا سلام پھیرنا مکروہ ہے لیکن عذر کے ساتھ ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے جیسا کہ شامی میں ہے: ”ولو أتمه قبل إمامه فتكلم، جاز و کرہ۔“ (ردالمحتار)

”قولہ: ولو أتمه: أي لو أتم المؤتم التمشيد بأن أسرع فيه، وفرغ منه قبل إتمام إمامه، فأتى بما يخرج من الصلوٰۃ كسلام أو كلام أو قيام، جاز..... وإنما کرہ للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذر، فلو به (أي بعذر) كخوف حدث أو خروج وقت الجمعة أو مرور ما بين يديه، فلا كراهة.“

(ردالمحتار على الدر المختار، كتاب الصلوٰۃ، آداب الصلوٰۃ: ۱/۵۲۵، سعید)

سلام قبل الامام

سوال [۳۰۷۰]: ایک مقتدی مدرک نے امام کے سلام سے قبل سلام پھیر دیا خواہ سہو یا عمدتاً تو اس شخص کی نماز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر سہو امام سے پہلے سلام پھیر دیا، پھر یاد آ گیا تو ٹھہرا رہے اور امام کی اتباع میں دوبارہ سلام پھیر دے بشرطیکہ کوئی اور قول یا فعل منافی صلوٰۃ نہ کیا ہو، ورنہ اس کے ذمہ نماز کا اعادہ لازم ہوگا۔ اگر عمدتاً امام سے پہلے سلام پھیر کر نماز سے خارج ہو گیا تو دوبارہ پڑھے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود عفا اللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۲/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۲/۹۰ھ۔

امام کی تبعیت کا ایک مسئلہ

سوال [۳۰۷۱]: اگر ہر دو سلام یا سلام سجدہ سہو شروع امام کے ساتھ یا بعد میں کرے مگر ختم پہلے کرے تو نماز ہو جائے گی۔ درمختار میں ہے: ”وتنقضی قدوة بالأول قبل علیکم“۔ الدر المختار علی

(۱) ”عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة، أقبل علينا بوجهه، فقال: ”أيها الناس! إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإنصراف، فإنى أراكم أمامى و من خلفى“ الخ. (الصحيح لمسلم، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما: ۱/۱۸۰، قديمي)

”قولہ: و لو أتمہ: أى لو أتم المؤتم التشهد، بأن أسرع فيه و فرغ منه قبل إتمام إمامه، فأتى بما يخرج من الصلاة كسلام أو كلام أو قيام، جاز: أى صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان..... و إنما كره للمؤتم ذلك لتركه متابعة الإمام بلا عذر، فلو به..... فلا كراهة“ (رد المحتار،

باب صفة الصلاة: ۱/۵۲۵، سعيد)

(و كذا فى الفتاوى العالمكبرى، الباب الرابع، باب صفة الصلاة: ۱/۷۱، رشيدية)

ہامش ردالمحتار: ۱/ ۴۳۶ (۱)، بموجب فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، ص: ۱۴۴ (۲)۔ حضرت والا کا فتویٰ یہ ہے کہ وہنی طرف ختم نماز کا سلام پھیرتے وقت اگر مقتدی ”السلام“ کی ”میم“ امام کی ”میم“ سے پہلے ادا کر دے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ان دونوں فتوؤں میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس فتویٰ پر درمختار کی عبارت منقولہ کا حاصل بھی وہی ہے جو احقر نے لکھا ہے (۳) ”الأول“ سے مراد پہلا سلام جو وہنی طرف ہوتا ہے ”قبل علیکم“ سے مراد ”السلام علیکم“ کا ”میم“۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳/ ۷/ ۹۲ھ۔

(۱) (الدر المختار، کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: ۱/ ۲۶۸، سعید)

(۲) (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، باب مکروہات نماز: ۱۴۴/۴، امدادیہ، ملتان)

(۳) (انظر عنوان: ”امام کے تکبیرات اور سلام سے پہلے مقتدی کا تکبیر و سلام کہنا“۔)

تنبیہ: فقہی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی امام سے پہلے سلام پھیر دے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی کے فتویٰ میں جو منقول ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے وہ احتیاط پر محمول ہے دیکھئے (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۳/ ۳۷۳)۔ جب کہ ”خیر الفتاویٰ“ اور ”تذکرۃ الرشید“ اور ”فتاویٰ دارالعلوم دیوبند“ میں مذکورہ مسئلہ میں فساد نماز کے بارے میں جواب دیا ہے۔

”مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتدی آخری قعدہ بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد امام سے پہلے سلام پھیر کر چلا جائے تو اس کی نماز باطل

نہ ہوگی، البتہ بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، عذر کی وجہ سے ہو تو کراہت بھی نہیں“۔ (خیر الفتاویٰ: ۲/ ۳۴۲)

”لو أتممتم المؤتمم التشهد بأن أسرع فيه، وفرغ منه قبل إتمام إمامه، فأتى بما يخرج من الصلاة

كسلام وكلام أو قيام جاز أي صحت صلاته لحصوله بعد تمام الأركان..... وإنما كره المؤتمم ذلك

لتركه متابع الإمام بلا عذر، فلو به..... فلا كراهة“۔ (ردالمحتار، باب صفة الصلاة: ۱/ ۵۲۵، سعید)

اس جزئیہ سے ظاہر ہے کہ انقطاع قدوہ کا اس مسئلے کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے خواہ یہ انقطاع پہلے سلام سے

ہو جاتا ہو یا دوسرے سلام سے..... اور متابعت امام میں مقارنت یا تعاقب کے ساتھ بھی اس مسئلے کا تعلق نہیں، امام سے پہلے

”السلام علیکم“ کہہ دیا تو بھی نماز ہو جاتی ہے، البتہ ”تذکرۃ الرشید“ کے مسئلہ کے بارے میں ایک خیال یہ رہا ہے کہ حضرت گنگوہی

قدس سرہ نے درحقیقت ابتدائے نماز کا مسئلہ بتایا ہوگا، سامع کو التباس ہوا، اس نے اسے آخر نماز کا مسئلہ سمجھا۔

مقتدی سے فرض کہہ کر سنت پڑھنا

سوال [۳۰۷۲]: زید ہمیشہ عصر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھنے کا عادی تھا، ایک روز اس کا دوست بکر آ گیا اور کہا چلو! دونوں آدمی چل کر جماعت سے فرض پڑھ لیں، آج سنت نہ پڑھو تو کیا حرج ہے۔ اس پر زید نے کہا کہ میں ہمیشہ سنت پڑھتا آیا ہوں بغیر سنت کے فرض نہ پڑھوں گا۔ اس پر دونوں بہت دیر تک بحث کرتے رہے، آخر میں زید نے بکر کے شر سے بچنے کیلئے سنت کی نیت کر کے کہا کہ اچھا چلو! میں فرض ادا کرتا ہوں، یہ کہہ کر سنت کی نیت باندھ لی اور بکر مقتدی بن گیا۔ سلام پھیرنے کے بعد زید نے کہا میاں ہم نے تو سنت پڑھی ہے اب پھر سے دونوں فرض پڑھیں گے، بکر نے کہا کہ میرا سارا گناہ تمہارے سر ہے، اب میں دوبارہ نہ ادا کروں گا مجھے تم نے کیوں دھوکا دیا، تم نے سنت کی نیت کر کے فرض بتائی، میں نے فرض کی نیت باندھ لی، میری نماز ہو گئی، تم جانو تمہارا کام جانے۔ ایسی صورت میں بکر کی نماز ہوئی یا نہیں؟ جب کہ زید نے سنت کی نماز ادا کی تھی۔ زید بہت نادم ہے کہ اب عذاب الہی سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے کیونکہ اس کا سارا گناہ مجھ پر ہوا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

بکر کا زید کو سنت سے روکنا شرعاً مذموم ہے (۱)، پھر زید کا بکر کو دھوکا دے کر فرض بتا کر سنت پڑھنا بھی شرعاً مذموم ہے (۲)، لیکن جب بکر کو معلوم ہو گیا کہ زید نے سنت پڑھی ہے تو بکر کو فرض پھر ادا کرنا چاہیے (۳)،

(۱) قال الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾. (إبراهيم: ۳)

(۲) "عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا". (الصحيح لمسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا: ۱/ ۷۰، قدیسی)

(۳) "لأن الاقتداء ببناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام في الأولى وهو مشاركة وموافقة، فلا بد من اتحاد، وهو معدوم في الثانية..... اهـ" (البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الإمامة: ۱/ ۶۳۱، رشیدیہ)

"لأن اتحاد الصلوتين شرط عندنا". الدر المختار، باب الإمامة: ۱/ ۵۷۹، سعید

(و کذا فی تبیین الحقائق، باب الإمامة: ۱/ ۳۶، بیروت، دار الکتب العلمیة)

بکر فرض ادا نہیں کرے گا تو بکر کے ذمہ فرض باقی رہے گا اور بکر گنہگار ہوگا (۱) لیکن اگر بکر کے نزدیک زید جھوٹا ہے اور اس نے فرض پڑھ کر یہ کہا ہے کہ میں نے سنت پڑھی ہے تو بکر کے ذمہ فرض کو دو بارہ پڑھنا لازم نہیں اس کی نماز درست ہوگئی۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

جماعت شروع ہونے پر مسجد میں اندر سونے والا کیا کرے؟

سوال [۳۰۷۳]: کوئی شخص مسجد میں سو گیا ہے اور معلوم کسی کو نہیں اور باہر جماعت ہو رہی ہے اور جگہ خالی نہیں کہ کسی طرف کو نکل جائے تو اس کیلئے کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر نمازیوں کے درمیان کو نکلتا ہے اس طرح پر کہ کسی کی نماز قبلہ کی طرف سے سینہ پھر جانے کی وجہ سے فاسد نہ کرے تو نکل آئے ورنہ وہیں بیٹھا رہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔



(۱) "عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئاً، وإن قطعت وحرقت، ولا تترك الصلاة مكتوبةً متعمداً، فمن تركها متعمداً، فقد برئت منه الذمة". (مشکوٰۃ المصابيح، كتاب الصلاة، الفصل الثالث، ص: ۵۷، قديمی)

(۲) "وتحويل صدره عن القبلة بغير عذر". (الدرالمختار). "بغير عذر" قال في البحر في باب شروط الصلاة: والحاصل أن المذهب أنه إذا حول صدره، فسدت". الخ. (ردالمحتار، باب مایفسد الصلوة ويکره فیہا اھ: ۶۲۶/۱، ۶۲۷، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریۃ، کتاب الصلاة باب شروط الصلاة: ۱/۳۹۷، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، الفصل السابع فی مایفسد الصلاة وما یکره فیہا: ۱/۱۰۳، رشیدیہ)

الفصل الثانی فیما یکره فی الصلوة

(مکروہات نماز کا بیان)

کیا نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے

سوال [۳۰۷۴]: کیا نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس نماز میں واجب نماز ترک ہو گیا ہو وہ واجب الاعادہ ہے، مگر یہ اعادہ وقت باقی رہنے تک ہے،

وقت ختم ہونے پر وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اس وقت استغفار کے ذریعہ مکافات کی جائے (۱)۔

کل صلوة أدیت مع کراهة التحريم تجب إعادتها

سوال [۳۰۷۵]: ”کل صلوة أدیت مع کراهة التحريم، وجبت إعادتها“ یہ قاعدہ اپنے عموم کے

اعتبار سے صحیح ہے، امداد الفتاویٰ میں اس کی عمومیت پر انکار کیا ہے اور شامی کا حوالہ دیا ہے، اس میں مکمل بیان فرمادیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جی ہاں! اس میں اتنی عمومیت نہیں جتنا الفاظ سے مفہوم ہوتا ہے، شامی: ۱/۳۰۷، ۳۸۶، میں تفصیل

(۱) ”فالحاصل أن من ترک واجباً من واجباتها أو ارتكب مکروهاً تحريمياً لزمه وجوباً أن يعيد فی

الوقت، فإن خرج أثم، ولا يجب جبر النقصان، فلو فعل فهو أفضل“ (رد المحتار، باب قضاء الفوائت

۶۴/۲، سعید)

”کل صلاة أدیت مع کراهة التحريم، تعاد: أي وجوباً فی الوقت، و أما بعده فندباً“ (حاشیة

الطحطاوی علی مراقی الفلاح، باب قضاء الفوائت، ص: ۴۴۰، قدیمی)

(و کذا فی البحر الرائق، باب قضاء الفوائت، ص: ۱۴۲/۲)

(و أيضاً راجع المسئلة الآتية)

مذكور ہے، وہ ملاحظہ کر لیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود عفا اللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۲/۶/۸۷ھ۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند، ۲۲/۶/۸۷ھ۔

(۱) قال العلامة الشامی: ”(قوله: وكذا كل صلاة أدت الخ) بقى هنا شيء، وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح، أو سنة مؤكدة في حكم الواجب، كما في البحر، وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره، وأنه يآثم. ومقتضى هذا أنه لو صلى مفرداً يؤمر بإعادتها بالجماعة، وهو مخالف لما صرحوا به في باب إداراك الفريضة أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر، ثم أقيمت الجماعة، يتم و يقتدى متطوعاً، فإنه كالصریح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته مفرداً مكروهة تحريماً أو قربة من التحريم، فيخالف تلك القاعدة، إلا أن يدعى تخصيصها بأن مرادهم بالواجب والسنة التي تُعاد بتركة ما كان من ماهية الصلوة وأجزائها، فلا يشمل الجماعة؛ لأنها وصف لها خارج عن ماهيتها و يؤيده أيضاً أنهم قالوا: الترتيب في سُور القرآن واجب، فلو قرأ منكوساً، آثم لكن لا يلزمه سجود السهو؛ لأن ذلك من واجبات القراءة، لا من واجبات الصلاة، كما ذكره في البحر في باب السجود، لكن قولهم: ”كل صلوة أدت مع كراهة التحريم“ يشمل ترك الواجب وغيره“. (رد المحتار، مطلب: كل صلاة أدت مع كراهة التحريم تجب إعادتها: ۱/۳۵۷، سعيد)

”(قوله: أي وجوباً في الوقت الخ) فالحاصل أن من ترك واجباً من واجباتها أو ارتكب مكروهاً تحريماً لزمه وجوباً أن يعيد في الوقت، فإن خرج، آثم، ولا يجب جبر النقصان بعده، فلو فعل أفضل.“
أقول: ما في القنية مبني على الاختلاف في أن الإعادة واجبة، وقد منا عن شرح أصول البردوى التصريح بأنها إذا كانت لخلل غير الفساد، لا تكون واجبة، وعن الميزان التصريح بوجوبها، و قال: في المعراج: وفي جامع التمرتاشي: لو صلى في ثوب فيه صورة يكره و تجب الإعادة، قال أبو اليسر: هذا هو الحكم في كل صلوة أدت مع الكراهة.

و في المبسوط على الأولوية والاستحباب، فإنه ذكر أن القومة غير ركن عندهما فتركهما لا يفسد، والأولى الإعادة وهل تكون الإعادة واجبة؟ فصرح غير واحد من شراح أصول فخر الإسلام بأنها ليست بواجبة الخ“. (رد المحتار، باب قضاء الفوائت: ۲/۶۳، سعيد)

کیا طاعاتِ مکروہہ کا بھی ثواب ہے؟

سوال [۳۰۷۶]: حدیث: ”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت: کان رسول اللہ إذا سلم، لم یقعد إلا مقدار ما یقول: ”اللہم أنت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام“، رواہ مسلم (۱)۔

حدیث: ۲..... ”وعن المغیرة بن شعبه رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یقول فی کل دبر صلوٰۃ مکتوبة: ”لا إله إلا اللہ وحده لا شریک له الخ“، متفق علیہ (۲)۔

حدیث: ۱، میں سلام پھیرتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف دعاء ”اللہم أنت السلام الخ“ تک پڑھتے اور حدیث: ۲، میں بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد یعنی ہر فرض نماز کے بعد فلاں وظیفہ پڑھتے۔ اور حدیث: ۱، بھی مطلق ہے اور حدیث: ۲ بھی۔ اور دونوں مسلم شریف کی حدیثیں ہیں اور دونوں میں اختلاف ہے ایک میں وظیفہ کرنے کا اور ایک میں نہ کرنے کا علماء نے اس اختلاف کو اس طرح دور کیا ہے کہ جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان کے بعد سنتیں پہلے ادا کرنی چاہئے، ان کے درمیان وظیفہ کرتے ہوئے بیٹھنا اور سنتوں کی تاخیر کرنا مکروہ ہے اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے فرض نمازوں کے بعد وظیفہ اور امسنونہ پڑھنا مستحب ہے۔

چنانچہ درمختار میں جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان فرض نمازوں کے بعد وظیفہ کرتے ہوئے بیٹھنا اور سنتوں کی تاخیر کرنا مکروہ لکھا ہے، لیکن حلوانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قلیل وظیفہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں لکھا ہے، حلبی نے ان دونوں کے اختلاف کو دور کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر مکروہ سے مکروہ تفریق بھی مراد لی جائے تو دونوں کا اختلاف دور ہو سکتا ہے (۳) اور جناب والا کا ارشاد ہے کہ مکروہ تفریق بھی میں ثواب ہے (۴)، حالانکہ درمختار میں

(۱) (الصحيح للإمام مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة و بیان صفتہ: ۲۱۸/۱، قدیمی)

(۲) (صحيح البخاری، کتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة: ۱۱۷/۱، قدیمی)

(والصحيح لمسلم، کتاب المساجد، باب الذكر بعد الصلاة: ۲۱۸/۱، قدیمی)

(۳) ”و یکرہ تأخیر السنة إلا بقدر“ اللہم أنت السلام الخ“، قال الحلوانی: لا بأس بالفصل بالأوراد،

واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكرهية التنزيهية، ارتفع الخلاف. قلت: وفي حفظي حمله

على القليلة“، (الدر المختار، باب صفة الصلوٰۃ: ۵۳۰/۱، سعید)

(۴) ”و عندی أن قول الحلوانی: لا بأس، لا یعارض القولین؛ لأن المشهور فی هذه العبارة كونه خلاف =

کتاب الحج والامامة میں لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی کے چھوڑنے میں ثواب ہے، کرنے میں ثواب نہیں اور مستحب کے کرنے میں ثواب ہے چھوڑنے میں ثواب نہیں (۱) اس ناچیز کو سمجھا دیں کہ مکروہ تنزیہی میں ثواب ہونے کی کون سی دلیل ہے تاکہ میں رجوع کر سکوں؟ کبیری شرح منیۃ المصلی، مطبوعہ محمدی کے صفحہ: ۳۳۱ میں ہے:

”فإن کان بعدها: أى المكتوبة تطوع، يقوم إلى التطوع بلا فصل إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام الخ. ويكره تأخير السنة عن حال أداء الفريضة بأكثر من نحو ذلك القدر“ (۲)۔

اسی صفحہ میں ہے: ”وأما ما روى من الأحاديث فى الأذكار عقيب الصلوة، فلا دلالة فیها على الإتيان بها عقيب الفرض قبل السنة، بل تحمل على الإتيان بها بعد السنة، ولا يخرجها تخلل السنة بينها وبين الفريضة عن كونها بعدها وعقبيها؛ لأن السنة من لواحق الفريضة وتوابعها ومكملاتها، فلم تكن أجنبية منها، فما يفعل بعدها، يطلق عليه أنه فعل بعد الفريضة وعقبيها، والله أعلم بالصواب“ (۳)۔

= اولی، فكان معناها أن الأولى أن لا یقرأ قبل السنة، و لو فعل لا بأس، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك ولذا قالوا: لو تكلم بعد الفرض، لا تسقط، لكن ثوابها أقل، فلا أقل من كون قراءة الأوراد، لا تسقطها، و تبعه على ذلك تلميذه فى الحلیة، و قال: فتحمل الكراهة فى قول البقالی على التنزیهية، لعدم دلیل التحريمية، حتى لو صلاها بعد الأوراد، تقع سنة مؤداة“ (الدر المختار مع ردالمحتار، باب صفة الصلاة ”فصل“ : ۱/۵۳۰، سعید)

(۱) ”(قوله: و يسمى مندوباً و أدباً) قال فى الإمداد: و حكمه الثواب على الفعل و عدم اللوم على الترك“ (ردالمحتار، مطلب: لا فرق بين المندوب و المستحب و النفل و التطوع : ۱/۱۲۳، سعید)

” (لا یکره) تنزیهاً (إمامة عبد) و لو معتقاً“ (الدر المختار). ”قوله: و یکره ینزیهاً) و یکره الاقتداء بهم تنزیهاً، فإن أمکن الصلاة خلف غیرهم فهو أفضل، و إلا فالأقتداء أولى من الانفراد“ (ردالمحتار، باب الإمامة : ۱/۵۵۹، سعید)

”(قوله: و مکروهة) و على المکروه تنزیهاً، و هو ما کان ترکه أولى من فعله“ (ردالمحتار، مطلب فى تعريف المکروه الخ : ۱/۱۳۱، سعید)

(۲) (غنية المستملی فى شرح منیة المصلی (الحلبی الكبير): ۳۲۱، ۳۲۲، سهیل اکیڈمی لاہور)

(۳) (غنية المستملی، ص: ۳۲۲، سهیل اکیڈمی، لاہور)

الجواب حامداً ومصلياً:

کسی طاعات و قربت کو اگر خارج سے کوئی کراہت لاحق ہو جائے تو اس سے وہ طاعت و قربت باطل اور لغو نہیں ہوتی، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے مثلاً دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے طویل کر دیا جائے تو اس میں ایک کراہت ہے لیکن جتنی مقدار قرآن طویل کی گئی ہے وہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں (۱) طاعت میں بے شمار مثالیں اس کی نلیں گی، تاہم اس طویل کرنے کو قابل ترک ہی کہا جائے گا، لہذا درمختار و غیرہ کا قول صحیح ہے کہ مکروہ کو ترک کرنے کا بھی حکم ہے اور جن طاعت و قربت کے ساتھ یہ مکروہ لاحق ہو گیا اس لحوق کی وجہ سے وہ طاعت و قربت بھی باطل نہیں ہوتی، یہ مطلب نہیں ہے کہ مکروہ کا قصد ارتکاب کیا جائے، معارف السنن، شرح ترمذی میں بھی اس میں مبسوط بحث موجود ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبد محمود عفا اللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۱۰/۸۸ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غنی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۱۰/۸۸ھ۔

(۱) ”(قوله: واعتبر الحلبي فحش الطول) والذي تحصل من مجموع كلامه و كلام القنية أن إطلاق كراهة إطاله الثانية بثلاث آيات مقيد بالسور القصيرة المتقاربة الآيات لظهور الإطالة حينئذ فيها، أما السورة الطويلة أو القصيرة المتقاربة، فلا يعتبر العدد فيها، بل يعتبر ظهور الإطالة من حيث الكلمات، وإن اتحدت آيات السورتين عدداً. هذا ما فهمته، والله تعالى أعلم.“ (ردالمحتار، فصل في تاليف الصلاة إلى انتهائها: ۱/۵۴۳، سعيد)

”وفي النهر عن المحيط: ”صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة.“ (الدرالمختار).
 ”(قوله: نال فضل الجماعة) أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد، لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع.“ (ردالمحتار، باب الإمامة: ۱/۵۶۲، سعيد)

(و كذا في الحلبي الكبير، فصل في الإمامة، ص: ۵۱۴، سهيل اكيدي لاهور)

(۲) ”قال الشيخ: والذي تحقق عندي أنه فيه تفصيل: فلو صام رجل في الأيام الخمسة المنهي عنها (يومى العيد وأيام التشريق) فلا يثاب أصلاً، و لو صام صوماً ارتكب فيه كراهة غير كراهة التحريم أحرز شيئاً من الثواب، و كذا لو صلى صلاةً ارتكب فيها كراهةً يحرز شيئاً من الثواب، و قد دلّ كثيرٌ من مسائل الإمام أبي حنيفة على أنه يثاب شيئاً في مثله الخ.“ (معارف السنن، باب ما جاء في وصف الصلاة: ۱۳۶/۳، المكتبة البنورية كراچی)

نماز میں کہنی سے آستین اتارنا

سوال [۳۰۷۷]: اگر بحالت نماز آستین کہنی سے نیچے کر دی جائے تو درست ہے کہ نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

آستین کہنی سے اتار کر اطمینان سے نماز میں شرکت کی جائے، اگر آستین کہنی تک چڑھی رہے تو نماز مکروہ ہوگی، اگر اسی طرح نماز میں شرکت کر لی تو آہستہ بلکی حرکت سے آستین اتار لے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۶/۸۷ھ۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، ۱۸/۶/۸۷ھ۔

کہنی تک آستین چڑھا کر نماز

سوال [۳۰۷۸]: کہنی کھلی ہونے کی صورت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

کہنی تک آستین چڑھا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، فتاویٰ سراجیہ، ص: ۱۱ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) ”(قوله: كمشمركم أو ذيل) قال في القنية: واختلف فيمن صلى و قد شمّر كميّه لعمل كان يعملہ قبل الصلاة أو هيئته ذلك، اھد ومثله ما لو شمّر للوضوء ثم عجل لإدراك الركعة مع الإمام وإذا دخل في الصلاة كذلك، و قلنا بالكراهة، فهل الأفضل إرخاء كميّه فيها بعمل قليل أو تركهما؟ والأظهر الأول بدليل قوله الآتي: و لو سقطت قلنسوة فإعادتها أفضل، تأمل، هذا. و قيد الكراهة في الخلاصة والمنية بأن يكون رافعاً كميّه إلى المرفقين، و ظاهره أنه لا يكره إلى ما دونها“. (ردالمحتار، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية: ۱/۶۲۰ سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۲/۴۲، رشيدية)

(و كذا في غنية المستملى في شرح منية المصلى لإبراهيم الحلبي، ص: ۳۵۷، سهيل اكيڈمي لاہور)

(۲) (الفتاوى السراجية، ص: ۱۱، سعيد)

”عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ”أمرت أن

أسجد على سبعة أعظم، و لا أكف شعراً و لا ثوباً“. رواه البخاري“. (إعلاء السنن، باب النهي عن كف =

آستین چڑھا کر نماز پڑھنا

سوال [۳۰۷۹]: کیا قمیص کی آستین چڑھی ہوئی ہونے سے نماز مکروہ ہوتی ہے؟ اگر کہنیاں

ڈھکی ہوئی ہوں؟

بٹن کھلے رہنے سے نماز کا حکم

سوال [۳۰۸۰]: کیا قمیص کے کفوں کے بٹن کھلے رہنے سے اور گلے کے بٹن کھلے رہنے سے

نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

۲،۱..... ہر وہ وضع جس کو اختیار کر کے کسی معزز مجلس میں نہ جاسکتا ہو، نماز کی حالت میں مکروہ ہے

بشرطیکہ اس کا سنت سے ثبوت نہ ہو، پس چونکہ آستین چڑھا کر اکابر کے سامنے جانے سے حجاب ہوتا ہے تو نماز

ایسی حالت میں مکروہ ہے۔ اور آداب نماز کا تقاضہ یہ ہے کہ آستین اتار کر وقار اور تہذیب کے ساتھ نماز پڑھے

اور کہنی تک آستین چڑھا کر نماز پڑھنا بہر حال مکروہ ہے، کذا فی قاضیخان (۱) اور گلے کے بٹن کھلے رہنے

سے نماز مکروہ نہیں، کیونکہ اس کا ثبوت سنت سے ہے (۲) اور کفوں کے بٹن کا وہ حکم ہے جو کہ آستین چڑھانے کا۔

فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۰/ جمادی الاولیٰ/ ۱۳۵۵ھ۔

آستین چڑھا کر نماز پڑھنا

سوال [۳۰۸۱]: کسی شخص کی آستین لمبی ہے ان کو موڑ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

= الشعر والشوب: ۵/۹۲، إدارة القرآن کراچی)

(وأيضاً راجع للتخريج المسئلة الماضية آنفاً)

(۱) "ولو صلى رافعاً كميته إلى المرفقين، كره". (فتاویٰ قاضی خان علی ہامش الہندیہ، فصل فیما

یفسد الصلاة: ۱/۱۳۵، رشیدیہ)

(۲) (راجع، ص: ۶۵۵، رقم الحاشیة: ۱، ۲، ۳، ۴)

الجواب حامداً ومصلياً:

گئے تک موڑے تو ٹھیک ہے (۱)۔ فقط۔

حررہ العبد محمود غفرلہ۔

نیم آستین کپڑے پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۳۰۸۲]: بہ نیمہ آستین نماز گزاردن چہ حکم دارد؟

الجواب حامداً ومصلياً:

هر لباسیکه آنرا پوشیده در جلسه معززه شرعیه نتواند رفت، آنرا پوشیده نماز گزاردن مکروه است، كما صرح به فی کتب الفقه: "الاستفسار: صلی رافعاً کئی قمیصه إلى المرفقین هل تجوز الصلوٰۃ؟ الاستفسار: نعم! لکن یکره، کذا فی فتاویٰ قاضی خان، الخ". نفع الفتی و السائل، ص: ۸۵ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۳/۵۶ھ۔
صحیح: عبداللطیف، ۱۶/ربیع الاول/۵۶ھ، الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ۔

(۱) "عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: أمرت أن أسجد علی سبعة أعظم، ولا أكف شعراً ولا ثوباً". (إعلاء السنن، باب النهی عن کف الشعر والثوب: ۵/۹۲، إدارة القرآن) "ولو صلی رافعاً کمیہ إلى المرفقین کره". (فتاویٰ قاضی خان، فصل فیما یفسد الصلوٰۃ:

۱/۱۳۵، رشیدیہ)

(و کذا فی رد المحتار، مطلب فی الکراهیة التحریمیة والتنزیہیة: ۱/۶۲۰، سعید)

(۲) لم أجد هذه العبارة فی نفع المفتی و السائل فی النسخة بالعربیة، ولكن قد وجدتہا فی النسخة بالأردیة، ص: ۲۳۱، سعید)

"ولو صلی رافعاً کمیہ إلى المرفقین کره". (فتاویٰ قاضی خان، فصل فیما یفسد الصلوٰۃ:

۱/۱۳۵، رشیدیہ)

(و کذا فی رد المحتار، مطلب فی الکراهیة التحریمیة والتنزیہیة: ۱/۶۲۰، سعید)

نیم آستین کرتے، ٹخنوں سے نیچا پائجامہ سے نماز

سوال [۳۰۸۳]: نیم آستین کا کرتے یا بنڈی یا ٹخنہ سے پائجامہ (جیسا فی زمانہ رواج ہو گیا ہے)

پہنکر نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۵/۲/۵۸ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۵/صفر/۵۸ھ۔

نصف آستین کی قمیص سے نماز پڑھنا

سوال [۳۰۸۴]: نصف آستین کی قمیص سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نصف آستین کی قمیص پہننا منقول نہیں ہے، ایسی قمیص

خلاف سنت ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی خلاف سنت ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۳/۸۹ھ۔

نماز میں گریبان کھلا رکھنا

سوال [۳۰۸۵]: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرتے کا اوپر والا بٹن کھلا رہتا تھا یا نہیں؟ اگر کسی

(۱) "عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما أسفل من

الكعبين من الإزار في النار." (صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين ففي النار:

۸۶۱/۲، قديمی)

"ولو صلى رافعاً كميته إلى المرفقين كره." (فتاویٰ قاضی خان، فصل فيما يفسد الصلاة:

۱۳۵/۱، رشیدیہ)

(و كذا في رد المحتار مطلب في الكراهية التحريمية والتنزيهية: ۱/۶۲۰، سعید)

(۲) (مر تخریجہ تحت عنوان: "کہنی تک آستین چڑھا کر نماز")۔

کے کرتے کا اوپر والا بٹن کھلا رہے تو اس کی وجہ سے نماز میں کچھ حرج تو نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

کبھی کھلا رکھنا بھی ثابت ہے اور بعض صحابہ نے اس کو دیکھ کر ایسا پسند کیا کہ ہمیشہ کھلا ہی رکھا: ”عن معاوية بن قرة عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في رهط من مزينة لبنايعه: وإن قميصه لمطلق أو قال: زر قميصه مطلق، الخ“ شمائل، ص: ۳۸ (۱)۔ قال عروة: فما رأيت معاوية رضى الله تعالى عنه ولا ابنه قط إلا مطلق إزرارهما في شتاء ولا حر، ولا يزرران إزرارهما أبداً“۔ أبو داؤد شريف (۲)۔

”قوله: ”فما رأيت معاوية الخ“۔ وهذا وإن كان اختياراً لما هو خلاف الأولى خصوصاً في الصلوات، لكنهما أحبا أن يكون على ما رأيا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وإن كان إطلاق إزراره إذ ذاك لمعارض، ولم يكن هذا من عامة أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم، وذلك لما فيه من قلة المبالاة بأمر الصلوة، إلا أن الكراهة لعلها لا تبقى في حق معاوية وابنه، لكون الباعث لهما حب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واتباعه فيما رأياه من الكيفية، الخ“۔ بذل المجهود: ۵/۵۲ (۳)۔

اس حالت میں نماز کا حکم بھی عبارت مذکورہ سے معلوم ہو گیا (۴)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۰/ رجب/ ۱۴۰۰ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۲۲/ رجب/ ۱۴۰۰ھ۔

کھلے گریبان سے نماز

سوال [۳۰۸۶]: بحالت نماز اگر گریبان کھلا رہے تو صحت نماز کے لئے کیا مانع ہے؟ کتنا کھلا رہنے

(۱) (شمائل الترمذی، باب ما جاء فی لباس رسول الله، ص: ۵، سعید)

(۲) (سنن أبی داؤد، کتاب اللباس، باب فی حل الإزرار: ۵۶۳/۲، دار الحدیث ملتان)

(۳) (بذل المجهود، کتاب اللباس، باب فی حل الإزرار: ۵۲/۵، معهد الخلیل الإسلامی کراچی)

(۴) (راجع، ص: ۲۵۶، رقم الحاشیة: ۱)

سے نماز ہو جائے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے نماز مکروہ نہیں ہوتی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

بٹن کھلے چھوڑ کر نماز پڑھنا

سوال [۳۰۸۷]: گریبان کے بٹن بلا عذر کھول کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور آستین کے بٹن کھلے

رہنے سے نماز میں کیا خرابی ہوگی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

گریبان کے بٹن کھلے رہ جائیں یا لگائے جائیں دونوں طرح نماز درست ہے (۲)، یہ سمجھنا غلط ہے کہ

بٹن کھول کر ہی نماز پڑھی جائے۔ یہی حکم آستین کے بٹن کا ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۶/۹۲ھ۔

عضو کا چوتھائی حصہ کھلا رہنے سے نماز کا حکم

سوال [۳۰۸۸]: زید بیان کرتا ہے کہ نماز میں کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا رہنے سے نماز مکروہ ہو جاتی

(۱) "أولم یزر إزاره، فهو مسیئ؛ لأنه یشبہ السدل". (رد المحتار، مطلب فی کراہة التحریمية

والتنزیہية: ۱/۶۲۰ سعید)

"ذکر ابن الشجاع فیمن صلی محلول الإزار، و لیس علیہ إزار: أنه إن کان بحیث لو نظر

رأی عورة نفسه من زيقه، لم تجز صلاته، وإن کان بحیث لو نظر لم یر عورته، جازت". (بدائع الصنائع،

فصل فیما یتحب ویکرہ فیہا: ۸۹/۲، دارالکتب العلمیة بیروت)

(۲) "عن معاویة بن قرۃ عن أبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: أتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی

رہط من مزینة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال: زر قميصه مطلق". (شمائل الترمذی، باب ما جاء فی

لباس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص: ۵ سعید)

(وراجع أيضاً عنوان: "گریبان کھلا رکھنا"۔)

ہے علاوہ ستر کے۔ یہ قول زید کا صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زید سے اس کی دلیل دریافت کیجئے اور ہاتھ پیر و منہ کا چوتھائی حصہ کھلا رہنے سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے (۱)؟ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۰/ جمادی الاولیٰ/ ۱۳۵۵ھ۔

نماز میں ٹوپی عمامہ سے کھلی رہنے کا حکم

سوال [۳۰۸۹]: امام صاحب پنج وقتہ نماز پڑھاتے ہیں اور سر پر دوپلی ٹوپی اوڑھتے ہیں اور ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں لیکن عمامہ سے ٹوپی سر پر کھلی رہتی ہے جس پر بعض نمازیوں کو اعتراض ہے اور کہتے ہیں کہ عمامہ سے ٹوپی کھلے رہنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ بعض مقتدی حضرت امام صاحب سے متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹوپی کھلی رہنے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ براہ کرم اس مسئلہ کو صاف کر دیں کہ کون حق پر ہے۔

(۱) جن اعضاء کا ڈھانپنا فرض ہے، ان میں سے کوئی عضو نماز کے اندر چوتھائی یا زیادہ کھل گیا اور رکن کی مقدار رہا تو نماز فاسد ہوگئی، اعضاء ستر کے علاوہ یہ حکم نہیں، لہذا زید کا قول درست نہیں:

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: تحت قوله تعالى: ﴿و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾: قال الأعمش: عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما: ﴿و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قال: وجهها و كفيها و الخاتم وقال مالك عن الزهري ﴿إلا ما ظهر منها﴾ عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و عليها ثياب رفاق، فأعرض عنها، وقال: "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت الحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا". وأشار إلى وجهه و كفيه". (تفسير ابن كثير، (الجزء الثامن عشر، آيت: ۲۶): ۳/ ۳۷۸، دار السلام رياض)

"(الرابع: ستر عورتہ) و وجوبہ عام و لو فی الخلوۃ علی الصحیح، إلا لغرض صحیح (وللحرۃ جمیع بدنہا) حتی شعرہا النازل فی الأصح، خلا الوجه و الکفین و القدمین". (الدر المختار،

باب شروط الصلاة: ۱/ ۲۰۲، ۲۰۵، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب شروط الصلاة: ۱/ ۲۶۸، رشیدیہ)

الجواب حامدًا ومصلياً:

جو لوگ عمامہ پر ٹوپی کھلے رہنے پر اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ اعتراض کی کیا وجہ ہے، نیز جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمامہ سے ٹوپی کھلی رکھنا مکروہ تحریمی ہے، ان سے دریافت کیا جائے کہ کس کتاب میں مکروہ تحریمی لکھا ہے؟ نماز میں جو چیزیں مکروہ ہیں ان کو فقہ کی کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے اور اس چیز کو اس میں شمار نہیں کیا گیا، مکروہ نہ ہونے کے لئے بس اتنی ہی بات کافی ہے کسی اور حوالہ کی ضرورت نہیں، البتہ مکروہ تحریمی قرار دینے کے لئے حوالہ کی ضرورت ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

مقتدی کا امام سے پہلے تکبیرات انتقال کہنا

سوال [۳۰۹۰]: اگر تکبیرات انتقال مقتدی پہلے ادا کر جائے تو نماز میں کیا نقصان آتا ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

نماز مکروہ ہوتی ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۰/ جمادی الاولیٰ/ ۱۴۵۵ھ۔

(۱) صرف ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا بلا کراہت درست ہے، تو ٹوپی و عمامہ کے ساتھ بطریقہ اولیٰ درست بلکہ افضل ہے اگرچہ عمامہ سے ٹوپی کھلی رہے کیونکہ عمامہ کی جس کیفیت میں کراہت پائی جاتی ہے کہ سر پر عمامہ باندھا جائے اور درمیان سرنگا ہو، وہ یہاں نہیں ہے اس لئے کہ ٹوپی پر عمامہ باندھنے سے سر کا درمیانی حصہ ڈھکا رہتا ہے:

”فروع: یکرہ اشتمال الصماء والاعتجار (والتلم والتخیم و کل عمل قليل بلا عذر)۔“ (الدر المختار).

”قولہ: والاعتجار نہی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وهو شد الرأس أو تکویر عمامتہ علی رأسہ، و ترک وسطہ مکشوفاً۔“ (الدر المختار مع رد المحتار، باب ما یفسد الصلاۃ و ما یکرہ فیہا: ۶۵۲/۱، سعید)

(۲) ”عن محمد بن زیاد: قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: ”أما یخشی أحدکم أو ألا یخشی أحدکم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟“ أخرجه البخاری۔ (إعلاء السنن، باب وجوب متابعة الإمام والنهی عن مسابقتہ: ۲۹۵/۳، إدارة القرآن کراچی)

”والساحل أن المتابعة فی ذاتها ثلاثة أنواع: مقارنة لفعل الإمام مثل أن یقارن إحرامه لإحرام الإمام

ورکوعه لركوعه وسلامه لسلامه، ويدخل فیها ما لورکع قبل إمامه ودام حتى أدركه إمامه فيه؛ ومعاقبة لإبتداء فعل إمامه مع المشاركة فی باقیة، ومتراحیة عنه، فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلاثة یكون فرضاً فی الفرض وواجباً فی الواجب، وسنة فی السنة عند عدم لزوم المخالفة كما قدمناه“ =

امام کا رکوع میں جانے اور سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد تکبیر کہنا

سوال [۳۰۹۱]: ہمارے محلہ کی مسجد کے پیش امام صاحب نماز پڑھاتے وقت جب ذیل عمل خلاف سنت اور خلاف آداب نماز عمل میں لاتے ہیں، کیا ان کی غلطیوں پر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور مقتدیوں کی بھی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟

۱..... نماز پڑھاتے وقت جب امام صاحب مصلیٰ پر کھڑے ہوتے ہیں تو رکوع و سجود کے وقت ان کے داہنے پیر کا انگوٹھا اپنی اصلی جگہ پر قائم نہیں رہتا، اس حرکت سے وہ نماز ختم ہونے تک تقریباً پانچ انگل وہ مصلے سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اپنی اصل جگہ پر قائم نہیں رہتے۔

۲..... امام صاحب قرأت ختم کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں تب اللہ اکبر کہتے ہیں، جس سے مقتدی ان کے بعد یہ عمل کرتے ہیں، گویا امام کے بعد یہ عمل کرتے ہیں اس میں امام کی اتباع نہیں ہوتی۔

۳..... امام صاحب رکوع سے بغیر کچھ کہے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں تب ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہتے ہیں، اس حالت میں بھی مقتدیوں نے امام کی اتباع نہیں کی بلکہ امام کے عمل کے بعد مقتدیوں نے عمل کیا۔

۴..... پہلے سجدہ سے سر اٹھا کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں تب ”اللہ اکبر“ کہتے ہیں اس وقت مقتدی سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں، اس حالت میں بھی امام کی اتباع نہیں ہوتی۔

۵..... دوسرے سجدہ سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں تب ”اللہ اکبر“ کہتے ہیں تب مقتدی سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں، غرض ہر عمل مقتدی امام صاحب کے بعد کرتے ہیں، کسی عمل میں بھی امام کی اتباع نہیں ہوتی۔

= (ردالمحتار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطلب: مهم فی تحقیق متابعة الإمام: ۱/۱۷۷، سعید)

”و یکرہ للمأموم أن یسبق الإمام بالركوع والسجود، وأن یرفع رأسه فیہما قبل الإمام کذا فی

محیط السرخسی“۔ (الفتاویٰ العالمکیریة، الفصل الثانی فیما یکرہ الصلاة وما لا یکرہ: ۱/۱۰۷،

رشیدیہ)

(و کذا فی رد المحتار، باب صفة الصلاة: ۱/۳۹۶، سعید)

۶..... امام صاحب ہر رکعت میں سجدہ میں جاتے وقت اپنے پانچامہ کے پانچوں کو دونوں ہاتھوں سے اوپر چڑھاتے ہیں جب سجدہ میں جاتے ہیں۔ ان غلطیوں کی بناء پر مقتدیوں کو یہ تشویش ہے کہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

۱..... اس سے نماز فاسد نہیں ہوئی، لیکن اس کی اصلاح کی جائے (۱)۔

۲..... اس کا بھی یہی حکم ہے (۲)۔

۳..... اس کا جواب بھی یہی ہے (۳)۔

(۱) قال ابن نجیم: "لو حرک رجلاً لا علی الدوام لا تفسد، وإن حرک رجله تفسد فمشکل؛ لأن الظاهر أن تحریک الیدین فی الصلاة لا یبطلها حتی یدلحق بہما تحریک الرجلین، فالأوجه قول بعضهم: إنه إن حرک رجله قليلاً لا تفسد، وإن کان كثيراً، فسدت، كما فی الذخیرة". (البحر الرائق، کتاب الصلوة، باب ما یفسد الصلوة وما یکرہ فیہا: ۲۲/۲، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریة، الباب السابع فیما یفسد الصلوة وما یکرہ فیہا: ۱۰۳/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی غنیة المستملی مفسدات الصلوة، ص: ۲۲۸، سهیل اکیڈمی لاہور)

(۲) "ثم (كما فرغ) یكبر) مع الانحطاط (للكوع)". (الدر المختار). وفي رد المحتار: "قوله: مع

الانحطاط) أفاد أن السنة كون ابتداء التكبير عن الخرورج و انتهائه عند استواء الظهر، وقيل: إنه يكبر قائماً،

والأول هو الصحيح، كما فی المضممرات، و تمامه فی القهستانی". (باب صفة الصلاة: ۴۹۳/۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریة، الفصل الثالث فی سنن الصلاة و آدابه و کیفیتها: ۷۴/۱، رشیدیہ)

"(قوله: تكبير الركوع) روى أنه عليه السلام كان يكبر عند كل رفع و خفض". (البحر

الرائق، باب صفة الصلاة: ۵۲۹/۱، رشیدیہ)

(۳) "فإذا اطمئن راعياً (رفع رأسه) ثم فی الروایة التي تجمع بالتسمیع حال الارتفاع، وإذا استوی

قائماً قال: ربنا لك الحمد، كذا فی الزاهدی. و هو الصحيح، كذا فی القنیة". (الفتاویٰ العالمگیریة،

الفصل الثالث فی سنن الصلاة الخ: ۷۴/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی تنویر الأبصار مع الدر المختار، باب صفة الصلاة: ۴۹۶/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب صفة الصلاة: ۵۲۹/۱، رشیدیہ)

۴..... اس کا حکم بھی یہی ہے (۱)۔

۵..... اس کا حکم بھی یہی ہے (۲)۔

۶..... اس کا حکم بھی یہی ہے، نماز ان سب صورتوں میں ہو جاتی ہے اور اقتداء و اتباع میں خرابی نہیں

آتی، تاہم ان امور کی امام صاحب کو اصلاح کرنی چاہئے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۸/۹۲ھ۔

نماز میں ٹوپی گر جائے تو اس کا اوڑھنا

سوال [۳۰۹۲]: نماز پڑھتے ہوئے اگر نمازی کی ٹوپی سر سے اتر جائے تو کیا دوسرا آدمی نماز پڑھنے

والے کے سر پر ٹوپی اٹھا کر رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ یا خود نماز پڑھنے والا ہی رکھ سکتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں

جواب عنایت فرمائیں۔

(۱) قال فی الفتاویٰ العالمکیریۃ: ثم یرفع رأسہ و یکبر، والسنة فیہ أن یرفع رأسہ حتی یرتوی جالساً،

ولیس فی هذا الجلوس ذکر مسنون عندنا، هكذا فی الجوہرۃ النیرۃ“۔ (الفصل الثالث فی سنن الصلاۃ

و آدابہا و کیفیتہا: ۷۵/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی تنویر الأبصار مع الدر المختار، باب صفة الصلاۃ: ۵۰۵/۱، سعید)

(۲) ”(و یکبر ویسجد) ثانیۃً (مطمئناً و یکبر للنہوض) علی صدور قدمیہ (بلا اعتماد و قعود) استراحة،

و لو فعل لا بأس“۔ (تنویر الأبصار مع الدر المختار، باب صفة الصلاۃ: ۵۰۶/۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریۃ، الفصل الثالث فی سنن الصلاۃ الخ: ۷۵/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی غنیۃ المستملی، مفسدات الصلاۃ، ص: ۳۱۵، سہیل اکیڈمی لاہور)

(۳) قال فی الفتاویٰ العالمکیریۃ: ”یکرہ للمصلی أن یعبث بثوبہ أو لحيته أو جسده، وأن یکف ثوبہ بأن

یرفع ثوبہ من بین یدیه أو من خلفہ إذا أراد السجود. کذا فی معراج الدراية“۔ (الفصل الثانی فیما یکرہ

الصلاۃ و ما یکرہ فیہا: ۱۰۵/۱، رشیدیہ)

(و کذا فی رد المحتار، مطلب فی مکروہات الصلاۃ: ۶۴۰/۱، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلاۃ و ما یکرہ فیہا: ۴۲/۲، رشیدیہ)

الجواب حامداً ومصلياً:

دوسرا آدمی اس کے سر پر ٹوپی رکھ سکتا ہے، معمولی ہاتھ کی حرکت سے خود بھی رکھ سکتا ہے، اگر ٹوپی سر پر نہ رکھی اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی تب بھی نماز ہو جائے گی۔

”ولو سقطت قلنسوة فإعادتها أفضل، إلا إذا احتاجت لتكوير أو عمل كثير.“ درمختار

علی ردالمحتار ۱/۳۴۱، نعمانیہ (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ ۱۵/۷/۱۳۰۶ھ۔

جالی دارٹوپی سے نماز

سوال [۳۰۹۳]: جالی دارٹوپی اوڑھ کر جس میں سارا سر نظر آتا ہے اس سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جالی دارٹوپی سے اگر چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے سر نظر آتا ہے تو اس سے نماز میں خرابی نہیں (۲)۔

فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، ۱۴/۷/۸۷ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد علی سعید، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند، الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین غفرلہ۔

(۱) (الدر المختار، باب ما یفسد الصلوٰۃ و ما یکرہ فیہا: ۱/۶۴۱، سعید)

”الأول: أن ما یقام بالیدین عادةً کثیراً وإن فعله بید واحدة..... و ما یقام بید واحدة قلیل

وإن فعل بیدین کنزع القمیص وحل السراویل و لبس القلنسوة و نزعها، و نزع اللجام، هکذا فی

التبیین. و کل ما یقام بید واحدة، فهو یسیر ما لم یتکرر، و کذا فی فتاویٰ قاضیخان“، (الفتاویٰ

العالمکیریة، النوع الثانی فی الأفعال المفسدة للصلاة: ۱/۱۰۲، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلوٰۃ و ما یکرہ فیہا: ۲/۲۰، رشیدیہ)

(۲) ”والمستحب أن یصلی الرجل فی ثلاثة أثواب: قمیص و إزار و عمامة، أما لو صلی فی ثوب واحد

متوشحاً به جمیع بدنہ کإزار المیت یجوز صلاته من غیر کراهة“، (خلاصة الفتاویٰ، الفصل السادس

فی ستر العورة: ۱/۷۳۱، امجد اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی الحلبي الكبير، فروع: ۲۱۶، سهیل اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی البحر الرائق، باب شروط الصلاة: ۱/۴۶۸، رشیدیہ)

استعمالی رومال کو سر پر باندھ کر نماز پڑھنا

سوال [۳۰۹۴]: ایک رومال جس سے وضو کا پانی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے پونچھ کر اسی رومال کو بجائے ٹوپی یا دوپٹے کے سر پر باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
الجواب حامداً ومصلياً:

پڑھ سکتے ہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۵/۵/۵۵ھ۔

جوابات صحیح ہیں: سعید احمد غفرلہ، عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۵/۵/۵۵ھ۔

چوری کے کپڑے میں نماز کا حکم

سوال [۳۰۹۵]: اکثر درزی کپڑا چراتے ہیں اور اس کی ٹوپی یا صدری بنا کر پہنتے ہیں اس سے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

یہ فعل حرام ہے، ایسے کپڑے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) "أن الخرقۃ التي يتمسح بها، تجوز الصلاة معها وإن كان ما أصابها من البلل كثيراً فاحشاً".

(البحر الرائق، کتاب الطہارۃ: ۱/۲۸ رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ، الباب الثالث فی المیاء: ۱/۲۵، رشیدیہ)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الطہارۃ، فصل فی بیان الطہارۃ الحقیقیۃ: ۱/۳۹۵، دارالکتب العلمیۃ بیروت)

(۲) "فروع: تکرہ الصلاة فی الثوب المغصوب وإن لم یجد غیرہ، لعدم جواز الانتفاع بملک غیر قبل

الإذن، أو أداء الضمان". (حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، فصل فی المکروہات، ص: ۳۵۸، قدیمی)

وأيضاً قال الطحطاوی: "قوله: مع الكراهة): أى التحريمیة، ذکرہ السید. و فی السراج

والقستانی: تکرہ الصلاة فی الثوب الحریر، و الثوب المغصوب، وإن صحت، و الثواب إلى الله تعالیٰ".

(حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، باب شروط الصلاة، ص: ۲۱۱)

(و کذا فی البحر الرائق، باب شروط الصلاة: ۱/۲۶۷، رشیدیہ)

سرخ کپڑے میں نماز

سوال [۳۰۹۶]: سرخ کپڑوں میں مثلاً سرخ قمیص، کوٹ، تہبند، پہنکر نماز ادا کرنا شرعاً کیسا ہے کیا نماز مکروہ ہوتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

خالص سرخ کپڑا مرد کے لئے ممنوع ہے، پس ایسا کپڑا پہن کر نماز بھی مکروہ ہوگی بشرطیکہ رنگ پاک ہو (۱)، اگر رنگ ناپاک ہو تو جب تک اس کو اس قدر نہ دھولیا جائے کہ رنگ کٹنا بند ہو جائے اس کو پہن کر نماز قطعاً درست نہ ہوگی (۲)۔

منہ ڈھانک کر نماز پڑھنا

سوال [۳۰۹۷]: اگر کوئی شخص ایسے طریق سے نماز پڑھے کہ اس کا سر اور بدن کا اکثر حصہ چادر کمر لچاف سے ڈھکا ہوا ہو جیسا کہ آج کل سردی میں لوگ لچاف وغیرہ اوڑھ کر پڑھتے ہیں یہ مکروہ ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بدن کا اکثر حصہ اور سر ڈھکا ہونے سے نماز میں نقصان نہیں آتا، البتہ منہ اور ناک ڈھک کر نماز پڑھنا

(۱) ”قد روى عن عمران بن حصين مرفوعاً: ”إياكم والحُمرة، فإنها أحب الزينة إلى الشيطان“۔ (إعلاء السنن، باب استحباب الزينة في العيدين: ۸/۹۰، إدارة القرآن كراچی)

” (ویکرہ) أى للرجل - كما مر فى باب الكراهية - (لبس المعصفر والمزعفر) لقول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ”نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن لبس المعصفر، قال: ”إياكم والأحمر، فإنه زى الشيطان“۔ (الدر المختار، مسائل شتى: ۶/۷۵۵، سعيد)

(و كذا فى البحر الرائق، فصل فى اللبس: ۸/۳۳۹، رشيدية)

(۲) ”قوله: والأولى غسله) اعلم أنه ذكر فى المنية أنه لو أدخل يده فى الدهن النجس أو اختضب المرأة بالحناء النجس أو صبغ الثوب بالصبغ النجس ثم غسل كله ثلاثاً، طهر. ثم ذكر عن المحيط أنه يطهر إن غسل الثوب حتى يصفو الماء و يسيل أبيض“۔ (رد المحتار، باب الأنجاس: ۱/۳۲۹، سعيد)

(و كذا فى الفتاوى العالمكبرية، الباب السابع فى النجاسة وأحكامها: ۱۱/۳۲، رشيدية)

(و كذا فى البحر الرائق، باب الانجاس: ۱/۴۱۱، رشيدية)

مکروہ ہے: ”فیکره التلثم و تغطية الأنف و الفم فی الصلوة؛ لأنه یشبه فعل المجوس، اه“۔ مراقی الفلاح: ۱/ ۲۰۵ (۱)..... تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ باہر نکالنا چاہیے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۴/ شوال/ ۱۳۶۶ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، مفتی مدرسہ ہذا۔

پتلون پہن کر نماز پڑھنا

سوال [۳۰۹۸]: پتلون پہن کر (جو انگریزی لباس میں سے ہے) نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

پتلون جس جگہ کفار کا مخصوص شعار ہے اس جگہ اس کو پہننا ناجائز ہے اور پہنکر نماز مکروہ ہوتی ہے:

”هكذا يفهم مما ذكرنا أنه: ”لو صلى في ثوب حرير و ثوب مغصوب، لم تصح صلاته في إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وفي أخرى تصح مع التحريم، وعندنا يصح ويكره، كذا في مطالب المؤمنين عن تتمه المنظومة اه“۔ نفع المفتي والسائل للعلامة اللكنوي، ص: ۹۰ (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۴/ ۱۱/ ۱۳۶۶ھ۔

(۱) (مراقی الفلاح علی هامش الطحطاوی، فصل فی المکروہات: ۳۵۰، قدیمی)

”عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”نهى

عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه“۔ رواه أبو داؤد“۔ (إعلاء السنن، باب النهي عن السدل

وعن تغطية الفم في الصلاة: ۵/ ۹۳، إدارة القرآن کراچی)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، الفصل الثانی فیما یکره الصلاة وما لا یکره: ۱۰۷/ ۱، رشیدیہ)

(۲) ”(أو كَمَه)؛ لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة، (و إخراج كفيه من كفيه عند التكبير) للرجل، إلا

لضرورة كبريد“۔ (تنوير الأبصار مع الدر المختار: ۱/ ۴۷۸، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریہ، الفصل الثالث فی السنن و آدابها: ۷۳/ ۱، رشیدیہ)

(۳) (نفع المفتي والسائل، الثياب التي تکره الصلاة فیہا، وما يتعلق به، من مجموعة رسائل اللکنوی: =

کوٹ پتلون کے ساتھ نماز

سوال [۳۰۹۹]: کوٹ و پتلون یا صرف پتلون پہن کر جبکہ ٹخنہ سے اونچا ہو، اور رکوع و سجود میں زحمت نہ ہوتی ہو اور سر پر انگریزی بال رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تو نہیں ہوتی، جس طرح کہ کہنی کھلی ہونے سے نماز مکروہ ہوتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

کراہت ہوگی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

نماز میں لنگی یا پائجامہ درست کرنا

سوال [۳۱۰۰]: یہاں اکثر مولوی حضرات نماز پڑھتے وقت دونوں ہاتھ سے سجدہ میں جاتے وقت اپنی لنگی یا پائجامہ کو اوپر اٹھاتے ہوئے سجدہ میں جاتے ہیں اور قعدہ کی حالت میں دونوں ہاتھ سے اپنا کرتہ یا قمیص ٹھیک کرتے ہیں جو نماز کی حالت ذرا سا ادھر ادھر رہتا ہے۔ یہ فعل ہر رکعت میں صادر ہوتا ہے، اس حالت میں نماز ہوئی یا نہیں؟ اور نماز میں ہمیشہ ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں، کبھی داہنے جانب کبھی بائیں جانب، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اوپر کی جانب، ایسے شخص کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟

= ۱۱۴/۳، إدارة القرآن کراچی)

”قولہ: ولا یضر التصاقہ: ای بالأللیة مثلاً، و قولہ: و تشکله - من عطف المسبب علی السبب - و عبارة شرح المنیة: أم لو كان غليظاً لا يرى منه لون البشرة، إلا أنه التصق بالعضو و تشکل بشکله، فصار شکل العضو مرئياً، فیینغی أن لا یمنع جواز الصلوة لحصول الستر. قال: وانظر هل یحرم النظر إلى ذلك المتشکل مطلقاً أو حیث وجدت الشهوة؟ قلت: سنتکلم علی ذلك فی کتاب الحظر، والذي من کلامهم هناك هو الأول.“ (رد المحتار، باب شروط الصلاة: ۱/۴۱۰، سعید)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، ص: ۲۱۰، قدیمی)

(۱) (تقدم تخريجه تحت عنوان: ”پتلون پہن کر نماز پڑھنا“۔)

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز اس طرح بھی ادا ہو جائے گی، مگر یہ چیزیں وقارِ نماز کے خلاف ہیں، اصل یہ ہے جس کے قلب میں خشوع ہوتا ہے اس کے جسم پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

جوتے پہن کر نماز کا حکم

سوال [۳۱۰۱]: نئی جوتی پہن کر عید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا اہل حدیث کے نزدیک کوئی

حدیث ہے کہ جس سے صلوٰۃ مذکورہ کا جواز ہو؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جوتی پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے (۲)، اُس وقت عامۃً راستوں کا وہ حال نہیں تھا جو کہ جگہ جگہ غلاظت کی وجہ سے اب ہو گیا ہے، نیز مسجد میں کنکر پڑی ہوئی تھی، درمی، فرش وغیرہ بچھا ہوا نہیں تھا جیسا کہ اب ہے (۳)

(۱) ”و کرہ کفہ: ای رفعہ ولو لتراب کمشمرکم أو ذیل، و عبثہ بہ: ای بثوبہ سواء کان من بین یدیه أو من خلفہ عند الانحطاط للسجود، اھ“۔ (ردالمحتار: ۱/۶۲۰، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق: ۲/۳۳، رشیدیہ)

(و کذا فی التبيين: ۱/۴۱۰، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

(۲) ”عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى حافياً و متنعلاً“۔ (سنن أبي داود، باب الصلاة فى النعل: ۱/۹۶، دارالحدیث، ملتان)

(۳) ”وأما المسجد النبوى، فقد كان مفروضاً بالحصى فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم بخلافه فى زماننا، و لعل ذلك محمل مافى عمدة المفتى من أن دخول المسجد متنعلاً من سوء الأدب، فتأمل. قلت: دل هذا الحديث على أن الصلاة فى النعال كانت مأمورةً لمخالفة اليهود، و أما فى زماننا فىنبغى أن تكون الصلاة مأمورةً بها حافياً لمخالفة النصارى، فإنهم يصلون متنعلاً لا يخلعونها عن أرجلهم“۔

(بذل المجهود، باب الصلاة فى النعل: ۱/۳۵۸، مکتبہ امدادیہ ملتان)

(و کذا فى رد المحتار، مطلب فى أحكام المسجد: ۱/۶۵۷، سعید)

اس لئے اب فقہاء نے جوتا پہن کر مسجد میں داخل ہونے کو مکروہ لکھا ہے جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے کہ اگر جوتا پاک ہو تب بھی یہ احترام مسجد کے خلاف ہے (۱)۔ عید گاہ میں اگر گھاس پر نماز پڑھی جائے تو وہاں توسع ہے مگر فتنہ سے بچنا لازم ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۰/۱۰/۸۹ھ۔

کمبل سے بغیر ہاتھ نکالنے نماز ادا کرنا

سوال [۳۱۰۲]: سردی کے ایام میں صرف چادر، کمبل اوڑھ کر نماز ادا کرنا اس طرح کہ صرف چہرہ کھلا رہے اور دونوں ہاتھ کمبل کے اندر ہوں، کیسا ہے؟ یا دونوں ہاتھوں کا باہر کھلا رہنا ضروری ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

دونوں ہاتھوں کا اس طرح رکھنا کہ رکوع سجدہ کی حالت میں بھی اندر ہی رہیں، نہیں چاہئے، سخت سردی کی حالت میں گنجائش ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۳۰/۷/۶۱ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۴/شعبان/۶۱ھ۔

صحیح: عبداللطیف، ۴/شعبان/۶۱ھ۔

گھڑی کی چین کے ساتھ نماز

سوال [۳۱۰۳]: گھڑی کی چین جو لوہے، اسٹیل یا پیتل کی ہو اس کا پہننا اور پہن کر نماز پڑھنا

کیسا ہے؟

(۱) "و دخول المسجد متنعلًا مکروہ، کذا فی السراجیۃ" (الفتاویٰ العالمگیریۃ، کتاب الکراہیۃ،

الباب الخامس فی آداب المسجد الخ: ۵/۳۲۱، رشیدیہ)

(۲) " (أو كَمَّه)؛ لأن التغطية بلا ضرورة مكروهة، (إخراج كفيه من كفيه عند التكبير) للرجل، إلا

لضرورة كبرد" (تنوير الأبصار مع الدر المختار، باب شروط الصلاة: ۱/۴۷۸، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ، الفصل الثالث فی بیان سنن الصلاة و آدابها و کیفیتها: ۷۳۱، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، باب صفة الصلاة: ۱/۵۳۱، رشیدیہ)

الجواب حامداً ومصلياً:

درست ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۴/۴/۸۹ھ۔

تصویر پر سجدہ

سوال [۳۱۰۴]: ۱..... تصویر پر سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

۲..... مسجد کی دیواروں پر اندرونی حصہ میں پھول پتی اور چاند کی تصویر بنانا درست ہے یا نہیں؟

مصلیٰ پر تصویر

سوال [۳۱۰۵]: ۳..... جائے نماز پر پھول پتی یا چاند کی تصویر بنی ہوئی ہے، جس حصہ پر پیشانی

رکھی جاتی ہے اس کے لئے کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

۱..... اگر مصلیٰ پر چاند کی تصویر ہو تو اس پر نماز پڑھنا مکروہ ہے اور ایسی تصویر پر سجدہ کرنے میں شدید

کراہت ہے (۲)۔

(۱) "ولا یکرہ فی المنطقۃ حلقة حديد أو نحاس وعظم..... والحاصل أن کل ما فعل تجبراً، کرہ،

وما فعل لحاجة، لا، عناية". (الدر المختار، فصل فی اللبس: ۱/۳۵۹، ۳۶۳، سعید)

(و کذا فی بدائع الصنائع، کتاب الاستحسان: ۶/۵۲۱، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ، الباب السابع فی اللبس وما یکرہ من ذلك وما لا یکرہ: ۵/۳۳۲، رشیدیہ)

(۲) "عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً

فيه كلب ولا صورة". (الصحيح لمسلم، باب تحريم صورة الحيوان واتخاذها: ۲/۲۰۰، قديمي)

"(کرہ عکسہ عند عدم العذر، ولبس ثوب فيه تماثيل) ذی روح، وأن يكون فوق رأسه أو بين

يديه أو (بحدائه) يمنة أو يسرة، أو محل سجوده (تمثال) ولو في وسادة منصوبة، لا مفروشة".

(الدر المختار، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۱/۶۲۸، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۲/۳۹، رشیدیہ)

۳،۲..... پھول پتی، چاند وغیرہ کی تصویر دیوار، چھت اور مصلے وغیرہ پر درست ہے، اس کا شبہ نہ ہو کہ

چاند کی پرستش کی جا رہی ہے، بہتر یہ ہے کہ مصلے پر کوئی تصویر نہ ہو، بالکل سادہ ہو (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، ۵/۲/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

خانہ کعبہ کی تصویر والے مصلے پر نماز

سوال [۳۱۰۶]: جائے نماز پر خانہ کعبہ کی تصویر ہے ان پر نماز پڑھنا کیسا ہے آیا؟ اس تصویر کو دوسرا

کپڑا چڑھا کر چھپا دیا جائے یا کیا کیا جائے؟ اگر فروخت کرتے ہیں تو چوتھائی قیمت ملتی ہے اور مسجد کا نقصان ہے۔

سائل: سیٹھ حاجی قاسم، حاجی ہاشم، راج کوٹ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

صورتِ مسئلہ میں ان مصلوں پر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، نہ ان پر کپڑا چڑھانے کی

ضرورت ہے نہ ان کو فروخت کرنے کی ضرورت ہے، فی غنیۃ المستملی: ”وَأما صورة غیر ذی روح،

فلا خلاف فی عدم کراهیة الصلاة علیہا أو إلیہا“، ص: ۳۱۴ (۲)۔ اور اس تصویر سے خانہ کعبہ کی

(۱) ”عن سعید بن أبی الحسن قال: جاء رجل إلی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقال: إنی رجل أصوّر

هذه الصور فأفتنی فیہا، فقال له: اذن منی، فدنا منه، ثم قال: اذن منی، فدنا حتی وضع یدہ علی رأسہ،

وقال: أنبئک بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم یقول: ”کل مصوّر فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه فی جہنم“، وقال: إن کنت

لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له فأقر به نضربن علی“، (الصحيح لمسلم، کتاب اللباس، باب

تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صور الخ: ۲/۲۲، قديمی)

” (أول غیر ذی روح لا) یکرہ؛ لأنها لا تُعبد، وخبر جبریل علیہ السلام مخصوص بغير المهانة

كما بسطه ابن الكمال“، (الدر المختار، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۱/۶۳۹، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۲/۴۸، رشیدیہ)

(۲) (غنیۃ المستملی فی شرح منیۃ المصلی (الحلبی الکبیر)، فصل فی کراهیة الصلاة، ص: ۳۵۹، سهیل کیلمی)

(و أيضاً تقدم تخريجه تحت عنوان: ”مصلی پر تصویر“)

تعظیم میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ تصویر کا حکم عین شی کا حکم نہیں ہوتا، دوسرے خود خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں بھی زمین پیروں کے نیچے ہوتی ہے، جب وہ تعظیم کے منافی نہیں تو تصویر کا پیروں کے نیچے ہونا بطریق اولیٰ تعظیم کے منافی نہ ہوگا (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، ۲/۶/۵۲ھ۔

الجواب صحیح: عبداللطیف، ۲۰/۲/۵۲ھ، الجواب صحیح: بندہ عبدالرحمن غفرلہ۔

منقش مصلے پر نماز

سوال [۳۱۰۷]: مفتی عزیز الرحمن صاحب بجنوری نے ایک تحقیقی مضمون سپرد قلم کیا ہے، جس میں اٹلی کی جائے نمازوں کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ ان پر نماز نہ پڑھی جائیں، اس مضمون کے بعد سے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک کا خیال ہے کہ ایسے مصلوں پر نماز بالکل نہ پڑھی جائے جس کی وجوہ حسب ذیل ہیں:

۱- ایسے منقش جائے نمازوں پر خیال پراگندہ ہوتا ہے، خشوع میں فرق پڑتا ہے۔

۲- اٹلی کی تیار شدہ جائے نمازوں پر نقش و نگار صیہونی سازش کے ماتحت بنائے جاتے ہیں جس کا مقصود شعائر اسلام کی توہین ہوتی ہے۔

۳- ان حضرات کی طرف سے استدلال میں وہ حدیثیں بھی پیش کی جاتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منقش پردہ کو واپس کر دینے کا واقعہ مذکور ہے۔

اس کے برخلاف دوسرے گروپ کا کہنا کہ ایسے منقش مصلوں کا استعمال پورے عالم اسلام میں ہے، خیال کی پراگندگی کا کوئی ادنیٰ تصور بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایسے منقش مصلے بہت سے خوش مزاج اور نفاست پسند لوگوں کی مزید مجموعی اور خشوع و خضوع کا باعث ہوتے ہیں، اس لئے یہ محض ذوقی اور وجدانی چیز ہے،

(۱) "ولو صلی فی جوف الکعبۃ أو علی سطحها۔ جاز الی ائی جہۃ توجہ"۔ (الفتاویٰ العالمکیریۃ،

الفصل الثالث فی استقبال القبلة: ۱/۲۱، (شیدیہ)

(و کذا فی الدر المختار، باب الصلاة فی الکعبۃ: ۲/۲۵۳، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتاریخانیۃ، کتاب الصلاة، الفرائض: ۱/۳۲۶، ادارة القرآن، کراتشی)

لہذا اسے فتوے کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔ یہ بات بھی سمجھنے میں نہیں آئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خشوع و خضوع پر یہ نقش و نگار کیونکر اثر انداز ہو سکتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو اس سے بہت بالاتر تھی۔ لہذا اب آنجناب سے درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں فیصلہ کن بات تحریر فرمائیں، تاکہ باہمی فساد و نزاع کا دروازہ بند ہو۔

عبدالقدوس آزاد پارک دارالنسی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اس مصلے پر نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی، اس کے نقش و نگار کی وجہ سے اگر خشوع میں فرق آئے تو تحفظ کے لئے اس پر ایک سادہ کپڑا بچھا لیا جائے (۱)۔ آج کل اٹلی کے علاوہ دیگر مقامات کے بنے ہوئے مصلے بھی عامۃً نقش و نگار سے خالی نہیں ہوتے، بسا اوقات بڑی درمی میں بھی نقش و نگار ہوتے ہیں، اکثر آدمیوں کا وہیان بھی اس نقوش کی طرف نہیں جاتا، اس پر خانہ کعبہ یا مسجد کا نقش بھی عامۃً ہوتا ہے، تو یہ بھی اٹلی کے مصلے کے ساتھ خاص نہیں۔ دوسرے مسجد یا کعبہ کے نقش پر عامۃً کھڑے نہیں ہوتے بلکہ وہ نقش سجدہ گاہ کی طرف ہوتا ہے جس سے اس کو پامال کرنا لازم نہیں آتا جو احترام کے خلاف ہو۔ نیز تصویر و نقش کعبہ کو بعینہ کعبہ کا حکم دینا بھی صحیح نہیں، ورنہ اس کی طرف رخ کر کے کیا نماز کو بھی صحیح کہا جائے، اگرچہ وہ کسی بھی سمت میں ہو، اگر بغور دیکھا

(۱) ”(ولا بأس بنقشه خلا محرابه)، فإنه يكره؛ لأنه يلهي المصلي، ويكره التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة. قال الحلبي: وفي حذر المجتبي: وقيل: يكره في المحراب دون السقف والموخر انتهى. وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة فليحفظ“.

قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ: ”(قوله: لأنه يلهي المصلي): أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونحوه، وقد صرح في البدائع في مستحبات الصلاة: ينبغي الخشوع فيها، ويكون منتهى بصره إلى سجوده الخ..... وكذا صرح في الأشباه: أن الخشوع في الصلاة مستحب، والظاهر من هذا أن الكرامة هنا تنزيهية، فافهم“۔ (الدر المختار مع رد المحتار، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۶۵۸/۱، سعید)

(و كذا في تبیین الحقائق، فصل: كره استقبال القبلة بالفرج: ۱/۴۲۰، دارالكتب العلمية بيروت)

(و كذا في البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۶۵/۲، رشیدیہ)

جائے تو وہ کعبہ کا نقش ہوتا بھی نہیں، محض ایک صنعت کاری ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۶/۸/۹۳ھ۔

ایضاً

سوال [۳۱۰۸]: کچھ روز قبل مفتی عزیز الرحمن بجنوری نے ایک فتویٰ شائع کیا تھا اور اس بات پر زور دیا تھا کہ اٹلی کا محمل جائے نماز (مصلی) جو عام طور سے حجاج اپنے ہمراہ حجاز سے لاتے ہیں اور اس پر حریم شریفین کی تصویر ہوتی ہے، اس کا استعمال نماز کے لئے درست نہیں اور اس پر نماز پڑھنے سے منع کیا تھا۔ ان کا خیال ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے اور اس کا مقصد نماز میں دھیان بانٹنا اور مناجات کی لذت سے غافل کر دینا ہے۔ ادھر کچھ دنوں سے اس مسئلہ پر بنارس میں دو گروہ ہو گئے ہیں بعض لوگ مفتی صاحب کے فتوے کی بناء پر اس قسم کے مصلے کو مساجد سے نکالنے پر مصر ہیں، اور کم لوگ عموم بلوئی مصالح مرسلہ جیسی اصطلاحات کا استعمال کر کے اس مصلے کو کراہت سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ میرے پاس بھی اس سلسلہ میں ایک استفتاء آیا ہے لیکن میرے سامنے اس سلسلہ میں کوئی واضح بات نہیں ہے، براہ کرم اپنی رائے سے نوازیں تاکہ یہاں کا بتایا ہوا مسئلہ مرکز کے خلاف نہ ہو جائے۔

سائل: مولانا ابوالقاسم نعمانی، جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب، دارالنسی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

حریم شریفین سے لائے ہوئے مصلے کے متعلق یہودیوں کی سازش اور نیت کا مجھے علم نہیں، اس پر جو تصویر ہے وہ ذی روح کی نہیں اس لئے تو اس حکم میں یہ داخل نہیں جس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے جس میں ”تشبہ بعبادة الأوثان“ لازم آتا ہو (۱)۔ رہا نقش و نگار کا قصد اس میں ہی کیا منحصر ہے، وہ تو آج عام ہے، مسجد کے در و دیوار، صفوف، درمی، جائے نماز، لباس کی بناوٹ، کرتہ، گھڑی، لنگی، تسبیح کون سی چیز ایسی ہے جو دل ہٹا کر مخل خشوع نہ ہو لیکن اس کے باوجود اکثر نفوس ایسے ہیں کہ ان کو ایسے نقوش کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا۔

مولانا ارشاد احمد صاحب نے بھی یہاں بیان کیا تھا کہ یہود کا مقصد یہ ہے کہ نماز میں حریم کو مسلمانوں کے قدموں سے روند جائے، اس لئے وہ یہ تصویر بناتے ہیں۔ مجھے ان کی اس نیت کا بھی علم نہیں اور ایسے مصلے پر

(۱) (قد مضی تخریجہ تحت عنوان: ”مصلی پر تصویر“، و عنوان: ”منقش مصلی پر نماز“۔)

قدم کی جگہ یہ تصویر ہوتی بھی نہیں بلکہ سجدہ کی جگہ ہوتی ہے، علاوہ ازیں تصویر، وہ بھی جعلی! جس کو اصل کے ساتھ مشابہت بھی نہیں، اصل کے حکم میں کس طرح ہو سکتی ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۳/۷/۹۳ھ۔

جس مصلیٰ پر بیت اللہ کی تصویر ہو اس پر نماز پڑھنا

سوال [۳۱۰۹]: جس مصلیٰ پر بیت اللہ کی تصویر ہو اور یہ کہ اس تصویر کو یہودی اہانت کے لئے

بناتے ہیں تو اس مصلیٰ پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تصویر کا حکم اصلی کا حکم نہیں ہوتا، اس مصلیٰ پر نماز پڑھنا ایسا نہیں جیسے بیت اللہ پر نماز پڑھنا، لہذا اس سے بیت اللہ کی اہانت نہیں ہوتی (۱)، یہودیوں کی نیت ناکام رہتی ہے، بہتر یہ ہے کہ ایسے مصلے کو خریدنا ہی نہ جائے تاکہ وہ بنانا ہی چھوڑ دیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۳۰/۱۱/۸۹ھ۔

روپیہ پیسہ کے ساتھ نماز کا حکم

سوال [۳۱۱۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مسئلہ ذیل میں:

تصویر گھر میں رکھنے کی جو ممانعت احادیث میں ہے، اکثر لوگ اس پر حجت قائم کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر کی ممانعت ہے فوٹو کی نہیں ہے، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جس پر ذی روح کی تصویر ہو جیسے روپے پیسے، اسے پاس رکھنا اور پاس ہوتے ہوئے نماز کیسی ادا ہو سکتی ہے؟ ہر دو باتوں کا جواب خوب اچھی طرح سے دیجئے۔ فقط والسلام۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر اور فوٹو سے بنی ہوئی دونوں کا شرعاً ایک حکم ہے، پیسے روپے پر اولاً تو تصویر چھوٹی ہے جس کا کوئی اعزاز نہیں ہوتا، دوسرے جیب یا کسی اور کپڑے میں نماز کے وقت مخفی رہتی ہے، سامنے

(۱) (قد مرتبہ تخریجہ تحت عنوان: "تصویر دار مصلیٰ پر نماز")۔

نہیں ہوتی (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۲۵/۱۰/۵۳ھ۔

جواب صحیح ہے: سعید احمد غفرلہ۔

تصویر یا بیڑی سگریٹ، جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا

سوال [۳۱۱۱]: تہبند شیر مارکہ جس پر کہ شیر کی تصویر ہوتی ہے اور جو اپنا فوٹو جیب میں ڈال کر نماز

پڑھتے ہیں اور نوٹ بھی جیب میں ڈالے رہتے ہیں اس پر ”اشوک“ (درخت) کی تصویر ہوتی ہے، کیا ان سب باتوں

سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور بیڑی سگریٹ جو کہ نشہ والی چیز ہوتی ہے ان کو جیب میں رکھ کر نماز ہوگی یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تہبند وغیرہ پر شیر یا کوئی اور تصویر ہو تو اس کو دھلوا کر صاف کروایا جائے تب تہبند وغیرہ کو استعمال کیا

جائے، فوٹو اترانا ہی جائز نہیں ہے (۲)، جیب میں نہ رکھا جائے۔ بیڑی سگریٹ وغیرہ بدبودار چیزیں مسجد میں

(۱) ”(قوله: لا المستتر بکیس أو صرة) بأن صلی ومعه صرة أو کیس فیہ دنانیر أو دراهم فیہا صور

صغار، فلا تکرہ لاستتارہا، بحر“۔ (ردالمحتار، باب ما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ فیہا: ۱/۶۳۸، سعید)

(و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلوٰۃ ما یکرہ فیہا: ۲/۴۸، رشیدیہ)

(و کذا فی النہر الفائق، باب ما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ فیہا: ۱/۲۸۴، امدادیہ، ملتان)

(۲) ”عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصورة فی البیت، ونہی

أن یصنع ذلك“۔ (سنن ترمذی، أبواب اللباس، باب ماجاء فی الصورة: ۱/۳۰۵، سعید)

”وظاهر کلام النووی فی شرح مسلم الإجماع علی تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء

صنعه لما یمتھن أو لغيره، فصنعتہ حرام بكل حال؛ لأن فیہ مضاهاةً لخلق اللہ تعالیٰ، و سواء كان فی ثوب

أو بساط أو درهم وإناء وحائط و غیرہا“۔ (ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ

فیہا: ۱/۶۳۷، سعید)

قال ابن نجيم: ”قوله: (ولبس ثوب فيه تصاویر)؛ لأنه يشبه حامل الصنم، فيكره. وفي

الخلاصة: وتكره التصاویر علی الثوب صلی فیہ أولم یصل“۔ (البحر الرائق، باب ما یفسد الصلوٰۃ

وما یکرہ فیہا: ۲/۴۷، رشیدیہ)

لانا منع ہے۔ ان سب صورتوں سے نماز میں بھی کراہت آئے گی (۱)۔ نوٹ پر جو تصویر ہے وہ قانونی مجبوری ہے اور ضرورت کی بناء پر جیب میں ہو تو نماز میں کراہت نہیں آئے گی (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

ہاتھ پر تصویر گدی ہوئی ہونے کی حالت میں نماز

سوال [۳۱۱۲]: کسی شخص کے ہاتھ پر کوئی تصویر گدی ہوئی ہو تو اس کی نماز میں فرق آئے گا یا نہیں؟ اور اگر فرق آئے گا تو جواز کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تصویر تو بغیر کھال یا گوشت کاٹے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔
الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ اس تصویر کو ختم کرنا دشوار ہے تو مجبوری ہے نماز درست ہوگی، ہو سکے تو کپڑے یا دستانہ سے ہاتھ ڈھانپ لیا کرے (۳)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۱) ”(قوله: وأكل نحو ثوم): أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة، للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة مأكولاً أو غيره وكذا لك الحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة“.

(ردالمحتار، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا، مطلب فی الفرس فی المساجد: ۶۶۱/۱، سعید)

(۲) ”(قوله: لا المستتر بکیس أو صرة) بأن صلی ومعه صرة أو کیس فیہ دنانیر أو دراہم فیہا صور صفار، فلا تکرہ لاستتارها، بحر“.

(ردالمحتار، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۶۲۸/۱، سعید)

(رکذ فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۴۸/۲، رشیدیہ)

(۳) ”ظاہرہ عدم الکراہة ولو كانت بالوشم“.

(ردالمحتار، مطلب: إذا تردد الحكم بين السنة والبدعة، كان ترك السنة أولى: ۶۲۸/۱، سعید)
”و فی الفتاوی الخیریة من کتاب الصلاة: سئل فی رجل علی یدہ وشم، هل تصح صلاته، وإمامته أم لا؟ أجاب: نعم، تصح صلاته وإمامته بلا شبهة، والله أعلم“.

(ردالمحتار، مطلب فی حکم الوشم: ۳۳۰/۱، سعید)
”و فی المسحیط: رجل فی یدہ تصاویر و هو یؤم الناس، لا تکرہ إمامته؛ لأنها مستورة بالشباب، فصار كصورة فی نقش خاتم، و هو غیر مستبین“.

(البحر الرائق، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۴۸/۲، رشیدیہ)

آئینہ دار مسجد میں نماز

سوال [۳۱۱۳]: ایک مسجد سہارنپور میں متصل چوکی پولیس واقع ہے، مسجد کے اندر حصہ گنبد کے نیچے غرہ، جنوبی اور شمالی دیواروں پر ایسے شیشے کے بیل بوٹے تیار کرائے گئے ہیں جس میں چہرہ اور عکس نظر آتا ہے جو کہ مثل شیش محل کے ہو گیا ہے۔ اس صورت میں مسجد کے اندر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

ایسی مسجد میں نماز جائز ہے، نمازی کو چاہیے کہ نظر نیچی رکھے تاکہ خشوع حاصل ہو اور دھیان نہ ہٹنے پائے ورنہ اگر اس طرف توجہ کی اور خشوع نہ رہا تو نماز مکروہ ہوگی (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۳/۵/۵۷ھ۔
صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر العلوم، ۱۶/۵/۵۷ھ۔

آئینہ سامنے ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟

سوال [۳۱۱۴]: مسجد میں ڈیکولم کے بنے ہوئے دروازے لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے نمازیوں کے اپنے عکس اس میں پڑتے ہیں جیسے سامنے آئینہ ہو تو کیا اس سے نماز میں کوئی حرج ہوتا ہے اور یہ مناسب ہے یا نہیں؟

(۱) ”[تتمہ] بقی فی المکروہات اشیاء آخر..... منها: الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب..... (قوله: لأنه يلهي المصلي): أي فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع سجوده ونحوه، وقد صرح في البدائع في مستحباب الصلاة: أنه ينبغي الخشوع فيها، ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده الخ، وكذا صرح في الأشباه: أن الخشوع في الصلاة مستحب، والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنزيهية فافهم“ (رد المحتار، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۱/۲۵۳، ۲۵۸، سعید)

(و كذا في البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۲/۲۵، رشیدیہ)

(و كذا في تبیین الحقائق، فصل: كره استقبال القبلة بالفرج الخ: ۱/۴۲۰، دار الكتب العلمية بيروت)

الجواب حامداً ومصلیاً:

نہایت غلط صورت حال ہے، اس سے حفاظت کی کوئی تدبیر اختیار کی جائے، گذشتہ نمازوں کا اعادہ نہیں (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۷/۱/۹۵ھ۔

دیوارِ قبلہ پر نظر پڑنا

سوال [۳۱۱۵]: اگر رکوع یا سجدہ سے اٹھتے بیٹھتے وقت امام یا منفر دیا مقتدی کی نگاہ دیوار پر اتفاقاً پڑ جائے تو کیا نماز مکروہ ہوگی؟ اور اگر قصداً ایسا کرے تو کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلیاً:

سامنے کی دیوار پر نظر پڑ جانے سے نماز مکروہ نہیں ہوگی، قصداً ایسا کرنا خلافِ مستحب ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۸/۵/۹۱ھ۔

(۱) ”بقی فی المکروہات اشیاء اخر منها الصلاة بحضرة ما يشغل البال و یخلّ بالخشوع کزینة ولهو و لعب“۔ (ردالمحتار، مطلب فی بیان السنة والمستحب والمنذوب والمکروه الخ: ۱/۶۵۳، سعید) (و کذا فی مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح، ص: ۳۶۰، قدیمی)

”تنبیہ: پیشے میں دکھائی دینے والی صورتیں تصویر کا حکم نہیں رکھتیں، کیونکہ یہ عکس ہے، البتہ کراہت کی وجہ دوسری ہے، وہ عکس محلِ خشوع اور دل کی مشغولی کا باعث ہو“۔ (خیر الفتاویٰ: ۲/۴۳۱) (و أحسن الفتاویٰ: ۳/۴۱۲)

(۲) ”فلما نزل قوله تعالیٰ: ﴿قد أفلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون﴾۔ [المؤمنون: ۲۰۱] ”رمی بصرہ نحو مسجد: ای موضع سجودہ و فسرہ الطحاوی فی ”مختصرہ“ فقال: یرمی ببصرہ إلی موضع سجودہ فی حالة القيام، و فی حالة الركوع إلی رؤس أصابع رجلیه، و فی حالة السجود إلی أرنبة أنفه، و فی حالة القعدة إلی حجره؛ لأن هذا كله تعظیم و خشوع“۔ (بدائع الصنائع، فصل فیما یستحب و یکره فیہا: ۲/۷۳، دارالکتب العلمیة بیروت)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمکیریة، الفصل الثالث فی سنن الصلوة و آدابها: ۱/۷۲، رشیدیہ)

(و کذا فی الفتاویٰ التاتارخانیة، فصل فی بیان آداب الصلوة: ۱/۵۲۹، إدارة القرآن کراچی)

غیر مسلم کے معبد یا زمین میں نمازِ عید وغیرہ

سوال [۳۱۱۶]: کفار کے معبد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

۱..... ہمارے یہاں ایک قوم ہے جن کو ”برما“ کہا جاتا ہے، انہوں نے پہاڑ پر مندر بنا کر کے وہاں بت رکھے ہیں اور یہاں بھی ایک جاوی پہاڑ ہے جس کے نیچے ایک پہاڑ ہے اور اس کے نیچے ایک میدان ہے جس میں نماز پڑھنے سے جاوی نمازوں کے سامنے یعنی قبلہ کے جانب ہوگی اور میدان سمیت پہاڑ کو جاوی پہاڑ کہا جاتا ہے وایضاً میدان مذکور کفار کی ملک میں ہے۔ تو ایسے میدان میں نماز عید پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

۲..... اگر میدان کفار کی ملک میں نہ ہو، یا میدان اور جاوی کے درمیان کوئی گھر حائل ہو تو شرعاً کیا حکم ہے؟ مدلل اور واضح کر کے ممنون فرمادیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مکروہ ہے: ”وتكره الصلاة في سائر محال الشياطين، ومنها الوادي الذي نام فيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن صلاة الصبح، ومنها كل محل حل به غضب كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط، ۱ھ۔ قلت: وبهذا يعلم كراهة الصلاة في البيع والكنائس لما فيها من التماثيل، فتكون مأوى الشياطين، كما أفاده العيني في شرح البخاري في بحث المساجد من كتاب الصلاة (۱)۔“ وتكره في أرض الغير بلا رضاه بأن كانت لذمي مطلقاً؛ لأنه يأبى، أو لمسلم وهي مزروعة أو مكروية ولم يكن بينهما صداقة ولا مودة، أو كان صاحبها سبيع الخلق، ۱ھ۔“

طحطاوى على مراقى الفلاح: ۱۹۷ (۲)۔ قال ابن عابدين: ”قال في البحر: والظاهر أنها

(۱) ”لم أجده هذه العبارة في عمدة القاري وقد وجدت بمعناها بلفظ: ”ويذكر أن علياً رضي الله تعالى عنه كره الصلاة بخسف بابل..... وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة فكرهها الحسن البصري..... وفيه الدلالة على كراهة الصلاة في موضع الخسف، والعذاب، والباب معقود عليه.“ (عمدة القاري، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب: ۲۷۹/۳، ۲۸۱، دار الكتب العلمية، بيروت)

”وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ”إننا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور“.

(عمدة القاري، باب الصلاة في البيعة: ۲۸۳/۳، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۲) (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، فصل في المكروهات، ص: ۳۵۸ قديمي)

تحریمیۃ؛ لأنها المرادة عند إطلاقهم، اھ۔“ شامی: ۱/۳۵۳ (۱)۔

۲..... جب کہ وہ میدان مسلمانوں کی ملک ہو اور وہ لوگ خود اپنی زمین میں نماز پڑھیں اور سامنے کوئی بت وغیرہ نہ ہو بلکہ کوئی مستقل مکان مثلاً ستون وغیرہ حائل ہو تو وہاں نماز عید مکروہ نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۱۸/۹/۶۶ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، ۱۹/شوال/۶۶ھ، صحیح: عبداللطیف، ۲۰/شوال/۶۶ھ۔

مسجد کے لئے بنیاد کھودتے ہوئے میت کی کچھ ہڈیاں ظاہر ہوئیں، وہاں نماز کا حکم

سوال [۳۱۱۷]: ایک قبرستان میں ایک بہت پرانی مسجد تھی، اس مسجد کو منہدم ہوئے بہت زمانہ ہوا، لیکن اس کے کچھ منہدم نشانات باقی تھے، انہیں نشانات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے نئی مسجد کی بنیاد ڈالی ہے، لیکن بنیاد کے کھودتے وقت کچھ ہڈیاں بھی ملیں نیوکافی بلند ہو چکی ہے، گمان یہ ہے کہ قبریں بھی اس میں ہیں۔ دریافت طلب مسئلہ یہ کہ اس میں نماز عید یا اور کوئی نماز کسی طرح درست ہو سکتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

وہاں مدت دراز سے مُردے دفن نہیں ہوتے اور قبروں کے نشانات بھی باقی نہیں تو وہاں نماز عید یا کوئی نماز ممنوع نہیں، اگرچہ نیوکھودنے میں کچھ ہڈیاں بھی ظاہر ہو گئیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض میت کی ہڈیاں برسہا برس کے بعد کھودتے وقت ظاہر ہو جاتی ہیں مگر ان کی وجہ سے اس تمام زمین میں نماز کی ممانعت

(۱) (رد المحتار، مطلب: تکرہ الصلاة فی الكنيسة: ۱/۳۸۰، سعید)

(۲) ”ولو كانت الصورة صغيرة كالتی علی الدراهم أو كانت فی الید أو مستترۃ أو مهانة مع أن الصلاة بذالك لا تحرم، بل ولا تکرہ؛ لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالیٰ، وهي موجودة فی کل ما ذکر. وعلة كراهة الصلاة بها التشبه، وهي مفقودة فيما ذكر، كما یأتی، فاغتم هذا التحریر“۔ (رد المحتار، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۱/۶۳۷، سعید)

(و كذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۲/۳۸، رشیدیہ)

وقال فی التاتارخانية: ”أما إذا كانت مستورة، فلا بأس به“۔ (باب ما یکرہ للمصلي و ما

لا یکرہ: ۱/۵۶۳، إدارة القرآن کراچی)

کا حکم نہیں ہوتا:

”جاز زرعه والبناء علیہ إذا بلی و صار تراباً“۔ شامی (۱)۔ ”فی زاد الفقیر: وتکرہ الصلوٰۃ فی المقبرۃ، إلا أن یکون فیہا موضعٌ أعدّ للصلوٰۃ لانجاسة فیہ ولا قدر. فیہ، قال الحلبي؛ لأن الكراهة محللة بالسنة، وهو منتفی حينئذٍ“۔ طحطاوی (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱/۱/۸۶ھ۔

قرآن کریم سجدہ کے سامنے ہو

سوال [۳۱۱۸]: امام صاحب ظہر کی نماز سے قبل مسجد میں پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جماعت کے کھڑے ہونے کے وقت قرآن مجید بند کر کے مصلیٰ کے بالکل سامنے رکھ دیا گیا اور نماز میں مشغول ہو گئے، اب سجدہ ایسی جگہ ہو رہا ہے کہ قرآن مجید بالکل سر کے سامنے ہے۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ کیا مقام سجدہ کے بالکل سامنے قرآن مجید رکھ کر سجدہ کر سکتے ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز باجماعت میں جب کلام مجید امام کے سر کے آگے نہیں ہے تو کسی اشتباہ کا بھی موقع یا اندیشہ نہیں

(۱) (ردالمحتار، الدر المختار، کتاب الصلاة، باب صلاة الجنابة: ۲/۲۳۸، سعید)

”ولوبلى الميت و صار تراباً، جاز دفن غيره فى قبره و زرعه و البناء عليه“۔ (الفتاوى

العالمکیریة، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادى والعشرون الخ: ۱/۱۶۷، رشیدیہ)

”ولوبلى الميت و صار تراباً، جاز دفن غيره فى قبره و زرعه و البناء عليه“۔ (تبيين الحقائق، باب

الجنائز: ۱/۵۸۹، دارالکتب العلمیة، بیروت)

(۲) (حاشیة الطحطاوى على مراقى الفلاح، کتاب الصلاة، فصل فى المكروهات، ص: ۳۵۶، قدیمی)

”أو كان فى المقبرة موضعٌ أعدّ للصلاة ولا قبر ولا نجاسة، فلا بأس“۔ (ردالمحتار، کتاب

الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکرہ فیہا: ۱/۶۵۳، سعید)

”إذا غسل موضعاً فى الحمام ليس فيه تمثال و صلى فيه، لا بأس به، و كذا فى المقبرة إذا كان

فیہا موضع آخر أعدّ للصلاة، و ليس فيه قبر ولا نجاسة“۔ (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب ما یفسد

الصلاة وما یکرہ فیہا: ۲/۵۸، رشیدیہ)

ہے، یہ عمل بلاشبہ درست ہے، بلکہ سجدہ کے سامنے رکھا ہو تب بھی مضائقہ نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۴/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۱/۴/۹۰ھ۔

نمازی کے سامنے چراغ جلنا

سوال [۳۱۱۹]: اگر نمازی کے آگے چراغ جلتا ہو تو نماز میں کچھ کراہت تو نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

چراغ سامنے رکھ کر نماز پڑھنا

سوال [۳۱۲۰]: ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتے وقت چراغ جلاتے ہیں، آگے

رکھتے ہیں ایک یا آدھا ہاتھ دوری پر، اور نماز پڑھتے ہیں مگر کوئی عالم کہتے ہیں کہ اس چراغ کو آگے نہ رکھیں بلکہ

دائیں یا بائیں یا پیچھے رکھ کر نماز پڑھو۔

(۱) ”عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما أن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یرکز العنزة، ویصلی

إلیہا“۔ رواہ مسلم“۔

”قولہ: عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما الخ“، قال المؤلف: ”فی البحر الرائق: أی لا یکرہ

أن یصلی و امامہ مصحف أو سیف، سواء کان معلقاً أو بین یدیه، أما المصحف، فلأن فی تقدیمہ تعظیمہ

، و تعظیمہ عبادۃ، والاستخفاف بہ کفر، فانضمت هذه العبادۃ إلى عبادۃ أخرى، فلا کراہۃ“۔ (إعلاء

السنن، باب عدم کراہۃ الصلاۃ إلى السیف و نحوه: ۵/۹۷، إدارة القرآن، کراچی)

(و کذا فی تنویر الأبصار مع الدر المختار، باب ما یفسد الصلاۃ و ما یکرہ فیہا: ۱/۶۵۱، سعید)

(و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ، الفصل الثانی فیما یکرہ الصلاۃ و ما لا یکرہ: ۱/۱۰۸، رشیدیہ)

(۲) ”(ولا یکرہ صلوٰۃ إلى ظهر قاعد) یتحدث ولا إلى مصحف أو سیف مطلقاً أو شمر أو سراج أو نار

توقد؛ لأن المجوس إنما تعید الجمرۃ لا النار الموقدة، قیۃ“۔ (الدر المختار، باب ما یفسد الصلاۃ و ما

یکرہ فیہا: ۱/۶۵۲، سعید)

(وایضاً سیأتی تخریجہ تحت عنوان: ”چراغ سامنے رکھ کر نماز پڑھنا“۔)

الجواب حامدًا ومصلياً:

نماز جماعت میں چراغ اگر سامنے ہو جیسا کہ عامۃً مساجد میں جدار غربی میں رکھا ہوتا ہے تو اس سے نماز خراب نہیں ہوتی، اگر داہنے یا بائیں یا پیچھے رکھا ہو تو کسی کو اعتراض کا موقع بھی نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد غفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۹/۸۵ھ۔

الجواب صحیح: بندہ محمد نظام الدین غفی عنہ، دارالعلوم دیوبند۔

نماز اندھیرے میں ہو یا روشنی میں

سوال [۳۱۲۱]: ایک مسجد میں بجلی کی روشنی کا معقول انتظام ہے اور رات میں برابر روشنی ہوتی ہے، لیکن فرض نماز کے وقت امام صاحب روشنی بجھا کر نماز باجماعت بلکہ نماز تراویح بھی پڑھتے ہیں، دریافت کرنے پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکثر اندھیرے میں نماز ادا فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیل نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں نماز ادا فرمائی ہے، نیز یہ سوال ہے کہ روشنی کی موجودگی میں روشنی بجھا کر اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ وضاحت کے لئے عرض ہے کہ مسجد کے اگلے حصہ میں بھی روشنی کا انتظام ہے اور بلب ایسے کنارے پر لگا ہوا ہے کہ اگر وہ روشن ہو تو اس کی روشنی مسجد کے اندرونی حصہ میں نہیں پہنچ سکتی ہے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

یہ مسئلہ شرعی نہیں، جتنی بجھا کر اندھیرے میں نماز پڑھنے کی کوئی تاکید نہیں، بوقت ضرورت بقدر ضرورت روشنی کرنا ضروری اور اس میں نماز پڑھنا بلا کراہت درست ہے، بلا ضرورت اور ضرورت سے زائد روشنی کرنا

(۱) "ولا الی مصحف او سیف مطلقاً او شمع او سراج او نار توقد؛ لأن المجوس إنما تعبد الجمر لا النار الموقدة"۔ (الدر المختار، باب ما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ فیہا: ۱/۶۵۲، سعید)

"ولو توجه الی قنديل أو الی سراج، لم یکرہ، کذا فی محیط السرخسی، وهو الأصح، کذا فی

خزانة الفتاویٰ"۔ (الفتاویٰ العالمگیریۃ، الفصل الثانی فیما یکرہ فی الصلوٰۃ وما لا یکرہ: ۱/۸۰۸، رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ فیہا: ۲/۵۶، رشیدیہ)

اسراف میں داخل اور ممنوع ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

اندھیرے میں نماز پڑھنا

سوال [۳۱۲۲]: اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر قبلہ کا رخ صحیح ہو تو اندھیرے میں نماز پڑھنا منع نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی۔

(۱) ”عن ميمونة مولاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله! أفتنا في بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”اتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك حرباً، فإن لم تأتوه و تصلوا فيه، فابعثوا بزيت يسرج في قناديله“۔ (سنن أبي داؤد، باب في السرج في المساجد: ۶۶/۱، دار الحديث ملتان)

”و لو وقف على دهن السراج للمسجد، لا يجوز وضعه جميع الليل، بل بقدر حاجة المصلين و يجوز إلى ثلث الليل أو نصفه إذا احتيج إليه للصلاة فيه، كذا في السراج الوهاج. ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك“۔ (الفتاوى العالمكيرية، الباب الحادى عشر في المسجد و ما يتعلق به: ۴۵۹/۲، رشيدية)

(و كذا في البحر الرائق، فصل في أحكام المسجد: ۴۲۰/۵، رشيدية)

(۲) ”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: و رجلاى في قبلته، فإذا سجد غمزنى، فقبضت رجلى، فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح“۔ (صحيح البخارى، باب التطوع خلف المرأة: ۷۳/۱، قديمى)

قال في الفتاوى العالمكيرية: ”رجل صلى في المسجد في ليلة مظلمة بالتحرى، فتبين أنه صلى إلى غير القبلة، جازت صلته؛ لأنه ليس عليه أن يقرع أبواب الناس للسؤال عن القبلة“۔ (الباب الثالث في استقبال القبلة: ۶۴/۱، رشيدية)

(و كذا في الدر المختار، باب شروط الصلاة: ۴۳۳/۱، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق، باب شروط الصلاة: ۵۰۰/۱، رشيدية)

اگر امام کا چہرہ شمال یا جنوب کی طرف گھوم جائے

سوال [۳۱۲۳]: اگر امام نماز میں اتنا جھومتا ہو کہ قبلہ کی طرف سے اس کا منہ پھر جائے تو اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بالکل شمال یا جنوب کی طرف منہ ہو جاتا ہو جیسا کہ سلام پھرتے وقت تو یہ مکروہ تحریمی ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۷/۳/۹۲ھ۔

امام مصلیٰ پر مقتدی فرش پر ہونا مکروہ ہے یا نہیں؟

سوال [۳۱۲۴]: اکثر امام مصلیٰ پر نماز پڑھاتے ہیں اور مقتدی فرش پر بغیر مصلیٰ کے نماز امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کیا ایسی جماعت میں مقتدیوں کی نماز میں کچھ کراہت ہو جاتی ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نہیں، بلکہ زمین کی نماز بنسبت مصلیٰ کے افضل ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم، ۳/۱۱/۶۱ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۳/ذیقعدہ/۶۱ھ۔

(۱) ”عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ”يا بني! إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد، ففي التطوع، لا في الفريضة.“ (سنن الترمذی: ۱/۱۳۰، سعید)

”(قولہ: وتحويل صدره) أما تحويل وجهه كله أو بعضه، فمكروه، لا مفسدٌ على المعتمد.“

(ردالمحتار، باب ما یفسد الصلوة و ما یکره فیہا: ۱/۶۲۶، سعید)

(وکذا فی البحر الرائق، باب ما یفسد الصلوة و ما یکره فیہا: ۲/۳۷، رشیدیہ)

(۲) ”ولكن الأفضل عندنا السجود على الأرض أو على ما تنبته كما في نور الإيضاح ومنية المصلي.“

(رد المحتار، فصل فی بیان تالیف الصلوة إلی انتهائها الخ: ۱/۵۰۲، سعید) =

کیا مسجد کی چھت پر نماز مکروہ ہے؟

سوال [۳۱۲۵]: بعض مسجدوں میں ظہر و عصر کی نماز مسجد کے نیچے کے درجے میں ہوتی ہے اور بوجہ گرمی کی شدت کے مغرب، عشاء، فجر کی نماز موسم گرما میں صرف مسجد کی چھت پر ادا ہوتی ہے جبکہ مسجد کی چھت پر محض چہار دیواری کھینچی ہے نہ کوئی محراب ہے نہ کوئی سائبان، ایسی حالت میں کھلی ہوئی چھت پر نماز پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اصل مسجد نیچے کا حصہ ہے اور چھت تابع، مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا مکروہ ہے، اصل مسجد چھوڑ کر چھت پر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، البتہ اگر جگہ کی قلت ہو تو چھت پر کھڑے ہونے میں مضائقہ نہیں، اور جب گرمی ناقابل برداشت ہو تب بھی چھت پر کھڑے ہونے کی گنجائش ہے (۱)۔ محراب کا نہ ہونا مضرت نہیں (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور، ۲۳/۶/۱۱ھ۔

= ”(ولا بأس بالصلاة على الطنافس واللبود وسائر الفرش إذا كان المفروش رقيقاً) بحيث يجد الساجد عليه حجم الأرض (و) لكن الصلاة (على الأرض) بلا حائل (و) على (ما أنبتته الأرض) كالحصير والبوريا (أفضل)؛ لأنه أقرب إلى التواضع“۔ (الحلبی الكبير، فروع: فی الخلاصة، ص: ۳۶۰، سہیل اکیڈمی لاہور)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلوٰۃ، فصل فیما لا یکرہ للمصلی، ص: ۳۷۱، قدیمی)

(۱) ”الصلاة على الرفوف في المسجد الجامع من غير ضرورة مكروهة، وعند الضرورة بأن امتلاء المسجد ولم يجد موضعاً يصلي فيه، فلا بأس به“۔ (التاتار خانیة، کتاب الصلاة، ما یکرہ للمصلی وما لا یکرہ: ۱/۵۶۹ إدارة القرآن کراچی)

”ولو صلى على رفوف المسجد إن وجد في صحته مكاناً، کره، كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة“۔ (الدر المختار، باب الإمامة: ۱/۵۷۰، سعید)

(۲) ”عن يحيى بن بشير بن خلاء عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله تعالى عليه وسلم: ”توسطوا“ =

ایضاً

سوال [۳۱۲۶]: مسجد کے اوپر جو چھت ہوتی ہے اس پر گرمیوں میں مغرب و عشاء و صبح کی نماز ٹھنڈک کی غرض سے اور جاڑوں میں دھوپ کی غرض سے نماز پڑھنا کیسا ہے زید کہتا ہے مکروہ ہے اور شامی کا حوالہ دیتا ہے زید کا قول کہاں تک صحیح ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

مسجد کے اندر کنویں پر نماز

سوال [۳۱۲۷]: ہمارے موضع میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں کنواں فرش کے درمیان آگیا ہے، کنویں کے اوپر پتھر رکھ کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

درست ہے (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

= الإمام، وسدوا الخلل“ (سنن أبی داؤد، کتاب الصلاة، باب مقام الإمام من الصف: ۱/۹۹، دارالحدیث ملتان)

”قوله: إن علل بالتشبه الخ)..... قلت: أي لأن المحراب إنما بُني علامةً لمحَلِّ قيام الإمام ليكون قيامه وسط الصف كما هو السنة..... وفي التاتارخانية: ويكره أن يقوم في غير المحراب إلا لضرورة“ (ردالمحتار، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۱/۶۳۶، سعید)

(و كذا في الفتاوى التاتارخانية، كتاب الصلاة، ما يكره للمصلي وما لا يكره: ۱/۵۶۸، إدارة القرآن، كراچی)
(۱) ”ثم رأيت القهستاني نقل عن المفيد كراهة الصعود على سطح المسجد، ويلزمه كراهة الصلاة أيضاً فوقه، فليتأمل“ (ردالمحتار، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أحكام المسجد: ۱/۶۵۶، سعید)

(و أيضاً مر تخريجه تحت عنوان: ”مسجد کی چھت پر نماز مکروہ ہے۔“)

(۲) ”إذا كان السرداب أو العلو موقوفاً لمصالح المسجد، فإنه يجوز؛ إذ لا ملك فيه لأحد، بل هو من تميم مصالح المسجد، فهو كسرداب مسجد بيت المقدس“ (البحر الرائق، فصل في أحكام المسجد: ۵/۴۲۱، رشیدیہ)

کیا نماز کم عرض کی دری پر مکروہ ہے؟

سوال [۳۱۲۸]: ایسی کم عرض کی دری پر جس پر پیر اور انگوٹھے تو آتے ہیں باقی ہاتھ اور سر سجدہ میں

فرش پر نکلتا ہے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

الجواب: حامداً ومصلياً:

ایسی حالت میں نماز بلا کراہت جائز ہے کیونکہ زمین پر نماز پڑھنا نسبت دری کے افضل ہے اور سر جو کہ اشرف

ہے وہ زمین پر ہی رہنا افضل ہے: ”ولا یباس بالصلوة علی الطنافس و اللبود و سائر الفرش إذا کان المفروش

رقيقاً، و لکن علی الأرض و علی ما أنبتہ الأرض أفضل.“ منیة و کبیری، ص: ۳۴۷ (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۴/ شوال/ ۱۳۵۴ھ۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبد اللطیف، ۶/ شعبان/ ۱۳۵۴ھ۔

نجاست بقدر عفو کے ساتھ نماز کا حکم

سوال [۳۱۲۹]: اگر کسی کی لنگی میں ایک قطرہ پیشاب کا ٹپکا جو پھیلاؤ میں ایک روپیہ سے کم ہے اور

اس کو پہن کر نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟

الجواب: حامداً ومصلياً:

کراہت کے ساتھ نماز ہو جائے گی (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

= (و کذا فی رد المحتار، کتاب الوقف: ۳/ ۳۵۷، سعید)

(و کذا فی تبیین الحقائق، فصل: ومن بنی مسجداً الخ: ۱/ ۲۷۱، دارالکتب العلمیة بیروت)

(۱) (الحلبی الکبیر، فروع: فی الخلاصة، ص: ۳۶۰ سہیل اکیڈمی لاہور)

”والحاصل أنه لا کراهة فی السجود علی شیء مما فرش علی الأرض مما لا یتحرک بحركة

المصلی بالاجماع الخ، و لکن الأفضل عندنا السجود علی الأرض أو علی ما تنبتہ، كما فی نور الإيضاح

و منیة المصلی.“ (رد المحتار، فصل فی بیان تالیف الصلاة إلى انتهائها الخ: ۱/ ۵۰۲، سعید)

(و کذا فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، فصل فیما لا یکرہ للمصلی، ص: ۳۷۰، قدیمی)

(۲) ”(قوله: وإن کره تحریماً) أشار إلى أن العفو بالنسبة إلى صحة الصلاة به والأقرب أن =

تقاضائے ریح کے وقت نماز

سوال [۳۱۳۰]: مرض ریح میں کیا حکم ہے، کہتے ہیں غلبہ ریح کو روکنا نماز کی حالت میں مکروہ تحریمی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس وقت پاخانہ، پیشاب، ریح کا تقاضا ہو اور طبیعت میں تشویش ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا منع

ہے، پہلے ان اشیاء سے فراغت پالے اس کے بعد اطمینان سے نماز پڑھے (۱)۔ اگر کوئی شخص معذور ہو کہ ریح کا

مرض ہے اور اتنا وقت اس کو نہیں ملتا کہ وضو کر کے بلا ریح نماز پڑھ سکے تو وہ مستثنیٰ ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، معین مفتی مظاہر علوم سہارنپور۔

الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۱۳/ربیع الثانی/۵۵ھ۔

= غسل الدرهم و ما دونہ مستحب مع العلم به والقدرة على غلسه، فترکہ حينئذ خلاف الأولى، نعم!

الدرهم غسله أكد مما دونه، فترکہ أشد كراهةً ففي المحيط: يكره أن يصلى و معه قدر درهم

أو دونه من النجاسة عالماً به لاختلاف الناس فيه". (رد المحتار، باب الأنجاس: ۱/۳۱۷، سعید)

(و كذا في بدائع الصنائع، فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً: ۱/۳۲۹، دارالكتب العلمية)

(و كذا في تبیین الحقائق، باب الأنجاس: ۱/۲۰۰، دارالكتب العلمية بيروت)

(۱) "قولہ: وصلاته مع مدافعة الأخبثين (الخ): أي البول والغائط، قال في الخزان: سواء كان بعد شروعه

أو قبله، فإن شغله، قطعها إن لم يخف فوت الوقت، وإن أتمها أتم، لما رواه أبو داود: "لا يحل لأحد يؤمن

بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حاقن حتى يتخفف": أي مدافع البول، ومثله الحاقب: أي مدافع الغائط

والحازق: أي مدافعهما. وقيل: مدافع الريح وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية وقال لأدائها مع

الكرهية التحريمية". (رد المحتار، باب ما يفسد الصلاة اه، مطلب في الخشوع: ۱/۶۳۱، سعید)

(و كذا في تبیین الحقائق، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۱/۳۱۱، دارالكتب العلمية بيروت)

(۲) "(وصاحب عذر من به سلسل) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ریح أو مستحاضة

إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمناً يتوضأ ويصلى فيه حالياً

عن الحدث (ولو حكماً)؛ لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم". (تنوير الأبصار مع الدر المختار، باب

الحيض، مطلب في أحكام المعذور: ۱/۳۰۵، سعید) =

طبعی کراہت کی وجہ سے نماز میں کراہت

سوال [۳۱۳۱]: بکر امام کے مصلے پر آ کر سوتا ہے جس سے پسینہ کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، امام کو اس فعل سے طبعی کراہت ہے تو اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے یا نہیں؟ اور بکر کا یہ طریقہ کیسا ہے؟
الجواب حامداً ومصلياً:

طبعی کراہت کی وجہ سے نماز تو مکروہ نہیں ہوئی (۱) لیکن بکر کا یہ عمل غلط ہے اس کو اس سے باز آنا چاہیے (۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود وغفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۹/۲/۸۹ھ۔

منفرد کے لئے تکبیر کا جہر

سوال [۳۱۳۲]: منفرد مغرب، عشاء اور فجر کی فرض نمازوں میں ”سمع اللہ لمن حمدہ“ اور

= (و کذا فی الفتاویٰ العالمگیریۃ، الفصل الرابع فی أحكام الحيض والنفاس اھ: ۱/۲۱، رشیدیہ)

(و کذا فی تبیین الحقائق، باب الحيض: ۱/۱۸۰، دارالکتب العلمیۃ بیروت لبنان)

(۱) ”(قولہ: والعرق کالسؤر، وسؤر الآدمی والفرس وما یؤکل لحمہ طاهر)، أما الآدمی، فلأن لعابه متولد من لحم طاهر، وإنما لا یؤکل لکرامتہ، ولا فرق بین الجنب والطاهر والحائض والنفساء والصغیر والكبیر والمسلم والكافر والذکر والأنثی“۔ (البحر الرائق، کتاب الطہارۃ: ۱/۲۲۲، رشیدیہ)

(و کذا فی رد المحتار، کتاب الطہارۃ: ۱/۲۲۸، سعید)

(و کذا فی تبیین الحقائق، کتاب الطہارۃ: ۱/۱۰۳، دارالکتب العلمیۃ بیروت)

(۲) ”وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ”المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ“۔ هذا لفظ البخاری، و لمسلم قال: ”إن رجلاً سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: أئی المسلمین خیر؟ قال: ”من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ“۔ (مشکوٰۃ المصابیح، ص: ۱۲، قدیمی)

”ویکرہ الإعطاء مطلقاً، وقیل: إن تخطی..... وأکل و نوم إلا لمعتکف و غریب“۔

(الدر المختار، باب ما یفسد الصلوٰۃ وما یکرہ فیہا: ۱/۶۶۱، سعید)

(و کذا فی إعلاء السنن، باب کراہۃ دخول من أکل الثوم والبصل الخ: ۵/۱۳۸، إدارة القرآن کراچی)

تکبیریں آہستہ کہے یا بلند آواز سے؟

الجواب حامدًا ومصلياً:

منفرد نمازوں میں ان نمازوں میں تکبیر و تسمیع آہستہ کہے: ”وجهر الإمام بالتكبير لحاجته إلى الإعلام بالدخول والانتقال، قيد بالامام، والمأموم والمنفرد ليس لهم الجهر به؛ لأن الأصل في الذكر الإخفاء، ولا حاجة له إلى الجهر“ ۳۰۳/۱ (۱)۔ ”وجهر الإمام بالتكبير وكذا بالتسميع والسلام، وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه، الخ“۔ درمختار: ۳۱۹/۱ (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔
حرره العبد محمود غفر له، دارالعلوم دیوبند، ۳/۹۱ھ۔

منفرد کو تکبیرات بالجہر کہنا

سوال [۳۱۳۳]: کوئی شخص فرض یا نفل نمازرات کو منفرداً ادا کرتا ہے تو اس کو قرات بالجہر وبالخافت میں اختیار دیا گیا ہے، باقی وظیفہ صلوة مثلاً: ”سمع الله لمن حمده“ اور ”الله أكبر“ وغیرہ اختیار ہے یا نہیں؟ جواب مع الدلیل تشریح فرمائیں۔

الجواب حامدًا ومصلياً:

”ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع لحاجته إلى الإعلام بالشروع والانتقال، ولا حاجة للمنفرد كالمأموم، اهـ“۔ مراقی الفلاح بر طحطاوی، ص: ۱۵۲ (۳)۔ ”ماعداء القراءة من الأذكار إن وجب للصلوة كتكبيرة الافتتاح، يجهر به، وكذا ما وضع للعلامة كتكبيرة

(۱) (البحر الرائق، باب صفة الصلاة: ۵۲۸/۱، رشیدیہ)

(۲) (الدر المختار، باب صفة الصلاة: ۴۷۵/۱، سعید)

”والذكر إن كان وجب للصلاة، فإنه يجهر به كتكبيرة الافتتاح، وما ليس بفرض فما وُ

للعلامة، فإنه يجهر به كتكبيرات الانتقال عند كل خفض ورفع إذا كان إماماً، وأما المنفرد وال

فلا يجهران به“۔ (الفتاویٰ العالمکیریة، الفصل الثانی فی واجبات الصلوة: ۷۲/۱ رشیدیہ)

(و کذا فی البحر الرائق، باب صفة الصلاة: ۵۸۷/۱، رشیدیہ)

(۳) (مراقی الفلاح شرح نور الإيضاح، فصل فی بیان سننہا، ص: ۲۶۲ قدیمی)

الانتقالات للإمام، أما المنفرد والمقتدى، فلا يجهران، الخ“۔ طحطاوی درمختار:
۱/۲۳۴(۱)۔

اس سے معلوم ہوا کہ منفرد کو ”سمع الله لمن حمدہ“ اور ”الله أكبر“ آہستہ کہنا چاہیے کیونکہ جہر کی
علت اعلام ہے اور یہاں مفقود ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ۴/۲/۵۶ھ۔
الجواب صحیح: سعید احمد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف، ۴/صفر/۵۶ھ۔



(۱) (حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار، فصل: یجہر الإمام: ۱/۲۳۴، دار المعرفۃ بیروت)
”والذکر إن کان وجب للصلاة، فإنه یجہر بہ کتکبیرة الافتتاح، و ما لیس بفرض فما وُضع
للعلامة، فإنه یجہر بہ کتکبیرات الانتقال عند کل خفض و رفع إذا کان إماماً، و أما المنفرد والمقتدى،
فلا یجہران بہ“۔ (الفتاویٰ العالمکیریۃ، الفصل الثانی فی واجبات الصلاة: ۱/۷۳، رشیدیہ)

باب السترة

(سترہ کا بیان)

راستہ میں بغیر سترہ کے نماز

سوال [۳۱۳۲]: عام رہ گزر پر اگر سترہ نہ ہو سکے تو نماز قضا کر دینی چاہیے یا کیا صورت اختیار کرے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نماز قضا کر دینا جائز نہیں، اگر سترہ کا انتظام نہ ہو (۱) اور گذرگاہ سے الگ جگہ نہ ہو جیسے کہ بعض دفعہ

پلیٹ فارم پر ایسی نوبت آتی ہے تو نماز پھر بھی وقت پر ہی پڑھی جائے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۶/۲/۹۰ھ۔

الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۶/۲/۹۰ھ۔

کیا جنگلہ سترہ کے حکم میں ہے؟

سوال [۳۱۳۵]: مسجد میں سامنے کی بائیں طرف ایک جنگلہ باہر کی زمین سے سترہ گرہ کی اونچائی

پر، چار فٹ لمبا اور اڑھائی فٹ چوڑا لگا ہوا ہے اور دوسرا جنگلہ امام کے سامنے محراب میں باہر کی زمین سے ڈیڑھ گز

(۱) ”(ویغرر ندباً)“ قوله ندباً، لحديث: ”إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، ولا يدع أحداً يمر بين

يديه“. رواه الحاكم وأحمد وغيرهما، وصرح في المنية بکراهة ترکها، وهي تنزيهية. اهـ.“

(ردالمحتار، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيما: ۱/۲۳۶، سعید)

”والمستحب لمن يصلي في الصحراء أن ينصب عوداً، أو يضع شيئاً أدناه طول ذراع“. (بدائع

الصنائع، كتاب الصلاة، فصل فيما يستحب للصلاة وما يكره: ۲/۸۳، دارالكتب العلمية، بيروت)

(وڪ-۱ فی البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۲/۳۰، رشیدیہ)

کی اونچائی پر، سترہ اونچ لمبا، گیارہ اونچ چوڑا روشنی کے واسطے لگا ہوا ہے، سامنے عام راستہ ہے جہاں جنگلہ لگا ہوا ہے، عورت مرد سامنے سے چلتے ہیں۔ ایسی حالت میں باجماعت یا منفرداً جنگلہ کے سامنے نماز پڑھنے میں نماز میں نقصان تو نہیں آتا؟ حکم شرعی سے مطلع فرمایا جاوے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر جنگلہ کی سلاخیں مسجد کی زمین سے ایک ہاتھ یعنی دو بالشت کی مقدار اونچی ہیں، نیز انگلی کے برابر موٹی ہیں تو مردوں اور عورتوں کو اس کے سامنے سے گزرنا جب کہ مسجد میں سے جنگلہ کی برابر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، خواہ تنہا ہو خواہ جماعت کے ساتھ، بلا کراہت جائز ہے، اگر سلاخیں مسجد کی زمین سے ایک ہاتھ نہیں بلکہ کم اونچی ہیں تو ایسی حالت میں قریب ہو کر سامنے سے گزرنا گناہ ہے:

”قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضاً في الصلوة، كان لأن يقيم مائة عام خير له من الخطوة التي خطاها“ (۱)۔ وبهذا علم أن الكراهة تحريمية لتصريحهم بالإثم، اهـ. المستحب أن يكون مقدارها (أي السترة) ذراعاً فصاعداً، وينبغي أن تكون غلظ الإصبع“۔ بحر، ص: ۱۵، ۱۶ (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔
حرره العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ، معین المفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

(۱) (سنن ابن ماجہ، ص: ۶۸، کتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي، مير محمد كتب خانہ، کراچی)

(وصحيح البخارى: ۷۳/۱، كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، قديمي)

(والصحيح لمسلم: ۱۹۷/۱، كتاب الصلاة، باب سترة المصلي الخ، قديمي)

(وسنن الترمذی: ۷۹/۱، كتاب الصلاة، باب في كراهية المرور بين يدي المصلي، سعيد)

(وكذا في أبي داؤد: ۸/۱، ۱۰۹، كتاب الصلاة، باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، امداديه)

(۲) (البحر الرائق، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۲/۲۶، ۳۰، ۳۱، رشيديه)

”ويغرز الإمام، اهـ) وكذا المنفرد (سترة بقدر ذراع) طولاً (وغلظ إصبع).“ (قوله:

بقدر ذراع): بيان لأقلها، والظاهر أن المراد به ذراع اليد كما صرح به الشافعية، وهو شبران“.

(رد المحتار: ۶۳۶/۱، ۶۳۷، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيما، سعيد) =

صحیح: بندہ عبدالرحمن غفرلہ، ۱۰/۵/۵۵۵ھ۔

اونچائی پر نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گذرنا

سوال [۳۱۳۶]: ایک ہاتھ کی اونچائی پر نماز ادا کی جا رہی ہو تو سامنے گذرنے میں کوئی مضائقہ تو نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس طرح بھی نمازی کے سامنے سے گذرنا مکروہ ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حررہ العبد محمود عفا اللہ عنہ، دارالعلوم دیوبند۔



”والمستحب لمن يصلى فى الصحراء أن ينصب بين يديه عوداً، أو يضع شيئاً أدناه طول ذراع
اهـ..... ينبغى أن يكون فى غلظ أصبع لقول ابن مسعود: ”يجزئ من السترة السهم اهـ“ (بدائع
الصنائع: ۸۴/۲، كتاب الصلاة، فصل فيما يستحب ويكره فيما، دارالكتب العلمية، بيروت)
(۱) ”(أو) مروره (أسفل من الدكان أمام المصلى لو كان يصلى عليها: أى الدكان (بشرط محاذاة بعض
أعضاء المار بعض أعضائه، وكذا سطح وسريرو كل مرتفع) دون قامة المار، وقيل: دون السترة، كما
فى غرر الأذكار (وإن أثم المار)“ (تنوير الأبصار مع الدر المختار، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها:
۶۳۴/۱، ۶۳۵، سعيد)

(و كذا فى الفتاوى العالمكبرية، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها: ۱۰۴/۱، رشيدية)

(و كذا فى الحلبي الكبير، فروع: فى الخلاصة، ص: ۳۶۷، سهيل اكدemy لاهور)

دائر الافواج جامعہ فاروقیہ کراچی